

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَنْفَقِهُوا فِي الدِّينِ

فتاویٰ قاسمیہ

منتخب فتاویٰ

حضرت مولانا مفتی شیر احمد القاسمی

خادم الافتاء و الحدیث جامعہ قاسمیہ
مدرسہ شاہی مراد آباد، الہند

(جلد ۱۵)

المجلد الخامس عشر

بقية الطلاق، الرجعة، البائن، الطلاق بالكتابة
الطلاق الثلاث الشهادة فی الطلاق، الحالة

۶۹۰۲ ————— ۶۳۶۳

ناشر

مکتبہ اشرفیہ، دیوبند، الہند

01336-223082

فتاویٰ قاسمیہ

صاحب فتاویٰ
حضرت مولانا مفتی شبیر احمد القاسمی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

بحق صاحب فتاویٰ شبیر احمد القاسمی 09412552294

بحق مالک مکتبہ اشرفیہ دیوبند 09358001571

08810383186 01336-223082

محرم الحرام ۱۴۳۷ھ پہلا ایڈیشن

ناشر

مکتبہ اشرفیہ، دیوبند، ضلع سہارانپور، الہند

01336-223082

ASHRAFI BOOK DEPOT

DEOBAND, SAHARANPUR, INDIA

Phone: 01336-223082

Mob. : 09358001571, 08810383186

مکمل اجمالی فهرست ایک نظر میں

عنوانات	رقم المسألہ	
مقدمة التحقيق، الإيمان والعقائد إلى باب ما يتعلق بالارواح.	۱۷۲	المجلد الأول
بقية الإيمان والعقائد من باب الحشر إلى باب ما يتعلق بأهل الكتاب، التاريخ والسير، البدعات والرسوم.	۵۵۷	المجلد الثاني
بقية البدعات والرسوم من باب رسومات جنائز إلى رسومات نكاح، كتاب العلم إلى باب ما يتعلق بالكتابة.	۱۰۰۵	المجلد الثالث
بقية كتاب العلم من كتابة القرآن إلى باب الوعظ والنصيحة، الدعوة والتبليغ، السلوك والاحسان، الأدعية والأذكار.	۱۴۱۵	المجلد الرابع
الطهارة بتمام أبوابها، الصلة من أوقات الصلة إلى صفة الصلة.	۱۹۳۰	المجلد الخامس
الجماعۃ، المساجد، الإمامۃ.	۲۴۵۷	المجلد السادس
بقية الصلة من تسویۃ الصفوف إلى سجود التلاوة.	۲۹۶۴	المجلد السابع
بقية الصلة من الذکر والدعاء بعد الصلة، الوتر، ادراک الفریضة، السنن والنواقل، التراویح، صلوٰۃ المسافر.	۳۴۲۳	المجلد الثامن

المجلد التاسع	۳۸۹۳	بقية الصلاة، صلوة المريض، الجمعة، العيدین، الجنائز إلى حمل الجنائز.
المجلد العاشر	۴۰۰۴	بقية الجنائز من صلوة الجنائز إلى باب الشهید، کتاب الزکوہ.
المجلد الحادی عشر	۴۸۷۳	بقية الزکوہ، کتاب الصدقات، الصوم، بتمام أبوابها إلى صدقة الفطر.
المجلد الثاني عشر	۵۳۴۸	كتاب الحج بتمام أبوابها، النکاح إلى باب نکاح المکرہ.
المجلد الثالث عشر	۵۹۴۳	بقية النکاح إلى باب المهر.
المجلد الرابع عشر	۶۴۶۲	الرضاع، الطلاق إلى باب الکنایة.
المجلد الخامس عشر	۶۹۰۲	بقية الطلاق، الرجعة، البائن، الطلاق بالکتابة، الطلاق الثلاث، الشهادة في الطلاق، الحالۃ.
المجلد السادس عشر	۷۴۰۲	بقية الطلاق، تعلیق الطلاق، التفویض، الفسخ والتفريق، الظہار، الإیلاء، الخلع، الطلاق على المال، العدة، النفقہ، ثبوت النسب، الحضانۃ.
المجلد السابع عشر	۷۸۶۷	الأیمان والنور، الحدود، الجهاد، اللقطة، الامارة والسياسة، القضاء، الوقف إلى باب المساجد.
المجلد الثامن عشر	۸۴۰۸	بقية الوقف من الفصل الثالث، المسجد القديم إلى مصلی العید، والمقبّرة. (قبرستان)

المجلد العشرون	۸۸۵۷	۹۳۵۰	الشركة، المضاربة، الربوا بتمام أنواعها.
المجلد الحادي والعشرون	۹۳۵۱	۹۷۳۵	الديون، الوديعة، الأمانة، الضمان، الهبة، الإجارة.
المجلد الثاني والعشرون	۹۷۳۶	۱۰۲۴۵	الغصب، الرهن، الصيد، الذبائح بتمام أنواعها، الأضحية بتمام أنواعها، العقيقة، الحقوق، بأكثـر أبوابها إلى باب حقوق الأقارب.
المجلد الثالث والعشرون	۱۰۲۴۶	۱۰۷۰۵	بقية الحقوق، الرؤيا، الطب والرقـى بتمام أنواعها، كتاب الحظر والإباحة إلى باب السابع، ما يتعلـق باللحـية.
المجلد الرابع والعشرون	۱۰۷۰۶	۱۱۲۰۵	بقية الحظر والإباحة، باب الأكل والشرب، الانتفاع بالحيوانات، الخمر، الدخان، الهدایا، الموالاة مع الكفار، المال الحرام، الأدب، اللهو، استعمال الذهب والفضة، كسب الحلال، الغناء، التصاویر.
المجلد الخامس والعشرون	۱۱۲۰۶	۱۱۶۰۰	الوصية، الفرائض بتمام أبوابها.
المجلد السادس والعشرون	۱	۱۱۶۰۰	فهارس المسائل

فہرست مضمایں

۷/ بقیة کتاب الطلاق

<input type="checkbox"/>	۱۲/ باب الرجعة	<input type="checkbox"/>
--------------------------	----------------	--------------------------

.....	مسئلہ نمبر
۳۱	صفحہ نمبر
۳۲	۶۲۶۳ نباہ کے دشوار ہونے کی صورت میں ایک طلاق رجعی دینا
۳۳	۶۲۶۴ نباہ کی شکل نہ بن پار ہی ہو تو ایک طلاق کے ذریعہ علیحدگی کافی ہے
۳۴	۶۲۶۵ دومرتبا طلاق کے بعد کنائی الفاظ استعمال کرنا
۳۵	۶۲۶۶ ایک طلاق رجعی
۳۶	۶۲۶۷ ایک طلاق رجعی دینا
۳۷	۶۲۶۸ دو طلاق رجعی
۳۸	۶۲۶۹ دو طلاق رجعی
۳۹	۶۲۷۰ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی دو مرتبہ کہنا
۴۰	۶۲۷۱ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی
۴۱	۶۲۷۲ تمہاری سالی کو میں نے بد چلنی کی وجہ سے چھوڑ دیا
۴۲	۶۲۷۳ بیوی میکہ چلی جائے تو رجعت کیسے کریں ؟
۴۳	۶۲۷۴ بوس و کنار کے ذریعہ رجعت کا حکم
۴۴	۶۲۷۵ کیا عدالت میں صحبت کرنے سے رجعت متحقق ہو جاتی ہے ؟

۶۲۷۶	کیا ہمیستری کرنے سے رجعت تحقیق ہو جاتی ہے؟ ۵۰
۶۲۷۷	رجعت کی ایک صورت ۵۲
۶۲۷۸	فون پر طلاق دینے کے ایک ہفتہ بعد رجعت کرنے کا حکم ۵۳
۶۲۷۹	مطلقہ واحدہ سے بلا حلہ نکاح درست ہے ۵۴
۶۲۸۰	طلاق رجعی کے بعد کب تک رجوع کرسکتا ہے؟ ۵۵
۶۲۸۱	ایک طلاق دینے کے بعد رجوع کرنا ۵۶
۶۲۸۲	تجھ کو طلاق دیتا ہوں کہنے کے بعد ساتھ رہنا ۵۸
۶۲۸۳	عدت کے دوران رجوع کرنے کا حق ہے ۵۹
۶۲۸۴	دوران عدت رجوع کافی ہے نکاح کی ضرورت نہیں ۶۰
۶۲۸۵	دو مرتبہ طلاق کے بعد بیوی کو بہن کہنا ۶۱
۶۲۸۶	دوران گفتگو طلاق ہو گئی کہنا ۶۲
۶۲۸۷	ایک طلاق کے بعد رجوع پھر طلاق پھر رجوع ۶۳
۶۲۸۸	بغیر نیت طلاق کے شوہر کا کہنا "مجھے ہاتھ مت لگا وورنہ گنہ گار ہو گی" ۶۵
۶۲۸۹	بلانیت کے طلاق طلاق کہنا ۶۷
۶۲۹۰	میں نے تم کو طلاق دیدی ۶۸
۶۲۹۱	دو مرتبہ طلاق دی تیسرا مرتبہ کہا طلاق دیوں گا ۶۹
۶۲۹۲	بیوی سے دو مرتبہ طلاق دی کہنا ۷۰
۶۲۹۳	دو طلاق کے بعد شوہر کے لئے بیوی کو رکھنے کا حق ہے ۷۱
۶۲۹۴	دوبار طلاق دینے کے بعد رجعت کرنا ۷۲
۶۲۹۵	دو مرتبہ طلاق کے بعد ساتھ رہنے کی شکل ۷۳
۶۲۹۶	دو طلاق رجعی کے بعد رجعت کی گنجائش ۷۴

۷۶ دو طلاق کا شرعی حکم	۶۲۹۷
۷۷ دو طلاق کے بعد بیوی کے ساتھ ہمبستر ہونے سے رجعت کا تحقیق	۶۲۹۸
۷۸ دو طلاق رجعی کی صورت میں بلا حلالة نکاح درست ہے	۶۲۹۹
۷۹ دو مرتبہ طلاق کے بعد تین جیض گذر گئے کیا حکم ہے؟	۶۵۰۰
۸۱ دو طلاق کے بعد پانچ ماہ گذر گئے کیا حکم ہے؟	۶۵۰۱
۸۳ دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد سات آٹھ ماہ گذر گئے	۶۵۰۲
۸۳ رجعت کے بعد دوسری طلاق دینا	۶۵۰۳
۸۴ طلاق رجعی کی عدت پوری ہونے کے بعد دی گئی طلاق کا حکم	۶۵۰۴
۸۶ مطلقہ مغلظہ سے نکاح کے لئے محض نکاح ثانی کافی نہیں	۶۵۰۵

□	۱۵/ باب طلاق البان	□
---	--------------------	---

۸۹ شیما پروین میں تھمیں طلاق بائن دیتا ہوں	۶۵۰۶
۹۰ طلاق طلاق بائن دی، ایک طلاق دو طلاق بائن دی سے طلاق	۶۵۰۷
۹۱ طلاق قطعی دینا	۶۵۰۸
۹۲ غیر مدخول بہا کو مذاق میں طلاق بائن	۶۵۰۹
۹۳ ایک طلاق بائن میں بغیر حلالة جواز نکاح	۶۵۱۰
۹۵ خصتی سے قبل طلاق و مهر کا حکم	۶۵۱۱
۹۷ خصتی سے قبل طلاق دی، طلاق دی کہنے کا حکم	۶۵۱۲
۹۸ طلاق دے کر زوجیت سے الگ کرتا ہوں	۶۵۱۳
۱۰۰ خصتی سے قبل طلاق طلاق طلاق کہنے سے کتنی طلاق ہوئی	۶۵۱۴
۱۰۱ غیر مدخول بہا کو الگ الگ تین طلاق اور حالت جیض میں خلوت کا حکم	۶۵۱۵

- جواب مخاب: جامعہ حیات العلوم مراد آباد ۱۰۲
- لصدیق مخاب: مفتی شیر صاحب مفتی جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد ۱۰۲
- مستقل جواب مخاب: دارالافتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد ۱۰۳
- ۶۵۱۶ غیر مخلوک و متفرق میں طلاق، پھر اس سے نکاح کی کیا صورت ہے؟ ۱۰۳
- ۶۵۱۷ طلاق بائنس کی ایک صورت ۱۰۳

<input type="checkbox"/>	۱۶/ باب الطلاق بالكتابة	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------------	--------------------------

- ۶۵۱۸ تحریری طلاق کے شرائط ۱۰۷
- ۶۵۱۹ تحریری طلاق نامہ میں شوہر کا اقرار معتبر ہے یا تحریر؟ ۱۰۹
- ۶۵۲۰ شوہر سے زبانی تحریری جبراً طلاق لینے میں فرق کی وجہ ۱۱۰
- ۶۵۲۱ بیوی کی غیر موجودگی میں طلاق دینے کے بعد تحریری طلاق دینا ۱۱۲
- ۶۵۲۲ موبائل پر بیوی کوئٹھ کے ذریعہ سے طلاق دینا ۱۱۲
- ۶۵۲۳ تحریری طلاق ۱۱۳
- ۶۵۲۴ تحریری طلاق کا حکم ۱۱۵
- ۶۵۲۵ تحریری طور پر طلاق دینا ۱۱۷
- ۶۵۲۶ حالت حمل میں تحریری طلاق دینا ۱۱۹
- ۶۵۲۷ ”میں کو طلاق دیتا ہوں“ بیوی کو لکھ کر دینے سے طلاق ۱۱۹
- ۶۵۲۸ تحریری طلاق کی ایک صورت ۱۲۰
- ۶۵۲۹ بیوی کے سامنے تحریری طلاق دینا ۱۲۲
- ۶۵۳۰ بیوی کے سامنے بیٹھ کر طلاق لکھ کر دیدی، مگر زبان سے کچھ نہیں کہا ۱۲۳
- ۶۵۳۱ بیوی کے سامنے طلاق طلاق لکھنا ۱۲۳

۱۲۵	۶۵۳۲ تحریری طلاق
۱۳۱	۶۵۳۳ ڈرانے دھکانے کے لئے بیوی کو پرچہ میں لکھ کر طلاق دینا
۱۳۲	۶۵۳۴ ”هم دونوں بخوبی ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں،“ لکھنے کا حکم
۱۳۳	۶۵۳۵ طلاق کے صریح الفاظ لکھوانے کے بعد کنائی الفاظ لکھوانا
۱۳۳	۶۵۳۶ موکل نے ایک طلاق دی اور وکیل نے تین لکھ دی تو تکتی واقع ہوئیں؟
۱۳۶	۶۵۳۷ وکیل ایک طلاق کی جگہ تین لکھ دے تو کیا حکم ہے؟
۱۳۷	۶۵۳۸ وکیل کا موکل کی نیت کے خلاف طلاق نامہ میں تین طلاق لکھنا
۱۳۹	۶۵۳۹ بیوی کے نام طلاق نامہ ارسال کرانا
۱۴۰	۶۵۴۰ بذریعہ خط طلاق دینا
۱۴۲	۶۵۴۱ بذریعہ خط طلاق دینا
۱۴۳	۶۵۴۲ ”میں نے تم کو رو برو گواہان طلاق دیدی،“ لکھی رجسٹری کا حکم
۱۴۵	۶۵۴۳ طلاق کا نوٹس بھیجنے سے وقوع طلاق کا حکم
۱۴۷	۶۵۴۴ طلاق کا نوٹس بھیجنے سے وقوع طلاق کا حکم
۱۴۸	۶۵۴۵ طلاق نامہ لکھوا کر بھجوانے کا حکم
۱۵۰	۶۵۴۶ مکرہ کی طلاق یا کتابت کا حکم
۱۵۲	۶۵۴۷ ایک طلاق دینے کے بعد طلاق نامہ لکھنا
۱۵۳	۶۵۴۸ اسٹا مپ پیپر پر طلاق لکھ کر بھیجنा
۱۵۴	۶۵۴۹ بخوبی یا بحالت اکرا لکھ کر طلاق دینا
۱۵۵	۶۵۵۰ نوٹس طلاق کی شرعی حیثیت
۱۵۷	۶۵۵۱ طلاق کا نوٹس بھیجنा
۱۵۸	۶۵۵۲ ڈاک کے ذریعہ بھیجے گئے طلاق نامہ سے طلاق کا حکم

۶۵۵۳	بغیر تحقیق کے دوسرے ملک سے طلاق لکھ کر بھیجنے سے طلاق.....	۱۶۰
۶۵۵۴	رجسٹری طلاق نامہ پر لڑکی کے دستخط کرنے سے طلاق کا حکم.....	۱۶۱
۶۵۵۵	کیا طلاق نامہ پڑھے بغیر دستخط کرنے سے طلاق ہو جائے گی؟.....	۱۶۲
۶۵۵۶	الگ کرنے کی نیت سے طلاق نامہ پر دستخط کرنا.....	۱۶۳
۶۵۵۷	طلاق نامہ کو لکھوانے اور سن کر اس پر دستخط کرنے سے طلاق کا حکم.....	۱۶۶
۶۵۵۸	اسٹامپ پیپر پر جبراً انگوٹھا لگوانے سے طلاق کا حکم.....	۱۶۹
۶۵۵۹	تحریری طور پر طلاق دے کر انکار کرنا.....	۱۷۰
۶۵۶۰	لڑکا طلاق نامہ کا منکر ہو تو کیا حکم ہے؟.....	۱۷۱
۶۵۶۱	وکیل نے طلاق نامہ لکھا اور شوہر طلاق کا منکر ہے.....	۱۷۲
۶۵۶۲	بیوی کے طلاق کا انکار کرنے سے طلاق کا حکم.....	۱۷۳
۶۵۶۳	شوہر سے علمی میں طلاق نامہ پر دستخط کروانا.....	۱۷۵
۶۵۶۴	فرضی طلاق نامہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی.....	۱۷۶
۶۵۶۵	غیر شوہر کا فرضی طلاق نامہ معتبر نہیں.....	۱۷۸
۶۵۶۶	شوہر کی طرف فرضی طلاق نامہ منسوب کر کے طلاق دلوانا.....	۱۷۹
۶۵۶۷	سادہ کاغذ پر محض انگوٹھا لگانے سے طلاق کا حکم.....	۱۸۱
۶۵۶۸	حتمکی دے کر خالی اسٹامپ پر دستخط کروانے سے طلاق.....	۱۸۲
۶۵۶۹	والد نے بغیر لڑکے کی اجازت کے طلاق نامہ لکھوا یا.....	۱۸۳
۶۵۷۰	طلاق نامہ دینے سے طلاق کا حکم.....	۱۸۵
۶۵۷۱	طلاق نامہ لکھوا کرو والد کو دینے سے طلاق کا حکم.....	۱۸۶
۶۵۷۲	حتمکی دے کر طلاق نامہ لکھوانے سے طلاق کا حکم.....	۱۸۷
۶۵۷۳	طلاق نامہ لکھوانے سے وقوع طلاق کا حکم.....	۱۸۸

۶۵۷۴	طلاق نامہ لکھنے سے طلاق کا حکم.....	۱۹۰
۶۵۷۵	زبردستی طلاق نامہ لکھوانا.....	۱۹۲
۶۵۷۶	طلاق نامہ کی تفصیل بتائے بغیر شوہر کے اس پر دستخط لینا.....	۱۹۳
۶۵۷۷	طلاق نامہ پر دستخط کرنے کی شرعی حیثیت.....	۱۹۵
۶۵۷۸	زبان سے طلاق دینے بغیر طلاق نامہ پر دستخط لینے سے عدم وقوع طلاق.....	۱۹۷
۶۵۷۹	پولیس کے دباؤ سے طلاق نامہ پر دستخط.....	۱۹۸
۶۵۸۰	طلاق نامہ پر دباؤ ڈال کر دستخط کرانا.....	۲۰۰
۶۵۸۱	شوہر سے اس کی مرضی کے بغیر طلاق نامہ پر دستخط کرانا.....	۲۰۱
۶۵۸۲	طلاق نامہ پر زبردستی انگوٹھا لگوانا.....	۲۰۲
۶۵۸۳	طلاق نامہ پر جبراً دستخط کرانے کے بعد زبانی طلاق کھلوانا.....	۲۰۳
۶۵۸۴	طلاق نامہ پر دستخط کرنا.....	۲۰۵
۶۵۸۵	طلاق نامہ پر زبردستی دستخط کرانے کا حکم.....	۲۰۷
۶۵۸۶	طلاق نامہ پر بغیر پڑھے ہوئے شوہر کا دستخط کرنا.....	۲۰۸
۶۵۸۷	طلاق نامہ پر بخوبی دستخط کرنا.....	۲۰۹
۶۵۸۸	تحریری طلاق بائیں.....	۲۱۰
۶۵۸۹	نوٹس کے ذریعہ سے بیوی کو تین طلاق لکھ کر دینا.....	۲۱۱
۶۵۹۰	طلاق تلاش کی رجسٹری کرنا.....	۲۱۲
۶۵۹۱	بذریعہ خط طلاق دینے کے بعد زبانی تین طلاق کا اقرار.....	۲۱۳
۶۵۹۲	اسٹامپ پر سه طلاق دے کر آزاد کر دیا لکھ کر بیوی کو دینا.....	۲۱۶
۶۵۹۳	تحریر اً تین طلاق دینا.....	۲۱۷
۶۵۹۴	بیوی کو تحریری تین طلاق دینا.....	۲۱۹

۲۲۲	۶۵۹۵ تحریری طلاق مغلظہ
۲۲۳	۶۵۹۶ غصہ میں کاغذ پر تین طلاق لکھنے کا حکم
۲۲۵	۶۵۹۷ شوہر کا بیوی کو طلاق کا پرچہ دینا اور بیوی کا نہ لینا
۲۲۶	۶۵۹۸ شوہر سے جبراً طلاق کا املاع کرانا
۲۲۹	۶۵۹۹ طلاق دے کر اور طلاق کے کلمات ادا کر کے زوجہت سے الگ کر دیا لکھوانے کا حکم ۲۳۴

۷۱/ باب الطلاق الثالث

۲۳۱	۶۶۰۰ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہی شمارہ ہوتی ہیں
۱۳۳	۶۶۰۱ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہیں یا ایک ؟
۲۳۷	۶۶۰۲ جواب من جانب حضرت مفتی صاحب مدرسہ شاہی مراد آباد
۲۳۹	۶۶۰۳ ایک مجلس کی تین طلاق کا حکم
۲۳۱	۶۶۰۴ ایک مجلس کی تین طلاق کا ثبوت حدیث شریف سے
۲۲۳	۶۶۰۵ ایک مجلس کی تین طلاق
۲۲۵	۶۶۰۶ چاروں ائمہ کے نزدیک ایک مجلس کی تین طلاق تین ہی ہیں
۲۲۷	۶۶۰۷ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہیں ایک نہیں
۲۵۱	۶۶۰۸ ایک مجلس میں تین طلاق دینے کے بعد غیر مقلد کے فتویٰ پر عمل کرنا
۲۵۳	۶۶۰۹ غیر مقلد کے فتویٰ سے مطلقاً ثالثہ حلال نہ ہوگی
۲۵۵	۶۶۱۰ حنفی مذہب ہونے کی حالت میں تین طلاق دے کر غیر مقلدیت کو اپنانا
۲۵۶	۶۶۱۱ کیا علماء احناف نے ایک مجلس کی تین طلاق میں غیر مقلدین کے مسلک پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے ؟
۲۵۹	۶۶۱۰ ایک مجلس کی تین طلاق کا تحقیقی جائزہ

○ حضرت حسن بن علیؑ کی روایت اور واقعہ ۲۶۰
○ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف غلط نسبت ۲۶۲
○ بغیر ہمستری کے حلالہ معتبر نہیں ۲۶۵
○ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ۲۶۸
○ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ۲۶۸
○ حدیث رکانہ سے متعلق روایات کا جائزہ ۲۶۹
○ حضرت رکانہؓ کے واقعہ میں حدیث شریف کا صحیح مطلب ۲۷۰
○ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ۲۷۳
○ متعدد صحابہ عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فتویٰ ۲۷۵
○ جھوٹ بول کر فتویٰ لینے سے بیوی حلال نہیں ہوتی ۲۷۸ ۲۶۱۱
○ تین طلاق دینے کا مسمون طریقہ ۲۷۹ ۲۶۱۲
○ ایک ایک کر کے تین طلاق دینا ۲۸۰ ۲۶۱۳
○ یکے بعد گیرے تین طلاق دینا ۲۸۲ ۲۶۱۴
○ ایک طلاق کے بعد دو طلاق دینا ۲۸۳ ۲۶۱۵
○ طلاق ثلاش ۲۸۵ ۲۶۱۶
○ تین طلاق ۲۸۶ ۲۶۱۷
○ تین طلاق کا حکم ۲۸۷ ۲۶۱۸
○ طلاق مغلظہ ۲۹۰ ۲۶۱۹
○ طلاق ثلاش سے متعلق ایک سوال اور اس کا جواب ۲۹۲ ۲۶۲۰
○ جواب منجانب: مفتی عزیز الرحمن صاحب مدرسہ عربیہ امدادیہ ۲۹۳
○ جواب منجانب: درالافتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد ۲۹۴

۲۹۶ طلاق ثلاثہ اور میرا کوئی خدا نہیں کہنے کا حکم	۲۲۲۱
۲۹۸ تین مرتبہ طلاق دیدی واقع ہوئے یا نہیں؟	۲۲۲۲
۲۹۹ ایک ہی سانس میں تین مرتبہ طلاق دینا	۲۲۲۳
۳۰۰ میں تجھے تین طلاق دیتا ہوں	۲۲۲۴
۳۰۱ تہائی میں طلاق ثلاثہ دینا	۲۲۲۵
۳۰۲ ڈرانے کی نیت سے طلاق مغلظہ دینا	۲۲۲۶
۳۰۳ شوہر اقرار کرے کہ میں نے تم کو ڈرانے کے لئے تین طلاق دیں	۲۲۲۷
۳۰۴ ڈرانے کے لئے تین طلاق دینے سے وقوع طلاق	۲۲۲۸
۳۰۵ اپنے گھروالوں سے ڈر کر بیوی کو تین طلاق دینا	۲۲۲۹
۳۰۶ محض تین طلاق کا اقرار کرنے سے طلاق کا حکم	۲۲۳۰
۳۰۹ تین طلاق کے اقرار کرنے کا حکم	۲۲۳۱
۳۱۰ شوہر کا تین مرتبہ طلاق کا اقرار کرنا	۲۲۳۲
۳۱۱ تین طلاق کا اقرار کرنے کے بعد ایک کا انکار کرنا	۲۲۳۳
۳۱۲ میں اپنے ہوش و حواس میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تین مرتبہ کہا	۲۲۳۴
۳۱۳ میں تجھے طلاق دے رہا ہوں کہنے سے طلاق	۲۲۳۵
۳۱۵ ایک طلاق کے بعد شوہرنے کہا ”میں نے تیسرا طلاق دی“	۲۲۳۶
۳۱۶ ایک اور دو طلاق دی اور ایک دو طلاق کا حکم	۲۲۳۷
۳۱۸ ۲۳۲۱ میں نے طلاق دی	۲۲۳۸
۳۱۹ میں نے مینا کو ۲۳۲۰ ردی	۲۲۳۹
۳۲۰ ایک دو تین میں تم کو طلاق دے رہا ہوں	۲۲۴۰
۳۲۱ ایک دو تین دیا، جواب سے طلاق کا حکم	۲۲۴۱

۲۶۲۲	ایک طلاق دو طلاق، دل سے طلاق کہنے سے تین طلاق کا قوع ۳۲۲
۲۶۲۳	ایک بار دو بار تین بار طلاق دے کر آزاد کرتا ہوں ۳۲۳
۲۶۲۴	طلاق، طلاق، طلاق، کہہ کر زوجیت سے الگ کرنا ۳۲۴
۲۶۲۵	عورت کو چالیس دنوں کے لئے تین طلاق ۳۲۵
۲۶۲۶	تین موضع میں الگ تین طلاق دینا ۳۲۶
۲۶۲۷	حالت نشہ میں تین مرتبہ تم کو چھوڑ دیا کہنا ۳۲۷
۲۶۲۸	نشہ کی حالت میں حاملہ بیوی کو تین طلاق دینے کا شرعی حکم ۳۲۹
۲۶۲۹	جنوںی حالت میں کہنا ”میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی“ ۳۳۱
۲۶۳۰	دماغی توازن کمزور ہونے کی بنا پر تین طلاق دینا ۳۳۳
۲۶۳۱	جنوںی کیفیت میں تین طلاق دینا ۳۳۳
○	فتویٰ نمبر: الف- ۸۱۶۶/۳۲ متعلق مفتی عزیز الرحمن بجھوری کا جواب ۳۳۵
○	ذکورہ طلاق سے متعلق مستفتی کا اقرار اور بیان ۳۳۵
○	جواب مجانب: دارالافتاء مدرسہ شاہی مراد آباد ۳۳۶
۲۶۳۷	غصہ میں تین طلاق دینا ۳۳۷
۲۶۳۸	غصہ کی حالت میں تین طلاق دینا ۳۳۹
۲۶۳۹	میں نے اور میرے خدا نے طلاق دی، تین مرتبہ کہنے سے طلاق کا حکم ۳۴۱
۲۶۴۰	شدید غصے میں کہنا ”خدا کو حاضر و ناظر کر کے تم کو تین طلاق دیتا ہوں“ ۳۴۲
۲۶۴۱	غصہ میں تیرے اور تین کہنے کا حکم ۳۴۳
۲۶۴۲	دھمکانے کے لئے غصہ کی حالت میں تین طلاق دینے کا حکم ۳۴۶
۲۶۴۳	حالت غصہ میں دی گئی تین طلاق کا حکم ۳۴۸
۲۶۴۴	حالت غصب میں بیک وقت تین طلاق دے کر عدول عن المذہب کرنا ۳۵۰

۲۶۶۰	حالت حمل میں تین طلاق کا وقوع	۳۵۲
۲۶۶۱	ایام حیض میں تین مرتبہ طلاق دینا	۳۵۳
۲۶۶۲	حالت حیض میں تین طلاق	۳۵۵
۲۶۶۳	”لے تو طلاق“، تین مرتبہ کہنا	۳۵۶
۲۶۶۴	شوہرنے تین طلاق دیں اور بیوی نے نہیں سناتا تو	۳۵۷
۲۶۶۵	کیا بیوی کے سے بغیر شوہر کے اقرار سے طلاق واقع ہو جائے گی؟	۳۵۸
۲۶۶۶	بیوی کی عدم موجودگی میں تین طلاق	۳۵۹
۲۶۶۷	بیوی اور گواہوں کی عدم موجودگی میں تین طلاق	۳۶۰
۲۶۶۸	بیوی کا نام لئے بغیر ”طلاق، طلاق، طلاق“ کہنا	۳۶۱
۲۶۶۹	بیوی کا نام لے کر تین مرتبہ طلاق دینا	۳۶۳
۲۶۷۰	بیوی کی طرف اشارہ کر کے تین طلاق دینا	۳۶۳
۲۶۷۱	بیوی کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے تین طلاق دینا	۳۶۶
۲۶۷۲	شوہر کا تین مرتبہ طلاق دینا اور بیوی کا نہ لینا	۳۶۷
۲۶۷۳	میں نے تجھے طلاق دی، تین مرتبہ کہنا اور بیوی کا ہر مرتبہ انکار کرنا	۳۶۸
۲۶۷۴	بیوی صرف ایک طلاق کا اقرار کرے تو کیا حکم ہے؟	۳۶۹
۲۶۷۵	فون پر نشہ کی حالت میں تین طلاق دینا	۳۷۰
۲۶۷۶	فون پر تین طلاق دیدیں	۳۷۲
۲۶۷۷	فون پر تین طلاق دینا	۳۷۳
۲۶۷۸	دو طلاق کے بعد پھر فون پر تیسرا طلاق	۳۷۵
۲۶۷۹	فون پر تین طلاق دینے کا اقرار کرنا	۳۷۶
۲۶۸۰	شوہر کا میں نے تم کو آزاد کیا تین بار کہنا	۳۷۹

۲۶۸۱ ۳۸۱	”آزاد کرتا ہوں“، تین مرتبہ کہنے سے طلاق مغلظہ
۲۶۸۲ ۳۸۲	بیوی کے مطالبہ پر شوہر کا تین طلاق دینا
۲۶۸۳ ۳۸۳	بیوی کے مطالبہ پر ”جامیں نے تجھے طلاق دی“، تین مرتبہ کہنا
۲۶۸۴ ۳۸۵	بیوی کے اصرار پر شوہر کا تین طلاق دینا
۲۶۸۵ ۳۸۶	مطالبہ پر طلاق ثالث دینے کی صورت میں عدت، مہر اور جہیز کا حکم
۲۶۸۶ ۳۸۸	طلاق کے مسلسل مطالبہ پر شوہر کا ”دی“، کہنا
۲۶۸۷ ۳۸۹	”میں نے تجھے طلاق دی“، تین مرتبہ کہنے سے طلاق
۲۶۸۸ ۳۹۰	لفظ ایک دو تین سے طلاق کا حکم
۲۶۸۹ ۳۹۲	بیوی کو مخاطب کر کے تین مرتبہ طلاق دینا
۲۶۹۰ ۳۹۳	بیوی کو زبانی تین طلاق دینا
۲۶۹۱ ۳۹۲	”میں نے اس کو طلاق دی“، تین مرتبہ کہنا
۲۶۹۲ ۳۹۵	جب آپ لوگ کہہ دے ہیں، تو میں تینوں طلاق دے رہا ہوں کہنے کا حکم
۲۶۹۳ ۳۹۷	بھا بھی کی موجودگی میں تین طلاق
۲۶۹۴ ۳۹۸	دو گواہوں کے رو برو تین طلاق دینا
۲۶۹۵ ۴۰۰	دو گواہوں کی موجودگی میں تین طلاق دینا
۲۶۹۶ ۴۰۲	شوہر کا گواہوں کے سامنے تین بار تم کو طلاق دی کہنا
۲۶۹۷ ۴۰۳	چار آدمیوں کے سامنے تین طلاق دینا
۲۶۹۸ ۴۱۰	۱۲/۱۰ آدمیوں کے سامنے تین طلاق دینا
۲۶۹۹ ۴۰۶	مجمع عام میں تین طلاق دینا
۲۷۰۰ ۴۰۷	تین جھگڑوں میں میں نے تمہیں طلاق دیدی کہنے سے طلاق
۲۷۰۱ ۴۰۷	جھگڑے کے دوران تین مرتبہ طلاق دینا

۲۷۰۲	کیا تیری ماں میری ماں ہے، طلاق، طلاق، طلاق.....	۳۰۸
۲۷۰۳	بلانیت تین طلاق دینا.....	۳۰۹
۲۷۰۴	نیت کئے بغیر تین مرتبہ طلاق دینا.....	۳۱۰
۲۷۰۵	جا میں نے تجھے تین طلاق دیں.....	۳۱۱
۲۷۰۶	”تمہیں تین دفعہ طلاق دیدی“ سے طلاق مغلظہ.....	۳۱۳
۲۷۰۷	”طلاق دیتا ہوں“ تین مرتبہ کہنے سے طلاق کا حکم.....	۳۱۴
۲۷۰۸	طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے.....	۳۱۵
۲۷۰۹	میں تجھے تین بار طلاق طلاق طلاق دیوں.....	۳۱۶
۲۷۱۰	طلاق دی، دی، دی، دی، دی سے طلاق.....	۳۱۷
۲۷۱۱	طلاق دی، طلاق، طلاق، پھر طلاق دی جا طلاق دی.....	۳۱۸
۲۷۱۲	طلاق دی، طلاق، طلاق سے قضاۓ تین طلاق.....	۳۲۰
۲۷۱۳	”تجھے طلاق، طلاق، طلاق“ سے طلاق مغلظہ.....	۳۲۱
۲۷۱۴	میں تمہیں طلاق، طلاق، طلاق دیتا ہوں.....	۳۲۲
۲۷۱۵	شوہر کا ”طلاق، طلاق، طلاق“ کہنا.....	۳۲۳
۲۷۱۶	”تجھے طلاق دوں گا“ کے بعد ”دی، دی، دی“ کہنے سے طلاق مغلظہ.....	۳۲۴
۲۷۱۷	طلاق دی، دی، دی، دی کہنے کا حکم.....	۳۲۵
۲۷۱۸	”تجھے طلاق دی، دی، دی“ سے طلاق مغلظہ.....	۳۲۶
۲۷۱۹	”طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی“ سے طلاق مغلظہ.....	۳۲۷
۲۷۲۰	میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی میں نے طلاق تواب کیا کہتی ہے.....	۳۲۸
۲۷۲۱	لو بھائی طلاق، طلاق، طلاق.....	۳۲۹
۲۷۲۲	ایک طلاق دو طلاق باشن.....	۳۳۱

۶۷۲۳	دو طلاق کے بعد کہا ”میں نے تیرا حساب چلتا کر دیا“ ۸۳۲
۶۷۲۴	طلاق، طلاق، طلاق دیتا ہوں اور اپنی زوجیت سے آزاد کرتا ہوں ۸۳۳
۶۷۲۵	دو مرتبہ آزاد اور ایک مرتبہ لفظ طلاق کہنا ۸۳۴
۶۷۲۶	دو مرتبہ ”میں نے تجھے طلاق دی“ اور تیسرا مرتبہ صرف ”طلاق دی“ کہنا ۸۳۵
۶۷۲۷	”طلاق، طلاق، تجھے طلاق“، اگر لکھوانی ہو تو لکھوا بھی لو ۸۳۶
۶۷۲۸	دو طلاق دینا یاد ہے، لیکن تیسرا کا دھیان نہیں ۸۳۷
۶۷۲۹	تین طلاق دینے کے بعد شوہر کے والدین کا طلاق نہ ماننا ۸۳۹
۶۷۳۰	ساس کی وجہ سے بیوی کو تین طلاق دینا ۸۴۰
۶۷۳۱	طیش میں آ کر ”اس کو طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی“ کہنا ۸۴۱
○	جواب مخاب: دارالعلوم دیوبند ۸۴۲
○	جواب مخاب: دارالافتاء مدرسہ شاہی مراد آباد ۸۴۳
۶۷۳۲	تیز بخار کی غفلت میں تین طلاق دینا ۸۴۴
۶۷۳۳	بھری بیوی کو تین طلاق دینا ۸۴۵
۶۷۳۴	کامی کو تین طلاق کہنے سے دو بیویوں میں سے کس پر طلاق واقع ہوگی؟ ۸۴۶
۶۷۳۵	ایک ساتھ دو بیویوں کو طلاق دینے کا حکم ۸۴۷
۶۷۳۶	زبانی طلاق مغلظہ دینے کے بعد تحریری طلاق دینا ۸۴۸
۶۷۳۷	بدکار عورت کو تین طلاق دینا ۸۴۹
۶۷۳۸	بیوی کی بد تمیزی کی وجہ سے شوہر کا تین طلاق دینا ۸۵۰
۶۷۳۹	دباو میں آ کر تین طلاق دینا ۸۵۱
۶۷۴۰	وکیل کے دباو پر تین مرتبہ طلاق دینا ۸۵۲
۶۷۴۱	بیوی طلاق کا دعویٰ کرے اور شوہر خاموش رہے تو کیا حکم ہے؟ ۸۵۳

۶۷۳۲	غیر ارادی طور پر تین طلاق منحص سے نکلنے پر قوع طلاق ۲۵۷
۶۷۳۳	تین طلاق کے بہانے سے سالے لوگوں پر بلانا ۲۵۸
۶۷۳۴	غیر مدخول بہا کو ”تین طلاق دی یادیتا ہوں“ کہنے کا حکم ۲۶۰
۶۷۳۵	قبل الخلوت تین طلاق دینے کے احکام ۲۶۱
۶۷۳۶	غیر مدخول بہا کو تین طلاق کے بعد بلا حلالہ نکاح کا عدم جواز ۲۶۳
۶۷۳۷	غیر کفویں نکاح کے بعد تین طلاق دی، بلا حلالہ دوبارہ نکاح کا عدم جواز ۲۶۴
۶۷۳۸	بیوی تین کا دعویٰ کرتی ہے، شوہران کار کرتا ہے ۲۷۰
۶۷۳۹	لفظ طلاق کی مرتبہ بول کر تاکید مراد لینا ۲۷۱
۶۷۴۰	تین طلاق دے کر یہ کہنا کہ ہمیں تم سے محبت ہے ہزار مرتبہ طلاق دون ۲۷۲
۶۷۴۱	تب بھی واقع نہ ہوگی ۲۷۳
۶۷۴۲	تین چار سال میں کئی مرتبہ طلاق دینا ۲۷۴
۶۷۴۳	فون پر کئی مرتبہ طلاق دینے کا حکم ۲۷۵
۶۷۴۴	بار بار ”طلاق دی“ کہنا ۲۷۶
۶۷۴۵	شوہر کا بیوی کو متعدد بار طلاق دینا ۲۷۷
۶۷۴۶	ہوش و حواس میں تین مرتبہ سے زائد طلاق دینا ۲۷۹
۶۷۴۷	تین سے زائد مرتبہ طلاق دینا ۲۸۰
۶۷۴۸	تین مرتبہ سے زائد چھوڑ دیا کہنا ۲۸۱
۶۷۴۹	”میں نے تجھے طلاق دی“ چار مرتبہ کہنا ۲۸۳
۶۷۵۰	یکبارگی تین چار بار طلاق دینا ۲۸۴
۶۷۵۱	”میں نے تجھے چھوڑ دی“ تین چار بار کہنے سے طلاق مغلظہ ۲۸۵
۶۷۵۲	طلاق، طلاق، طلاق، طلاق سے طلاق کا حکم ۲۸۶

۶۷۶۲	دو طلاق دینے کے بعد پھر ۲ ماہ بعد دو طلاق دینا.....	۳۸۸
۶۷۶۳	دو مرتبہ دو، دو کر کے چار طلاق دینا.....	۳۸۹
۶۷۶۴	چار طلاق کی شرعی حیثیت.....	۳۹۲
۶۷۶۵	چار بار طلاق دے کر آپس میں معافی مانگنا.....	۳۹۳
۶۷۶۶	بیوی کے مطالبہ پر چار مرتبہ طلاق دینا.....	۳۹۴
۶۷۶۷	چار مرتبہ طلاق دینا.....	۳۹۵
۶۷۶۸	بیوی کو مخاطب کر کے چار مرتبہ طلاق دینا.....	۳۹۷
۶۷۶۹	جھگڑے کی حالت میں چار مرتبہ طلاق دینا.....	۳۹۸
۶۷۷۰	دو طلاق دینے کے بعد بہن کے کہنے پر دو اور دینا.....	۳۹۹
۶۷۷۱	میں نے ان کو طلاق دیدی ۵/۵ مرتبہ کہنے سے طلاق کا حکم.....	۵۰۰
۶۷۷۲	”میں نے تجھے طلاق دی“ چار مرتبہ کہنے سے طلاق.....	۵۰۲
۶۷۷۳	چار پانچ بار طلاق دی؛ لیکن لڑکی نہیں سناء.....	۵۰۳
۶۷۷۴	پانچ چھ مرتبہ طلاق.....	۵۰۵
۶۷۷۵	”میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق دی“ چھ مرتبہ کہنا.....	۵۰۶
۶۷۷۶	دو مرتبہ تین تین دفعہ طلاق دینے کا حکم.....	۵۰۷
۶۷۷۷	جھگڑے کے دوران سات مرتبہ طلاق دینا.....	۵۰۹
۶۷۷۸	سات مرتبہ طلاق دینا.....	۵۱۰
۶۷۷۹	آٹھ طلاق دینا.....	۵۱۱
۶۷۸۰	آٹھ نو مرتبہ طلاق کے بعد کہنا طلاق نہیں ہوئی.....	۵۱۲
۶۷۸۱	نشہ کی حالت میں آٹھ نو بار طلاق دینا.....	۵۱۳
۶۷۸۲	تم کو تین طلاق ہی نہیں بلکہ نو طلاق کہنے کا حکم.....	۵۱۴

۵۱۵ ۶۷۸۳ جا تجھے طلاق، طلاق دس مرتبہ کہنا
۵۱۶ ۶۷۸۴ تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق، طلاق..... دس مرتبہ کہنا
۵۱۸ ۶۷۸۵ یکبارگی دسیوں بار طلاق دینا
۵۱۹ ۶۷۸۶ جنون کے عالم میں دس گیارہ مرتبہ طلاق دینا
۵۲۰ ۶۷۸۷ لا تعداد طلاق، طلاق، طلاق، کہنا
۵۲۱ ۶۷۸۸ سینکڑوں بار لفظ طلاق کہنا
۵۲۲ ۶۷۸۹ شوہر پر مطلقہ ثلاشہ کا مہر، جہیز اور بچی کا خرچ لازم ہے
۵۲۳ ۶۷۹۰ طلاق مخالفت کی صورت میں مہر اور بچوں کا حکم
۵۲۶ ۶۷۹۱ طلاق کے بعد سامان جہیز، مہر اور زیورات کے تبادلہ کا حکم
۵۲۷ ۶۷۹۲ کیا مطلقہ ثلاشہ شوہر کے لگھ میں رہ سکتی ہے؟
۵۲۹ ۶۷۹۳ ”جا تجھ کو تین طلاق“

مطلقہ خواتین کے مسائل کا تحقیقی جائزہ

○ ۵۳۱ طلاق اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے یا منوع؟
○ ۵۳۲ طلاق دینے کا حق مردوں کیوں؟
○ ۵۳۶ کن حالات میں عورت کو طلاق دی جائے؟
○ ۵۳۷ طلاق دینا کب واجب ہوتا ہے؟
○ ۵۳۸ طلاق دینا کب مستحب اور مستحسن ہوتا ہے؟
○ ۵۳۹ طلاق دینا کب مباح ہوتا ہے؟
○ ۵۴۰ طلاق دینا کب مکروہ یا حرام ہوتا ہے؟
○ ۵۴۱ شوہر پر تعزیر مالی
○ ۵۴۵ دین مہر کی ادائیگی میں توازن

۵۳۸	بیوی کو کب مارا جاسکتا ہے؟	○
۵۳۹	بیوی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ	○
۵۵۰	اجرت رضاعت	○
۵۵۱	زمانہ عدت کانان و نفقہ	○
۵۵۲	متاع یا متعہ کا حکم	○
۵۵۳	متعہ کی مستحق کوئی مطلقہ؟	○

طلاق غضبان اور طلاق بدی کا تحقیقی جائزہ

۵۶۰	مسئلہ نمبر ۱: طلاق غضبان	○
۵۶۳	طلاق مدھوش	○
۵۶۵	طلاق غضبان سے متعلق حدیث شریف	○
۵۶۸	مسئلہ ۲: طلاق بدی	○
۵۶۹	(۱) طلاق بدی بالعدد	○
۵۷۰	(۲) طلاق بدی بالزمان	○

□	۱۸/ باب الشهادة في الطلاق	□
---	---------------------------	---

۲۷۹۳	کیا وقوع طلاق کے لئے گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟	۵۷۵
۲۷۹۵	کیا طلاق میں دو عادل کی گواہی معتبر ہے؟	۵۷۶
۲۷۹۶	شہدین طلاق کے قائل اور زوجین منکر	۵۷۷
۲۷۹۷	گواہ غیر عادل اور زوجین طلاق کے منکر	۵۷۸
۲۷۹۸	ایک گواہ طلاق کا مدعی جبکہ شوہر اور دیگر گواہان منکر	۵۷۹
۲۷۹۹	شرعی شہادت مفقود ہونے کی صورت میں تعداد طلاق کا فیصلہ کیسے کریں؟	۵۸۰

۵۸۲	۲۸۰۰ طلاق کے باب میں ایک گواہ کی گواہی معتبر نہیں
۵۸۳	۲۸۰۱ پنچیت کا ایک آدمی کی گواہی پر طلاق مخالف کا فیصلہ کرنے کا حکم
۵۸۴	۲۸۰۲ جھوٹی گواہی سے طلاق کو ثابت کرنا
۵۸۶	۲۸۰۳ بیوی کو تین طلاق کا یقین ہو تو کیا حکم ہے ؟
۵۸۸	۲۸۰۴ بیوی تین طلاق کا دعویٰ کرے اور شوہر انکار
۵۹۰	۲۸۰۵ شوہر تین طلاق کا منکر ہوا اور بیوی اور دیگر لوگ مدعی
۵۹۱	۲۸۰۶ شوہر کو طلاق یاد نہ ہو تو بیوی کا قول معتبر ہو گایا ماس کا ؟
۵۹۳	۲۸۰۷ بلا گواہ خلوت کی طلاق کا حکم
۵۹۷	۲۸۰۸ بیوی اور گواہوں کی عدم موجودگی میں دی گئی طلاق کا حکم
۵۹۵	۲۸۰۹ یاد نہیں کر کے مر طلاق دی یا ۳ مر طلاق
۵۹۶	۲۸۱۰ بیوی طلاق کی مدعیہ اور شوہر منکر
۵۹۷	۲۸۱۱ بیوی طلاق کی مدعیہ اور شوہر منکر تو کیا حکم ہے ؟
۵۹۸	۲۸۱۲ طلاق کے سلسلہ میں زوجین کا اختلاف
۵۹۹	۲۸۱۳ بیوی طلاق کی مدعیہ اور شوہر منکر
۶۰۰	۲۸۱۴ عورت طلاق کی مدعیہ ہے اور شوہر منکر تو طلاق ہوئی یا نہیں ؟
۶۰۱	۲۸۱۵ بیوی طلاق کا دعویٰ کرتی ہے اور شوہر اس کا منکر ہے
۶۰۲	۲۸۱۶ بیوی طلاق کی مدعیہ اور شوہر طلاق کا منکر
۶۰۳	۲۸۱۷ طلاق میں شوہر کی بات معتبر ہو گی یا بیوی کی ؟
۶۰۶	۲۸۱۸ فقہی ضابطہ ”المرأۃ کا لفاظی“، کامطلب
۶۰۷	۲۸۱۹ بیوی نے طلاق کو سننا اور شوہر منکر ہے
۶۰۹	۲۸۲۰ بیوی کا طلاق کو سننا اور شوہر کا انکار کرنا

۶۱۰ بیوی نے تین طلاق کو سنا اور شوہر منکر ۶۸۲۱
۶۱۲ بیوی تین طلاق کی مدعی ہے اور شوہر منکر ۶۸۲۲
۶۱۳ شوہر طلاق شلاش کا منکر اور بیوی مدعیہ ۶۸۲۳
۶۱۴ تعداد طلاق کے بارے میں مدعیہ کا بیان شرعی گولہان ہونے کی صورت میں معتبر ہے ۶۸۲۴
۶۲۰ شوہر تین طلاق کا منکر اور بیوی مدعیہ ۶۸۲۵
۶۲۱ طلاق کے بارے میں زوجین میں سے کس کے قول کا اعتبار ہے؟ ۶۸۲۶
۶۲۳ مطلق اور گواہ کے ما بین صیغہ طلاق میں اختلاف ہو تو کس کا قول معتبر ہے؟ ۶۸۲۷
۶۲۴ شوہر دو طلاق کا اقرار کرے بیوی چار کا ۶۸۲۸
۶۲۷ دو مرتبہ طلاق کے بعد مزید ر طلاق میں شوہر و بیوی کا اختلاف ۶۸۲۹
۶۲۹ تعداد طلاق میں زوجین کا اختلاف ہو تو کس کا قول معتبر ہے؟ ۶۸۳۰
۶۳۰ تعداد طلاق میں کس کا قول معتبر ہے زوج یا زوجہ کا؟ ۶۸۳۱
۶۳۱ جواب مخاب: دارالافتاء مدرسہ شاہی مراد آباد ۶۸۳۲
۶۳۲ بلا گواہ عورت تین طلاق سننے کی مدعیہ اور شوہر منکر ۶۸۳۳
۶۳۳ تین طلاق پر بیوی کے پاس کوئی گواہ نہیں ۶۸۳۴
۶۳۴ شوہر طلاق کا منکر ہوا اور بیوی اقرار کرے تو کیا حکم ہے؟ ۶۸۳۵
۶۳۶ تعداد طلاق میں زوجین کا اختلاف ۶۸۳۶
۶۳۸ زوجین کے ما بین طلاق کے سلسلہ میں اختلاف ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ ۶۸۳۷
۶۳۹ زوجین کے قول میں اختلاف ہو تو کیا حکم ہے؟ ۶۸۳۸
۶۴۱ عدد طلاق کے بارے میں زوجین کا اختلاف ۶۸۳۹
۶۴۲ شوہر کا چار گواہوں کے سامنے طلاق کا اقرار کر کے مکر جانا ۶۸۴۰
۶۴۷ شوہر طلاق کا مقرر اور گواہ منکر ہو تو کیا حکم ہے؟ ۶۸۴۰

۶۸۳۱	عورت کے پاس شرعی گواہ موجود ہوں تو شوہر کے قول کا اعتبار نہیں ۶۸۸
۶۸۴۲	طلاق کی تعداد یاد نہیں ۶۵۰

۱۹ / باب الحالۃ

□	۱۹ / باب الحالۃ	□
۶۸۳۳ حلالہ کی تفصیل اور اس کی شرائط ۶۵۲		
۶۸۳۴ حلالہ کے لئے اسلام شرط ہے ۶۵۳		
۶۸۳۵ دوبارہ مطلقہ سے نکاح کرنے کی ایسی شکل جس میں محلل اور محلل لہ مستحق لعنت نہ ہوں ۶۵۵		
۶۸۳۶ اس نیت سے حلالہ کرنا کہ جماع کے بعد طلاق دیدے گا ۶۵۶		
۶۸۳۷ شوہر ثانی سے حلالہ میں زبردستی طلاق دلوانا ۶۵۷		
۶۸۳۸ حلالہ میں مہر کا نزوم اور طلاق دینے کی شرط پر حلالہ ۶۵۹		
۶۸۳۹ حلالہ کی شرط پر نکاح کرنے کا حکم ۶۶۰		
۶۸۴۰ حلالہ کی نیت سے کئے گئے نکاح اور حلالہ کا حکم ۶۶۳		
۶۸۴۱ طلاق کی شرط کے ساتھ حلالہ کرنا ۶۶۵		
۶۸۴۲ مطلقہ مغلظہ کا شوہر ثانی سے خلوۃ کے بعد شوہر اول سے نکاح کرنا ۶۶۶		
۶۸۴۳ حلالہ شرعی کی صحیح صورت ۶۶۸		
۶۸۴۴ شرعی حلالہ کا طریقہ ۶۷۰		
۶۸۴۵ حلالہ شرعی کی صورت ۶۷۲		
۶۸۴۶ ہمبستری کے بغیر حلالہ نامکمل ہے ۶۷۳		
۶۸۴۷ حلالہ میں ہمبستری شرط ہے ۶۷۵		
۶۸۴۸ حلالہ کی صحبت کے لئے ہمبستری شرط ہے ۶۷۷		

۶۷۸ ۲۸۵۹ حلالہ درست ہونے کے لئے دخول لازم ہے
۶۷۹ ۲۸۶۰ حلالہ میں صحبت شرط ہے
۶۸۱ ۲۸۶۱ حلالہ کی ایک صورت
۶۸۳ ۲۸۶۲ مطلقہ مغلظہ سے دوبارہ نکاح کرنا
۶۸۴ ۲۸۶۳ مطلقہ ثلاثہ سے بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح کرنا
۶۸۵ ۲۸۶۴ طلاق ثلاثہ کے بعد بلا حلالہ نکاح جائز نہیں
۶۸۶ ۲۸۶۵ بغیر حلالہ کے نکاح کرنا
۶۸۷ ۲۸۶۶ مطلقہ مغلظہ سے بلا حلالہ نکاح درست نہیں
۶۸۸ ۲۸۶۷ مطلقہ مغلظہ سے بلا حلالہ نکاح کرنا
۶۸۹ ۲۸۶۸ مطلقہ مغلظہ سے بلا حلالہ نکاح کا حکم
۶۹۰ ۲۸۶۹ تین طلاق کے بعد کفارہ دینے سے بیوی حلال نہیں ہوتی
۶۹۳ ۲۸۷۰ بیوی کو تین طلاق دینے کے بعد بھی اس کے ساتھ زندگی گذارنا
۶۹۵ ۲۸۷۱ بیوی کو تین طلاق دے کر اس سے رجوع کرنا
۶۹۶ ۲۸۷۲ مطلقہ مغلظہ کا بلا حلالہ نکاح کرنا
۶۹۷ ۲۸۷۳ مطلقہ ثلاثہ سابق شوہر کے حق میں احتیبیہ ہے
۶۹۸ ۲۸۷۴ فانج کی بیمار مطلقہ کو اپنے پاس اس مقصد سے رکھنا کہ اب اس سے کون نکاح کرے گا
۷۰۰ ۲۸۷۵ طلاق مغلظہ کے بعد دونوں کا ایک ساتھ رہنا
۷۰۱ ۲۸۷۶ مطلقہ ثلاثہ کا شوہر کے ساتھ رہنا حرام ہے
۷۰۲ ۲۸۷۷ تین طلاق کے بعد شوہر کے ساتھ رہنا
۷۰۳ ۲۸۷۸ طلاق ثلاثہ کے بعد بھی شوہر کے ساتھ رہنا

۶۸۷۹	مطلقہ مغاظہ سے ۹ رسال تک منکوحہ جیسا تعلق رکھنا ۷۰۵
۶۸۸۰	کورٹ کے فیصلہ پر مطلقہ مغاظہ کو ساتھ رکھنا ۷۰۶
۶۸۸۱	طلاق مغاظہ کے بعد بیوی کو دوبارہ رکھنا ۷۰۸
۶۸۸۲	مطلقہ ثلاثہ کو بغیر حلالہ رکھ لیا دو بچے بھی ہو گئے کیا حکم ہے؟ ۷۰۹
۶۸۸۳	حلالہ شرعی کے بغیر مطلقہ ثلاثہ شوہر اول کے لئے حلال نہیں ۷۱۱
۶۸۸۴	مطلقہ مغاظہ بغیر حلالہ کے حلال نہ ہوگی ۷۱۲
۶۸۸۵	مطلقہ ثلاثہ کو ساتھ رکھنے کی شکل ۷۱۳
۶۸۸۶	تین طلاق کے بعد ایک ساتھ رہنے کی شکل ۷۱۵
۶۸۸۷	طلاق کے بعد دوبارہ ساتھ رہنے کی شکل ۷۱۶
۶۸۸۸	طلاق مغاظہ کے بعد ایک ساتھ رہنے کی صورت ۷۱۷
۶۸۸۹	مطلقہ ثلاثہ کو دوبارہ رکھنے کی صورت ۷۱۹
۶۸۹۰	مطلقہ مغاظہ کو دوبارہ اپنے نکاح میں لانے کا طریقہ ۷۲۰
۶۸۹۱	مطلقہ مغاظہ کو دوبارہ اپنی زوجیت میں رکھنے کی صورت ۷۲۲
۶۸۹۲	تین طلاق کے بعد بیوی شوہر کے لئے کب حلال ہوگی؟ ۷۲۳
۶۸۹۳	تین طلاق کے بعد رجوع کی خواہش کرنا ۷۲۴
۶۸۹۴	تین طلاق حلالہ اور جہیز کا حکم ۷۲۵
۶۸۹۵	بلا حلالہ مطلقہ ثلاثہ کو رکھنے کا حکم ۷۲۷
۶۸۹۶	طلاق کے بعد بیوی کو پاس رکھنے کی شکل ۷۲۹
۶۸۹۷	چھ مرتب طلاق دینے کے بعد ایک ساتھ رہنے کی شکل ۷۳۰
۶۸۹۸	مطلقہ مغاظہ سے حلالہ کے بعد نکاح کرنے کا حکم ۷۳۱
۶۸۹۹	شوہر اول کا مطلقہ مغاظہ سے حلالہ کے بعد نکاح کرنا ۷۳۲

- ۶۹۰۰ حلالہ کے بعد مطلقہ ثلاثہ سے پہلا شوہر نکاح کر سکتا ہے ۷۳۳
- ۶۹۰۱ حلالہ کے بعد شوہر اول سے نکاح کرے یا شوہر ثانی سے ۷۳۵
- ۶۹۰۲ حلالہ، مہر فاطمی اور حضانت سے متعلق سوال ۷۳۶



۷/ بقیة کتاب الطلاق

(۱۲) باب الرجعة

يَارَبِّ صَلُّ وَسَلُّمُ دَائِمًا أَبَدًا ☆ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

نباه کے دشوار ہونے کی صورت میں ایک طلاق رجعی دینا

سوال [۶۳۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا رشتہ ایک جگہ کیا وہاں پر رشتہ منظور ہو گیا، میرے سر کا نام مشی سعید ہے، ان کی چار لڑکیاں ہیں، اس میں بڑی والی شادی شدہ ہے اور تین لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں، میرے گھر والوں کو جو لڑکی دکھائی گئی تھی، وہ لڑکی بہت خوبصورت اور قرآن شریف پڑھی لکھی تھی اور دیندار بھی تھی، لڑکا ان تمام بالوں سے لاعلم تھا، لڑکا اپنے بھائی بھاونج کے بھروسے پر تھا کہ جو وہ لوگ کریں گے لئے بہتر کریں گے؛ لیکن شادی والے دن میرے ساتھ لڑکی کے ماں باپ وغیرہ نے بہت بڑا دھوکا کیا، جو لڑکی ہمارے گھر والوں کو دکھائی گئی تھی اس کو چھپا کر دوسرا لڑکی جو کہ بالکل جاہل اور ان پڑھ اور دینداری سے بالکل ناقص ہے اور قرآن شریف بھی پڑھی ہوئی نہیں ہے، چھرے پر داغ دھبے وغیرہ ہیں، داغ دھبے والی لڑکی سے لاعلمی میں میرا رشتہ ہو گیا ہے جیسا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے اس لڑکی کی تعریف سنی تھی، میں نے ایسا بالکل نہیں پایا ہمارے گھر پر لڑکی تقریباً ۲۵ روزی اس سے ہم بستری بھی ہوئی ہے پچھلے دنوں کے بعد جب لڑکی بدلنے کی حقیقت میرے علم میں آئی تو میرا دل اس لڑکی کی طرف

سے پھر گیا اور اب مجھے اس لڑکی سے اور لڑکی کے گھر والوں سے کافی نفرت ہو گئی ہے۔
اب میں یہ چاہتا ہوں کہ قانون شریعت کیا حکم دیتا ہے؟

المستفتی: محمد امداد

باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر واقعی لڑکی والوں نے لڑکی دکھانے اور نکاح میں دھوکہ دہی کا معاملہ کیا ہے اور لڑکے کو مذکورہ لڑکی کے ساتھ حددود اللہ کو قائم رکھتے ہوئے زندگی گزارنا دشوار نظر آ رہا ہے، تو لڑکے کو اختیار ہے کہ وہ مذکورہ لڑکی کا مہر ادا کر کے ایک طلاق دے کر علیحدہ کر دے اور کسی مناسب لڑکی سے نکاح کر کے باعث مت زندگی گزارے۔

عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. (مصنف ابن أبي شيه، كتاب الطلاق، باب ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو؟ حديث مؤسن علوم القرآن ۱۲۱۹، رقم: ۵، ۱۸۰۴، مصنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق، باب وجہ الطلاق وهو طلاق البدعة والسنة، المجلس العلمي بيروت ۳۰/۶، رقم: ۱۰۹۲۶)

أما الأحسن: أن يطلقها واحدة في وقت السنة، ويتركها حتى تنقضي العدة.
وفي الكافي: وروي عن إبراهيم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون أن لا يزيد في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة، وهذا أفضل عندهم. (تاتارخانية، ذكرى ۴/۳۷۸، رقم: ۶۴۷۲)

أما الطلاق السنوي في العدد (إلى قوله) فالأحسن أن يطلق أمراته واحدة رجعية في ظهر النه. (فتاویٰ عالمگیری، قدیم ذکریا ۱/۳۴۸، جدید ذکریا ۱/۴۱۵)
ويجب لوفات الإمام بالمعروف. (الدر المختار، کراچی ۳/۲۲۹، ذکریا ۴/۴۲۹) فقط والله سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعیر احمد تقائی عفان اللہ عنہ
۲ رشوآل المکریم ۱۴۲۰ھ
(نوتی نمبر: الف ۱۹۸۵/۲۶)

نبحاؤ کی شکل نہ بن پارہی ہو، تو ایک طلاق کے ذریعہ علیحدگی کافی ہے

سوال [۶۳۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ رحسانہ کے ساتھ نعمت اللہ کا نکاح ہوا، چند ہمیںوں کے بعد دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی، رحسانہ کسی جگہ نوکری کرتی ہے اور نعمت اللہ بھی دوسری جگہ نوکری کرتا ہے، رحسانہ شادی کے بعد بھی اپنے میکہ میں رہتی ہے، نعمت اللہ کا کہنا ہے کہ تم غیر مرد سے بات چیت نہ کرو، ہاں جو تمہارے آفس کا فون ہو یا آفس کا کوئی آدمی آفس کے کام سے ملتا ہو تو ملو؛ لیکن پرده ملحوظ رکھو بار بار سمجھانے کے باوجود رحسانہ آفس کے لوگوں کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں سے میل جوں رکھتی ہے، فون پر بھی بات کرتی ہے اکثر فون بڑی ملتا ہے، حدیہ ہے کہ معتبر ذراائع اور خود بھی دیکھا ہے کہ غیر مردوں سے اس طرح گفتگو کر رہی ہے، جو خاص شوہر کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، نعمت اللہ بات ختم کرتا رہا یہاں تک کہ ایک بچی پیدا ہو گئی، سوچا پچ کے بعد سدھرجائے گی؛ لیکن اور زیادہ خدا اور تجاوز پر اتر آئی، حدیہ ہے کہ رات کے وقت چھری اور چاقو لے کر نعمت اللہ کو مارنے کا ارادہ کیا؛ جبکہ نعمت اللہ سویا ہوا تھا؛ لیکن بلب کی روشنی ہونے پر اور کچھ آواز کے پیدا ہونے سے بیدار ہو گیا، تو رحسانہ نے کہا آج میں تجھ کو ختم ہی کر دوں تاکہ معاملہ صاف ہو جائے، تو کیا مذکورہ بالا صورت میں شریعت محمدی کے نقطہ نظر سے نعمت اللہ کے لئے رحسانہ کا رکھنا جائز ہے یا طلاق دیدے؟ قرآن و حدیث اور مسلم لاء کے تحت بحوالہ جواب مرحمت فرمائیں عین نوازش ہو گی۔

المستفتی: نعمت اللہ، در بھنگ (بہار)

با سمسمہ سمجھانے تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر میاں بیوی کے درمیان نباہ کی شکل نہ بنے تو شوہر کو اختیار ہے کہ شرعی طور پر طلاق دے کر الگ کر دے اور علیحدگی کے لئے تین طلاق

لازم نہیں ہے؛ بلکہ ایک طلاق سے بھی مقصد حاصل ہو جاتا ہے اور ایک طلاق دے کر چھوڑ دے، عدت گزرنے کے بعد خود بخود آزاد ہو جائے گی، بچروں اپنے اپنے پسند کی شادی کر سکتے ہیں اور اگر دنوں کو سمجھ میں آجائے تو آپس میں شادی کی گنجائش باقی رہے گی۔

عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . (مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، باب ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو؟ جديـد مؤسـسه عـلوم القرآن ۱۲۱۹، رقم: ۴۰، ۱۸۰، مصنـف عبد الرـزاق،

المجلس العلمي بيـروـت ۶/۰۲۰، رقم: ۰۲۶) (۱۰۹)

أما الأحسن: أن يطلقها واحدة في وقت السنة، ويتركها حتى تنقضي العدة .
وفي الكافي: وروي عن إبراهيم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون أن لا يزاد في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة، وهذا أفضـل عـنـدهـم . (تاتارخانـية، زـكـرياـ ۴/۳۷۸، رقم: ۶۴۷۲)

أحسن الطلاق في ذات القرء أن يطلقها طلقة واحدة رجعية في طهر لاجمـاعـ فيه ولا طلاق ولا في حـيـضـةـ طلاق لاجمـاعـ ويتـركـهاـ حتـىـ تنـقـضـيـ عـدـتهاـ ثـلـاثـ حـيـضـاتـ إنـ كـانـتـ حرـةـ، وـإـنـ كـانـتـ أـمـةـ حـيـضـتـانـ .

(بدائع الصنائع بيـروـت ۴/۱۸۶، زـكـرياـ ۳/۱۴) (۱)

فـإـنـ طـلـقـهـاـ وـلـمـ يـرـاجـعـهـاـ؛ـ بـلـ تـرـكـهـاـ حتـىـ انـقـضـتـ عـدـتهاـ باـنـتـ .

(بدائع الصنائع بيـروـت ۴/۳۸۷، زـكـرياـ ۳/۲۸۳) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله

۱۴۳۲/۱۰/۱۹

كتبه: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۹ ارشاد المکرم

(فتوى نمبر: الف ۳۰) (۱۱۲۶/۱۰/۱۹)

دومرتہ طلاق کے بعد کنائی الفاظ استعمال کرنا

سوال [۶۳۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیاں شرع متن مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ایک شخص نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو دو طلاق دی علی الاعلان؛ لیکن نیت ایک ہی طلاق کی تھی غصہ میں اور مجلس کے جوش میں دوبار کہدیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد جب لوگوں نے اس شخص کو سمجھایا تو اس نے کچھ کنایات کے الفاظ کہے کہ میں اس کو نہیں رکھوں گا، یہ کہیں بھی جائے کچھ بھی کرے، مگر میں اس کو نہیں رکھوں گا، یہاں تک میں بتاؤں قسم کھا جاؤں میں اس عورت کو کسی بھی حال میں نہیں رکھوں گا چاہے دنیا ایک طرف ہو جائے اور چاہے مجھ کو پھانسی دیدی جائے، مگر میں اس عورت کو نہیں رکھوں گا، ایسے اور بھی بہت سے الفاظ کہے، مگر نیت طلاق کی نہیں تھی، یہ سب الفاظ غصہ میں کہے اور یہ ارادہ پورا تھا کہ اس کو اب رکھوں گا نہیں، اس کا حساب و کتاب کر دوں گا؛ بلکہ نہ رکھنے کا ارادہ مکمل تھا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں؛ لیکن یہ ارادہ نہیں تھا کہ اس کو بھی تینوں طلاق دیوں، پھر جب رات آئی تو بیوی نے شوہر سے معافی مانگی، اس وقت بھی شوہر نے وہی الفاظ کہے کنایات کے جوا پر لکھے ہیں اور ٹھیک اسی طرح وہ الفاظ کہے کہ میں تجھے نہیں رکھوں گا کہیں بھی جا کچھ بھی کرو غیرہ الفاظ کہے؛ لیکن اس وقت یہ بھی کہا کہ ابھی تک تو دو الفاظ کہے ہیں اور اگر تم زیادہ ضد کرو گی اور جو ایک باقی ہے، وہ کہہ دیا تو بات خراب ہو جائے گی، اس سے اچھا ہے کہ تم خاموش رہو، پھر جب بیوی نے دیکھا شوہر اب کسی طرح مانے گا ہی نہیں، تو بیوی نے کہا اچھا تم کو نہیں رکھنا ہے، تو پھر میں زندہ رہ کر کیا کروں گی اور بیوی بستر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور جان کھونے کی دھمکی دیکر چلی، پھر شوہر نے بیوی کو روکا بیوی شوہر کو لپٹ گئی، شوہر کو کچھ ہمدردی آئی اور بیوی کو معاف کر دیا اور اسی وقت بیوی سے صحبت بھی کی، بیوی حمل سے بھی ہے شوہر کے گھر پر ہی ہے، شوہر نے جہاں جہاں کنایات کے الفاظ ادا کئے ہیں، وہاں پر طلاق کی نیت بالکل نہ تھی؛ بلکہ عورت کو نہ رکھنے اور حساب و کتاب کر کے اس کے گھر روانہ کرنے کا ارادہ مکمل تھا، یہاں تک کہ شوہر نے بیوی کے گھر فون کر کے کہدیا کہ تم لوگ چلے آؤ اور اپنا حساب کرلو، میرا اس عورت کے ساتھ اس طرح نہیں نیچے گا؛ لیکن اب شوہر اس کو رکھنا چاہتا ہے،

بیوی شوہر کے گھر پر ہی ہے، حضرت والا سے درخواست ہے کہ اس مسئلہ پر غور کر کے بہت جلد جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتی: محمد شریف ابن صدیق قریشی، ہردوئی (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ کوشروع سے اخیر تک پڑھ کر اچھے طریقے سے غور و خوض کیا گیا ہے، اس سوال نامہ کے مطابق مذکورہ واقعہ میں بیوی پر صرف دو طلاق رجعی واقع ہوئی ہیں، جن کا سوال نامہ کے شروع میں تذکرہ ہے اس کے بعد جتنے الفاظ کنایہ استعمال کئے ہیں، ان میں سے کسی سے بھی کوئی دوسری طلاق واقع نہیں ہوئی ہے اور سوال نامہ میں صاف ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی لفظ سے اس نے طلاق دینے کی نیت نہیں کی ہے، اس کی دلیل سوال نامہ کا آخری حصہ ہے، اس میں صاف طور پر ذکر ہے کہ دو طلاق دیدی گئی ہیں، اگر زیادہ جھگڑا بڑھ گیا تو جو ایک باقی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اس لفظ نے مسئلہ کو صاف کر دیا ہے کہ جتنے بھی کنایہ کے الفاظ استعمال کئے ہیں ان میں سے کسی سے طلاق کی نیت نہیں کی ہے؛ بلکہ پہلے جو دو مرتبہ طلاق دی ہے اس کی خبر دیتے ہوئے ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے؛ اس لئے مذکورہ واقعہ میں صرف دو طلاق رجعی واقع ہوئی ہیں اور سوال نامہ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اسی رات دونوں میں ہم بستری بھی ہو گئی ہے؛ لہذا اس ہم بستری کے ذریعہ سے ساتھ ساتھ رجعت بھی ہو گئی ہے۔

وَقَعْتَارِجَعِيَّتِينَ لَوْ مَدْخُولَابَهَا، كَقُولَهُ أَنْتَ طَالِقُ، أَنْتَ طَالِقُ.

(شامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا ۴/۶۳، کراچی ۳/۲۵۲)

والكنایات ثلاث ما يتحمل الرد، أو ما يصلح للسب أولاً ولا فنحو آخر جي و اذهببي و قومي . وتحته في الشامية: وقومي أي من هذا المكان لينقطع الشر، فيكون ردأ . (شامی، زکریا ۴/۸۵۲، ۵۲۹، کراچی ۳/۲۹۸)

عن عبد الله وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكر التفسير إلى قوله الطلاق مرتان. قال: هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة أو ثنتين، فإنما أن يمسك ويراجع بمعرفة وإنما يمسكت عنها حتى تنقضي عدتها، فتكون أحق ب نفسهاها. (ستن كبرى

لليهقي، كتاب الرجعة، دار الفكر بيروت ۱۱ / ۲۸۱، ۲۸۲، رقم: ۱۵۵۳۹)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية، أو ثنتين له أن يراجعتها في عدتها. (هدایة، اشرفی دیوبند ۲/ ۳۹۴، مختصر القدوی، امدادیہ دیوبند ۱/ ۷۷، ذکریا قدیم ۱/ ۴۷۰، جدید ۱/ ۵۳۳) **حفظ والله سبحانه وتعالیٰ اعلم**

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۵ھ

۱۴۲۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۷/ ۳۷) (۸۳۰۷/ ۳۷)

ایک طلاق رجعی

سوال [۶۳۶۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے لڑکے نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ طلاق دینے کا لفظ کہا اور وہ مکان سے باہر چلا گیا، یہ بات اس کی بیوی کے سامنے کی ہے اور وہاں کوئی آدمی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی برادری پڑوس کا تھا جہاں بیوی کے ساتھ رہتے تھے لڑکی کی ماں تھی۔

اس کے بعد لڑکا اپنی خالہ صاحب کے گھر گیا جہاں اس کے ماں باپ موجود تھے اور لڑکے نے اپنی ماں سے کہا میرا فیصلہ کرا جانا، میں نے ان کا فیصلہ کر دیا ہے طلاق کا کوئی ذکر نہیں کیا، باپ اور ماں سے صرف یہ لفظ سنا ہے کہ خدا گواہ ہے آگے جیسے ہو لڑکا باہر جا رہا ہے، ساتھ رہو لڑکی کے رشتہ داروں نے کہا راستہ روک کر کیوں رہے؟ تو کیا کر رہا ہے لڑکے نے کہا اس کا نکاح ماں کے ساتھ ہو گیا، اب وہاں لڑکے کے تبا ایش احمد، رشید احمد نے بات بنائی کہ برادری کے سامنے لڑکے نے ماں پر شہمہ کیا ہے؛ جبکہ اس کی بیوی ان گواہ کے سامنے نہیں ہے،

بیوی کے سامنے کا واقعہ تو اور کھا ہوا ہے، اس کی بیوی کا مکان اور خالہ کا مکان ۱۰۰ رگز کے فاصلہ پر ہے، آپ مہربانی فرمائے تھے لیکن شریعت کا فیصلہ تحریر فرمائیں۔

المستفتی: غلام وارث، تکیر صاحب، بو تھا ۱۵۰۶، سیکھ ۳۲، چنڈی گڑھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر سائل اپنے بیان میں سچا ہے اور لڑکے نے صرف ایک مرتبہ طلاق کا لفظ زبان پر جاری کیا ہے اور اس کی خالہ کے گھر جا کر خبر دی ہے کہ اس کا فیصلہ کر دیا ہے اور تین مرتبہ لفظ طلاق استعمال کرنے پر شرعی عینی گواہ موجود نہیں ہیں، تو مذکورہ صورت میں بیوی پر صرف ایک طلاق واقع ہوئی ہے، عدت کے اندر رجعت اور بعد عدت نکاح کی گنجائش ہے۔

عن عبد الله وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى قوله - الطلاق مرتان، قال: هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة، أو ثنتين، فإنما أن يمسك ويراجع بمعروف وإنما يسكت عنها حتى تنقضى عدتها، ف تكون أحق بنفسها. (سنن كبرى للبيهقي، كتاب الرجعة، دار الفكر بيروت ۱/۱۱، رقم: ۲۸۲، ۲۸۲، ۱۵۵۳۹)

صريحه مالم يستعمل إلا فيه ولو بالفارسية كطلقتك، وأنت طالق، ومطلقة، ويقع بها واحدة رجعية، وإن نوى خلا فها. (تنوير الأ بصار مع الدر، كتاب الطلاق، باب الصریح، کوئٹہ ۴/۶۶، کراچی ۳/۲۴۷-۲۴۹، ذکریا ۴/۴۵۷-۴۶۰)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقةً رجعيةً أو تطليقتين، فله أن يراجعها في عدتها. (هدایۃ، باب الرجعة اشرفتی دیوبند ۲/۴، ۴/۳۹، هندیۃ، ذکریا قدیم ۱/۱، ۱/۴۷۰) جدید ۱/۵۳۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۲۹ / شعبان المعظم ۱۴۲۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۶ / ۱۹۳۶)

ایک طلاق رجعی دینا

سوال [۶۳۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا نام محمدراشد ہے، میری بیوی ناظمہ پروین اپنی ماں کے یہاں رکی ہوئی ہے؛ لہذا میرے بڑے بھائی صبح الدین ان کو سمجھانے کرنے، ان کے سمجھانے پر ناظمہ پروین آنے کو راضی ہو گئی تھیں؛ لیکن پچھلے لوگوں کی وجہ سے یہ کام دوسرے دن پر رکھا گیا، دوسرے دن کو جب میں اور میرے بھائی صبح الدین ان کے پاس پہنچو چ تو وہ آنے کو بالکل راضی نہ ہوئیں بہت سمجھایا؛ لیکن وہ قطعی راضی نہ ہوئیں؛ بلکہ ان کی طرف سے طلاق نامہ تیار ہو گیا جس پر میں محمدراشد نے مجبور ہو کر دستخط کر دیئے اور میں نے ان سے یہ کہا کہ تمہارے کہنے پر صرف ایک مرتبہ لفظ طلاق ادا کر رہا ہوں اور اب بھی شرع میں بہت گنجائش چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اب بھی تمہارے دماغ میں آ جائے تو آ جانا۔

قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتا دیجئے کہ اگر ناظمہ پروین آنا چاہیں تو آسکتی ہیں یا نہیں؟

المستفتی: محمدراشد کمل کاتا زیہ، مراد آباد

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر طلاق نامہ میں طلاق کی تعداد مذکور نہیں ہے اور محمدراشد نے خط کشیدہ الفاظ بھی کہے ہیں تو راشد کی بیوی پر صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوئی ہے، اس کو عدت کے اندر اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھنے کا حق ہے۔

عن ابن المسمیب أن علي بن أبي طالب، قال: إذا طلق الرجل أمرأته فهو أحق بر جعلها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والشتين. (السنن الكبرى للبيهقي العدد، باب من قال: الأقراء الحيض، دار الفكر بيروت)

(۱۵۷۹۹، رقم: ۳۷۷)

إذا طلق الرجل أمرأته تطلقية رجعية أو تطلقيتين، فله أن يراجعها

فی عدتها رضیت بذلك، أو لم ترض . (فتاویٰ عالمگیری، مطبوعة کوئٹہ
۱/۴۷۰، زکریا ۱/۵۳۳، هداية اشرفی دیوبند ۲/۳۹، مختصر القدوری امدادیہ
دیوبند ۱۷۷) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم

کتبہ: شیعی احمد قاسمی عفان الدین عنہ
۱۳۰۸ھ سوال المکرم
(فتویٰ نمبر: الف/۲۳۷، ۹۰)

دو طلاق رجعی

سوال [۶۳۶۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بھوڑے علی عمر ساٹھ سال گاؤں کمال پور کے رہنے والے ہیں، جنہوں نے اپنی زوجہ افسری بیگم عمر پچاس سال کو دوبار لفظ طلاق کہا، دوبار طلاق کہنے پر طلاق ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوئی تو کیا کرنا پڑے گا؛ لہذا آپ سے موذبانہ گزارش ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب مرحمت فرمائش کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں عین نوازش ہوگی۔

المستفتی: معشوق علی اللہ کھڑا اڑ پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مذکورہ صورت میں دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں
عدت کے اندر اندر رجعت کر کے میاں بیوی جیسی زندگی گزار سکتے ہیں۔

عن عبد الله و عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فذكر التفسير-إلى قوله-الطلاق مرتان، قال: هو الميقات الذي يكون عليها
فيه الرجعة، فإذا طلق امرأته واحدة أو ثنتين، فإنما أن يمسك ويراجع
بمعروف وإما يمسكت عنها حتى تنقضي عدتها، ف تكون أحق بنفسها.
(سنن کبریٰ للبیهقی، کتاب الرجعة، دارالفکر بیروت ۱/۲۸۲، رقم: ۱۵۵۳۹)

وَقْعَتْ رَجُعِيَّتِينْ لَوْ مَدْخُولَابَهَا كَقُولَهُ أَنْتْ طَالِقْ، أَنْتْ طَالِقْ الْخَ

(الدر المختار، كتاب الطلاق، باب الصریح، کراچی ۳/۲۵۲، زکریا ۴/۴۶۳)

أَنْتْ طَالِقْ، أَنْتْ طَالِقْ فِيقُ رَجُعِيَّتِينْ إِذَا كَانَتْ مَدْخُولَابَهَا. (مجمع

الأئمہ، دار الكتب العلمیة بیروت ۲/۱۳) **فَقْطُ وَاللَّهُ سَجَنَهُ وَتَعَالَى عَلَمْ**

لَكِبَرْ: شییر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۳۱۲ھ ربيع الثانی

(نومبر: الف ۷/۲۶۱۵)

دو طلاق رجعی

سوال [۶۳۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہماری یعنی میری بیوی کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی اور رُکائی چل رہی تھی میں نے اسی دوران کہا کہ میں آج تیراشام تک فیصلہ کر دوں گا، مجھے کسی کام سے غنیمہ جانا تھا، میری بیوی نے کہا کہ جو کام شام کو کرنا ہے ابھی کر دو، تو میں نے کہا کہ شام تک تو میرے گھر سے چلی جانا ورنہ تیرے اوپر تینوں طلاق اور یہ بھی کہا میں نے تجھے طلاق دی، تو یہاں سے چلی جا، اسی دوران میری بیوی نے میرے منھ پر ہاتھ رکھا اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ کون سے الفاظ نکلے اور کون سے رہ گئے، میرارادہ طلاق دینے کا نہیں تھا اور میری بیوی نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسے کوئی طلاق آئی ہے، اگر طلاق دینی ہے تو چند آدمیوں کو بلا کر میرا فیصلہ کر دو، اگر تم کو طلاق دینی ہی ہے، اس کے بعد میری بہن آئی اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں نے اسے طلاق دیدی ہے، اسے یہاں سے نکال دو، اس کے بعد میں یہ کہہ کر چلا گیا، آدھ گھنٹہ کے بعد میری بیوی گھر سے چلی گئی۔

المستفتی: رحمت اللہ، تخلص: بن دوقیاں، دھام پور

با سمسمہ سجنانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر یہ واقعہ صحیح کے ثامن کا ہے اور شام سے قبل بیوی

گھر سے چلی گئی ہے، تو شوہر کے الفاظ شام تک گھر سے چلی جا ورنہ تیرے اوپر تین طلاق سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔

وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۲۰)

(جديد ۱/۴۸۸)

پھر شوہر کا یہ کہنا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو یہاں سے چلی جا، اس عبارت میں دو جملے ہے۔

(۱) میں نے تجھے طلاق دی۔

(۲) تو یہاں سے چلی جا، اول لفظ سے ایک طلاق واقع ہو چکی ہے۔

صریحہ ما استعمل فیه خاصۃ ولا يحتاج إلی نیة وهو أنت طالق، ومطلقة وطلقتک وتفع بكل منها واحدة رجعیة. (مجمع الانہر، دارالکتب

العلمیہ بیروت ۲/۱۱)

اور ثانی لفظ سے اگر طلاق کی نیت کی ہے، تو اس سے دوسری طلاق واقع ہو چکی ہے۔

آخر جي اذهي تلزم النية. (شامي، کراچی ۳/۰۲، زکریا ۴/۵۳)

اور دونوں طلاق اب باسہ ہو جائیں گی۔

والبائن يلحق الصریح. (الدرالمختار، کراچی ۳/۰۶، زکریا ۴/۵۰)

اور اگر شوہر نے تو یہاں سے چلی جا کے لفظ سے طلاق کی نیت نہیں کی ہے، تو اس سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور اول لفظ سے صرف ایک طلاق رجعی واقع ہو چکی ہے اور بہن کے آنے کے بعد دوبارہ شوہر کا یہ کہنا کہ اس کے سامنے کہہ دیا ہوں کہ میں نے اسے طلاق دیدی ہے، تو اس عبارت سے مزید ایک طلاق رجعی واقع ہو چکی ہے۔ اب حاصل یہ ہو گا، تو یہاں سے چلی جا کے لفظ سے اگر طلاق کی نیت نہیں کی ہے، تو کل دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے پیوں بنا کر رکھ سکتا ہے اور اگر اس سے طلاق کی نیت کرچکا ہے، تو یہوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو کر مطلقة مغلاظہ ہو جائے گی بغیر حلالہ نکاح بھی صحیح نہ ہو گا۔

الصريح يلحق الصريح ويلحق البائن. (الدر المختار، کراچی ۳/۶۰، ۳۰)

زکریا ۴ / ۴۰۵

فحوا اخر جي وادھبي وقومي (إلى قوله) توقف الأقسام الثلاثة على نية.

(الدر المختار، کراچی ۳/۲۹۸، زکریا ۴ / ۵۲۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعیر احمد قادری عفان اللہ عنہ
۱۴۳۴ھ / الجہہ الرذی

(فتویٰ نمبر: الف ۲۷۷/۲۳۷)

میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی دو مرتبہ کہنا

سوال [۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا اور میرے نسبتی بھائی (سامے) کا جھگڑا ہوا، جس میں کافی مار پیٹ ہوئی میرے کافی چوٹ لگی تھی اور میں غصہ سے پاگل ہو رہا تھا، اس غصہ کی حالت میں میں نے اپنی بیوی کو دوبار یہ لفظ کہ کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور چوٹ کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا اور بہت دیر کے بعد ہوش آیا، اس جھگڑے میں بیوی کو کوئی خل نہیں ہے، میں اور میری بیوی پھر سے ایک ہونا چاہتے ہیں۔ کیا ہم ایک ہو سکتے ہیں، طلاق کے وقت میں بیوی حیض کی حالت میں نہیں تھی اور حمل سے بھی نہیں ہے؟

المستفتی: وحید الدین ولد سعید الدین، عمری کلام، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ کی درج کردہ صورت میں بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے زن و شوہر کی زندگی گذارنا جائز ہو گا۔

وَقَعْتَا رَجْعَتِينَ لَوْ مَدْخُولَابَهَا كَقُولَهُ: أَنْتَ طَالِقُ، أَنْتَ طَالِقُ الْخَ.

(الدر المختار، کتاب الطلاق، باب الصريح، زکریا ۴ / ۴۶۳، کراچی ۳ / ۲۵۲)

أنت طالق، أنت طالق، فيقع رجعيتان إذا كانت مدخولاً بها.

(مجمع الأنهر، دار الكتب العلمية بيروت ۲/۱۳)

أن علي ابن أبي طالب قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها، حتى تغسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والشتين. (سنن كبرى للبيهقي، باب من قال الأقراء الحيض، دار الفكر بيروت ۱۱/۳۷۷، رقم ۹۹۷۵)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية، أو تطليقتين، فله أن يراجعاها في عدتها. (هداية، باب الرجعة الشرفية ديواند ۴/۳۹، هندية، ذكرى قديم ۱/۴۷۰، جديده ۱/۵۳۳) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۲ھ / ۲۲۳

كتبه: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۱۴۳۲ھ / رجادی الثانیہ
(نوتی نمبر: الف ۲۷۱۶/۲۷۱۶)

میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی

سوال [۲۷۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں جھگڑے کے وقت بہت زیادہ غصہ میں تھا، میری بیوی جواب بڑھ چڑھ کر دے رہی تھی، اس حالت میں میں نے کہا جواب بند کرونا میں تجھے چھوڑ دوں گا، بیوی کو بھی غصہ تھا وہ چپ نہ ہو سکی غصہ بڑھتا رہا کہ اس حالت میں میں نے دو مرتبہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، بیوی یہ سن کر زور سے رو نے لگی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی، پھر میں نے کہا تم نے سنایا نے کیا کہا وہ قسم کھا کر کہتی ہے کہ میں نے صرف ایک بار سنایا ہے۔

اب بیوی کا رو تے رو تے براحال ہے، ایک دوسرے کے دل میں جگہ بھی بہت ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے چار بچے ہیں، اب اس حالت میں علمائے دین کیا فرماتے ہیں

طلاق کے بارے میں کہ طلاق ہوئی یا نہیں؟ آپ جس طرح جواب دیں گے مجھے منظور ہے۔

المستفتی: انور، پیرزادہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر سائل اپنے بیان میں سچا ہے، تو مذکورہ صورت میں بیوی پر دو طلاقیں صریح رجعی واقع ہو گئی ہیں، عدت کے اندر اندر رجعت کر سکتے ہیں۔

وقعتا رجعتين لو مدخولابها كقوله: أنت طالق، أنت طلاق الخ

(الدر المختار، کتاب الطلاق، باب الصريح، کراچی ۳/۲۵۲، کوئٹہ ۶۸/۴، زکریاء ۴/۴۶۳)

إذا طلق الرجل أمرأته تطليقة رجعية، أو تطليقتين، فله أن يراجعها في عدتها .

(هداية، باب الرجعة اشرفي دیوبند ۲/۴، ۳۹، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۰، جدید ۱/۵۳۳)

أنت طالق، أنت طالق، فيقع رجعيتان إذا كانت مدخلات بآبها.

(مجمع الأئمہ، دار الكتب العلمية بیروت ۲/۱۳)

عن عبد الله وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التفسير إلى قوله الطلاق مرتان. قال: هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة، أو ثنتين، فإما أن يمسك ويراجع بمعرف و إما يسكت عنها حتى تنقضى عدتها، فتكون أحق بنفسها.

(سنن کبریٰ للبیهقی، کتاب الرجعة، دار الفکر بیروت ۱/۱۱، رقم: ۱۵۵۳۹)

آنندہ کبھی بھی ایک دفعہ کہے گا، تو بیوی بالکل حرام ہو جائے گی۔ فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۱۲/رجاہی الاولی ۱۴۰۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۸۹/۲۲)

تمہاری سالی کو میں نے بدچلنی کی وجہ سے چھوڑ دیا

سوال [۶۲۷۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ میری شادی ہوئے تقریباً سترہ سال ہوئے، اس درمیان بیوی کے کچھ بدچلنی کی وجہ سے کئی مرتبہ لڑائی تک کی نوبت آئی اور پھر ایک مرتبہ میں نے اپنی ساس اور سا لے کو بلوایا اور ان سے کہا کہ جو اسلام کا قانون ہو یا ہندوستان کا قانون ہو، میرا اس سے پچھا چھڑ رہا اس بات کا ان لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور میری بیوی کو ساتھ لے کر چلے گئے، پھر میں اپنے ساڑھو کے یہاں گیا اور ان سے کہا کہ تمہاری سالی کو میں نے چھوڑ دیا ہے بدچلنی کی وجہ سے، پھر انہوں نے پوچھا ریخانہ کہاں ہے، میں نے کہا وہ لوگ لے گئے، پھر ایک مرتبہ ایک صاحب کے یہاں اپنے دوست کے ساتھ جانا ہوا، تو ان لوگوں نے پوچھا کیا حال چال ہیں، تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بیوی نہیں رہی، تو حال چال کیسے تو انہوں نے کہا میں سمجھا نہیں، تو میں نے کہدیا کہ میں نے چھوڑ دیا اس کو تو پھر انہوں نے کہا کہ طلاق دیدی تو میں خاموش رہا؛ لیکن میرے دوست نے کہا کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ خیراب دریافت طلب امر یہ ہے کہ مذکورہ بالصورت میں کیا میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتي: محمد رضوان، محلہ: سعید خاں کا گھر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: آپ کا اپنے ساڑھو سے یہ کہدیا کہ تمہاری سالی کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہو چکی ہے، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے رکھ سکتے ہیں اور بعد میں دوستوں کے پوچھنے پر جو آپ نے میں نے چھوڑ دیا کہا ہے وہ پہلی طلاق کی خبر ہے، اس سے کوئی طلاق نہ ہوگی اور چھوڑ دیا کے لفظ سے طلاق صریح رجعی واقع ہوا کرتی ہے۔

رہا کردم أی سرحتک يقع به الرجعي . (شامی، کتاب الطلاق،

باب الکنایات، کراچی ۳/۲۹۹، زکریا ۴/۵۳۰)

إذا قال الرجل لامرأته بهشتمن ترا از زنى فاعلم بأن هذه اللفظة استعملها

أهل خراسان، وأهل العراق في الطلاق، وأنها صريحة عند أبي يوسف

حتیٰ کان الواقع بھا رجعیاً ویقع بدون النیة. و فی الخلاصۃ وبه أخذ الفقیہ
أبواللیث و فی التفرید و علیه الفتویٰ. (ہندیہ، زکریا قدیم ۳۷۹/۱، جدید
۴۴۷/۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احترم مسلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۱۲/۳/۱

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ
کیمربنگ الاول ۱۳۱۲ھ
(فتوى مبرر: الف ۲۷۰/۲۵۷)

بیوی میکہ چلی جائے تو رجعت کیسے کریں؟

سوال [۶۲۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی دی اور اس کی بیوی اسی دن اس کا گھر چھوڑ کر اپنے میکہ چل گئی، تو ایسی حالت میں رجعت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جبکہ لڑکی اپنے میکہ میں ہوا وعدت کی مدت کے اندر اس کے واپس آنے کے آثار نہ ہوں؟

المستفتی: سعید ہمایوں، محلہ: اصالت پورہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر شوہر نے ایک طلاق رجعی دی ہے، تو وعدت کے اندر اندرا جب چاہے رجعت کر کے بیوی کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور رجعت کرنے میں بیوی کی رضا مندی لازم نہیں ہے، وہ راضی ہو یا نہ ہو شوہر کو رجعت کا اختیار ہے، اگر وعدت کے اندر واپس آنے کے آثار نہ ہوں تو دوچار آدمیوں کے سامنے یوں کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنے کے لئے رجعت کر لی ہے تاکہ یہ لوگ گواہ رہیں، تو ایسی صورت میں عورت شوہر کے نکاح میں خود بخود قائم رہتی ہے۔ اب وہ وعدت کے بعد دوسرا جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔

عن ابن المسمیب أن علي بن أبي طالب قَالَ: إِذَا طلقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ

فهو أحق بر جعتها، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والستين.

(سنن كبرى للبيهقي، دار الفكر بيروت ۳۷۹/۱۱، رقم: ۱۵۷۹۹)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية، أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترضي. (هندية، ذكرى قديم ۴۷۰، جديـد ۵۳۳/۱، هـادـيـة اـشـرـفـيـه دـيـوـبـنـد ۳۹۴، مـخـتـصـرـ الـقـدـورـيـ اـمـدـادـيـه دـيـوـبـنـد ۱۷۷)

والرجعة أن يقول راجعتك، أو راجعت امراتي الخ. (هـادـيـة،

asherfi دـيـوـبـنـد ۳۹۵/۲)

الرجـعـة عـلـى ضـرـبـيـنـ: سـنـي و بـدـعـيـ، فـالـسـنـيـ أـنـ يـرـاجـعـهاـ بـالـقـوـلـ، وـيـشـهـدـ عـلـى رـجـعـتـهاـ شـاهـدـيـنـ. (تـاتـارـخـانـيـهـ، ذـكـرـيـاـ ۱۳۸/۵، رقم: ۷۴۷۹) فقط اللـهـ سـجـانـ وـتـعـالـىـ اـلـعـمـ

کتبہ: شیعہ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۲۲ رمضان المبارک ۱۴۳۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۶۱۰، ۳۱)

بوس و کنار کے ذریعہ رجعت کا حکم

سوال [۶۲۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی مہرین جبیں کو موخر ۳ نومبر ۲۰۱۳ء کو ایک طلاق دیدی تھی، اور پھر تقریباً ایک ہفتہ ایک ساتھ رہتے رہے اور ایک بستر پر سوئے شہوت کے ساتھ بوس و کنار اور بات چیت بھی ہوئی با قاعدہ ہم بستری نہیں ہوئی، اس کے بعد بیوی اپنے میکہ چکی گئی۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ اس بیوی کے ساتھ اس طرح خلوت سے جبکہ رجعت کے الفاظ زبان سے ادا نہیں کئے تو رجعت ہو گئی یا نہیں؟ بیوی کو ساتھ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟

المستفتی: نور محمد، اصلاح پورہ، مراد آزاد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: رجعت کے الفاظ زبان سے ادا کئے بغیر بیوی سے شہوت کے ساتھ بوس و کنار سے بھی رجعت ہو جاتی ہے؛ لہذا صورت مسؤولہ میں شرعی طور پر رجعت کا ثبوت ہو چکا ہے؛ اس لئے بیوی کو بلاشبہ اپنے ساتھ رکھنے کی نجاش ہے۔ و كما ثبت الرجعة بالقول تثبت بالفعل، وهو الوطء، واللمس عن شهوة، وكذا التقبيل عن شهوة. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۶۹، جدید ۱/۵۳۲)

أو بفعل ما يوجب حرمة المصاحرة من وطء، ومس ونحوه.

(ملتقى الأبحر، دار الكتب العلمية بيروت ۲/۸۲)

والجماع في العدة رجعة، وكذلك الممس بشهوة، والتقبيل بشهوة. (تاتارخانیہ، زکریاہ ۱/۳۹، رقم: ۱۴۸۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
كتبه: شیبیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ
اعترف محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۹ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ
۱۹۳۵/۱۹۱۴ھ
(فتوى نمبر: الف ۱۱۳۸۷/۲۰)

کیا عدت میں صحبت کرنے سے رجعت متحقق ہو جاتی ہے؟

سوال [۶۲۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کچھ جھگڑے کے دوران اپنی بیوی کو ایک مرتبہ طلاق دیدی تھی، پھر بیوی سے عدت کے اندر دو تین مرتبہ ملاقات بھی کر لی، تو شرعاً کیا اس بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہوں یا نہیں؟

المستفتی: نزاکت حسین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر صرف ایک ہی طلاق دی تھی اور عدت کے اندر بیوی سے ملاقات اور ہمستری بھی ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں ایک طلاق رجعی ہو گئی تھی

اور ساتھ رہنے کی وجہ سے رجعت بھی ہو گئی ہے، اب وہ بدستور نزاکت حسین کے نکاح میں باقی ہے، دونوں کا آپس میں میاں بیوی کی طرح زندگی گزارنا جائز ہے۔

إِذَا طلقَ الرَّجُلُ امْرَأَهُ تَطْلِيقَةً رَجُعِيَّةً—إِلَى قَوْلِهِ—فَلَهُ أَنْ يَرَاجِعُهَا فِي عَدْتِهَا رَضِيتُ بِذَلِكَ أَوْلَمْ تَرْضِيَ الْخَ.

(ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۰، جدید ۵۳۳، هدایہ اشرفیہ دیوبند ۲/۳۹۴)

صَرِيحُهُ مَا اسْتَعْمَلَ فِيهِ خَاصَّةً وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ وَهُوَ أَنْتَ طَالِقُ،
وَمَطْلُقَةُ، وَطَلَقْتُكَ وَتَقْعُ بِكُلِّ مِنْهَا وَاحِدَةً رَجُعِيَّةً. (مجمع الأنہر، باب ایقاع
الطلاق، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۱۱)

صَرِيحُهُ مَا لَمْ يَسْتَعْمَلْ إِلَّا فِيهِ وَلَوْ بِالْفَارَسِيَّةِ كَطْلَقْتُكَ، وَأَنْتَ طَالِقُ،
وَمَطْلُقَةُ وَيَقْعُ بِهَا وَاحِدَةً رَجُعِيَّةً. (تنویر الأبصار مع الدر المختار، کراچی ۳/۲۴۷، زکریا ۴/۴۵۷ تا ۴۶۰)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ أَنَّاسٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذِكْرُ التَّفْسِيرِ إِلَى قَوْلِهِ الطَّلاقُ مِرْتَانُ. قَالَ: هُوَ الْمِيقَاتُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجُعَةُ، إِذَا طَلَقَ وَاحِدَةً، أَوْ ثَنَتَيْنِ، فَإِمَّا أَنْ يَمْسِكَ وَيَرَاجِعَ بِمَعْرُوفٍ وَإِمَّا يَسْكُتَ عَنْهَا حَتَّى تَنْقُضِي عَدْتِهَا، فَنَكُونُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا. (سنن کبریٰ للبیهقی،
كتاب الرجعة، دارالفکر بیروت ۱۱/۱۱، رقم: ۱۵۵۳۹، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، رقم: ۱۵۵۳۹) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفان الدین عنہ

برڈی الججہ ۱۳۱۷ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۲/۵۰۸۸)

کیا ہمسٹری کرنے سے رجعت متحقق ہو جاتی ہے؟

سوال [۶۳۷۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ ایک شخص جس کا نام جان محمد عبد الرشید ہے موضع ڈلاری کا رہنے والا ہے،

اس نے اپنی بیوی فرمیدا کہ بھائی نا اتفاقی اور کچھ جھگڑا فساد ہونے کی وجہ سے ایک طلاق دیدی اور پھر دوچار دن کے بعد اس سے ہمستری کی اور تین مہینہ دس دن کے اندر بہت دفعہ ہمستری کی اب اس کی بیوی کو بلا کر لے گئے اس کے ماں باپ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فتویٰ منگالو کہ اس میں طلاق نہیں ہوئی، تو ہم اپنی لڑکی کو بچھج دیں گے؛ لہذا اس کا جواب جلدی دیجئے عین نوازش ہو گی۔

المستفتی: محمد جان، ڈلاری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر صرف ایک طلاق دی ہے، تو اس سے صرف ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی؛ لیکن اس کے بعد بیوی سے ہمستری بھی عدت کے اندر اندر ہو چکی ہے؛ اس لئے رجعت بھی ہو چکی ہے؛ لہذا اب بیوی شوہر کی زوجیت میں باقی ہے اور نکاح بدستور باقی ہے بیوی شوہر پر حرام نہیں ہوئی۔

عن عبد الله وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكر التفسير إلى قوله الطلاق مرتان. قال: هو الميقات الذي يكون عليها
فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة، أو ثنتين، فاما أن يمسك ويراجع بمعروف
وإما يسكت عنها حتى تنقضى عدتها، ف تكون أحق بنفسها. (سنن كبرى
للبيهقي، كتاب الرجعة، دار الفكر بيروت / ۱۱، رقم: ۲۸۲، ۱۵۳۹)

**وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين، فله أن
يراجعها في عدتها.** (هداية، ۲/۳۹۴، هندية، زکریا قدیم / ۱۷۰، جدید

(۱/۵۳۳) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عقا اللہ عنہ

صرف المنظر ۱۴۱۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۵۵۹، ۲۷)

رجعت کی ایک صورت

سوال [۶۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عتیق مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا اور میری بیوی کا جھگڑا ہوا، بیوی نے مجھے نازیبا اور بدکلامی کے الفاظ کہے میں نے غصہ میں اس کو صرف ایک دفعہ طلاق کے الفاظ بول دئے، اب بیوی سے رجوع ہونے کے لئے کیا کرنا ہوگا؟

المستفتي: عبدال قادر، فریشی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: میں نے تجوہ کو نکاح میں لوٹالیا، یا میں نے اپنی بیوی کو نکاح میں لوٹالیا، ان الفاظ کے ذریعہ رجوع کر سکتے ہیں یا پھر بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیں، تو رجعت ثابت ہو جائے گی۔

والرجعة أن يقول راجعتك، أو راجعت امرأتك، أو يطأها الخ. (هداية

اشرفي دیوبند ۲/۳۹۵)

له أن يرجع وإن أبى ما دامت في العدة بقوله راجعتك، أو راجعت امرأتك، أو بفعل ما يوجب حرمة المصاحرة من وطء ومس ونحوه. (مجمع الأنهر، دار الكتب العلمية بيروت ۲/۸۲)

كما ثبت الرجعة بالقول ثبت بالفعل وهو الوطء، واللمس عن شهوة. (هندية، زکریا قدیم ۱/۴۶۹، جدید ۱/۵۳۲) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۸۷/۸

كتبه: شیعی احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴۳۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۳۷، ۵۳۳۷)

فون پر طلاق دینے کے ایک ہفتہ بعد رجعت کرنے کا حکم

سوال [۶۲۷۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو فون پر ایک مرتبہ طلاق دی تھی، پھر ایک ہفتہ کے بعد بیوی سے رجعت کر لی تھی۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا طلاق واقع ہو گئی تھی اور رجوع کے بعد اب میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں یا جو بھی شرعی حکم ہو تحریر فرمادیں؟

المستفتی: شاہرخ، پیر غیب، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شوہر نے جب بیوی کو ایک طلاق دیدی تھی، تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی تھی اور عدت کے اندر اندر رجعت کی گنجائش تھی پھر جب ایک ہفتہ کے بعد شوہر نے رجوع کر لیا ہے، تو بلاشبہ میاں بیوی کی طرح پہلے جیسے رہا کرتے تھے ایسے ہی رہنا حلال اور جائز ہے۔

عن ابن المسيب أَنَّ عَلِيًّا بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، حَتَّى تَغْتَسِلْ مِنَ الْحِيْضُرَةِ الْثَالِثَةِ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثَّتِيْنِ.

(سنن کبریٰ للیہقی، باب من قال الأقراء الحیض، دارالفکر بیروت ۱۱/۳۷۷، رقم: ۱۵۷۹۹)

إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا فِي عَدْتِهَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ، أَوْ لَمْ تُرْضِ لِقْوَلَهُ تَعَالَى^۱: فَامْسَكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ. (هدایۃ، کتاب الطلاق، باب الرجعة، دارالکتاب دیوبند ۲/۲۷۴، اشرفیہ

دیوبند ۲/۳۹۴، هندیۃ، زکریا قدیم ۱/۴۷۰، جدید ۱/۵۳۲، مختصر القدوری امدادیہ

دیوبند ۱۷۷۷) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعی احمد قاسمی عنفاللہ عنہ

کے ربع الثانی ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۰/۳۵۰)

مطلقہ واحدہ سے بلا حلالہ نکاح درست ہے

سوال [۶۲۷۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی اہلیہ کو ۹/۶ مہینے پہلے ایک طلاق دی تھی، میرے دو بچے ہیں، میری اہلیہ اسی وقت سے اپنے میکہ میں ہے، بچے میرے پاس ہیں، اب میں دو بارہ ان کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہوں، میری اہلیہ کی بھی یہی خواہش ہے؛ لہذا اس کی شکل تحریر فرمائے کر مشکور فرمائیں۔

المستفتی: محمد اعجاز، پیرزادہ، گلہ والی مسجد، مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر صرف ایک طلاق دی ہے، تو ۹/۶ مہینے گذرنے کے بعد چونکہ عدت پوری ہو چکی ہے؛ اس لئے وہی طلاق باقی ہو گئی ہے؛ لہذا اب رجعت کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اب بغیر حلالہ کے کسی بھی وقت نکاح کر کے رکھنے کی گنجائش ہے۔

عن سماک قال: سمعت عكرمة، يقول: الطلاق مرتان فامساك بمعرفه، أو تسريره ياحسان. قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نكحها، وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها، فإذا طلقها ثلاثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (المصنف لابن أبي شيبة، ما قالوا في الطلاق مرتان حديث مؤسسة علوم القرآن، بيروت ۱۹۷۱، رقم: ۴۶۵۶)

وينکح مبانته بمادون اللالث في العدة وبعدها بالاجماع.

(الدر المختار، كتاب الطلاق، باب الرجعة، زكرياء / ۴، كراچي ۳/۹۰)

فإن طلقها ولم يراجعها؛ بل تركها حتى انقضت عدتها بانت وهذا

عندنا. (بدائع الصنائع بيروت ۴، زكرياء ۳/۸۷)

إذا كان الطلاق بائناً دون اللالث فله أن يتزوجها في العدة، وبعد

انقضائہا الخ. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۲، جدید ۱/۵۳۵، هدایہ اشرفی دیوبند ۹/۳۹، تاتارخانیہ، زکریا ۱/۴۸، رقم: ۷۵۰) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

الجواب صحیح:
لکتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۱۲ ارشاد المکرم ۱۴۳۴ھ
(فونی نمبر: الف ۱۱۲۵ ر ۱۴۳۲ھ)

طلاق رجعی کے بعد کب تک رجوع کرسکتا ہے؟

سوال [۶۲۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے غصہ کی حالت میں اپنی بیوی کو تنبیہ کے واسطے ایک طلاق دی، پھر زید اپنی بیوی کے پاس سے ہٹ گیا۔ اب اگر زید رجوع کر لے تو کتنے روز کے اندر کرسکتا ہے؟

المستفتی: مقصود علیٰ ثانیہ، رامپور

باسم سجادہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب زید نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دیدی، تو ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی، خواہ اس کی نیت تنبیہ کرنے کی ہو، پھر بھی واقع ہو گئی؛ کیونکہ طلاق صریح میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب اگر زید رجوع کرنا چاہے، تو وعدت کے اندر جس کی مدت تین حیض ہے رجوع کرسکتا ہے۔

أَنْتَ طَالِقٌ يَقُولُ بِهَا أَيٍّ (بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَمَا بِمَعْنَاهَا مِنَ الصَّرِيحِ) وَاحِدَةٌ
رجعيَّةٌ، وَإِنْ نُوِّى خَلَافُهَا، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا۔ (تسویر الأ بصار مع الدر، کراچی
۲۴۹ تا ۴۷، زکریا ۴/۴۵۷ تا ۴۶۰)

وهي في حرمة تحريم لطلاق، أو فسخ بعد الدخول حقيقة، أو حكماً ثلاثة حيض كواحد. (شامي، باب العدة، کراچی ۳/۵۰۶-۴/۱۸۱، زکریا ۱/۴۵۷ تا ۴۹۲)

قال الله تعالى: الطلاق مرتان فاما كُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٍ بِإِحْسَانٍ.

[۲۲۹: سورۃ البقرہ]

عن ابن المسمیب أَنَّ عَلِیًّا بْنَ أَبِی طَالِبٍ قَالَ: إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ الْحِيْضُورَةِ الْثَالِثَةِ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثَّانِيَنِ.
 (سنن کبریٰ للبیهقی، باب من قال الأقراء الحیض، دارالفکر بیروت ۱۱، رقم: ۳۷۷/۱، ۱۵۷۹۹)
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية، أو تطليقتين، فله أن يرجعها في عدتها. (هدایة، اشرفیہ دیوبند ۴/۳۹، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۰،
 جدید ۱/۵۳۳) **نقطة والله سبحانه وتعالى اعلم**

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان الدین عن
 ۲۹ محرم الحرام ۱۴۲۳ھ
 (فونی نمبر: الف ۷۳۶۳/۳۶)

ایک طلاق دینے کے بعد رجوع کرنا

سوال [۶۸۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے غصہ میں اپنی معلومات کے مطابق بیوی سے یہ الفاظ کہدیئے کہ اگر حصہ نہیں لے گی، تو ہمارے مذہبِ حنفی میں تین طلاقیں ہیں، میں تجھے صرف ایک طلاق دیتا ہوں، دو ابھی باقی ہیں یہ باتیں میں نے بہت سے گواہوں کے پیچ کہیں جس میں میرے بہن، بھائی ماں بیوی بھی ہیں اور یہ سب گواہ ہیں، پھر مغرب کے ٹائم سے اپنی بیوی سے کہدیا کہ ایک طلاق بھی میں واپس لے رہا ہوں۔ اب کوئی طلاق نہیں؛ لیکن میری بیوی نے ایک بھائی کو گلا و ٹھی ٹیلیفون کر دیا، وہ رات کو ایک بجے آ کر اپنی بہن کو لے گئے کہ طلاق ہو گئی، اب میں برابرا پنی غلطی پر نادم ہوں اور اپنی بیوی کو لوگوں کے ذریعہ بلا رہا ہوں، مگر میرے سال نہیں بھیجتے کہ طلاق ہو گئی، تو شرعاً میں اپنی بیوی کو اپنے پاس بلascکتا ہوں یا نہیں؟ اس واقعہ کو ایک مہینہ ۹ دن ہو گئے ہیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب آپ نے ایک طلاق دے کر یہ کہا ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں، تو آپ کا رجوع کرنا صحیح ہے، عورت علی حالہ آپ کی بیوی ہے، آپ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؛ لیکن آئندہ کبھی بھی اس کے بعد دو طلاق دیں گے، تو عورت بالکل حرام ہو جائے گی۔

إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً رَجُعَيْةً، أَوْ تَطْلِيقَتِينِ فَلَهُ أَنْ يَرَاجِعَهَا فِي عِدَتِهَا. (عالِمِگیری، زکریا قدیم ۱/۴۷۰، جدید ۱/۵۳۳، هدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۴، قدوری امدادیہ دیوبند ۱۷۷)

والرجعة أن يقول: راجعتك، أو راجعت امراتي، أو يطأها. (هدایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۵، مجمع الأنہر دارالكتب العلمية بیروت ۲/۸۲، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۶۹، جدید ۱/۵۳۲)

قال الله تعالى: الْطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعٍ
بِإِحْسَانٍ. [سورة البقرة: ۲۲۹]

وَالْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ هُوَ الرَّجُعَةُ. (بدائع الصنائع، زکریا ۳۸۵)
وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَيَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرْحُونَ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا. [البقرة: ۲۳۱]
عن عبد الله وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكر التفسير إلى قوله الطلاق مرتان. قال: هو الميقات الذي يكون عليها
فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة، أو ثنتين، فإنما أن يمسك ويراجع بمعرفة
وإما يسكن عنها حتى تنقضي عدتها. (سنن کبریٰ للبیهقی، دارالفکر
بیروت ۱/۲۸۲، رقم: ۱۵۵۳۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله
۱۳۲۱/۱۱/۱۲

كتبه: شیر احمد قاسمی عفان الدین
۱۴۲۱ھ تعداد ۱۳۲۱
(فتوىٰ نمبر: الف ۳۵/۲۹۲۲)

تجھ کو طلاق دیتا ہوں کہنے کے بعد ساتھ رہنا

سوال [۶۲۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عتیق مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیوی رحمت جہاں جی کو بیس دن کا زچہ تھا، میرے اور ان کے درمیان پچھ جھگڑا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے ان سے کہا، جامیں تجھ کو طلاق دیتا ہوں جا گھر جا یہ واقعہ عید کے وقت کا ہے اور وہ میرے پاس ہی تین چار ماہ رہتی رہی اور وہ اب اپنی والدہ کے گھر میں ہے اور اب وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب تحریر فرمائیں کہ کتنی طلاق واقع ہوئی۔ والسلام

المستفتی: غضنفر اللہ ولد محمد سعید، مجلہ: یاروشہ، مراد آباد (بیوی پی)

بسم اللہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: تجھ کو طلاق دیتا ہوں کے الفاظ سے ایک طلاق رجعی واقع ہوئی تھی، مگر اس کے بعد دونوں ساتھ رہ چکے ہیں؛ اس لئے رجعت بھی ہو گئی ہے؛ لہذا اب دونوں بلاشبہ ساتھ رہ سکتے ہیں، نکاح کی بھی ضرورت نہیں، جا گھر جا کے الفاظ کے بارے میں شوہرنے زبانی بیان دیا ہے کہ ان الفاظ سے صرف دھمکا نے اور ڈرانے کا ارادہ تھا طلاق کا نہیں۔

والرجوعة أن يقول راجعتك (إلى قوله) أو يطأها، أو يقبلها،

أو يلمسها بشهود الخ. (هدایۃ، اشر فی دیوبند ۲/ ۳۹۵)

فلہ اُن یراجع و إن أبْتَ مَا دَامَتْ فِي الْعَدَةِ بِقَوْلِهِ رَاجِعَكَ،
أو راجعت امرأته، أو بفعل ما یوجب حرمة المصاهرة من وطء، ومس
ونحوه. (مجمع الأئمہ، دار الكتب العلمية بیروت ۲/ ۸۲)

کما تثبت الرجعة بالقول ثبت بالفعل وهو الوطء، واللمس عن

شہوۃ۔ (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۶۹، جدید ۱/۵۳۲) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم
 کتبہ: شیبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
 مریض الثانی ۱۴۲۰ھ
 (نومی نمبر: الف ۳۲۰/۶۱۳۰)

عدت کے دوران رجوع کرنے کا حق ہے

سوال [۶۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دیدی اور عدت کے دوران اس کی حقیقی بہن سے نکاح کر لیا، پھر اس کو بھی طلاق دیدی، ابھی پہلی والی کی عدت نہیں گزرا ہے کہ اس نے اس سے رجوع کر لیا، تو کیا یہ شکل درست ہے؟ اس میں نکاح کی ضرورت تو نہیں ہے اور اگر اس نے عدت گزرنے کے بعد اس کو اپنی زوجیت میں لانے کا ارادہ کیا ہے، تو کیا زید بذریعہ نکاح اس کو زوجیت میں لا سکتا ہے؟ زید نے جو اپنی پہلی مطلقہ کی بہن سے نکاح کیا تھا، اس سے دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو دونوں صورتوں میں جواب اگر ایک ہی ہے اور پرواہ شکل کا تو کوئی بات نہیں اور اگر صورت دخول میں جو جواب ہے صورت عدم دخول کا جواب اس سے مختلف ہے، تو دونوں شکلوں یعنی صورت دخول اور عدم دخول کی الگ الگ وضاحت کر دی جائے؟

المستفتی: فخر الحسن، موسیٰ پور، سنجھل، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: زید نے اپنی منکوحہ کی عدت رجعی میں اس کی بہن سے جو نکاح کیا ہے، وہ درست نہیں ہے؛ لہذا اپنی منکوحہ سے عدت میں رجوع کرنا درست ہے۔

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين، فله أن يراجعها

في عدتها . (هدایۃ، ۲/۳۹۴)

اور انقضاء عدت کے بعد بذریعہ نکاح اپنی زوجیت میں لاسکتا ہے اور عدت کے دوران جس بہن سے نکاح ہوا تھا، اس کے ساتھ دخول کیا ہویا نہ کیا ہو وہ نوں صورتوں میں حکم یکساں ہے۔
 وإذا كان الطلاق بائنا دون الثالث، فله أن يتزوجها في العدة، وبعد
 انقضاء ها. (هداية اشرفي دیوبند ۳۹۹، تاتارخانیة، ذکریا ۱۴۸/۵، رقم: ۷۵۰ ۴، هندیہ، ذکریا قدیم ۱/۴۷۲، جدید ۱/۵۳۵)

عن الحسن فلا تعضلوهن، قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه.
 قال: زوجت أختنا لي من رجل و طلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها،
 فقلت له زوجتك، و فرشتك، وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها؟
 لا والله لا تعود إليك أبداً، و كان رجلاً لا يأس به، وكانت المرأة تريد
 أن ترجع إليه، فأنزل هذه الآية فلا تعضلوهن، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله!
 قال: فزوجها إيه. (صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب من قال لا نکاح
 إلا بولي / ۷۷۰، رقم: ۴۹۳۷، ف: ۰: ۵۱۳)

قال الله تعالى: **وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ**
أَوْ سَرِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا. [البقرة: ۲۳۱]
 عن المسیب أن علي بن أبي طالب قال: إذا طلق الرجل امرأته
 فهو أحق برجعتها، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والشتين.
 (سنن کبریٰ للیہقی، دارالفکر بیروت ۱/۳۷۷، رقم: ۵۷۹ ۱، رقم: ۳۷۷/۱۱، رقم: ۹۳۷)

الجواب صحیح:

اختر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۱۹/۵/۲۱

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴۱۹/۱۱/۲۱
 فتویٰ نمبر: الف-۳۳ (۵۷۶۰/۳۳)

دوران عدت رجوع کافی ہے نکاح کی ضرورت نہیں

سوال [۲۳۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی، پھر اس کی بہن سے نکاح کر لیا، پھر ابھی عدت نہ گذری تھی کہ اس کو بھی طلاق دیدی اور پہلی والی سے رجعت کر لی، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جبکہ عدت کے دوران رجعت کرنا پایا گیا ہے، پھر نکاح نہیں کیا ہے؟

المستفتی: شمسِ احمد، سنبھل، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ایک بہن کی عدت میں دوسرا بہن سے نکاح حرام ہے، اب جبکہ شوہرنے اپنی پہلی مطلقہ رجعیہ بیوی سے عدت کے دوران رجوع کر لیا تو رجعت صحیح ہو گئی، دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔

حرم الجمع بین المحارم نکاحاً أی عقداً صحيحاً وعدة ولو من طلاق بائن وقوله من طلاق بائن شمل العدة من الرجعي۔ (شامی، کتاب النکاح، کراجی ۳/۳۸، زکریا ۴/۱۱۶)

ولا يجوز أن يتزوج أخت معتدته سواء كانت العدة عن طلاق رجعي، أو بائن، أو ثلاث۔ (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۲۷۹، جدید ۱/۳۴۴) إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية، أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها۔ (ہدایۃ، باب الرجعة، اشرفی دیوبند ۲/۴۹، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۰، جدید ۱/۵۳۳) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عننا اللہ عنہ

ہجری ۱۴۱۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف-۳۳/۰۱۵)

دو مرتبہ طلاق کے بعد بیوی کو بہن کہنا

سوال [۲۳۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں محمد اکرم ہوں میں نے اپنی بیوی کو غصہ کی حالت میں دو مرتبہ

طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی اور دو مرتبہ کہا کہ تو میری بہن ہے؛ جبکہ حقیقت میں تقریباً ۲ مہینہ سے والد صاحب کے صدمہ اور دیگر مصائب سے میرا داماغی توازن صحیح نہیں ہے۔

المستفتی: محمد اکرم، سلیم پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مذکورہ میں آپ کی بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں، عدت کے اندر اندر بیوی کو دوبارہ رکھ سکتے ہیں؛ البتہ آئندہ ایک مرتبہ بھی طلاق دیں گے تو طلاق مغلظہ واقع ہو کر ہمیشہ کے لئے بیوی حرام ہو جائے گی اور بیوی کو یہ کہنا کہ تو میری بہن ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی؛ البتہ ایسا کہنا درست نہیں۔

وَقَعْتَ أَرْجُعَتِينَ لَوْ مَدْخُولَاً بِهَا كَفُولَهُ أَنْتَ طَالِقُ، أَنْتَ طَالِقُ الْخَ.

(الدر المختار، کراچی ۴/۶۳، زکریا ۳/۲۵۲، مجمع الأئمہ، دارالكتب العلمیہ بیروت ۲/۱۳)

إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً رَجُعِيَّةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا

فِي عَدْهَارِضِيَّتِ بَذَلِكَ أَوْ لَمْ تَرْضِ. (هدایۃ اشرفیہ دیوبند ۴/۳۹۴، هندیہ، زکریا

قدیم ۱/۱۳۳، جدید ۱/۷۰۴)

لو قال لها أنت أمري لا يكون مظاهراً و ينبغي أن يكون مكروهاً ،
ومثله أن يقول يا ابنتي، ويما أختي ونحوه الخ. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۷۰۵، جدید
(۱/۳۱۵، جمادی الثانی ۱۴۳۱) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیبیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۱/۱۴۳۱، جمادی الثانی ۱۴۳۱

(نوتی نمبر: الف/۳۱، ۱۴۳۱/۲۰۶۹)

دوران گنگو طلاق ہو گئی کہنا

سوال [۲۳۸۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و منتظرین شرع متنین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ میری بیوی مجھ سے لڑ رہی تھی، میں اسے بار بار سمجھاتا رہا؛ لیکن وہ نہیں مانی اور کمرہ میں کنڈی لگا کر کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی، مجھے اس پر بہت غصہ آیا، بہت دروازہ پینٹے پر اس نے کنڈی کھولی، تو میں نے غصہ میں آ کر ہاتھ پکڑ کر کمرہ سے باہر کر دیا اور کہا اب یہاں سے نکل، پھر مزید وہ بحث کرتی رہی میں نے کہا تھے طلاق ہو گئی، اب میں تھنہ نہیں رکھوں گا، اس کے باوجود وہ زبان درازی کرتی رہی میں نے کہا کہ تو بحث کیوں کرو رہی ہے، جو تو چاہتی تھی وہ ہو گیا، تیرا معاملہ صاف ہو گیا، تم اپنے گھر جا کر کچھ بھی کرو، تھے طلاق ہو چکی ہے اور یہ بات میں نے بار بار کہی، اور بار بار میں نے جو طلاق ہو گئی کے الفاظ کہے ہیں، اس سے پہلی طلاق کی تاکید ہی مقصود تھی، اس کے علاوہ میرا کوئی ارادہ نہ تھا۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ اس سے کتنی طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: محمد ندیم

بسم اللہ سجادہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ہاتھ پکڑ کر کمرہ سے باہر نکالتے ہوئے ”یہاں سے نکل“، جو کہا ہے وہ موقع محل کے اعتبار سے کمرہ سے باہر نکلنے پر محمول ہے؛ اس لئے اس سے کوئی طلاق نہیں پڑی اور اس کے بعد دوران گفتگو جب اس نے پہلی بار ”طلاق ہو گئی“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں، تو اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی ہے؛ اس لئے کہ یہ اقرار طلاق ہے اور اقرار طلاق تجیز طلاق کے حکم میں ہے، اگرچہ طلاق پہلے نہ دی ہوتا بھی اس وقت کے اقرار سے ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی اور بعد کے الفاظ اس کے لئے خبر اور تاکید کے حکم میں ہیں؛ اس لئے بعد کے الفاظ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہو گی جیسا کہ شوہر کے بیان سے یہی بات واضح ہے کہ پہلی طلاق کی خبر دے رہا ہے؛ لہذا مذکورہ واقعہ میں ایک طلاق رجعی کا اعتبار ہو گا اور عدالت کے اندر رجعت کر کے میاں بیوی کی طرح دوبارہ زندگی گزارنے کی گنجائش ہو گی۔

ولو أقر بالطلاق كاذباً، أو هازلاً وقع قضاء لا ديانةً. (شامی، کتاب الطلاق، قبل مطلب فی المسائل التي تصح مع الاکراه، کراچی ۳/۲۳۶، زکریا ۴/۴۴) إن من أقر بطلاق سابق يكون ذلك إيقاعاً منه في الحال؛ لأن من ضرورة الاستناد الواقع في الحال. (مبسوط سرخسی، دارالکتب العلمیة بیروت ۴/۹۰)

ولو قال لامرأته أنت طالق، فقال له رجل ما قلت؟ فقال: طلقتها، أو قال: قلت هي طالق فهي واحدة في القضاء، كذا في البدائع. (الملحکيري، مطلب إذا كرر الطلاق على المرأة المدخول بها ونوى الإخبار، هندية، زکریا قدیم ۱/۳۵۵، حديث ۱/۴۲۳، نحو ذلك في الشامی، زکریا ۴/۲۱، کراچی ۳/۲۹۳) وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية، أو تطليقتين فله أن يراجعها في العدة. (اللباب في شرح الكتاب ۲/۲۸۰، بحواله فتاوى محمودیہ ۱۲/۲۳۸، ونحو ذلك في بداع الصنائع، زکریا ۳/۲۸۹) فقط و اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
كتبه: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
احترم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۲ھ/۷/۸
فتویٰ نمبر: الف ۱۱۸۷/۳۰

ایک طلاق کے بعد رجوع پھر طلاق پھر رجوع

سوال [۶۲۸۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کو ایک بار طلاق دی، پھر اس سے رجوع کر لیا، کچھ دنوں کے بعد ایک طلاق پھر دی اور فوراً اس سے رجوع کر لیا۔ کیا اس صورت میں نکاح ٹوٹ گیا اور طلاق سابق اس میں شامل ہو جائے گی؟

المستفتی: شرف الدین، سیتاپوری، آج پور، تھانہ: تیبور، سیتاپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مذکورہ صورت میں نکاح باقی ہے، پہلی طلاق کو شامل کر کے عورت پر دو طلاق رجعی واقعی ہو گئیں، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے زن و شوہر کی طرح زندگی گزارنا جائز ہے گا۔

إنما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق الخ. (الدر المختار، كوثيہ ۵۱۴/۲)
 ذکریاء / ۵۵۰، کراچی ۳/۳۱۳، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۴/۱۰۰، جدید ڈابھیل ۱۲/۵۰)

المعتدة بعدة الطلاق يلحقها الطلاق. (مجمع الأنہر، دارالكتب
 العلمية بیروت ۲/۴۲)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية، أو تطليقيتين فله أن
 يراجعها في عدتها. (هداية، اشرفی دیوبند ۲/۴۳۹، هندیہ، ذکریاء قدیم
 ۱/۴۷۰، جدید ۱/۵۳)

البیت آئندہ جب بھی ایک طلاق دے گا تو معاشرہ ہو جائے گی۔ فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان الدین
 لاصف المظفر ۱۴۰۸ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۵۲۲/۲۳)

بغیر نیت طلاق کے شوہر کا کہنا ”مجھے ہاتھ ملتا گا وورنہ گنہ گار ہو گی

سوال [۶۳۸۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو تم میرا اکثر کہنا نہیں مانتی ہو، جس بات کو میں منع کرتا ہوں اس کو کرتی ہو، میں تمہیں ایک طلاق دے چکا ہوں، تم ہوشیار ہو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور فوراً ہی یہ کہا جب تم میرا کہنا نہیں مانتی تو مجھ سے کیا واسطہ، یہ سب کچھ ذرا غصے میں ڈرانے کی غرض سے کہا، یہاں شوہر کی نیت طلاق کی نہیں تھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد بیوی

اس کے پاس آگئی، تو پھر اس نے اس کو ڈرانے کی غرض سے یہ کہا کہ تم مجھے ہاتھ ملتے لگانا، اگر ہاتھ لگاؤ گی تو گنہگار ہو گی اور چار مہینے تک عدت گزارو، اس کے بعد ہمارا اور تمہارا معاملہ ختم، اس بات کے کہنے سے اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی، شوہرنے چار مہینے سے پہلے ہی ڈھائی مہینے کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کر لی اور با قاعدہ آپس میں رہنے لگے، اور عہد کر لیا کہ ایسی باتیں اب نہیں کریں گے، اب شوہرنے کچھ فقہی کتابوں کا مطالعہ کیا، اس میں طلاق کا بیان پڑھا تو اس کو یہ شک ہو گیا کہ ہماری زندگی کہیں خلاف شرع تو نہیں گذر رہی ہے؛ اس لئے اس مسئلہ کے بارے میں علمائے دین سے رجوع کیا جا رہا ہے، تاکہ خلاف شرع زندگی سے نج چاہیں میں علماء اس کا جواب شریعت مطہرہ کی روشنی میں اطمینان بخش دیں کہ مذکورہ باتوں کے کہنے سے کوئی طلاق توقع نہیں ہوئی ہے؟

المستخفی: شیخ الرحمن، لاپور کالاں، مراد آباد

با سمسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شوہر کا قول میں تمہیں ایک طلاق دے چکا ہوں، اس سے بلا نیت ایک صریح طلاق رجی واقع ہو گئی، ڈھائی مہینے کے بعد صحبت کے وقت تک اگر تین جبض نہیں گذرے ہیں تو رجعت بھی ثابت ہو گئی اور بعد کی زندگی حلال طریق سے رہی ہے، بقیہ الفاظ سے اگر طلاق کی نیت نہیں کی ہے، تو ان سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہو گا۔

صریحہ ما استعمل فيه خاصة ولا يحتاج إلى نية وهو أنت طلاق
ومطلقة وطلقتک وتقع بكل منها واحدة رجعية. (مجمع الأئمہ، دار الكتب

العلمیہ بیروت ۲/۱۱)

صریحہ ما لم يستعمل إلا فيه ولو بالفارسية كطلقتک، وأنت طلاق،
ومطلقة وقع بها واحدة رجعية. (تowیر الابصار مع الدر المختار، کراچی ۳/۷۴۲،

تا ۴۶۰، زکریا ۴/۵۷۴ تا ۴۹۲)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية -إلى قوله- فله أن يراجعها

فی عدتها۔ (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۰، جدید ۱/۵۳۳، هداۃ اشرفیہ دیوبند ۲/۳۹۴) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۱۰ ارشوال المکرم ۱۴۰۷ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۲۷، ۲۳)

بلانیت کے طلاق طلاق کہنا

سوال [۶۲۸۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ سرفراز عالم کا عقد نکاح ہمراہ راشدہ خاتون ہوئے عرصہ تقریباً چھ سال کا ہوا، جس کےطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونپے ہیں، تاریخ ۵ مردوی ۱۹۹۰ء کی رات کو میں اپنی سرال گیا جہاں میری بیوی گئی ہوئی تھی کھانا کھانے لگا کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنی زوجہ سے کہاں میں جا رہا ہوں جس پر انہوں نے سخت لہجہ میں بات کی اس کے بعد ساس سالیوں اور سالوں سے گرماگری ہوئی اور ان لوگوں نے کافی مجھے برا بھلا کہا اور کہا کہ آج فیصلہ کر لیا جائے، اس پر میری ساس نے میرے اوپر دباؤ دیا آج فیصلہ اور معاملہ کو نمٹا لو میری گود میں میرا بچہ تھا اور میں گھر سے باہر آنا چاہتا تھا، ان لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور اندر کمرے میں لے جا کر مار پیٹ کرنا چاہتے تھے، میں نے اپنے بچاؤ کے لئے تین مرتبہ یہ الفاظ ایک سانس میں ادا کئے، طلاق، طلاق، طلاق میں خدا کو حاضر و ناظر کر کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ الفاظ اپنی بیوی کے حق میں نہیں کہا ہے اور نہ ہی میں نے بیوی کی طرف نسبت کی ہے؛ بلکہ زبردستی کرنے والوں کے بیخوں سے نکلنے کے لئے محض یہ الفاظ سنانا مقصود تھا تاکہ چھٹکارا پا کر نکل جاؤں۔

المستفتی: سرفراز عالم، محلہ: گویاں باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر واقعی بیوی کے حق میں مذکورہ الفاظ نہیں کہا ہے

اور نہ ہی بیوی کی طرف نسبت کی ہے؛ بلکہ صرف لفظ طلاق زبان سے نکال کر چھٹکارہ ہی مقصد تھا، تو بیوی پر طلاق نہیں ہوتی ہے، نکاح بدستور باقی ہے؛ کیونکہ وقوع طلاق کے لئے فی الجملہ نسبت لازم ہے چاہے ظاہری ہو یا معنوی۔

لَمْ يَقُعْ بِسِرْكَهُ إِلَيْهَا. وَتَحْتَهُ فِي الشَّامِيِّ: لَوْ قَالَ امْرَأَةً طَالِقَ، أَوْ قَالَ طَلَقْتَ امْرَأَةً ثَلَاثَةَ، وَقَالَ لَمْ أَعْنَ امْرَأَتِي يَصْدِقُ الْخَ (شامی، کراچی، باب الصريح ۴/۳، ۲۴۸، ذکریا ۴/۴۵۸)

رجل قال: امرأة طالق، أو قال: طلقت امرأة ثلاثة، وقال: لم أعن به امرأتي يصدق. (فتاویٰ قاضی خان، ذکریا ۱/۲۸۲، وعلی هامش الہندیہ، ذکریا ۱/۶۵۴، الفتاوی التاتارخانیہ، ذکریا ۱/۴۲، رقم: ۶۵۷۹) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان الدین
لے رمضان المبارک ۱۴۲۰ھ
(فتاویٰ نمبر: الف ۲۶/۸۷۹)

میں نے تم کو طلاق دیدی

سوال [۶۳۹۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متعین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تم کو طلاق دیدی اور اس کی بیوی سامنے موجود تھی اور اس کی بیوی نے کوئی جواب بھی نہیں دیا اور اس شخص نے اپنی زبان سے طلاق کی تعداد متعین نہیں کی، تو کتنی طلاق واقع ہوگی اور اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟
قرآن و حدیث کے مطابق شرعی فیصلہ فرمائیں عین کرم ہوگا۔

المستفتی: عبدالمajد، پر گنہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر تم کو طلاق دیدی کا لفظ صرف ایک دفعہ زبان سے نکالا ہے، تو اس سے صرف ایک طلاق رجی واقع ہوگی ہے، اگرچہ تعداد کا ذکر نہ کیا ہو۔

حریحہ مالم یتسعمل إلا فیه کطلقتک، وأنت طالق، ومطلقة، ويقع بها
واحدة رجعیة. (تنویر الأ بصار مع الدر، کراچی ۳/۴۷، زکریا ۴۵۷/۴۶۰ تا ۴۶)
حریحہ ما استعمل فیه خاصة ولا يحتاج إلى نیة وهو أنت طالق،
ومطلقة وطلقتک وتقع بكل منها واحدة رجعیة. (مجمع الأنہر، دارالکتب
العلمیہ بیروت ۲/۱۱) فقط والله سبحانہ وتعالیٰ علّم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۱۰ رمضان المبارک ۱۴۳۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۶/۱۹۵۳)

دو مرتبہ طلاق دی تیسری مرتبہ کہا طلاق دیدوں گا

سوال [۶۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ سراج الدین نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا میں نے اسے طلاق دی،
طلاق دی؛ جبکہ مکان کے اندر تین چار اور فیملیاں رہتی ہیں، ان سے جو معلومات کی طلاق
کے متعلق تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ سراج الدین نے دو دفعہ طلاق دی اور سراج الدین کی
بیوی سے جو دریافت کیا کہ طلاق تم کو کتنی بار دی، تو اس نے کہا میں نے کچھ نہیں سننا، میں مار
کے ڈر کی وجہ سے برابروالے باور پی خانہ میں چل گئی تھی، پھر سراج الدین نے اپنی ساس
سے پندرہ منٹ بعد کہا کہ میں طلاق دے دوں گا، اپنی لڑکی کو گھر لے جاؤ اور سامان بھی لے
جاو اور مہر کے لئے یہ کہا کہ میں نے جو مکان لیا ہے، اس میں گیارہ ہزار روپے لگائے ہیں،
وہ مکان لے لو تو آپ بتائیے کہ سراج الدین کی بیوی پر کون سی طلاق واقع ہوئی؟ اگر سراج
الدین اپنی اسی بیوی کو رکھنا چاہے تو کیا صورت ہوگی؟

المفتی: محمد فاضل، بقلم خود را عین تمحظی گیث، مراد آباد
با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر سائل کا بیان صحیح ہے تو مذکورہ صورت میں بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہو گئی ہیں عدت کے اندر رجعت کر کے رکھ سکتا ہے۔

وَقَعْتَا رَجُعَتِينَ لَوْ مَدْخُولَبَهَا، كَفُولَهُ أَنْتَ طَالِقٌ، أَنْتَ طَالِقٌ.

(الدر المختار، کراچی ۲۵۲/۴، زکریا ۴/۶۳، باب الصريح)

أَنْتَ طَالِقٌ، أَنْتَ طَالِقٌ، فِي قَعْدَةِ رَجُعَتِينَ إِذَا كَانَتْ مَدْخُولَبَهَا.

(مجمع الأئمہ، دارالكتب العلمية بیروت ۲/۱۳)

إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً رَجُعِيَّةً، أَوْ تَطْلِيقَتِينَ فَلَهُ أَنْ يَرَاجِعَهَا
فِي عَدْتِهَا. (هداية، زکریا قدیم ۱/۴۷۰، جدید ۱/۵۳۳، هداية اشرفیہ دیوبند ۲/۳۹۴)
مختصر القدوری امدادیہ دیوبند ۱۷۷۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان الدین عنہ
۲۳ رب میسان المبارک ۱۴۰۹
(فتویٰ نمبر: الف ۱۳۱۹/۲۵)

بیوی سے دو مرتبہ طلاق دی کہنا

سوال [۶۳۹۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آپسی جھگڑے کے دوران زید نے غصہ کی حالت میں اپنی بیوی ہندہ کو دوبار یہ لفاظ کہے میں نے طلاق دی، طلاق دی، جب ہم چار اشخاص وہاں پہنچے اور ہم نے دونوں شوہر و بیوی کے بیان لئے تو دونوں نے یہ اقرار کیا کہ مندرجہ بالا لفاظ دو بار ہی کہے ہیں: لہذا دریافت طلب امریہ ہے کہ صورت مسؤولہ میں کوئی طلاق واقع ہوئی؟ بارے کرم مفصل جواب تحریر فرمایا جائے نوازش ہو گی۔ بیان لینے والے حضرات کے اسماء یہ ہیں:

۱. جناب صغیر احمد ۲. جناب حاجی رونق علی ۳. جناب برکت علی ۴. جناب انبیاء

المستفتی: صغیر احمد سیفی، رام نگر، نینی تال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ میں درج شدہ صورت میں بشرط صحت سوال بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہو گئی ہیں، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے زن و شوہر کی زندگی گذار سکتے ہیں؛ لیکن یہ یاد رہنا چاہئے کہ آئندہ بھی ایک طلاق دیگا، تو بیوی بالکل نکاح سے خارج ہو جائے گی دوبارہ نکاح بھی درست نہیں ہو گا۔

و قعتا رجعتین لو مدخولاً بها، كقوله أنت طالق، أنت طالق .

(الدر المختار، مطبوع کوئٹہ ۴۶۸/۲، کراچی ۴/۲۵۲، زکریا ۴/۴۶۳)

فصار أنت طالق، أنت طالق فيقع رجعيتان إذا كانت مدخولاً بها .

(مجمع الأئمہ، دارالكتب العلمية بیروت ۲/۱۳) فقط والله سبحانه وتعالى عالم

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عفان الدعنہ

۲۷ محرم الحرام ۹۱۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۰۸۵/۲۲)

دو طلاق کے بعد شوہر کے لئے بیوی کو رکھنے کا حق ہے

سوال [۶۳۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ رات کا وقت تھا بیوی نے ناراضگی میں طلاق مانگی اور میں دو مرتبہ طلاق، طلاق کہا، میاں بیوی کے درمیان کی بات ہے، اس وقت وہاں اور کوئی نہیں تھا، میں خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر قسم کھا کر کہتا ہوں دو مرتبہ طلاق دی ہے، تو شریعت کی رو سے دو طلاق ہوئیں یا بیوی حرام ہو گئی؟ واضح رہے دو طلاق دینے کے بعد بیوی ہمارے گھر ایک مہینہ میاں بیوی کی طرح رہتی رہی، پھر میکہ چلی گئی اب نہیں آتی اور کہتی ہے کہ تین طلاق دی ہے، تو کس کی بات مانی جائے گی شوہر کی یا بیوی کی؟ یہ عورت پانچ بچوں کی ماں ہے شرعی حکم لکھدیں۔

المسئلہ: رئیس احمد، نیا گاؤں اکبر پور کائنخ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسئولہ میں شوہر قسم کھا کر دو طلاق دینے کے بارے میں کہہ رہا ہے، تین طلاق کا انکار کر رہا ہے اور عورت تین طلاق دینے کا دعویٰ کر رہی ہے، تو عورت کے ذمہ تین طلاق دینے پر گواہ پیش کرنا ضروری ہے۔

عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه. (سنن الترمذی)، أبواب الأحكام، باب ماجاه في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، النسخة الهندية (۲۴۹/۱، دار السلام بيروت رقم: ۱۳۴)

اور سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے پاس کوئی گواہ نہیں؛ اس لئے شرعی اعتبار سے شوہر کی بات مان کر دو طلاق ہی کا اعتبار کیا جائے گا اور چونکہ دو طلاق کے بعد دونوں میاں بیوی کی طرح رہتے رہے، اس لئے رجعت بھی ہوگئی؛ لہذا اب بیوی کو شوہر کے پاس آ کر حقوق زوجیت ادا کرنا ضروری ہے، تین طلاق کا بہانہ کرنا جائز نہیں۔

وإذا طلق الرجل أمرأته تطليقة رجعية، أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها حاضر بذلك أو لم ترض، والرجعة أن يقول راجعتك إلى أن قال أو يطأها، أو يلمسها الخ. (هدایۃ، باب الرجعة اشرفی دیوبند ۲/۳۹۴، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۰، جدید ۱/۵۳۳، مختصر القدوری امدادیہ دیوبند ۷/۳۹۵) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شیعہ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴۲۰ھ اربع الاول

(فتویٰ نمبر: الف ۳۲۷، ر ۷۰۷)

دوبار طلاق دینے کے بعد رجعت کرنا

سوال [۶۲۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میری ماں سے میرے شوہر کا میرے لڑکے کے بارے میں جھگڑا

ہور ہاتھا، میری اپنے شوہر سے کوئی ناراضگی نہیں تھی، میری ماں نے کہا میں لڑکے کو ساتھ لے کر جاؤں گی، میرے شوہر نے بھیجنے سے انکار کر دیا، پھر کہا کہ مجھے مجبور مت کرو، اگر لڑکے کو ساتھ لیجاوے گی تو یہوی کو بھی ساتھ لے جاؤ اسی بات پر میرے شوہر نے حالت ناپاکی میں دوبار لفظ طلاق طلاق کہتے ہوئے باہر چلے گئے۔ اب میں اپنے شوہر ہی کے پاس رہنا چاہتی ہوں، میرے شوہر کا بھی یہی بیان ہے کہ میری یہوی سے کوئی ناراضگی نہیں تھی ساس ہی کی ناراضگی کی بناء پر میں نے دوبار طلاق، طلاق کہا میری ساس نے فتح دیدی تھی کہ جو تمہیں کرنا ہوا بھی کر دو؛ اس لئے یہ بات کہی۔

المستفتی: محمد کامل، دریا پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: نذکرہ صورت میں دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں عدت کے اندر رجعت کر کے رکھنے کی اجازت ہے اور آئندہ بھی بھی ایک طلاق دے گا تو یہوی بالکل حرام ہو جائے گی۔

وقعتاً رجعتين لو مدخلهابها كقوله: أنت طلاق، أنت طلاق.

(الدر المختار، کراچی ۲/۴، ۶۳، زکریا ۴/۲۵۲، مجمع الأئمہ، دارالکتب

العلمیہ بیروت ۲/۱۳)

إذا أطلق الرجل أمراته تطليقة رجعية، أو تطليقيتين فله أن يراجعاً عنها في عدتها. (هداية اشرفی دیوبند ۲/۴، ۳۹، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۱، جدید

۱/۵۳۲) فقط واللهم سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:
افتقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۸/۱۳۲۱، ۸/۱۳۲۱

كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۸/۱۳۲۱ رجب المرجب
(فتوى نمبر: الف ۳۵/ ۲۸۱)

دو مرتبہ طلاق کے بعد ساتھ رہنے کی شکل

سوال [۶۲۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی شافعہ خاتون کو دو مرتبہ طلاق دیدیے، کیا اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ شریعت کا حکم تحریر فرمادیں؟

المستفتقی: حیدر علی، اصلاح پورہ، مراد آباد

با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: حسب تحریر سوال آپ کی مذکورہ بیوی پر دو طلاق جمعی واقع ہو گئی ہیں؛ البتہ عدت کے اندر رجعت کر کے پہلے کی طرح رہنے کی گنجائش ہے اور آئندہ کبھی بھی ایک طلاق دے گا، تو بیوی کلی طور پر حرام ہو جائے گی۔

لو نوی بطلاق واحدة، وبالطلاق أخرى و قعطاً رجعتين. (شامی،

زکریا ۴/۴۶۳، کراچی ۳/۲۵۲)

ولو قال: أنت طالق الطلاق، وقال عنیت بقولي طالق واحدة وبقولي الطلاق أخرى يصدق فتقع رجعيتان. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۵۰۳، جدید ۱/۲۴) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شمسیہ احمد قاسمی عفان الدین عنہ

۱۴۳۰ھ قدری عدد

(فتویٰ نمبر: الف ۳۸/۹۸۱۳)

دو طلاق جمعی کے بعد رجعت کی گنجائش

سوال [۶۲۹۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شیمۃ اللہی نے اپنی بیوی کتاب النساء کو اس طرح کہا کہ میں

نے تھوڑا کو طلاق دی؛ لیکن اس کی بیوی نے نہیں سنا، بیوی کچھ دوری پر بچہ کو چپ کر رہی تھی؛ البتہ اس کی لڑکی نے سنا، جو اس وقت وہاں موجود تھی، لڑکی نے جا کر باپ کے منھ کو بند کیا، تو اس نے دوسری مرتبہ بھی کہہ دیا کہ میں نے تھوڑا کو طلاق دی تو بتلائیں کہ مذکورہ صورت میں بیوی پر طلاق ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو کوئی طلاق ہوگی۔ نیز اگر وہ بیوی کو دوبارہ رکھنا چاہے تو کیا شکل ہو سکتی ہے؟

المسٹفی: شیم النبی، مفتی ٹولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مذکورہ صورت میں شیم النبی نے اپنی بیوی کو دو مرتبہ طلاق دی کے الفاظ استعمال کئے ہیں، اس سے بیوی پر دو طلاق رجعی پر گئیں، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے بیوی بنا کر رکھنے کی گنجائش ہے۔ (ستفادہ: فتاویٰ دارالعلوم ۳۳۲۹)

وقعتار جمعین لو مدخولابها کقوله: أنت طالق، أنت طالق. (شامی،

زکریا ۴/۶۳، کراچی ۳/۲۵۲)

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية، أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها هارضيت بذلك أو لم ترض. (هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/۴، ۳۹۴، هندیہ،

زکریا قدیم ۱/۴۷۰، جدید ۱/۳۳۵)

ولو قال لها: أنت طالق طالق أو أنت طالق أنت طالق تقع ثباتان إذا كانت المرأة مدخلولا بها. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۵۵، زکریا جدید

دیوبند ۱/۴۲۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفوا اللہ عنہ

۲۶/ جمادی الاولی ۱۴۲۳ھ

(نوتی نمبر: الف ۳۶/ ۲۲۵)

دو طلاق کا شرعی حکم

سوال [۶۳۹۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مظفر حسین نے اپنی بیوی کو دو طلاق دی، اور مظفر حسین اس کا حلفیہ اقرار کرتے ہیں اور جس وقت طلاق کا واقعہ پیش آیا وہاں ان کا ایک لڑکا اور ایک لڑکی موجود تھی، لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں سنا اور لڑکا تین طلاق کی گواہی دیتا ہے اور گواہی دینے والے لڑکے کا اپنے والد کے ساتھ اختلاف کئی سالوں سے چل رہا ہے اور بول چال بھی بند ہے، ایسے حالات میں اس نے گواہی دی ہے اور طلاق کے واقعہ کو ڈھانی تین سال کا عرصہ گذر چکا ہے۔

المستفتی: مظفر حسین، حسن پور، مرودہہ

بسم اللہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شوہر خودا پنی زبان سے دو طلاق کا اقرار کرتا ہے اور دو مرتبہ طلاق دینے سے دو طلاق رجی واقع ہوتی ہیں عدت کے اندر اندر رجعت ہو سکتی ہے؛ لیکن سوال نامہ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس واقعہ کو ڈھانی تین سال گذر چکے ہیں، تو اگر طلاق کے واقعہ کے بعد سے میاں بیوی تین ماہواری کے زمانہ تک ایک ساتھ نہیں رہے ہیں، تو وہ طلاق طلاق با نہ ہو گئی ہے آئندہ اگر دونوں ساتھ رہنا چاہیں تو باقاعدہ گواہوں کے سامنے ایجاد و قبول بلا حلالہ نکاح کر کے ساتھ رہنے کی گنجائش ہے اور لڑکے کا تین طلاق کی گواہی دینا؛ اس لئے معتبر نہیں ہے کہ باب بیٹی کے درمیان دشمنی چل رہی تھی۔

نیز ایک آدمی کی شہادت معتبر نہیں ہوتی؛ اس لئے بیہاں بیٹی کی شہادت کا اعتبار نہیں۔

رجل قال لامرأته، بعد الدخول بها: أنت طالق، أنت طالق تقع شتان.

(تاتارخانیہ، زکریا ۴/۲۲۹، رقم: ۶۵۹۵، در مختار، کراچی ۳/۲۵۲، زکریا ۴/۶۳،

هنديہ، زکریا قدیم ۱/۳۵۵، جدید ۱/۴۲۳)

إذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة، وبعد انقضاءها. (فتاویٰ عالمگیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۲، جدید ۱/۵۳۵، تاتارخانیہ، ذکریا ۱/۴۸، رقم: ۷۵۰، هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/۳۹۹)

ونصابها لغيره من الحقوق سواء كان الحق مالاً، أو غيره كنكاح، وطلاق.....رجلان، أو رجل امرأتان. (در مختار، ذکریا ۸/۱۷۸، کراچی ۵/۴۶۵، هدایۃ الشرفی دیوبند ۳/۱۵۴، البحر الرائق، کوئٹہ ۷/۶۲، ذکریا ۷/۱۰۰، الجوہرۃ النیرۃ، امدادیۃ ملتان ۲/۳۲۶، دارالکتاب دیوبند ۲/۳۰۹)

وجاز على أصله إلا إذا شهد على أبيه لأمه. (در مختار، کراچی ۵/۴۷۸، ذکریا ۸/۱۹۶) **فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علّم**

الجواب صحیح:
احقر محمد سلامان مخصوص پوری غفرلنہ
۱۸/رجالی الشانیہ ۱۴۳۳ھ
۱۴۳۳/۲/۱۸

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفان الدین عنہ
۱۸/الف ۲۱/۳۹ (فتاویٰ نمبر: الف ۱۰۷)

دو طلاق کے بعد بیوی کے ساتھ ہمبستر ہونے سے رجعت کا تحقیق

سوال [۶۳۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عتیین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے کے دوران شوہرنے بیوی سے کہا کہ اپنے بڑوں کو بلاو، اس پر بیوی نے کہا کہ مجھے اپنے تینوں بچوں کی قسم ہے کہ میں تم سے طلاق لوں گی، اس پر شوہرنے دوبار کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ مذکورہ صورت میں طلاق ہوئی یا نہیں؟ طلاق کے دوسرے دن اس نے عورت سے صحبت بھی کر لی۔

المسنفتی: عبد الرؤف، بڑی مسجد، اصلاح پورہ، مراد آباد
با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مذکورہ صورت میں بیوی پر دو طلاق رجعی واقع

ہوچکی ہیں اور جب شوہرنے اس کے بعد بیوی سے صحبت کر لی ہے، تو اس سے رجعت بھی ثابت ہوچکی ہے۔ اب میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں۔

وقعتار جعین لو مدخولابها کقوله: أنت طالق، أنت طالق. (در مختار،

کراچی ۲۵۲/۳، زکریا ۴/۴۶۳)

ولو قال لها: أنت طالق طالق أو أنت طالق، أنت طالق.....تقع ثنتان إذا كانت المرأة مدخلة بابها. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۵۵، جدید ۱/۴۲۳)

أنت طالق، أنت طالق، فيقع رجعيتان إذا كانت مدخلة بابها.

(مجمع الأنہر، دارالکتب العلمیة بیروت ۲/۱۳) فقط والله سبحانه وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۱۵ / جمادی الثانی ۱۴۱۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف-۳۳/۵۸۱۶)

دو طلاق رجعی کی صورت میں بلا حلالہ نکاح درست ہے

سوال [۶۳۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک گواہ کی موجودگی میں دو طلاق دی، موجود گواہ نے دوسری مرتبہ کے بعد اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اس حادثہ کو تقریباً ایک سال گزر چکا ہے، میاں بیوی تب سے بالکل علاحدہ رہتے ہیں، ان کے درمیان مباشرت نہیں ہوئی، زوجیت، عدت نکاح کے بارے میں شرعاً حکم کیا ہے؟

المستفتی: نیاز مند حاجی اشتیاق احمد، بہروانی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شوہر مذکورہ واقعہ کا اقرار کرتا ہے تو بیوی پر دو طلاق صریح رجعی واقع ہوئی تھیں؛ لیکن عدت ختم ہو جانے کی وجہ سے بائن ہو گئیں، بلا حلالہ دوبارہ نکاح صحیح کر کے آپس میں باعصمت زندگی گزار سکتے ہیں۔

عن سماک قال: سمعت عکرمة، يقول: الطلاق مرتان فاما سماک بمعروف، أو تسریح بیاحسان. قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نكحها، وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها، فإذا طلقها ثلاثة فلاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (المصنف لإبن أبي شيبة، ما قالوا في الطلاق مرتان، جدید مؤسسه علوم القرآن، بیروت ۱۹۷۰، رقم: ۱۹۵۶)

فإن طلقها ولم يراجعها؛ بل تركها حتى انقضت عدتها بانت وهذا عندنا. (بدائع الصنائع بیروت ۳۸۷/۴، زکریا ۳۸۳) و ينكح مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع .
(الدر المختار، کراچی ۴۰/۳، زکریا ۲۰۹)

إذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة، وبعد انقضائها . (هنديہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۲، جدید ۱/۵۳۵، هداية اشرفي دیوبند ۳۹۹/۲، تاتارخانیہ، زکریا ۱۴۸/۱، رقم: ۷۵۰) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
كتبه: شمسیہ احمد قاسمی عفان الدین عنہ
۱۴۰۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۵۲/۲۳)

دو مرتبہ طلاق کے بعد تین حیض گذر گئے کیا حکم ہے؟

سوال [۶۵۰۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عتین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد عمران مبارک بن اصغر حسین ۶۵ سی آر لیونو، تھانہ: بہباز ارکوٹھہ سے میری الہمیہ شبانہ یاسمین بنت امام الدین انصاری کے ساتھ ۱۴ فروری ۲۰۰۸ء کو آپس میں تنازع اور جھگڑا ہوا اور آپس میں جھٹ و تکرار بھی ہو گئی، جس کی بنیاد پر لڑکی نے کہا کہ میں نے تم کو طلاق دی، جس کی وجہ سے میں نے اسے دو تین طمانچہ مار دیے اور آپس میں گالم گلوچ بھی ہو گئی، اس کے بعد آپس میں تنازع اور جھگڑا کا ماحول بڑھ گیا اور پھر میں جب رات

کو آفس سے آیا اور اپنی اہلیہ کو کہا کہ ہم کو مارنا نہیں چاہئے تھا تم مجھے معاف کر دو، اس کے بعد آپس میں صلح ہو گئی اور میری اہلیہ نے مجھ سے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ یہ سارا واقعہ اپنی امی سے نہیں بتلاؤں گی، اس کے باوجود اس نے سارا واقعہ اپنی والدہ سے بتلا دیا، منگل ۲۶ فروری ۲۰۰۸ء کو جب میں دکان جا رہا تھا، تو اس کے بعد سے آپس میں اور بھی تناوٰ کا ماحول بڑھ گیا اور اس کے بعد میری زبان سے جہاں تک یاد ہے صرف میں نے لفظ طلاق طلاق
کہا یہ جملہ میں نے دو مرتبہ دہرا�ا؛ جبکہ میری بیوی کا کہنا ہے کہ میں نے طلاق دیا کہا ہے، میں نے اپنی والدہ سے بھی تصدیق کر لی کہ میری زبان سے صرف طلاق ہی دو مرتبہ تکلا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا؛ لہذا از روئے شرع طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ہو گئی تو کتنی؟ واضح رہے کہ طلاق ملنے پر لڑکی فوراً اپنے میکہ چلی گئی اور آج تک میکہ میں ہے؛ جبکہ مکمل تین حیض سے زیادہ ہو چکا ہے، اگر طلاق ہو گئی تو نکاح کر کے جا سکتی ہے اور لڑکی کسی قیمت پر جانے کو راضی نہیں ہے، تو کیا عقد ثانی کے لئے لڑکی آزاد ہے یا نہیں؟ گود میں ڈیڑھ سال کا لڑکا بھی ہے اس کا کیا ہو گا، شوہر سے خرچ کب تک ملے گا اور کتنا ملے گا اور لڑکا ماں کے پاس کب تک رہے گا اور لڑکے کو ماں اپنے پاس ہی رکھنا چاہے تو کس طرح رکھ سکتی ہے؟

المستفتی: امام الدین، محدث پیغمبری، کلی برداون

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: آپس میں جھگڑا اور تکدار کے دوران لڑکی کا شوہر کو یہ کہنا کہ میں نے تم کو طلاق دی، اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی؛ اس لئے کہ طلاق دینے کا حق بیوی کو نہیں، شوہر کو ہے اور اس کے بعد کے واقعہ میں جانبین کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ شوہر نے طلاق کا لفظ صرف دو، ہی مرتبہ زبان سے نکالا ہے، صرف اختلاف اس بارے میں ہے کہ لفظ طلاق، طلاق کہا ہے یا ساتھ میں ”طلاق دی“ کا لفظ کہا ہے، اس اختلاف کے باوجود دونوں کے دعویٰ کے مطابق صرف دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں؛ لہذا عدالت کے اندر رجعت کی گنجائش تھی اور اب جب سوال نامہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تین

ماہواری سے زیادہ وقت گذر چکا ہے، تو اب رجعت کی گنجائش نہیں رہی آپس کی رضا مندی سے بغیر حلالہ کے نکاح کی گنجائش ہے۔

لأن المرأة لا تملك الطلاق؛ بل هو ملكه. (شامی، کتاب الطلاق،

باب الخلع، کراچی ۴۴۲/۳، زکریا ۸۹/۵)

وَقَعْتَ أَرْجُعَتِينَ لَوْ مَدْخُولَاً بَهَا كَقْوَلَهُ: أَنْتَ طَالِقُ الْخَ

(در مختار، کراچی ۳/۶۳، زکریا ۴/۲۵۲، مجمع الأنہر، دارالكتب العلمیہ بیروت ۱۳/۲، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۵۵، جدید ۱/۴۲۳۳)

فَإِنْ طَلَقَهَا وَلَمْ يَرْجِعْهَا؛ بَلْ تَرْكَهَا حَتَّى انْفَضَّتْ عَدْتُهَا بَانْتَ
وَهَذَا عَنْدَنَا۔ (بدائع الصنائع، زکریا ۳/۲۸۳)

وَيَنْكَحْ مَبَانِتَهُ بِمَادُونِ الْثَلَاثِ فِي الْعُدَدِ وَبَعْدَهَا بِالْجَمَاعِ.

(الدر المختار، کراچی ۳/۲۰۹، زکریا ۵/۴۰)

إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بِأَئْنَاءً دُونَ الْثَلَاثِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي الْعُدَدِ،

وبعد انقضائها۔ (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۲، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ الشرفی

دیوبند ۹/۳۹، تاتارخانیہ، زکریا ۵/۴۸، رقم: ۷۵۰، ۴، رقم: ۱، زکریا قدیم ۱/۴۸)

الجواب صحیح:

كتبه: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۳۶۷ شعبان المظہر

۱۴۲۹ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۸، ۷۰۷، ۹۷۰)

دو طلاق کے بعد پانچ ماہ گذر گئے کیا حکم ہے؟

سوال [۶۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو دادا اور بڑی کے جھگڑے کے مسئلہ میں بات نہ ماننے کی بنا پر دوبار طلاق دیدی ہے، طلاق دیئے ہوئے پانچ ماہ گذر گئے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں میں اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟

المستفتی: محمد صابر خاں، سالار پور جے پی گر (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر سائل اپنے بیان میں سچا ہے اور صرف دو ہی بار طلاق کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس کی بیوی پر دو طلاق رجیع واقع ہو گئی ہیں، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے رکھنے کی گنجائش ہے اور عدت گذرگئی ہے، تو رجعت کی گنجائش نہیں ہے؛ بلکہ آپس کی رضامندی سے بغیر حلال کے دوبارہ نکاح کر کے رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔

وقعتاً رجعتين لو مدخله بابها كقوله: أنت طلاق، أنت طلاق الخ

(در مختار، کراچی ۳/۴۶۳، ۲۵۲، زکریا، مجمع الانہر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳/۲، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۵۵، جدید ۱/۴۲۳)

إِذَا طلقَ الرَّجُلُ امْرَأَهُ تطليقةً رجعيةً، أَوْ تطليقتين فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا

في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض . (هدایة، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۴)

إِذَا انقضت العدة فقد بطل حق المراجعة . (المحيط البرهانی، الفصل

الثانی وعشرون في مسائل الرجعة المجلس العلمي بيروت ۵/۱۸۳)

فإن طلقها ولم يرجوها؛ بل تركها حتى انقضت عدتها بانت وهذا

عندنا . (بدائع الصنائع، زکریا ۳/۲۸۳)

إِذَا كان الطلاق باشناً دون الشّاثة فله أن يتزوجها في العدة، وبعد انقضائها . (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۲، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹)

تاتارخانیہ، زکریا/۱۴۸، رقم: ۴۷۰) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احترم مسلمان منصور پوری غفرله

۱۴۳۱/۲/۱۳

كتبه: شبير احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۱۲ صفر ۱۴۳۱ھ

(فتوى نمبر: الف ۹۸۸/۳۸)

دومرتبا طلاق دینے کے بعد سات آٹھ ماہ گذر گئے

سوال [۶۵۰۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کو جھکڑے کے دوران دومرتبا طلاق دیدی، اس واقعہ کو تقریباً ۷/۸ ماہ کا عرصہ گذر چکا ہے، اب کیا وہ عورت اپنے شوہر کے پاس آسکتی ہے یا نہیں؟ اس عورت کو دوسرے آدمی سے نکاح کرنا ہو گایا پہلے ہی شوہر سے ہو سکتا ہے؟

المحستفی: خلیل احمد سعیفی، شاہ آباد، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر واقعی صرف دو ہی مرتبہ طلاق دی گئی تھی، تو دو طلاق رجیع واقع ہو گئی ہیں؛ لیکن اب ۷/۸ ماہ میں عدت بھی گذر گئی ہو گئی؛ اس لئے اب باسہ ہو گئی؛ لہذا دوبارہ نکاح کر کے زوجیت میں لا کی جاسکتی ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وقعتاً رجعتین لو مدخولاً بہا کقوله: أنت طالق، أنت طالق الخ

(در مختار، کراچی ۳/۲۵۲، ۴/۶۳، زکریا، مجمع الانہر، دارالكتب العلمیہ بیروت ۱۳/۲، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۵۵، جدید ۱/۴۲۳)

إذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها . (هندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۲، ۱/۵۳۵، جدید ۱/۴۷۲، ۱/۳۹۹) فقط واللهم سبحانہ وتعالیٰ اعلم تاتارخانیہ، زکریاہ /۱۴۸، رقم: ۷۵۰) شیخ شعبی احمد قاسمی عفی اللہ عنہ

الجواب صحیح:

اعتزز محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۵ صفر ۱۴۲۵ھ
۱۴۱۵/۲/۲۵

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عفی اللہ عنہ
۲۵ فروری ۱۴۲۵ھ
(فتوى نمبر: الف ۳۸۸۲/۳)

رجعت کے بعد دوسری طلاق دینا

سوال [۶۵۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، دوران عدت رجوع کر لیا اور میاں بیوی بن کر رہنے لگے، ٹھیک ایک سال کے بعد ایک اور طلاق دیدی، اس وقت عورت اپنے میکہ میں ہے اور پھر اسی شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں صرف نکاح سے میاں بیوی بن جائیں گے یا حالہ کی ضرورت پڑے گی؟

المستفتی: ضیاء الرحمن، سلیم مسجد جوہان بانگر، دہلی ۵۳۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورتِ مسئولہ میں زید کی بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں، زید کو عدت کے اندر اندر رجوع کا حق ہے، نکاح کی ضرورت نہیں؛ لیکن اس کے بعد کسی بھی ایک طلاق دیگا، تو اب پہلی دو ماکر مغلظہ ہو جائے گی اور بغیر حالہ شرعیہ کے نکاح درست نہ ہو گا۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۹/۲۶۲)

وإذا طلق الرجل أمرأته تطليقة رجعية، أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض. (هداية، اشرفی دیوبند ۴/۳۹، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۰، جدید ۱/۵۳۳، مختصر المعانی امدادیہ دیوبند ۱۷۷) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ علم

الجواب صحیح:

كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲ھ

۱۴۲۲ھ/۱۹

(فتوى نمبر: الف ۲۸۲۳/۳۵)

طلاق رجعی کی عدت پوری ہونے کے بعد دیگئی طلاق کا حکم

سوال [۶۵۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ برکت علی نے ۲۹ جنوری ۲۰۰۰ء کے اخباری اعلان کے ذریعہ اپنی زوجہ رخسانہ پروین کو خبر دی کہ ”میرا اپنی پنچی رخسانہ پروین سے ۱۵ ماہینہ پہلے طلاق ہو چکی ہے، جب سے دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہا، پھر ۱۶ اکتوبر ۲۰۰۰ء کو بذریعہ تحریر طلاق دی،

جس میں لکھا ہے کہ آج موئخہ: ۱۶/۲/۲۰۰۰ء فریق اول کو تین بار طلاق طلاق زبانی تحریر یطور پر طلاق دے کر آزاد کر دیا ہے۔

اب دریافت یہ کرنا ہے کہ پہلی اخباری اطلاع سے کوئی طلاق ہوئی اور پھر دوسری تحریر سے کون سی طلاق ہوئی، اب عدت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عدت پہلی طلاق سے پوری ہو چکی یا اب کرنی ہوگی؟ اگر عدت کرنی ہو تو کہاں کرے شرعی حکم تحریر فرمادیں نوازش ہوگی۔

المستفتی: شرافت حسین، قاضی ٹولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: پہلی مرتبہ جو طلاق دی ہے اس سے شرعی طور پر ایک طلاق رجحی واقع ہوگئی، مگر اس درمیان میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات نہیں رہے اور نہ ہی شوہر نے رجوع کیا ہے؛ لہذا طلاق کے بعد سے تین مہینہ لذ رجانے کی وجہ سے باسٹہ ہوگئی۔ اب دونوں کے درمیان رشتہ ازدواج باقی نہیں رہا، تو اگر تین مہینہ میں تین ماہواری آچکی ہے تو اخباری اطلاع سے ایک سال پہلے باسٹہ ہو چکی تھی، اس کے بعد دوبارہ جو تین طلاق زبانی دی گئی ہیں، وہ معتبر نہیں ہیں؛ اس لئے کہ جس وقت یہ تین طلاق دی جا رہی تھیں اس وقت رشتہ نکاح باقی نہیں تھا؛ اس لئے یہ طلاق واقع ہوئیں ہوئیں اور عدت زبانی تین طلاق دینے سے ایک سال پہلے پوری ہو چکی ہے؛ لہذا اب دوسری جگہ نکاح کرنے کے لئے دوبارہ عدت گزارنے کی ضرورت نہیں۔

عن عبد الله وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التفسير - إلى قوله - الطلاق مرتان. قال: هو الميقات الذي يكون عليهما فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة، أو ثنتين، فإنما أن يمسك ويراجع بمعرف و إما يسكت عنها حتى تنقض عدتها، ف تكون أحق بنفسها.

(سنن کبریٰ للبیهقی، کتاب الرجعة، دارالفکر بیروت ۱۱ / ۲۸۲، رقم: ۱۵۵۳۹)

فإن بعد ما طلقها واحدة، أو ثنتين، فانقضت عدتها لو طلقها

لا يصح طلاقه. (فتاویٰ تاتار خانیہ، زکریا ۴/۳۹۱، رقم: ۶۵۰۳)

فإن طلقها ولم يراجعها؛ بل تركها حتى انقضت عدتها بانت.

(بدائع الصنائع بیروت ۴/۳۸۷، زکریا ۳/۲۸۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان الدین عنہ

۱۲ محرم الحرام ۱۴۲۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۳۳۲/۳۲)

مطلقہ مغلظہ سے نکاح کے لئے مخصوص نکاح ثانی کافی نہیں

سوال [۶۵۰۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد اسلم نے اپنی بیوی شہناز پروین کو تین طلاق دیدیں، عدت کے بعد دوسرے لڑکے محمد اسلم سے نکاح ہو گیا: لیکن وہ اس کے ساتھ ہمستر نہیں ہوا اور صحیح کو طلاق دیدی، پھر محمد اسلم نے نکاح کر لیا، کچھ عرصہ اسلام نے اسے رکھا، پھر اس نے طلاق دیدی، اس طلاق کے فوراً بعد میں محمد حنیف نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ میرا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا، اگر نہیں تو شرعاً ب کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد حنیف، محلہ: عیدگاہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: محمد اسلم نے جب تین طلاق دیدیں، تو عدت کے بعد دوسرے شخص کے ساتھ شرعی نکاح اور ہمستری کے بعد طلاق حاصل ہو جائے اور عدت بھی گذر جائے تب محمد اسلم کا نکاح صحیح ہو سکتا ہے اور مذکورہ صورت میں شوہر ثانی محمد اسلم کے ساتھ صرف عقد نکاح ہوا ہے اور خلوت ہمستری نہیں ہوئی؛ اس لئے بغیر شب باشی کے جو طلاق ہوئی وہ طلاق باسن ہوئی ہے اس صورت میں محمد اسلم سے نکاح صحیح نہیں ہو سکتا، محمد اسلم کے علاوہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح جائز ہے؛ لہذا محمد اسلم کی طلاق کے بعد محمد اسلم

سے نکاح شرعی نہیں ہوا؛ بلکہ باطل ہوا ہے، اس کے ساتھ مردوزن کی طرح رہنا حرام کاری بدکاری زنا کاری ہوئی ہے۔ نیز محمد اسلم کی طلاق کے بعد محمد حنفی کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے وہ نکاح صحیح ہے؛ اس لئے کہ اسلام کے ساتھ نکاح صحیح ہونے کے لئے محمد مسلم کی ہمیستری لازم تھی اور ہمیستری نہیں ہوئی اور محمد حنفی کے ساتھ نکاح صحیح ہونے کے لئے لازم نہیں تھی؛ اس لئے حنفی کے ساتھ نکاح درست ہوا ہے۔

لاینكح مطلقةً بها أي بالثلاث.....حتى يطأها غيره. (در مختار، زکریا
۴۱/۵، کراچی ۳/۶۰، ۶۰/۴)

وفي البحر لا ينكح مبانته بالبينونة الغليظة-إلى - ما إذا كان قبل الدخول . (بحر، زکریا ۴/۹۴، کوئٹہ ۴/۵۶)

لو تزوجت (بنزوج آخر) ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول.

(دلائل القرآن على مسائل الشuman ۱/۳۵۹)

لا تحل للأول حتى يجامع الثاني. (فتح الباري، کتاب الطلاق، باب إذا طلقها ثلاثة، ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها، دار الفكر بيروت ۹/۶۷، دارالريان للتراث بيروت ۹/۷۷۷، اشرفية دیوبند ۹/۵۸۴، عمدة القاري، كتاب الطلاق، باب من اجاز طلاق الثلاث، دار احياء التراث العربي ۲۰/۲۳۶، زکریا دیوبند ۱/۲۳۹)

لو قضى بالحل للأول بمجرد النكاح- فلا ينفذ فيه قضاء القاضي؛ لأنه يخالف الإجماع كذا في القهستاني. (حاشية الطحطاوي على الدر، کوئٹہ ۲/۱۷۵، مثله في فتح الملهم، اشرفیہ دیوبند ۳/۵۰۲)

وفي الحديث البخاري، والمسلم، عن عائشة، قالت: طلق رجل امرأته ثلثا فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوج فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا حتى

يذوق الآخر عسيلتها كما ذاق الأول. (صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب لاتحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره، النسخة الهندية ۴۶۲/۱، بيت الأفكار رقم: ۱۴۳۳، صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب من اجاز طلاق الثلاث، النسخة الهندية رقم: ۷۹۱/۲، رقم: ۵۰۶۲، ف: ۵۲۶۱)

هكذا روي عن بن عمر^{رض}. (فتح الباري ۹/۴۶۷) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

احضر محمد سلمان متصور پوری غفرله
۱۳۲۱/۲/۱۳

كتبه: شیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۱۳/رجایی الثانیہ ۱۴۲۱ھ

(فونی نمبر: الف ۲۷۵۵/۳۵)

○♦○

(۱۵) باب الطلاق البائن

سیما پروین میں تمہیں طلاق بائن دیتا ہوں

سوال [۶۵۰۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آصف الرحمن نے اپنی زوجہ کو کیل کی معرفت طلاق نامہ کا نوٹس ارسال کیا جس میں آصف الرحمن نے تین مرتبہ یہ جملہ لکھوا یا۔

(۱) ”سیما پروین میں تمہیں طلاق بائن دیتا ہوں“ اس طرح طلاق دینے سے کون سی طلاق واقع ہوگی؟ آیا اس طرح طلاق دینے سے بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے یا اس میں تجدید نکاح سے دوبارہ زوجہ نکاح میں آسکتی ہے یا حالله کی ضرورت ہے، جو بھی مذکورہ مسئلہ کا حل ہو مدل مفصل جواب دیں؟

المستفتی: محمد شریف الدین، نورنگر، امر اوتوی (مہارا شتر)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق بائن وقسموں پر ہے: طلاق بائن صریح اور طلاق بائن کنائی اور طلاق بائن صریح دوسری طلاق بائن صریح سے ملحق ہو جاتی ہے اور طلاق بائن کنائی دوسری طلاق بائن کنائی سے ملحق نہیں ہوتی ہے۔ اور سوال نامہ میں طلاق بائن صریح ہے، نہ کہ طلاق بائن کنائی؛ اس لئے جب شوہرنے تین مرتبہ طلاق بائن دی کا الفاظ استعمال کیا ہے، تو تینوں طلاقیں واقع ہو کر کے مغاظہ ہو گئی؛ لہذا آئندہ بغیر حلال کے دونوں کے درمیان نکاح بھی درست نہ ہو گا۔ (مسنون فتاویٰ دارالعلوم ۲۰۹۶)

وعلى هذا فما وقع في حلب من الخلاف في واقعة، وهي أن رجلاً أبان امرأته، ثم طلقها ثلاثة في العدة ألحق فيه أنه يلحقها لما سمعت من أن الصريح، وإن كان بائناً يلحق البائنة ومن أن المراد بالبائنة الذي لا يلحق هو ما كان كنائة على ما يوجه الوجه. (فتح القدير، ذکریا ۴/۶، بیروت ۴/۷۴، شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات مطلب، الصريح يلحق الصريح والبائنة، کراچی ۳/۴۱، ذکریا ۴/۳۰۷) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۳/۵/۸

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۸/۸ جمادی الاولی ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۹۰۸۰)

طلاق طلاق بائن دی، ایک طلاق دو طلاق بائن دی سے طلاق

سوال [۷۶۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) کسی شخص نے اپنی بیوی سے بھگڑے کی حالت میں کہا طلاق طلاق بائن دی یا یوں کہا کہ ایک طلاق دو طلاق بائن دی، تو مذکورہ صورت میں اس عورت

پر کتنی طلاق پڑیں گی۔

(۲) کسی شخص نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ ایک طلاق بائن دی، تو اس صورت میں اس عورت پر کتنی طلاق واقع ہوں گی؟ اس سوال کے جواب میں ایک مفتی صاحب نے کہا کہ دو طلاق واقع ہوں گی۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا مفتی صاحب اپنے فتویٰ میں درستگی پر ہیں یا غلطی پر ہیں؟ مدلل جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتی: قمر الزمان قاسمی

بامسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) شوہرنے اپنی بیوی سے کہا طلاق طلاق بائن دی، تو اس صورت میں دو طلاق بائن واقع ہو گئیں؛ کیونکہ اس صورت میں اول طلاق صریح ہے اور دوسرا طلاق بائن ہے اور جب صریح بائن سے مل جاتی ہے، تو وہ بھی بائن بن جاتی ہے؛ لہذا اس صورت میں کل دو طلاق بائن ہوئیں۔

إِذَا لَحِقَ الصَّرِيحُ الْبَيِّنَ كَانَ بِأَئْنَاً۔ (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات

الصریح یلحق الصریح البائن، زکریاء / ۴۰، ۵۴، کراچی ۳/۷۰)

اگر شوہرنے اپنی بیوی سے یہ کہا ایک طلاق دو طلاق بائن دی، تو اس صورت میں تین طلاق واقع ہوں گی؛ کیونکہ یہاں ایک صریح کے ساتھ دو طلاق بائن ہیں اور طلاق صریح بائن سے ملنے کی وجہ سے بائن ہو گئی؛ لہذا اس طرح کل تین طلاق واقع ہو گئیں۔

(مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۹/۳۰۱)

إِذَا لَحِقَ الصَّرِيحُ الْبَيِّنَ كَانَ بِأَئْنَاً۔ (شامی، زکریاء / ۴۰، ۵، کراچی ۳/۷۰)

(۲) شوہرنے اپنی بیوی سے کہا ایک طلاق بائن دی، تو اس صورت میں اس عورت پر ایک طلاق بائن واقع ہو گی۔

ویقع بقولہ أنت طلاق بائن۔ (در مختار، زکریاء دیوبند ۴/۸۹،

کراچی ۳/۶۷)

اوْر مفْتَحِ صاحبِ کا یہ کہنا کہ طلاقِ بائَن سے دو طلاق واقع ہوں گی درست نہیں ہے۔
فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفاف اللہ عنہ

۲ رمضان المبارک ۱۴۲۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۵/۲۹۱)

طلاق قطعی دینا

سوال [۶۵۰۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم دو فریقین کے درمیان یہ طے پیا کہ فریق اول، فریق دوم کو طلاق قطعی دیدے اور فریق دوم اپنا کل زردیں مہر مبلغ دس ہزار روپیہ بحق فریق اول معاف کر دے؛ لہذا روبرو گواہان و پنچاہیت فریق اول نے فریق دوم کو طلاق قطعی دیدی اور فریق دوم نے اپنی رضامندی سے کل زردیں مہر دس ہزار روپیہ بحق فریق اول کی زوجیت سے آزاد ہو گئی ہے۔

نیز فریق دوم اب فریق اول سے اپنا زردیں مہر مبلغ دس ہزار روپیہ پانے کا مجاز نہیں رہا ہے، اب ہر دو فریق باہم نکاح کر کے تعلقات رکھنے پر راضی ہیں، اب شریعت میں اس سلسلہ میں کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد حنیف، ماروہ گیٹ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ اور اقرار نامہ دونوں میں جو طلاق قطعی کا لفظ ہے، اس سے آمنہ خاتون پر ایک طلاق بائَن واقع ہو گئی ہے۔

وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة، والشدة كان بائنا مثل أن يقول
أنت طالق بائَن، أو البتة. (هداية اشرفي بکڈپو دیوبند ۲/۳۶۹)

وفي البنية أنت طلاق البتة أي القطع. (بنایہ عینی، شرح هداۃ

قدیم / ۲۵۱، جدید اشرفیہ دیوبند / ۴ / ۳۴

آئندہ دوبارہ نکاح صحیح کر کے دونوں آپس میں باعصمت زندگی گزار سکتے ہیں۔
فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۲ ربیع الاول ۱۴۰۸ھ

(فتیٰ نمبر: الف/ ۲۲۲/ ۲۲)

غیر مدخل بہا کو مذاق میں طلاق باسن

سوال [۶۵۰۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عتیق مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کا نکاح ہندہ سے ہوا اور خصتی نہیں ہوئی، اسی دوران زید کے دوست بکر نے زید سے مذاق میں کہا کہ تم اس کو طلاق دیو، میں اس سے نکاح کروں گا، زید نے کہا ٹھیک ہے میں نے اس کو طلاق دیو، تو مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ایسی صورت میں طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟ جبکہ گفتگو مذاق مذاق میں ہوئی ہے اور اگر طلاق ہو گئی تورجعی ہوئی یا باسن اور زید کا ارادہ اس کو طلاق دینے کا نہیں تھا۔ اب زید بغیر نکاح کے اس کو رکھ سکتا ہے یادوبارہ نکاح کرنا لازم ہے؟

المستفتی: محمد جمال الدین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: بلا ارادہ مذاق میں دی ہوئی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا صورت مسئولہ میں زید کی بیوی ہندہ چونکہ غیر مدخل بہا ہے اور غیر مدخل بہا پر طلاق رجعی نہیں ہوتی ہے؛ اس لئے ایک طلاق باسن واقع ہو گئی؛ لہذا دوبارہ نکاح کئے بغیر ہندہ کو رکھنا زید کے لئے جائز نہ ہوگا؛ البتہ دوبارہ نکاح کے لئے حلالہ کی ضرورت نہیں۔

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث

جدهن جد، وهزلهن جد النکاح، والطلاق، والرجعة. (ترمذی شریف) (۱۱۸۴، رقم: ۲۲۵/۱)

وكذا كونه جاداً ليس بشرط فيقع طلاق الهازل بالطلاق واللاعب لماروی عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال: ثلث جدهن جد وهزلهن جد، النکاح، والطلاق، والعتاق. (بدائع الصنائع، زکریا: ۳۶۰/۱۶۰)

وطلاق الهازل وشرط الخيار واقع اتفاقاً. (الفتاوى الشاتار خانية

(۳۹۶، رقم: ۶۵۱۳، هندية، مکتبہ کوئٹہ ۱/۳۵۳)

وأفاد الرحمتی أنه بائن أيضاً؛ لأن طلاق قبل الدخول غير موجب للعدة؛ لأن العدة إنما وجبت لجعلنا الخلوة كالوطء احتیاطاً، فإن الظاهر وجود الوطء في الخلوة الصحيحة؛ ولأن البرجة حق الزوج وإقراره بأنه طلق قبل الوطء ينفذ عليه فيقع بائناً.

(شامی، زکریا: ۲۵۶، کراچی ۳/۱۱۹)

فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفان الدین
۱۴۳۵ھ رجب المرجب
(فتویٰ نمبر: الف-۹۱۱/۲)

ایک طلاق بائن میں بغیر حلالہ جواز نکاح

سوال [۲۵۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک طلاق بائن یادو طلاق بائن کی صورت میں عدت کے اندر یا عدت کے بعد بغیر حلالہ کے صرف نکاح کرنا جائز ہے اور اس سلسلہ میں کتب فقہ میں جزئیات بھی موجود ہیں، مگر مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا اس مضمون کی کوئی حدیث بھی ہے؟ اگر ہوتومعحوالہ تحریر فرمائیں۔

المستفتی: محمد جمیل، آگرہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ایک طلاق بائن دو طلاق بائن کی صورت میں بغیر حلالہ کے نکاح کرنا حدیث شریف سے ثابت ہے اور اس مضمون کی حدیث درج ذیل کتب حدیث میں موجود ہے۔

حدثی معلق بن یسار انہا نزلت فیه، قال: زوجت أختالي من رجل، وطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك، وفرشتک، وأكرمتک، فطلقتها، ثم جئت تخطبها! لا والله لاتعود إليك أبداً، وكان رجلاً لا يأس به، وكانت المرأة ت يريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن، فقلت الأن أفعل يا رسول الله! قال فزوجها إياه.

(بخاری شریف ۲/۷۷۰، رقم: ۴۹۳۷، تمذی شریف ۲/۱۲۷، رقم: ۳۶۱۵)

سئل جابر بن زید عن رجل لزمته امرأته تسأله الطلاق، فقال: إذهب بي فأنا منك بريء، وأنت مني بريئة، ولا ينوي الطلاق حينئذ؟ فقال: إن لم يكن نوى الطلاق فليس بطلاق، وإن كان نوى الطلاق فهي واحدة، وله أن يرجعها في عدتها. (مصنف ابن أبي شيبة جدید ۱۸۴۷۰، رقم: ۵۹۸/۹)

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان الدین عنہ

۱۳/ جمای الشانیہ ۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۰/۱۵۲۵)

خرصتی سے قبل طلاق و مهر کا حکم

سوال [۶۵۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ زید کی شادی ہندہ سے ماہ اپریل ۲۰۱۳ء میں ہوئی، ہندہ دو تین مرتبہ آنے کے بعد مئی ۲۰۱۳ء سے بار بار بلانے پر بھی نہیں آ رہی ہے، ہندہ اور اس کے گھروالے مسلسل طلاق کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہندہ اور زید کا نکاح مہر فاطمی کے ساتھ ہوا تھا، جس کی رقم زید نے نکاح کے وقت ہی نقداً کر دی تھی۔

- (۱) اس صورت میں اس طلاق کو شریعت میں کیا کہیں گے؟
- (۲) زید نے جو رقم نکاح کے وقت مہر کے طور پر ادا کی اس کا کیا ہوگا؟ اگر مہر کے رو پرے واپس کئے جائیں گے، تو مہر فاطمی کی رقم طلاق والے دن کی واپس ہوگی یا نکاح کے دن کی؟
- (۳) مہر فاطمی میں چاندی کی لکنی مقدار گرا مول میں ہے؟
- (۴) اس صورت میں کون گنہگار ہوگا؟

(۵) طلاق سے پہلے زید و ہندہ کی آپس میں بات چیت کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟

المستفتی: فرمان خان، کندرکی، مراد آباد

بسم اللہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) جب طلاق ہی نہیں دی تو شریعت میں اس کو کیا کہا جائے گا؛ البتہ طلاق کے مطالبہ پر زید اگر مہر کی واپسی کی شرط پر طلاق دے گا، تو جتنا مہر میں پیسہ دیا تھا اتنا ہی پیسہ واپس ملے گا اور ایسی صورت میں اگر ایک طلاق دے گا، تو وہ طلاق باَن واقع ہوگی۔

وبالطلاق الصريح على مال طلاق بائن. (مجمع الأئمہ بیروت ۲/۳۱)

(۲) زید نے جو رقم نکاح کے وقت بطور مہر ادا کی وہ ہندہ کی ملکیت میں چلی گئی، اگر ہندہ کے مطالبہ پر طلاق کے وقت زید واپسی مہر کی شرط لگاتا ہے، تو مہر میں اتنے ہی پیسوں کی واپسی ہوگی جتنے بوقت نکاح دیئے تھے۔

إن استقرض دائق فلوس، ثم رخصت أو غلت لم يكن عليه إلا مثل

عدد الذي أخذه. (شامي، فصل في القرض، زكرياء ديواند ۷/۳۹۰، کراچی ۵/۶۲)

(۳) مہر فاطمی کی مقدار ڈبھ کلو تیس گرام نو سو ملی گرام چاندی ہے، اس کی قیمت ادائے گی کے دن بازار سے معلوم کی جائے۔ (مستفاد: انوار بنت ۲۵۶، ایضاح الطحاوی ۱۹۳/۳، ایضاح المسائل ۱۳۰)

(۴) مسؤولہ صورت میں چونکہ بلا کسی عذر کے بیوی کی طرف سے مطالبہ طلاق ہے؛ اس لئے بیوی گنہگار ہوگی۔

عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيمما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة . (ترمذی شریف ۱/۲۲۶، رقم: ۱۱۸۷)

(۵) طلاق سے پہلے زید و ہندہ آپس میں میاں بیوی ہیں دونوں بلا تکلف بات چیت کر سکتے ہیں اور ساتھ میں رات گزار سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں۔

النكاح هو عقد يفيد ملك المتعة وتحته في الشامية: وهو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعاً، أو ملك الذات والنفس في حق التمتع. (شامي، کراچی ۳/۲، زکریاء ۵۹) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

الجواب صحیح:
كتبه: شیبیر احمد قاسمی عفان الدین عن
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله
۱۴۳۲ھ / ۱۱۳۲ء / ۱۴۳۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۷۵، ۳۰/۱۲)

رخصتی سے قبل طلاق دی، طلاق دی کہنے کا حکم

سوال [۶۵۱۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک بڑ کے کے بڑ کی سے تعلقات تھے، پھر بڑ کے نے دوسری جگہ جا کر بڑ کی اور اس کے والد کی موجودگی میں نکاح کر لیا، نکاح کی اطلاع جب بڑ کے کے گھر والوں کو ہوئی، تو انہوں نے آپس میں بہت زیادہ جھگڑے کئے اور بڑ کے کو طلاق دینے پر مجبور کر دیا،

تو لڑکے نے کہا کہ اس لڑکی کو طلاق دی، گھر والوں نے کہا اور دو، تو پھر کہا اس لڑکی کو طلاق دی، پھر اصرار کیا تو اس نے کہا کہ اس لڑکی کو طلاق دی، تو شرعاً کون سی طلاق ہوئی؟ واضح رہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی میں خلوت نہ ہو سکی اور نہ خصتی ہوئی نکاح کے بعد لڑکی اپنے والد کے ساتھ چلی گئی تھی اور مہر پچاس ہزار روپیہ مقرر ہوا تھا، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا اب اس لڑکی کو دوبارہ رکھ سکتے ہیں اور اگر رکھ سکتے ہیں تو کیا شکل ہوگی اور مہر کے کتنے روپے ادا کئے جائیں؟ شرعی حکم سے مطلع فرمائیں۔

المستفتی: محمد صادق

باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب خصتی اور ملاقات سے پہلے طلاق دی جاتی ہے، تو ایک دفعہ شوہر کی زبان سے طلاق کا جملہ نکلتے ہی بیوی شوہر کے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، پھر محل طلاق باقی نہیں رہتی اور نہ ہی بیوی پر عدت گذار نالازم ہے؛ اس لئے جب پہلی مرتبہ اس نے طلاق دی، تو فوراً ایک طلاق باس ہو کروہ نکاح سے خارج ہو گئی اور محل طلاق بھی باقی نہیں رہا، اس کے بعد دوسرا اور تیسرا مرتبہ یکے بعد دیگرے مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو طلاق دی گئی ہیں، وہ شرعی طور پر واقع نہیں ہو سکیں؛ اس لئے مذکورہ صورت میں صرف ایک طلاق باس واقع ہوئی، طلاق مغلظہ واقع نہیں ہوئی، ہاں اگر ایک جملہ میں تین طلاق کا استعمال کیا ہوتا، تو تین طلاق واقع ہو جاتیں، یہاں ایسا نہیں ہوا؛ اس لئے مذکورہ لڑکی سے بغیر حالہ کے دوبارہ نکاح کی گنجائش باقی ہے اور مہر آپس کی رضامندی سے جو طے ہو جائے وہی مقرر کیا جا سکتا ہے۔

قال لزوجته غير المدخل بھا: أنت طالق ثلاثة وقعن وإن فرق بوصف، أو خبر، أو جمل بعطف، أو غيره بانت بالأولى لا إلى عدة، ولم تقع الثانية. (الدر المختار، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخل بھا، كراجي ۲۸۴/۳، ذکریا ۴/۹۰۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعی احمد قاسمی عفان الدین عنہ
۲۳ مرشوّال المکرّم ۱۴۲۴ھ
(فتاویٰ نمبر: الف ۳۲، بیان ۸۱۵)

طلاق دے کر زوجیت سے الگ کرتا ہوں

سوال [۶۵۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ رحمت جہاں بنت الطاف حسین محلہ: پیرزادہ تالاب والی مسجد، کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی، مہر پچاس ہزار روپیہ تھا، شادی کے بعد ہی سے مزاج نہ ملنے کی وجہ سے جھگڑا ابر ہوتا رہا، میں اس کو سمجھا تاہم، ایک دن میکہ جانے لگی اور کہنے لگی مجھے طلاق دوورنا تم سب پر جیز کا مقدمہ قائم کر دوں گی، جب میں سرال گیا تو مجھ سے بد کلامی کی واپس گھر آگیا اور یہ سب ماجرا گھر والوں کے سامنے رکھا، پھر مجبوراً میں نے دو گواہوں کی موجودگی میں طلاق نامہ لکھ کر بذیعہ رجسٹری لٹری والوں کے گھر بھیج دیا، وہ طلاق نامہ انہوں نے وصول کر لیا اور میرے خلاف مہبیلا تھا نہ میں چار آدمیوں کی روپرٹ کر دی، میں اور میرے گھر والے پر بیشان رہے، میں مہر اور عدت کا خرچ دینے کو تیار ہوں اور طلاق نامہ میں صرف یہ لکھا ہے کہ ”طلاق دے کر زوجیت سے علیحدہ کر دیا“، اور پھر لوگوں سے شوہرنے تذکرہ کیا کہ میں نے بیوی کو طلاق نامہ پھیج دیا ہے، تو شرعاً کون سی طلاق واقع ہوئی؟

المستفتی: محمد جمال

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق دے کر زوجیت سے علیحدہ کرتا ہوں، یہ الفاظ عربی عبارت انت طلاق بائی کے مراد ف ہے اور اس سے ایک طلاق صریح بائی واقع ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ الفاظ کہ ”میری جانب سے آزاد ہے“ اس سے دوسری طلاق صریح واقع ہو گئی؛ لہذا طلاق نامہ کی عبارت کے مجموعہ سے دو طلاق بائی واقع

ہوئی ہیں۔ اب اگر دونوں ساتھ رہنے کے لئے تیار ہو جائیں تو تجدید نکاح لازم ہوگا اور اس نکاح کے لئے حلالہ کی ضرورت نہیں اور طلاق نامہ کے لکھنے کے بعد شوہرنے لوگوں سے یہ جوبات کہی ہے کہ میں نے طلاق نامہ بھجوادیا ہے، اس سے کوئی طلاق نہیں ہوگی؛ اس لئے کہ یہ محض طلاق نامہ کی خبر ہے۔

ویقع بقوله أنت طالق بائن، أو البتة، أو أفحش الطلاق إلى ما قال واحدة
بائنہ فی الكل إن لم ينزو ثلاثة۔ (در مختار مع شامي، کراچی ۳/۲۷۶، زکریاء ۴/۴۹۸)
من ألفاظ الصريح الواقع بها البائن مثل أنت طالق بائن أو البتة.

(شامي، کراچی ۳/۷۰، زکریاء ۴/۵۴)

ولو قال لأمرأته أنت طالق، فقال: له رجل ما قلت؟ فقال: طلقتها،
أو قال قلت هي طالق فهي واحدة في القضاء؛ لأن كلامه انصرف إلى
الإخبار بقرينة الاستخار. (بدائع الصنائع، زکریاء ۳/۶۳) فنظروا اللہ سبحانہ وتعالیٰ علّم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۳ھ/۲۷

كتبه: شبير احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۲۷/ جمادی الثانیہ ۱۴۲۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۷/۱۸۱)

خرستی سے قبل طلاق طلاق کرنے سے کتنی طلاق ہوئی

سوال [۶۵۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری شادی ایک سال قبل ہوئی تھی، پھر ہم نے اپنی بیوی زینت بیگم کو تین طلاق دیدی تھیں اور الفاظ یہ ادا کئے تھے کہ جب لڑکی کے والدین نے طلاق کا مطالبہ کیا، تو میں نے طلاق طلاق تین دفعہ کہد یا تھار خستی نہیں ہوئی تھی۔ اب دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: محمد نید شیدی سرائے، مراد آباد

با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: چونکہ رخصتی سے پہلے طلاق کا واقعہ پیش آیا ہے، تو ایسی صورت میں متعدد لفظوں کے ساتھ جو طلاق دیجاتی ہے، ان میں سے صرف پہلے لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، اس لفظ کے بولتے ہی بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے اور عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، اس کے بعد بقیہ الفاظ جو کہے جاتے ہیں، وہ نکاح سے خارج ہو جانے کے بعد زبان سے نکلتے ہیں؛ لہذا ان سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں بھی صرف پہلے لفظ سے ایک طلاق بائن واقع ہو گئی ہے؛ اس لئے بغیر کسی حلالہ کے دونوں کے درمیان دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔

وإن فرق بوصف، أو خبر، أو جمل بعطف، أو غيره بانت بالأولي لا إلى عدة. (در مختار مع الشامي، كتاب الطلاق، قبل مطلب الطلاق يقع بعدد قرن به لا به، كراچي ۲۸۶/۳، زکریا ۵۱۲، احسن الفتاوى ۱۲۹/۵، هندية قدیم ۳۷۳/۱، جدید زکریا ۴۰/۴) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

كتبه: شیعیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ
۱۳۱۹ھ / ۲۳ ربادی الاولی
(فتویٰ نمبر: الف ۳۳/۵۷۶)

غیر مدخول بہا کو الگ الگ تین طلاق اور حالت حیض میں خلوت کا حکم

سوال [۶۵۱۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی کی کسی لڑکے سے شادی ہو جاتی ہے اور وہ جب والدین سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے اور جب اس کا شوہر اس سے پہلی رات میں رجوع ہونا چاہتا ہے، تو لڑکی اپنی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کرتی ہے، اور اس کو رجوع ہونے سے روک دیتی ہے کہ میں اس وقت حیض سے ہوں (یعنی مجھ کو حیض آ رہا ہے) لڑکا اس کے اصر اپر مان جاتا ہے اور لڑکی حق زوجیت ادا نہ کر سکی، دوسرا دن ہی لڑکی اپنے میکے چل گئی، پھر

دوبارہ اپنے شوہر کے گھر جانے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی، لڑکے والدین نے لڑکی کو بہت کچھ سمجھایا، مگر اس نے انکار ہی کیا اور طلاق لینے کی مانگ کی، لڑکے والدین نے لڑکے سے طلاق دلوائی، یہ طلاق اہل پنج حضرات کے اصرار پر دی گئی، لڑکا طلاق دینے پر راضی نہ تھا، مگر لڑکے نے تین مرتبہ لفظ طلاق ادا کیا۔

(۱) کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ حق زوجیت ادا نہ ہونے پر بھی طلاق ہو سکتی ہے؟

(۲) اگر طلاق ہو سکتی ہے تو کیا ایسی حالت میں بھی لڑکی مہر کی حق دار ہے؟

(۳) اور یہ کہ لڑکی وعدت گذرنا ضروری ہے؟

(۴) لڑکی دوبارہ اپنے شوہر کے گھر آنا چاہتی ہے، جس کو طلاق ہوئے ایک ماہ دس یوم کا عرصہ گذر چکا ہے؟

(۵) کیا نکاح ثانی کی گنجائش ہے؟ یا وہ لڑکی اپنے شوہر کے نکاح سے خارج ہو گئی ہے؟

(۶) یا وہی نکاح کافی ہے؟

المسنون: محمد بنی

جواب منجانب: جامعہ حیات العلوم مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) اگر واقعیت لڑکی کو جرض آرہا تھا، تو مانع وطنی پا پایا گیا اور مانع وطنی پائے جانے کی صورت میں خلوت صحیح نہیں ہوئی؛ لہذا اگر شوہرنے اپنی غیر مدخولہ کو الگ الگ تین مرتبہ طلاقیں دیں، تو اس کی بیوی کو ایک طلاق باستہ واقع ہو گئی۔

(۲) طلاق باستہ غیر مدخولہ بیوی کو دینے سے نصف مهر دینا ہو گا۔

(۳) چونکہ قبل اخلوٰۃ طلاق واقع ہوئی ہے؛ لہذا ایسی صورت میں عدت ضروری نہیں ہے۔

(۴) جی ہاں اپنے شوہر کے گھر نکاح جدید کے ساتھ جاسکتی ہے۔

(۵) نکاح ثانی کیا جا سکتا ہے بغیر نکاح شوہر اول کے پاس نہیں جا سکتی۔

(۶) پہلا نکاح کافی نہیں ہے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ فقط والد بس جان و تعالیٰ علم

تصدیق منجانب: مفتی شیر صاحب مفتی جامعہ قاسمہ مدرسہ شاہی مراد آباد

خلوت فاسدہ کے بعد طلاق واقع ہونے سے عدت لازم ہوتی ہے۔

وتحجب العدة في الكل أي كل أنواع الخلوة ولو فاسدة الخ.

(در مختار، کتاب النکاح، باب المهر، ذکریا دیوبند ۴/۲۶۱)

تصدريقة: شبير احمد قاسمي عفاف اللہ عنہ

۱۳۱۴ھ الحرام محرم

مستقل جواب مجاہب: دارالافتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب وبالله التوفيق: (٣٢١) لڑکی اگر حالت حیض میں تھی اور حیض کا عذر بیان کر کے شوہر کو مقاربہ پر قابو نہ ہونے دیا تو شرعاً خلوت صحیح ثابت نہیں ہوئی ہے، اب اگر اس حالت میں الگ جملوں سے ۳ مرتبہ طلاق دی ہے، تو صرف ایک طلاق باقی واقع ہو چکی ہے اور لڑکی کے لئے نصف مہر شوہر پر لازم ہو چکا ہے اور لڑکی پر عدت گذارنا لازم ہو گا۔
او کانت حائضا فليست الخلوة صحیحة حتی لو طلقها، كان لها

نصف المهر؛ لأن هذه الأشياء مواعظ الخ (هداية، اشرفي بكڈپو دیوبند ٢/٣٢٦) وتجب العدة في الكل أي كل أنواع الخلوة ولو فاسدة الخ.

(در مختار، کتاب النکاح، باب المهر، زکریا دیوبند ۴/۲۶۱، کراچی ۳/۱۲۲)

اس حالت میں اگر اسی شوہر کے پاس دوبارہ رہنے کا ارادہ ہے، تو عدت کے اندر یا عدت کے بعد شرعی طور پر دوبارہ نکاح جدید کر کے رہ سکتی ہے، بغیر نکاح کے جائز نہیں ہو گا۔

وإذا كان الطلاق بائناً دون الشّلث فله أن يتزوجها في العدة، وبعد

انقضائہا الخ. (هدایۃ، اشرفی بکلپو دیوبند ۲/۳۹۹) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم

کتبہ: شمیر احمد قادری عفان الدین عنہ

۷ ارخرام الحرام ۱۴۳۳ھ

(نوتی نمبر: الف ۲۶۰۱/۲۶)

غیر مدخولہ کو متفرق طلاق، پھر اس سے نکاح کی کیا صورت ہے؟

سوال [۲۵۱۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی شادی ہندہ کے ساتھ ہوئی بحالت بچپن۔ اب زید بالغ ہو گیا اور ہندہ ابھی تک نابالغ ہی ہے اور زید نے اس ہندہ کو تین طلاق متفرقہ دیکر چھوڑ دیا اور اس کے بعد دوسری جگہ شادی کر لی، پھر زوجہ ثانی کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، اب زید یہ چاہتا ہے کہ میں زوجہ اول سے شادی کروں، تو شریعت محمدی کے مطابق کیا صورت ہو گی؟ تحریر فرمائشکر یہ کا موقع دیں۔

المستفتی: عبدالخالق، مراد آباد

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر سابقہ بیوی کو متفرق طریقے سے تین طلاق دی ہیں اور اس سے ہمستری نہیں ہوئی ہے یا وقت طلاق وہ نابالغ تھی، تو متفرق طلاقوں میں سے صرف اول طلاق واقع ہو چکی ہے اور باقی دو طلاق لغو ہو گئی ہیں؛ لہذا اب اگر دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو بلا حلالة نکاح کرنا جائز ہو گا۔

فإن فرق الطلاق (بغير الدخول بها) بانت بالأولى ولم تقع الثانية، والثالثة، وذلك مثل أن يقول أنت طلاق، طلاق، طلاق؛ لأن كل واحد إيقاع على حدة.
 (هدایۃ اشرفی بکلپو دیوبند ۲/۳۷۱، هکذا فی الہندیۃ، کتاب الطلاق، الفصل الرابع فی الطلاق قبل الدخول، زکریا قدیم ۱/۳۷۳، جدید ۱/۰۴۴) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان الدین عنہ
۲۰ رمضان المبارک ۱۴۳۱ھ
(فتاویٰ نمبر: الف ۲۷، ۲۳۹۷)

طلاق بائنة کی ایک صورت

سوال [۶۵۱۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کوئی طلاق واقع ہوئی، طلاق بائنة یا طلاق مغلظہ؟ باتفصیل وبالدلیل بیان فرمائیں۔

بیان مطلق شمار احمد اپنی ماں کے یہاں چلی جا تجھے رکھوں گا نہیں غصہ کی حالت میں ایک مرتبہ، بیان مطلقہ ہاجرہ شوہر نے کہا تو اپنی ماں کے یہاں چلی جا تجھے رکھنا نہیں۔ بیان گواہ میکونہ زوجہ مختار احمد جو موقع پر موجود تھی انہوں نے سنا کہ مطلق نے دو طلاق دی، بیوی نے کہا کہ اچھا مجھے تین مرتبہ کہدو، اس پر شوہر نے کہا کہ کتنی مرتبہ کہلا وگی؟ تو اپنی ماں کے یہاں چلی جائیں نے تجھے آزاد کر دیا یہ تیسری اجملہ تھا۔

بیان گواہ ثانی قاری نسیم احمد صاحب حاضرین خواتین نے انہیں بلوایا، ان کے معلوم کرنے پر شمار احمد نے کچھ جواب نہیں دیا، ڈاکٹرنی سروی کے معلوم کرنے پر شمار احمد نے کہا اب کیا کرنا، شمار احمد نے کہا کہ میں نے ہاجرہ کو آزاد کر دیا، یہ اپنی ماں کے یہاں چلی جائے اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا، ہاجرہ مطلقہ نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے، تو قاری نسیم احمد نے جواب دیا کہ مفتی صاحب کو آنے دوان سے معلوم کریں گے، تو شمار احمد نے کہا کہ اس میں مفتی صاحب کیا کریں گے؟ مجھے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔

بیان والد مطلق نسیم احمد برادر کلو اوقاری نسیم احمد صاحب کہتے ہیں، ہم نے شمار احمد سے پوچھا کہ تم نے جو اپنی زوجہ کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، اس پر شمار احمد نے جواب دیا کہ وہ بات صحیح ہے، میں نے معاملہ کو آر پار کر دیا، ہم میں سے نسیم احمد نے دوبارہ

معلوم کیا کہ دل سے کیا ہے یا ویسے ہی؟ تو شمار احمد نے کہا کہ دل سے کیا ہے۔

نـوـث: بیانات مذکورہ بالاتمام حضرات سے جمع عام کے سامنے لکھے گئے ہیں اور گواہوں کے بیان کے وقت مطلق و مطلقہ بالکل خاموش رہے۔

المستحبۃ: میمونہ خاتون، سرودی خاتون بڑھاپور، بجور

با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) شوہر کے قول میں استقبال ہے؛ اس لئے صرف وعدہ ثابت ہو سکتا ہے۔

کما فی الشامی: لو ذکرت بلفظ المضارع سواء ذکرت أنا أو لا، ففي القياس لا يقع لأنه وعد. (شامی، کتاب الطلاق، باب تفویض الطلاق، زکر یا ۵۵۸/۴، کراچی ۳۱۹/۳، ۶۵۷/۲)

وفي المحيط: لو قال بالعربية أطلق لا يكون طلاقاً الخ. (الفتاوى الهندية، زکر یا قدیم ۱/۳۷۴، زکر یا جدید ۱/۴۵۲)

(۲) بیوی کا قول یہ شہادت نہیں؛ اس لئے وہ بھی معترض نہیں ہے۔

(۳) تنہا میمونہ کے بیان سے شرعی ثبوت نہیں ہو سکتا۔

(۴) قاری نسیم کے بیان میں جو آزاد کر دیا کا لفظ ہے، شوہر کا قول اس کی تکذیب کر رہا ہے؛ اس لئے دو عادل مرد اور دو عورت کی شہادت ضروری ہے وہ یہاں مفقود ہے۔

(۵) کلو، قاری نسیم احمد، تسلیم احمد یہ تینوں حضرات شرعاً مقبول الشہادت ہونے کی شرط پر ان کی شہادت شوہر کے اقرار (میں نے معاملہ کو آر پار کر دیا) کے بارے میں معتبر ہے گی، اب اگر شوہر نے آر پار کر دیا سے طلاق کی نیت کی تھی، تو اس سے بیوی پر ایک طلاق باَن واقع ہو گئی ہے۔ (مستقاد: فتاویٰ دارالعلوم ۹/۲۳۳، ۹/۲۳۷)

کما فی الشامی: (قولہ) کتبہ من البت بمعنى القطع فيحتمل ما احتمله البائن الخ (شامی، کتاب الطلاق، باب تفویض الطلاق، زکر یا ۴/۵۵۸، کراچی ۳۱۹/۳)

اب بغیر نکاح کے بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے اور اگر میمونہ کے بیان کے مطابق بیوی کو واقعہ کا علم ہے، تو بیوی کو چاہئے کہ کسی طرح خلع وغیرہ کے ذریعہ شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے، عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ شوہر کو قابو دے۔

کما فی الشامی: والمرأة كالقاضي إذا سمعته، أو أخبارها عدل لا يحل لها تمكينه، والفتوى على أنه ليس لها قتلها، ولا تقتل نفسها؛ بل تفدي نفسها بمال، أو تهرب. (شامی مع الدر، کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریا ۴۶۳، کراچی ۲۵۱/۳)

کتبہ: شبیر احمد قادری عفنا اللہ عنہ
۲۷ رمضان المبارک ۱۴۳۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۵۵/۲۳)



(۱۶) باب الطلاق بالكتابة

تحریری طلاق کے شرائط

سوال [۶۵۱۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص کی بیوی سے کوئی نازیبا حرکت یا ایسا فعل سرزد ہو گیا کہ اس شخص نے اپنادماغی توازن کھو دیا، اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے عزیز واقارب نے باقاعدہ اس پر نظر کھی اور اس کو خود کشی یا کوئی بھی غلط قدم اٹھانے نہیں دیا ۲۳ دن کے بعد اس کو سمجھایا کہ صرف اپنی بیوی کی طرف نہیں؛ بلکہ اپنے چاربچوں کی طرف دیکھو، تم رو گے تو بچے یتیم ہو جائیں گے اور بیوی کے ساتھ کوئی غلط قدم اٹھایا تو بچے بغیر ماں کے ہو جائیں گے۔

اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کیا کرنا ہے؟ اس کی تسلی کے لئے دو آدمی طلاق نامہ ٹائپ کرو کے لے آئے اور اس سے کہا کہ ہم تمہاری اور تمہارے خاندان کی بہتری چاہتے ہیں، یہ طلاق نامہ تیار ہے کچھ گہرائی سے سوچ لو، اس کے بعد دینی اعتبار سے اس طلاق نامہ کا صحیح استعمال کریں گے، وہ شخص راضی ہو گیا اور اس نے طلاق نامہ پر دستخط نہیں کئے، دو روز کے بعد اس کا سگا بھائی آیا، وہ غصہ سے اس کو بھی لے گیا اور طلاق نامہ کے کاغذات بھی ساتھ لے گیا، پھر اپنے گھر جا کر طلاق نامہ پر اس کے دستخط کروا لئے، دو گواہوں کے دستخط کروائے اور بذریعہِ رجسٹری اس کی بیوی کو بھیج دیا، یہ شخص فوراً اپنے ان عزیز واقارب کے پاس آیا اور یہ بات بتائی کہ مجھ سے طلاق نامہ پر دستخط لے لئے ہیں، غور طلب بات یہ ہے کہ:

(۱) جب اس سے پوچھا کہ طلاق نامہ میں کیا لکھا تھا؟ تم کو پڑھ کر سنایا، تو اس نے جواب دیا کہ مجھے پڑھ کر نہیں سنایا۔

(۲) کیا طلاق نامہ پر دستخط کروانے سے پہلے ایک بار دو بار یا تین بار تم سے یہ بلوایا گیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ایک بار بھی نہیں بولا اور نہ ہی مجھ سے بلوایا گیا۔ مندرجہ بالا عبارت حلفیہ بیان ہے۔

آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان حالات میں از روئے شرع طلاق ہوئی یا نہیں؟ مذکورہ شخص صرف دستخط کرنے کا ذمہ دار ہے نہ تو طلاق نامہ اسے پڑھ کر سنایا گیا اور نہ ہی زبان سے اس نے بولا ہے۔

المستفتی: حاجی شفیع احمد، ناظم اعلیٰ ضلع مسلم کمیٹی کھرگون (مدھیہ پردیش)

با سمہ سجنانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ سے واضح ہوتا ہے کہ جو طلاق نامہ لکھا گیا ہے، وہ نہ زید نے خود لکھا ہے اور نہ ہی خود لکھوا یا؛ بلکہ تیار ہونے کے بعد اس نے اس پر دستخط کرنے سے منع کر دیا، پھر بعد میں اس کے بھائیوں نے دباؤ ڈال کر اس سے دستخط کروالیا ہے، نہ اس نے زبانی طلاق کا کوئی لفظ استعمال کیا اور نہ ہی اس کو پڑھ کر سنایا گیا،

ایسی صورت میں تحریری طلاق واقع نہیں ہوئی، تحریری طلاق کے واقع ہونے کے لئے یہ لازم ہے کہ یا تو اس نے خود کھوایا ہو یا خود لکھا ہو یا لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر بخوبی دستخط کر دیا ہو یا کسی دوسرے نے اس کو سناد دیا ہو، پھر بخوبی دستخط کر دیا ہو، ایسی کوئی بات مذکورہ واقعہ میں ثابت نہیں ہے؛ اس لئے مذکورہ طلاق نامہ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔

وکذا کل کتاب لم یکتبه بخطه ولم یمله بنفسه لا یقع الطلاق
مالم یقر أنه کتابه۔ (شامی، کتاب الطلاق، قبیل باب الصریح، کراچی ۳/۲۴۷، زکریا /۴۵۶، الفتاویٰ الساتار خانیۃ، زکریا /۴/۵۳۱، رقم: ۶۸۴۳، هندیۃ، زکریا قدیم ۱/۳۷۹) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ علام

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۲۹/۷/۵

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۵ مرجب المربج ۱۴۲۹ھ
(فتوى نمبر: الف ر)

تحریری طلاق نامہ میں شوہر کا اقرار معتبر ہے یا تحریر؟

سوال [۶۵۱۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ جناب غلام دشمنگیر نے اپنی بیوی منور سلطانہ کو چند سال قبل ایک طلاق رجعی دی تھی، مگر ثابت کرنے والے نے تین لکھ دی تھی، اس سلسلے میں تاج المساجد بھوپال کے دارالافتاء سے فتویٰ بھی لایا گیا؛ چونکہ غلام دشمنگیر صاحب نے دارالقضاء میں پیش کیا، دارالقضاء نے فتوے پر اور غلام دشمنگیر صاحب کی اصل اور پہلی تحریر پر غور کیا، جس سے یہی ثابت ہوا کہ ایک ہی طلاق واقع ہوئی؛ لیکن چونکہ عدت کی مدت گذر گئی؛ لہذا طلاق رجعی طلاق بائن ہو کر نکاح ٹوٹ گیا۔

غلام دشمنگیر اور منور سلطانہ بخوبی دوبارہ اپنی زندگی گزارنا چاہیں، تو نکاح جدید کر کے گزارنے کی از روئے شرع اجازت ہے؟ اس سلسلے میں غلام دشمنگیر کا حلفیہ بیان بھی لیا گیا،

جودار القضاۓ میں محفوظ ہے۔

المستفتی: محمد سیمٹانڈوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مرسلہ چاروں کاغذات شروع سے آخر تک اچھی طرح سے پڑھا اور دیکھا، سوال نامہ میں بھوپال کے دارالافتاء کا فیصلہ جو لکھا گیا ہے، اس کے بارے میں دوسرا کاغذ بطور سوال نامہ کے جو پیش کیا گیا اور اس میں دارالافتاء اور دارالقضاۓ کے فیصلہ میں شبہ کا اظہار کیا گیا ہے، احقر نے بھی شوہر کے پہلے کاغذ اور پھر اسی کا ٹائپ جو کہ چوتھا کاغذ ہے، اس پر بھی غور کیا اور سوال نامہ میں اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ شوہر پہلے کاغذ کا اقرار کرتا ہے، جو ہندی میں ساتھ سے لکھا گیا ہے اور دوسرا کاغذ جس میں پہلے کاغذ کا ٹائپ ہے، اس میں جو تین طلاق کی صراحة کی گئی ہے، اس کا انکار کر کر ہا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ شوہر کے اقرار یا انکار کا اعتبار ہوتا ہے اور شوہر مذکورہ واقعہ میں پہلی تحریر کا اقرار کرتا ہے اور دوسری تحریر میں تین طلاق کے الفاظ کے اضافہ کا انکار کرتا ہے اور ٹائپ کرنے والوں نے وکیلوں کے دستور کے مطابق شوہر کی اجازت اور اس کی تحریر کے خلاف اپنی طرف سے تین طلاق کی صراحة کے ساتھ ٹائپ کر دیا اور شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ نہ میں نے اپنی تحریر میں تین طلاق کی صراحة کی اور نہ ہی ٹائپ کرنے والوں کو تین طلاق کی اجازت دی۔ اور صاف الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ٹائپ کرنے والوں کو اپنی تحریر کے ٹائپ کی اجازت دی ہے اور اسی خیال میں دستخط کر دیا تھا کہ جیسی میری تحریر ہے ویسی ہی ٹائپ ہے؛ اس لئے پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بغیر پڑھنے دستخط کر دیئے اور خیال میں یہ رہا کہ یہ اسی تحریر کا ٹائپ ہے، جو میں نے خود دی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کے قول کا اعتبار ہو گا اور اس کے قول کا اعتبار کر کے ایک ہی طلاق کا حکم صادر ہو گا؛ لہذا بھوپال کے دارالافتاء اور دارالقضاۓ سے جو فیصلہ اور فتویٰ صادر ہوا ہے،

وہ شریعت کی روشنی میں صحیح اور درست ہے۔

وکذا کل کتاب لم یکتبہ بخطہ ولم یملہ بنفسہ لا یقع الطلاق مالم
یقر أنه کتابہ۔ (شامی، کتاب الطلاق، قبیل باب الصریح، کراچی ۳/۴۷۲،
زکریاء/۴۵۶، الفتاویٰ التاتارخانیة، زکریاء/۵۳۱، رقم: ۴۳، هندیہ، زکریاء قدیم
۳۷۹/۱، جدید ۴۶/۴) **فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم**

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ
۱۴۲۵ھ رجب المجب / ۱۳۲۵ھ / ۲۶

(فتوى نمبر: الف ۳۷ / ۸۲۹)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۵ھ / ۲۶

شوہر سے زبانی و تحریری جبراً طلاق لینے میں فرق کی وجہ

سوال [۶۵۲۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ زبردستی اگر شوہر سے زبانی طلاق کھلوالی جائے، تو سنا ہے کہ اس سے
طلاق ہو جاتی ہے؛ لیکن اگر زبردستی صرف تحریر لی جائے، یا کسی سے طلاق نامہ لکھوا کر
جیسا کہ عدالت کے فیصلہ نامہ پر دستخط کرالئے جائیں تو طلاق نہیں ہوتی، اس کی شرعاً کیا وجہ
ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل تحریر فرمائیں۔

المستفتی: محمد نعیم، حاج پور

با سمہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: زبردستی شوہر سے زبانی طلاق کھلوالی جائے،
تو طلاق واقع ہو جائے گی؛ لیکن زبردستی صرف تحریری طلاق لی جائے یا کسی سے طلاق نامہ
لکھوا کر شوہر سے دستخط کرالیے جائیں، تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ
کتابت خطاب اور قول کے درجہ میں بوقت ضرورت ہوتی ہے، مثلاً شوہر گونگا ہے؛ لیکن لکھنے
پر قادر ہے یا شوہر دوسری جگہ رہتا ہے اور وہاں سے طلاق لکھ کر نجیح دے اور جبراً تحریر لینے کی

صورت میں اس طرح کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے؛ بلکہ شوہر زبانی طلاق دینے پر قادر ہے؛ لیکن طلاق کے الفاظ نہیں کہتا ہے؛ لہذا اس صورت میں حاجت اور ضرورت نہ ہونے کی بناء پر کتابت خطاب کے درجہ میں نہیں ہو سکتی۔

لأن الكتابة كالخطاب باعتبار الحاجة، ولا حاجة هنا. (الفتاوى البازارية،

ذكرى ۱۲۰، وعلى هامش الهندية ۴/۱۸۵)

لأن الكتابة أقامت مقام العبارة باعتبار الحاجة، ولا حاجة هنا.

(قاضی خاں، ذکریا ۱/۲۸۷، ۲۸۷، وعلى هامش الهندية، ذکریا ۱/۴۷۲، ۴۷۲، شامی، کراچی ۳/۲۳۶،

ذکریا ۴/۴۰، البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۴۶، ۲۴۶، ذکریا ۳/۲۹، ۴۲۹) **فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم**

الجواب صحیح:

لکتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان الدعنة

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۹/ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ

۱۴۲۱/۶/۹

(فتوى نمبر: الف ۳۵/۲۷۳۵)

بیوی کی غیر موجودگی میں طلاق دینے کے بعد تحریری طلاق دینا

سوال [۶۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مندرجہ ذیل باتوں پر شرع کا کیا حکم ہے؟ کیا لڑکی کی غیر موجودگی میں لڑکا طلاق تین بار لوگوں کے سامنے کہہ دے، تو طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟

(۲) کیا لڑکا دوسرے شہر میں جہاں وہ رہتا ہے تحریری طور پر لکھدے کہ میں نے فلاں فلاں گواہ کے سامنے تحریری طور پر دستخط کر کے طلاق نامہ پر دستخط کر دیئے تو طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟

المستفتی: عظمت حسین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) بیوی کی غیر موجودگی میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، طلاق کے وقت بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں۔ (مسناد: فتاویٰ دارالعلوم ۹/۲۲)

(۲) تحریری طور پر طلاق لکھ دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔
 وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. (شامی، کتاب الطلاق،
 قبیل باب الصریح، کراچی ۳/۴۶، ۴۵۶، هندیہ، زکریا قدیم ۳۷۸/۱)
 حیدر ۱/۴۴۶، فتاویٰ قاضی خان، زکریا ۱/۲۸۷، وعلی هامش الہندیہ،
 زکریا ۱/۴۷۱) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
 احتقر محمد سلمان منصور پوری غفرله
 ۱۴۳۷/۱۲/۲۳
 کتبہ: شیخ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
 ۲۲ رب جمادی الاولی ۱۴۳۱ھ
 (فتوى نمبر: الف ۳۲) (۳۹۲۲/۳۲)

موباںل پر بیوی کو میسح کے ذریعہ سے طلاق دینا

سوال [۶۵۲۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا نکاح دس ماہ پہلے میری بیوی سے ہوا تھا، چند ماہ بعد میرے ساس سسر کا جھگڑا میرے والد صاحب سے ٹیلیفون پر ہوا، جھگڑا اس قدر بڑھا کہ میرے والد صاحب کے سابقہ ٹیلیفون پر ہی میرے سر اور ساس نے بے انتہا بد تیزی اور بد کلامی کی، جب مجھے اس بارے میں معلوم ہوا تو میں بھی غصہ میں بھڑک اٹھا اور اسی غصہ کی حالت میں میں نے اپنی بیوی کو موبائل ملا کیا اور اپنے والد اور والدہ سے بد تیزی اور بد کلامی کا سبب معلوم کیا، غصہ بڑھتا گیا؛ کیونکہ گھر جاتے وقت میری بیوی سارا زیور بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی؛ اس لئے میں نے اس سے کہا چوٹی سارا زیور بھی میکہ لے کر چلی گئی، تکرار بڑھتی چلی گئی، میرا غصہ بڑھتا چلا گیا اور اسی غصہ کی حالت میں میں نے موبائل پر ہی لکھ کر میسح دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، یہ سب ہونے کے بعد میرے سر اور سرال کے لوگ اس بارے میں مجھ سے معلوم کرنے آئے اور کہا کہ تم نے طلاق دی ہے؟ میں نے پھر وہی بات دہرا دی کہ ہاں میں نے طلاق دی ہے۔

المستفتي: اختر حسین، ایرانڈیا یکسپورٹ، مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب شوہر لکھ کر طلاق دے اور اپنی تحریر کا بعد میں اقرار کرے تو شرعی طور پر ایسی طلاق صحیح اور معتبر ہو جاتی ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں جب بڑ کے نے موبائل پر لکھ کر بیوی کو تین طلاق کا میتح کر دیا ہے اور بیوی کے موبائل پر شوہر کی طرف سے لکھی ہوئی طلاق کا میتح آگیا ہے اور شوہر نے بعد میں زبانی اقرار بھی کیا ہے، تو اس سے شرعی طور پر تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں۔ اب آئندہ بغیر حلالہ دونوں کے درمیان نکاح بھی درست نہ ہو گا۔

لو کتب کتابا فی قرطاس -إلى قوله - وبعث به إلى أمرأته فأتاها الكتاب وأقر الزوج أنه كتابه، فإن الطلاق يقع عليها . (فتاویٰ عالمگیری، زکریا قدیم ۳۷۹/۱، جدید ۴۶/۱)

كتب فی قرطاس -إلى - وبعث به إلیها فأتاها وقع إن أقر الزوج أنه كتابه . (شامی، کراچی ۲۴۶/۳، ۲۴۷-۲۴۶، زکریا ۴/۴۵۶)

ولو قال لزوجته: أنت طلاق، طلاق، طلاق طلقت ثلاثة الخ . (الأشباه والنظائر قدیم ص: ۲۱۹، جدید زکریا ص: ۳۷۶) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ علم کتبہ: شیخ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۱۵ ابریذی قعدہ ۱۴۲۸ھ
(فتوى نمبر: الف ۳۷۰/۸)

تحریری طلاق

سوال [۲۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و منتظرین شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم دونوں فریق منی عرف کلو ولد الغفار بlarی اور محمد صاق ولد چھٹن بلاری ہم دونوں فریق آپس میں ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے سے اپنی خوشی اور مرضی سے الگ

ہو رہے ہیں، ہماری آپس میں کوئی رنجش نہیں، یہ کام ہم اپنی خوشی اور خوب سوچ سمجھ کر کر رہے ہیں، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کا سامان سارا ہی واپس کر دیا ہے۔ اب آپس میں ہم دونوں فریقوں کا کوئی لین دین نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مطالبہ ہے اور نہ ہی ہمارا ایک دوسرے کا ہمیشہ کے لئے کوئی تعلق ہے نہ کوئی رشتہ ہم یہ اقرار حلفیہ کرتے ہیں، یہ اسلام پ اس لئے لکھا ہے کہ کل کوہم میں سے ایک دوسری فونو کاپی دوسرے فریق کے پاس رہے گی یہ اقرار نامہ بتاریخ ۱۲/۸/۷ کو لکھا گیا، تو کیا اس صورت میں شرعی طور پر طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟ جبکہ یہ تحریر طلاق اور جدا یگی ہی کے لئے کمی گئی ہے۔ نیز برادری پنچایت میں بھی اس طرح طلاق دینے کی وجہ سے فریقین کو حاضر کیا گیا تھا۔

المستفتي: صادق حسین سلمانی ولد چھٹن، بلاڑی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مذکورہ میں بوقت مذکرہ طلاق اور بینیت طلاق ہی تحریر کمی گئی ہے۔ نیز پنچایت تحریر میں بھی طلاق دینے کی وضاحت ہے، اس لئے منی عرف کلو پر طلاق واقع ہو یکی ہے، عدت گزارنے کے بعد شوہر پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہے گی اور نہ ہی منی عرف کلو کو شوہر صادق ولد چھٹن کے یہاں آنا جائز ہو سکتا ہے۔

لو قال: لم يبق بيمنى وبينك عمل ونوى به الطلاق يقع الخ.

(عالیگیری، کتاب الطلاق، الفصل الخامس فی لكتنیات، زکریا قدیم ۱/۳۷۶، جدید ۱/۴۴۳،

فتاویٰ قاضی خان، زکریا ۱/۲۸۴، وعلی هامش الہندیۃ ۱/۶۸) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۲/۲۱

۱۳۱۰/۲۱

(فتوى نمبر: الف ۲۰۶۰/۲۶)

تحریری طلاق کا حکم

سوال [۶۵۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے ہندہ کو طلاق بذریعہ تحریر دی اور وکیل سے کہا کہ طلاق نامہ لکھ دو، وکیل نے طلاق نامہ لکھا؛ لیکن زید کو پڑھ کر نہیں سنایا اور صرف زید کے دستخط کرا لئے اور طلاق نامہ میں تین طلاق لکھیں جیسا کہ لکھنے کا وکیلوں کا رواج ہے، زید نے طلاق نامہ کو گھر جا کر پڑھا، اتنے عرصہ میں مرد و عورت میں صلح ہو گئی اور گھر بنائے رکھنے کے لئے دونوں آمادہ ہو گئے، تو کیا ایسی صورت میں طلاق مغلظہ واقع ہو گی یا راجعی؟

(۲) ایک شخص نے طلاق نامہ لکھوا کر بیوی کے گھر بھیجا؛ لیکن بیوی کہتی ہے کہ مجھے صرف سادہ کاغذ دستیاب ہوا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو گی یا نہیں؟

المستفتی: محمد مقصود، نائب مفتی جامع العلوم فرقانیہ، رام پور (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) جب زید نے وکیل کو طلاق نامہ لکھنے کا اختیار دیا ہے اور وکیلوں کے تین طلاق لکھنے کا رواج سب کو معلوم ہے اور زید کو بھی یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ وکیلوں کا رواج تین ہی طلاق لکھنے کا ہے، پھر وکیل کے لکھنے کے بعد دستخط کے وقت خود پڑھنا یا پڑھوا کر سننا زید نے ضروری نہیں سمجھا اور بخوبی دستخط کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق نامہ میں جتنی طلاقیں لکھی گئیں ہیں، اتنی ہی طلاقیں واقع ہو جائیں گی؛ چنانچہ مذکورہ طلاق نامہ میں تین طلاق لکھی گئی ہیں؛ اس لئے زید کی بیوی ہندہ پر تین طلاق واقع ہو گئی ہیں، اب بغیر حلالہ کے زید کے لئے نکاح بھی درست نہ ہوگا، ہاں البتہ شوہر حل斐ہ طور پر قسم کھا کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وکیلوں کے یہاں تین طلاق لکھنے کا رواج ہے اور میرا ارادہ ایک طلاق لکھوانے کا تھا، تو حکم شرعی تین طلاق کا نہ ہوگا۔

(مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۹/۷۸)

و کذا کل کتاب لم یکتبه بخطه ولم یمله بنفسه لا یقع الطلاق مالم

یقر اُنہ کتابہ۔ (شامی، کتاب الطلاق، قبیل باب الصریح، زکریاء ۴۵۶، کراچی ۳/۲۴۷، ۲۴۷/۳)

الفتاویٰ التاتارخانیہ، زکریاء ۴/۵۳۱، رقم: ۶۸۴۳، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۷۹، جدید ۱/۴۴۶)

(۲) اگر عورت کہتی ہے کہ صرف سادہ کاغذ دستیاب ہوا ہے، اس میں کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے اور شوہر انکار کرتا ہے، تو طلاق واقع نہ ہوگی اور اگر شوہر اقرار کرتا ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ شوہر سے دریافت کیا جائے کہ طلاق نامہ میں کتنی طلاق لکھی گئی ہیں، وہ جتنی طلاق کا اقرار کرے گا اتنی طلاق واقع ہو جائیں گی۔

بأن كتب أما بعد فانت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة. (شامی، زکریاء ۴/۴۵۶، کراچی ۳/۲۴۷، عالمگیری، زکریا قدیم ۱/۳۸۷، جدید ۱/۴۴۶، احسن الفتاویٰ ۵/۱۴۸) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

كتبه: شبير احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

برجب المرجب ۱۲۲۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۷/۳۲۵، ۸۲۷۰/۷)

۱۳۲۵ھ

تحریری طور پر طلاق دینا

سوال [۲۵۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عرصہ دوسال قبل مسمی بی بی حسینہ خاتون کی شادی محمد مجید سے ہوئی تھی اور حسینہ خاتون اپنے سرال میں رہنے لگی، اس درمیان چند جو ہات کی بناء پر میاں بیوی میں نااتفاقی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر محمد مجید نے اپنے ایک رشتہ دار کی معرفت ایک تحریری خط لٹڑکی کے والد کے پاس بھیجا، خط کا مضمون اس طرح تھا: ”بی بی حسینہ بیگم تم میری طلاقی بیوی ہو، میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی تم اپنا انتظام خود کرو، میں اپنا انتظام خود کروں گا، میں کما کر تمہارا دین مہرا دا کر دوں گا“، اس تحریری خط کے علاوہ بھی محمد مجید نے گاؤں کے لوگوں اور اپنی بیوی کے سامنے بھی بار بار طلاق دینے کی بات

کہی، اس تحریری خط کو لڑکی کے والدین نے اپنے گاؤں کے کئی ذمہ داروں کو دکھایا جس کی بناء پر لوگوں نے لڑکی کی دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا، اس تحریری خط (طلاق نامہ) کے تقریباً نو دس مہینے کے بعد بی بی حسینہ خاتون نے اپنے گاؤں کے محمد تجمل حسین سے باضابطہ دوسرا نکاح کر کے میاں بیوی کی طرح رہنے لگے، دوسری شادی کے بعد اب شوہر اول اور اس کے والد لڑکی کے والد پر دباؤ ڈال کر لڑکی کو شوہر اول کے پاس رہنے کو کہہ رہے ہیں، ادھر اس تحریری خط کو زور زبردستی کر کے شوہر اول اور ان کے رشتہ داروں نے چھین لیا ہے، اب بی بی حسینہ کسی بھی صورت میں شوہر اول کے پاس جانہ نہیں چاہتی ہے، بی بی حسینہ کا کہنا ہے کہ مجھے طلاق دیدی گئی ہے، میں ناجائز رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں جناب والا سے موبدانہ گذارش ہے کہ محمد مفید نے تحریری خط میں جو جملہ استعمال کیا ہے، اس سے طلاق واقع ہوئی ہے یا نہیں اور یہ طلاق کی کون سی قسم ہے؟ بی بی حسینہ دوبارہ شوہر اول کے ساتھ رہ سکتی ہے یا نہیں؟ تجمل حسین سے بی بی حسینہ کا نکاح جائز ہے یا نہیں؟ بالتفصیل مدلل و مع حوالہ جواب دینے کی زحمت فرمائیں، احسان عظیم ہو گا۔

المستفتی: جیم الدین رحمانی، سپول (بہار)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر سائل کا بیان صحیح ہے اور تحریر میں شوہرنے واقع طور پر نہ کوہ الفاظ لکھا یا لکھوا یا ہے تو مفید کی طرف سے بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے، اگر چالاکی سے تحریر چھین لی ہے، تو اس سے طلاق پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، طلاق واقع ہو چکی ہے، شوہر کے الفاظ ”تم میری طلاقی بیوی“ سے ایک طلاق اور تمہیں طلاق دی، طلاق دی کے الفاظ سے دو طلاق کل تین طلاق واقع ہو چکی ہیں۔

و من الصریح یا مطلقة و کطلقتک ثلاثاً. (شامی، کراچی ۳/۲۴۸)

زکر یا ۴۵۷/۴

وإن كان الطلاق ثالثاً في الحرمة، وشتين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها.
(فتاویٰ عالمگیری، ذکریا قدیم ۴۷۳/۱، جدید ۵۳۵/۱، هدایۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹)
اور مفید کے طلاق کے بعد عدت گزار کر تھل حسین کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے، وہ صحیح
اور درست ہے، اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے مفید کا حسینہ کو لے جانا جائز اور حرام کاری
ہو گا، اگرچہ دوبارہ نکاح بھی کر لے گا تب بھی جائز نہ ہو گا۔

وأما نكاح منكوحه الغير ومعتدته (إلى قوله) لم يقل أحد بجوازه،
فلهم ينعقد أصلاً (شامی، کراچی ۱۳۲/۳، ذکریا ۴/۲۷۴، هندیہ، ذکریا قدیم
۱/۳۴۶، جدید ۲۸۰/۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ
۱۴رمذان ۱۴۱۵ھ
(نومی نمبر: الف/۳۱۷، ۳۸۱۷)

حالت حمل میں تحریری طلاق دینا

سوال [۶۵۲۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ میری بہن کو اس کے شوہر نے تحریری طلاق دی ہے، اور وہ حمل سے ہے،
اس دوران اس کو طلاق ہوئی یا نہیں؟

(۲) اس حالت میں کسی قانونی کارروائی کے تحت تھانہ یا عدالت جا سکتی ہے یا نہیں؟

المسئلة: شاہنواز حسین

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: حالت حمل میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

طلاق الحامل یجوز عقیب الجماع الخ (هدایۃ، اشرفی دیوبند ۲/۳۵۶)

قدوري، امدادیہ دیوبند ۱۷۱)

(۲) وضع حمل تک نان و نفقہ کے لئے قانونی کاروائی کر سکتے ہیں، ولادت کے بعد پھر کسی قسم کا حق متعلق نہ ہوگا۔

المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة، والسكنى كان الطلاق رجعياً، أو بائناً، أو ثالثاً حاماً كانت المرأة أو لم تكن. (هنديه، زكرياء قديم ۵۵۷ / ۱، جديـد ۶۰۵ / ۱) فقط والله سبحانه وتعالي علم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۸/۳/۱

كتبه: شیخ احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

اربع الثاني ۱۴۱۸ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۳) (۵۲۲۷)

”میں کو طلاق دیتا ہوں“ بیوی کو لکھ کر دینے سے طلاق

سوال [۶۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آپس میں تکرار ہو رہا تھا، میرے اور میری بیوی کے درمیان، تب اس میں میں نے اپنی زبان سے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا صرف اس کو ڈرانے کے لئے اسی کے سامنے ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر حسب ذیل الفاظ لکھ کر اس کے ہاتھ میں دیئے۔

میں کو طلاق دیتا ہوں، میں کو طلاق دیتا ہوں، میں کو طلاق دیتا ہوں

بقلم خود، ایسی صورت میں شرعی طور پر طلاق ہو گئی یا نہیں؟

المسنونی: دشاد حسین، محلہ: کچاباغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر سائل اپنے بیان میں سچا ہے اور واقعی بیوی کے سامنے ہی مذکورہ الفاظ لکھ کر بیوی کے ہاتھ میں دیا ہے اور زبان سے کوئی لفظ طلاق کا استعمال نہیں کیا ہے اور نہ ہی زبان سے کہنے میں کوئی رکاوٹ رہی ہے، تو ایسی صورت میں محض لکھ کر بیوی کے ہاتھ میں دینے سے طلاق واقع نہیں ہوئی؛ اس لئے کہ طلاق بالکتابت کا اعتبار اس وقت ہوتا ہے کہ جب زبان سے طلاق دینے میں عذر ہوا اور یہاں کوئی عذر نہیں ہے۔

لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة، ولا حاجة لها.
 (شامي، کراچی ۴/۳۲۶، زکریا ۴۰/۴، البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۴۶، زکریا ۳/۴۹، ۴۲۹)
 فتاویٰ قاضی خاں، زکریا ۱/۲۸۷، وعلی هامش الہندیہ ۱/۴۷۲)

لأن الكتابة كالخطاب باعتبار الحاجة، ولا حاجة لها. (فناوی بزاہیہ،
 زکریا ۱/۱۲۰، وعلی هامش الہندیہ، زکریا ۴/۱۸۵) **فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم**
 کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
 ۱۲ ارڈی الجبہ ۱۳۱۲ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۲۲۹۲۲/۲۸)

تحریری طلاق کی ایک صورت

سوال [۶۵۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متبین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید فی الوقت گھر سے باہر ہے، یعنی سعود یہ ہے، اور زید اور اس کی بیوی میں باہم اچھے تعلقات ہیں، کسی قسم کا جھگڑا نہیں، دونوں ایک دوسرے سے خوش ہیں، اسی دوران زید کی بیوی سے اور زید کے گھر والوں سے جھگڑا ہوا، تو زید کے گھر والوں نے ایک پرچہ بنایا جو نسبت جوڑتا ہے زید کی طرف کہ زید نے یہ پرچہ تمہارے نام بھیجا ہے اور تم کو طلاق دے رہا ہے؛ جبکہ اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے پرچہ کے بارے میں کہ حقیقت میں زید نے بھیجا ہے، اس صورت میں زید کی بیوی اپنی ماں کے گھر ہے، تو آپ برائے کرم اس مسئلہ کو جلد قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کر کے جواب دیں تو مہربانی ہوگی؛ کیونکہ اس وقت حالت دونوں طرف نازک جلی رہی ہے، خیال رہے کہ زید کی طرف سے جو پرچہ بنایا ہے اس کو بھی ساتھ میں ارسال کر رہا ہوں، اس کو دیکھ کر آپ قیاس لگائیں گے؛ کیونکہ قرآن و حدیث میں ایک درجہ قیاس کا بھی ہے، امید کر جلد جواب دیں گے۔

پروچہ: ”میں طلاق دے رہا ہوں“ اس کی مرضی سے طلاق طلاق طلاق، اب تم اپنا انتظام کرلو۔

المستفتی: محمد یعقوب، باندرہ ایسٹ، ممبئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: براہ راست خط یافون کے ذریعہ سے زید سے معلوم کیا جائے، اگر زید انکار کرتا ہے، تو طلاق نہ ہوگی اور اگر اقرار کرتا ہے، تو طلاق معتر ہوگی۔
 کل کتاب لم یکتبہ بخطہ و لم یملہ بنفسہ لا یقع الطلاق ما لم یقر أنه کتابہ۔ (شامی، کتاب الطلاق، قبیل باب الصریح، کراچی ۳/۴۷۲، ۶۸۴ رقم: ۳۱۳، زکریا ۴/۴۵۶، تاتارخانیہ، زکریا ۴/۵۳۱، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۷۹) (فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم جدید ۱/۴۶۴)

لکبیہ: شمیر احمد قادری عفان الدین عنہ
 ۲۲ رشوآل المکرم ۱۳۱۲ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۲۸۵۹/۲۸)

بیوی کے سامنے تحریری طلاق دینا

سوال [۶۵۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک کاغذ پر ایک طلاق دی، پھر کچھ دن کے بعد ایک دوسرے کاغذ پر ایک طلاق دی، پھر ایک طلاق کا گذر پر دی، پھر چوتھی مرتبہ کچھ دن کے بعد ایک طلاق دی اور ہر دفعہ اس کی بیوی اس کے سامنے تھی، زبان سے اس نے تلفظ نہیں کیا (طلاق کا لفظ) تو کیا اس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق ہوئی یا نہیں؟

نouث: (۱) چار دفعہ ۲ کا گذر پر لکھا ہے (۲) ایک طلاق دی ہر دفعہ (۳) طلاق کا تلفظ زبان سے نہیں کیا (۴) اس کی بیوی ہر دفعہ اس کے سامنے موجود تھی، ایک صاحب نے فتاویٰ محمود یہ ۱۳/۱۱/۲۷۱، اور شامی مسائل شتی ۵/۰۷/۲۷۰ کے حوالہ سے لکھا کہ طلاق نہیں ہوئی؛ لیکن ہم نے فتاویٰ دارالعلوم ۹/۱۷۱ میں اس کے برکلنس دیکھا ہے۔

المستفتی: محمد ویم ٹانڈوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب بیوی سامنے موجود ہوتی ہے، تو سامنے ہی تحریر لکھ کر دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی؛ بلکہ زبان سے طلاق نکالنے میں کوئی مجبوری نہ ہو اور یہی مسئلہ صحیح ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ فتاویٰ محمودیہ میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہے اور فتاویٰ دارالعلوم میں واقعہ ایسا نہیں ہے، اس میں بیوی کے سامنے موجود ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے؛ بلکہ بیوی والوں کا تذکرہ ہے؛ اس لئے فتاویٰ دارالعلوم کا اس مسئلہ سے کوئی تعارض نہیں۔

لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة، ولا حاجة هنا.

(شامی، کراچی ۴/۴۰، زکریا ۳/۲۳۶، ۴/۲۹، زکریا ۳/۲۴۶، زکریا ۴/۲۹)

فتاویٰ قاضی خاں، زکریا ۱/۲۸۷، وعلی هامش الہندیہ، زکریا ۱/۴۷۲)

لأن الكتابة كالخطاب باعتبار الحاجة، ولا حاجة هنا. (الفتاوى

البزاریہ، زکریا ۱/۱۲۰، وعلی هامش الہندیہ ۴/۱۸۵)

لکتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰/۲/۲۲

۱۴۲۰/۲/۲۲

(فتوى نمبر: الف ۲۲۱۸/۳۳)

بیوی کے سامنے بیٹھ کر طلاق لکھ کر دیدیا، مگر زبان سے کچھ نہیں کہا

سوال [۶۵۳۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شوہرن اپنی بیوی کو سامنے بیٹھا کر لکھ کر دیا کہ تجھے طلاق، تو سوال یہ ہے کہ سامنے بیٹھ کر طلاق لکھ کر دینے سے طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟ بلکہ شوہر گونگا نہیں ہے، اس سلسلہ میں فتاویٰ محمودیہ ۱۲/۲۱۵ میں عدم وقوع طلاق کا فتویٰ ہے اور مفتی تقی صاحب عثمانی لکھتے ہیں فتاویٰ عثمانی ۳۸۲/۲، میں کہ طلاق واقع ہو جائے گی، مفتی صاحب سے

گذارش ہے کہ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ مع دلائل کے جواب مرحمت فرمائیں، نوازش ہوگی۔

المستفتی: محمد عظمت علی آسامی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: بیوی کو سامنے بیٹھا کر طلاق لکھ کر دینے سے طلاق واقع نہیں ہوگی؛ جبکہ شوہر گونگا نہیں ہے، بولنے پر قادر ہے؛ کیونکہ کتابت بوقت ضرورت عبارت کے قائم مقام ہے، لہذا مذکورہ صورت میں بھی طلاق واقع نہ ہوگی، دلائل کی روشنی میں فتاویٰ محمودیہ کی عدم قوی طلاق کی بات زیادہ صحیح ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمود یڈا بھیل

(۲۵۸/۱۸، ۲۱۴/۲۱۵)

اور فتاویٰ عثمانی میں بعینہ اس مسئلہ کا جواب نظر سے گذرا۔

ایماء الآخرس و کتابته کالبیان باللسان بخلاف معتقل اللسان

أي فلا يعتبر إيماؤه ولا كتابته . (شامی، کراچی ۶/۷۳۷، زکریا ۱۰/۴۶۰)

عن الأشباء أنه في حق الآخرس يشرط أن يكون معنونا وإن لم يكن لغائب، وظاهره أن المعنون من الناطق الحاضر غير معتبر . (شامی، کراچی ۶/۷۳۷، زکریا ۱۰/۴۶۱)

لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة، ولا حاجة هنا.

(خانیہ، اتحاد ۱/۲۸۷، زکریا قدیم ۱/۴۷۲، فتاویٰ بزاہیہ، زکریا ۱/۱۲۰، وعلی هامش الہندیہ، زکریا ۱/۴۷۲، شامی، کراچی ۳/۲۳۶، زکریا ۴/۴۰، البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۲۴۶، زکریا ۳/۴۲۹) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۱۹ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۱۰۲/۳۰)

بیوی کے سامنے طلاق طلاق لکھنا

سوال [۶۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیوی میری اجازت کے بغیر میکہ چلی گئی، تو میں نے بیوی کی واپسی پر کہا کہ تو گھر چلی جا، تو بیوی نے کہا کہ لکھ دو، تو میں نے بیوی کے ہاتھ پر گھر چلی جا لکھ دیا، تو بیوی نے کہا کہ طلاق لکھ دو، تو میں نے ایک بار طلاق لکھ دی، تو بیوی نے کہا کہ کاغذ پر لکھ دو، تو میں نے کاغذ پر تین مرتبہ بغیر کچھ بولے صرف لفظ طلاق، طلاق، طلاق لکھ دی، نہ کچھ بولا اور نہ طلاق کا ارادہ تھا اور اب میری بیوی حمل سے ہے، تو کیا ایسی صورت میں میری بیوی پر طلاق واقع ہوگئی؟ شرع کی روشنی میں مسئلہ کا حل فرمائیں۔

المستفی: افضل احمد، چاندپور، بجور (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مسئلہ صورت میں جب آپ کی بیوی سامنے موجود ہے اور آپ نے زبان سے کچھ نہیں بولا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی اضافت ہے، تو صرف ”طلاق، طلاق، طلاق“ لکھ دینے سے طلاق واقع نہیں ہوگی؛ اس لئے کہ بیوی جب سامنے موجود ہو تو قادر علی الٹکم کے لئے زبان سے طلاق دینا ضروری ہے، محض لفظ طلاق لکھ دینے سے یا کسی ہوئی تحریر پر مستخط کردینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے؛ لہذا آپ کی بیوی پر کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ (مستقاد: فتاویٰ محمود یقدیم ۲۷۱/۱۳، ۲۲۵/۱۳، ۲۱۶/۱۲) (۱۲۳)

اکرہ علی ان یکتب طلاق امر اُتھے فکتب لا یقع، لأن الكتابة كالخطاب باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا۔ (بزاریہ، ذکریا ۱/۱۲۰، وعلی هامش الہندیۃ ۴۰/۱۸۵، شامی، کراچی ۳/۲۳۶، ذکریا ۴/۴۰، حانیہ، ذکریا ۱/۲۸۷ وعلی هامش الہندیۃ ۱/۷۲، البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۲۴۶، ذکریا ۲۹/۲۹) فقط والله سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احترم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۲۲/۲۸

کتبہ: شیرا احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۸/ جمادی الثانیہ ۱۴۲۳ھ
(فتوى نمبر: الف ۳۵/ ۲۶۱)

تحریری طلاق

سوال [۶۵۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مقصد تحریر یہ ہے کہ خوف خدا، سماج کی انششت نمائی کا ڈر، شریعت اسلامیہ کے تقاضہ کا پیش نظر رہنا وغیرہ ایسے امور جن کی بناء پر تمہارے ساتھ نکاح سے لے کر اب تک تقریباً چھ سال سے زائد عرصہ میں میں نے نباه کی ہر ممکن کوشش کر لی؛ جبکہ تم اور تمہارے بھائی، بہنوں نے مجھے پریشان کرنے اور بلیک میل کرنے اور اس کے واسطے میرے تمام گھر والوں کو مجھ سے میت جہیز کیس میں پھنسانے جیسی دھمکیوں سے لے کر میری کردار کشی تک کسی بھی وار سے درفعہ نہیں کیا؛ جبکہ میں اپنی مولویانہ وضع اور معاشرہ میں عزت کی خاطر نیز یہ سوچ کر کہ شاید یہ سورت تمہاری سمجھ میں بات آجائے ہر اذیت برداشت کرتا رہا؛ لیکن ہر قسم کی فہمائش پر تمہارا ایک ہی مطالبہ رہا کہ ”مجھے آزاد کرو“، لکھ کر دے دو وغیرہ وغیرہ۔

چوں کہ میں شادی سے پہلے ہی سے بسلسلہ روزگار سعودی عرب میں مقیم تھا؛ اس لئے میری شادی کے فوراً بعد تمہارا پاسپورٹ بخوا کر تمہیں اپنے ساتھ لے جانے اور اس کے لئے تمہاری خوشامد تک ہر ممکن کوشش رائیگاں جانے پر خود میں نے ہر چار ماہ بعد انڈیا آنا شروع کر دیا، اس کے باوجود تم میری مرضی کے خلاف میری عدم موجودگی میں اپنے میکہ سیوہارہ یا اپنے بھائی کے پاس علی گلڈ ہر ہتھی رہیں اور پھر شدہ شدہ مجھے پتہ چلا کہ تم نے وہاں سیوہارہ میں ایک پرائیویٹ ٹیچر کی حیثیت سے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا اور پھر یہی نہیں؛ بلکہ اس کے نتیجہ میں پولیو پلس مہم جیسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی خاطر اجنبی مردوں کے ساتھ میٹنگوں میں بے محابہ اخلاق اس سے بھی تمہاری رگ غیرت نہ پھڑک سکی اور یہ سب دلچسپیاں مجھے اس لئے بھی گوارہ نہ تھیں کہ تم کو میری طرف سے دیئے گئے اخراجات کی صورت میں کسی قسم کی کوئی مالی پریشانی بھی نہ تھی اور پتہ چلنے پر میں نے خود شدت کے

ساتھ ان چیزوں سے تمہیں منع بھی کر دیا تھا؛ اس لئے کہ یہ بات کوئی بھی غیرت مندانسان برداشت نہیں کر سکتا خاص طور سے ایسی صورت میں کہ تمہارے گھر پر کوئی مرد سر پرست تک موجود نہیں ہے سوائے تمہاری بڑی بہن کے جو خود بھی غیر شادی شدہ اور ایک پرانیویٹ اسکول میں نوکری کرتی ہیں، دوسری تمہاری بوڑھی والدہ ہیں، رہا تمہارا بھائی سو وہ تم سے سینکڑوں میل دور ایک بینک میں ملازم ہے اور وہیں اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے اور سالہا سال تک گھر نہیں آتا، اس کے علاوہ میں تمہیں خود بھی ایک اجنبی شخص کے ساتھ تمہارے گھر پر غیرت کے تمام تقاضے پھلاندتے ہوئے تمہیں ملتے ہوئے دیکھ کر ٹوک چکا تھا؛ جبکہ اپنے اس عمل سے متعلق تمہارا صرف یہ عذر تھا کہ یہ شخص ہمارا رشته دار ہے، تمہارے رہن سہن کے یہ طور طریقے مجھے بالکل پسند نہ تھے، پھر بھی تمہاری ضد تھی کہ تم میری غیر موجودگی میں سیبوہارہ ہی رہو گی؛ بلکہ تم نے تو شادی کے ایک ہفتہ بعد ہی سے سیبوہارہ مکان بنا کر رہنے کا ارادہ ظاہر کر کے اس پر اصرار شروع کر دیا تھا؛ لیکن اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر سیبوہارہ مکان بنا کر ہنا میرے لئے یوں بھی دشوار تھا کہ میں خود وطن سے باہر رہتا ہوں اور تم بالکل اکیلی ہوتی نہ کوئی دوسرا سہارا؛ لہذا جب تم نے اپنا مقصد پورا نہ ہوتا دیکھا تو تم میری اور میرے گھروں کی چوری سے میرا سارا زیور اور قیمتی کپڑے چرا کر اپنے گھر لے گئیں اور جب میں وطن آیا تو تم کو زیور استعمال نہ کرتے دیکھ کر تم سے معلومات کیس تو پتہ چلا کہ تم نے یہ ساری چیزیں اپنے گھر لے جا کر رکھ دی ہیں اور پھر ایک دن تم خود بھی اپنے گھر جا کر بیٹھ گئیں اور میری ۲۰۰۳ء کی پوری چھٹی گذر گئی اور تم نہیں آئیں، نوبت پنجا یتوں تک آئی، میری عزت کی خاطر تم کو بلا نے کی کوشش کی تو تمہارے بھائی نے میری شرافت اور ان ساری صورتوں سے فائدہ اٹھا کر تمہارا ساتھ دیا، پورا ایک سال گذر نے اور میری مسلسل کوشش کے بعد تمہارے بھائی نے اس وقت جب میری ۲۰۰۳ء کی چھٹی ختم ہونے میں چند روز باقی تھے اس شرط پر بھیجا کہ تم میرے واپس سعودی عرب چلے آنے پر پھر سیبوہارہ ہی

رہوگی، لوگوں نے بات کو بھانے کی خاطر مجھے آمادہ کر لیا اور میں بڑوں کی بات نہ ٹھکر اکرم کو گھر لے آیا، ایسے وقت متعدد لوگوں کی موجودگی میں تمہارے بھائی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے زیورات ایک ہفتہ میں میرے حوالے کر دیئے جائیں گے، اس لئے کہ وہ بینک کے لوکر میں ڈال دیئے گئے ہیں؛ لیکن آج ۲۰۰۶ء کی چھٹی بھی میری مکمل ہونے کو آگئی نہ تھی ہی آئیں اور نہ زیورات، تو سوال ہی کیا تھا کہ تم واپس کرتیں۔

میں انہیں اذیتوں اور حالات کے نتیجہ میں ذہنی دباؤ (ہائی پریشنسی) کا مریض ہو گیا، جس کے نتیجہ میں ایک مرتبہ میرے دماغ سے غیر معمولی خون نکلا، ڈاکٹروں نے ٹینشن سے بچنے کی سخت ہدایت کی، مگر تم نے اپنے اندر تبدیلی نہ لانے کی گواہ قسم کھار کھی تھی، تم گھر بیٹھ گئیں، تم سے جب بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تو تم نے ایک ہی جواب دیا کہ تمہارے بھائی نے میرے ساتھ آنے سے منع کر دیا ہے، پھر جب تمہارے بھائی سے رابطہ کیا، تو اس نے صرف یہ کہ تم کو میرے ساتھ بھجنے سے انکار کر دیا؛ بلکہ اپنے بینک میجر ہونے کے زعم میں مجھے ڈرایا دھمکایا اور میری ہر قسم کی بے عزتی کی، جس کے نتیجہ میں وہ دن آئی گیا جس کا تم سمتیت تمہارے بھائی، بہنوں کو انتظار تھا اور جس سے میں بچتا رہتا ہم، میرے برداشت کرتے کرتے اس کے باوجود کہ تمہاری اولاد تک نہیں ہو پائی اور علاج معالجہ کے باوجود بھی سب لا حاصل رہا، میں نے چھ سات سال کا عرصہ بتا دیا؛ لیکن تمہارے اندر اپنے ساتھ رہنے کی کوئی پلک اور خواہش نہ پا کر تمہاری مرضی اور حالات کے تقاضے کے سامنے سر جھکا دیا اور تمہیں متعدد لوگوں کی موجودگی میں باہوش و حواس طلاق باس دیدی اور تمہیں اپنے نکاح کے بندھن سے آزاد کر دیا، زبانی قول کے بعد اب یہ تحریر مزید تمہیں بھیج رہا ہوں تاکہ تم کسی اور کے ساتھ زندگی گزارو، تو پھر بھائی بہنوں کے کہنے میں نہ آ کرایی حرکتوں سے باز ہوا وردنیا کے سامنے تم اپنے اس طرز عمل کے لئے چاہے کتنی ہی انکاری بنو؛ لیکن اپنے ضمیر کے سامنے اپنا محاسبہ ضرور کر سکو، اللہ تعالیٰ تمہیں عقل سیم دے آمین۔

میں نے اپنی بیوی کو ۲۲ ربیعہ شعبان ۱۴۲۷ھ / ستمبر ۲۰۰۶ء بروز پیر کو بذریعۃ تحریر ایک طلاق بائن دی تھی، جو تحریر سوال نامہ کے ساتھ مسلک ہے۔ مذکورہ طلاق نامہ کی روشنی میں میری بیوی پر طلاق بائن واقع ہو گئی یا نہیں؟ جبکہ تحریری طلاق کے ساتھ کئی آدمیوں کے سامنے زبانی بھی طلاق بائن دے دی ہے۔

اب میری بیوی اور اس کا بھائی (جو کہ ایک بینک منجر بھی ہے) دونوں کا مطالبہ ہے کہ میں اپنی طلاق شدہ بیوی خالدہ اجمم کو پانچ لاکھ روپیہ دوں اور میں نے جوز یور اس کو استعمال کے لئے چڑھایا تھا (جس کی مالیت تقریباً ایک لاکھ روپیہ ہے) اس سے بھی ذمہ دار ہونے کا ان کی طرف سے مطالبہ ہے اور اگر میں ان کے مذکورہ دونوں مطالبے پورے نہ کروں تو وہ لوگ طلاق نامہ کی وصولیابی کے منکر ہو کر مجھے اور میرے خاندان کے مرد اور عورتوں کو جہیز کیس میں پھنسانے کی دھمکی دے رہے ہیں، جس کا ذکر ان لوگوں نے قصہ کے بعض علماء کے سامنے بھی کیا ہے، تو کیا شرعی طور پر طلاق کے بعد مہر کے علاوہ میرے اوپر رقم دینے یا اور کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ نیز یہ بات بھی واضح رہے کہ ہماری برادری اور علاقہ میں دستور ہے کہ جوز یور بیوی کو استعمال کے لئے شادی کے موقع پر دیا جاتا ہے، وہ اس کی ملکیت نہیں ہوتی؛ بلکہ شوہر کی ملکیت ہوتی ہے، میری بیوی کی نیت پہلے سے خراب تھی، وہ میری عدم موجودگی میں تمام زیور چوری سے اپنے گھر لے گئی تھی؛ تاکہ طلاق کی صورت میں زیور واپس نہ کرنے میں کامیاب ہو سکے۔

میری بیوی ناشرزہ ہے، میرے حقوق زوجیت ادا کرنے سے گریزان رہتی ہے اور میری اجازت کے بغیر میرے گھر سے باہر سیو ہارہ یا علی گلڈھ جا کر رہتی ہے، ایسی نافرمان بیوی کو طلاق دینے کے بعد دعت کا خرچ دینا مجھ پر لازم ہے یا نہیں؟

عورت کے لئے ایسی طرز زندگی جس سے شوہر کی غیرت کا خون ہوتا ہو اور وہ فہماش اور افہام و تفہیم کے بعد بھی اصلاح احوال پر آمادہ نہ ہو۔ نیز زوجین کی طرف سے ذمہ دار

حضرات کے تصفیہ کی کوشش کے باوجود بھی نباه کی کوئی صورت نہ آسکی ہوتا یہے حالات میں ایسی عورت کو طلاق دے کر خلاصی پا نا شرعاً کیسا ہے؟

المستفتی: شاہستعلیٰ قاسمی، مجلہ: مولیویان سہیپور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) حسب تحریر سوال آپ کی یہوی پر ایک طلاق بائن واقع ہو چکی ہے اور وہ آپ کے نکاح سے نکل چکی ہے۔

وإذا وصف الطلاق بضرب من الزرايادة والشدة كان بائناً مثل أن يقول :

أنت طالق بائن، أو البتة. (هدایۃ اشرفی ۳۶۹/۲)

(۲) آپ کے طلاق دینے کے بعد آپ کی یہوی اور اس کے بھائی کا آپ سے پانچ لاکھ روپے کا مطالبه کرنا شرعاً درست نہیں ہے اور جو زیور آپ نے اپنی یہوی کو استعمال کے لئے عاریٰ دیا تھا اور آپ کے علاقہ کا عرف بھی عاریٰ دینے ہی کا ہے، اس کا واپس کرنا آپ کی یہوی کے ذمہ ضروری ہو گا اور ان لوگوں کے ناجائز مطالبے کے آپ کی طرف سے پورا نہ ہونے پر آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر ناجائز مقدمہ کرنا سراسرنا الفضافی، ظلم اور گناہ کبیرہ ہے۔

لا يجوز لأحد من المسلمينأخذ مال أحد بغیر سبب شرعیٰ۔ (شامی،

کراچی ۴/۶۱، زکریا ۶/۱۰)

ولو بعث إلى أمرأته شيئاً ولم يذكر جهة عند الدفع غير جهة المهر.

فقالت: هو أى المبعوث هدية. وقال: هو من المهر، أو من الكسوة، أو عارية، فالقول له بيمينه. (در مختار مع الشامي، کراچی ۳/۱۵۱، زکریا ۴/۳۰)

یہوی کا نان و نفقة شوہر پر اسی وقت لازم ہوتا ہے جب کہ وہ شوہر کے گھر میں رہے، اگر وہ بلا کسی شرعی وجہ کے گھر سے باہر نکل گئی اور کہیں اور جا کر رہنے لگی تو شرعاً ایسی عورت کے لئے نشوذ کی حالت میں نہ طلاق سے پہلے کا نفقة واجب ہے اور نہ ہی طلاق کے بعد عدالت کا

خرچ واجب ہے، ایسی نافرمان عورت اپنے نفقة کی خود ذمہ دار ہے۔
وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله؛ لأن قوت الاحتباس منها.
(هدایۃ اشرفی ۴۳۸/۲)

لا نفقة للأحد عشر: مرتدة إلى قوله وخارج من بيته بغير حق.
(شامی، کراچی ۳/۵۷۵، زکریا ۵/۲۸۶)
(۲) حسب تحریر سوال جب کہ بھاؤ کی کوئی شکل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو
طلاق دینے کی اجازت ہے، اس کی وجہ سے آپ گنہگار نہ ہوں گے۔
إن سبب الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعوض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى۔ (شامی، کراچی ۳/۲۲۸،
زکریا ۴/۴۲۸) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:
کتبہ: شبیر احمد قادری عفان اللہ عنہ
۲۸ محرم الحرام ۱۴۲۸ھ
(فتوى نمبر: الف ۹۱۲۸/۳۸)

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۸/۱/۲۸

ڈرانے دھمکانے کے لئے بیوی کو پرچہ میں لکھ کر طلاق دینا

سوال [۶۵۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ شوqین نے اپنی بیوی کو ڈرانے دھمکانے کے لئے لکھا کہ سعیدن میں
نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، دو دفعہ لکھ دیا اور اسی پرچہ کے ساتھ پانچ روپیہ مہر کے رکھ دیا
اور بیوی کو دیدیا، تو اس سے کون ہی طلاق واقع ہوئی تحریر فرمائیں؟

المستفتی: پیر بخش محمود پور، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر صرف دو ہی مرتبہ طلاق لکھ کر دے دیا، تو اس
سے بیوی پر دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے رکھ لینا جائز ہے،

آنندہ کبھی بھی ایک دفعہ طلاق دے گا، تو بیوی بالکل ہاتھ سے نکل جائے گی۔

وَقَعْتَارِجُعْتَيْنَ لَوْ مَدْخُولَاً بِهَا كَقُولَهُ أَنْتَ طَالِقُ الْخَ.

(در مختار، کراچی ۳/۲۵۲، زکریا ۴/۴۶۳، مجمع الأنہر، دارالفکر بیروت ۲/۱۳)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ أَنَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذِكْرُ التَّفْسِيرِ إِلَى قَوْلِهِ الطَّلاقُ مِرْتَانٌ. قَالَ: هُوَ الْمِيقَاتُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ، فَإِذَا طَلَقَ وَاحِدَةً، أَوْ ثَنَيْنِ، فَإِمَّا أَنْ يَمْسِكَ وَيَرْاجِعَ بِمَعْرُوفٍ، وَإِمَّا يَسْكُتَ عَنْهَا حَتَّى تَنْقِضِي عَدْتَهَا، فَتَكُونُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا. (ستن کبریٰ للیھیقی، کتاب الرجعة، دارالفکر بیروت ۱۱/۲۸۲، رقم: ۱۵۵۳۹)

إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً رَجُعِيَّةً، أَوْ تَطْلِيقَتِيْنَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا فِي عَدْتَهَا. (هدایۃ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۴، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۰، زکریا جدید ۱/۵۳۳) فَقَدْ وَاللَّهُ سَجَنَ وَتَعَالَى عَلَمَ كتبہ: شییر احمد قاسمی عننا اللہ عنہ
رَجِعَ الثَّانِي ۱۴۱۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۹۶۱، جمادی اول ۱۴۱۵ھ)

”ہم دونوں بخوشی ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں، لکھنے کا حکم“

سوال [۲۵۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم دونوں فریق میں اور محمد صادق ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لئے اپنی خوشی سے الگ ہو رہے ہیں، ہماری آپس میں کوئی رنجش نہیں، یہ کام ہم خوب سوچ سمجھ کر کر رہے ہیں، ہم دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کا سارا اسماں واپس کر دیا ہے، ہم دونوں فریقوں پر ایک دوسرے کا کوئی لین دین نہیں ہے اور نہ ہمیشہ کے لئے ہمارا ایک دوسرے سے کوئی سمبندھ (تعلق) رہے گا، ہم دونوں اس کا حل斐ہ اقرار کرتے ہیں، یہ اسلام پر اس لئے لکھا کہ کل کو ہم دونوں فریق ایک دوسرے پر کوئی قانونی کارروائی نہ کر سکیں،

اس اسٹا مپ کی دوسری فولو اسٹیٹ کا پی دوسرے فریق کے پاس رہے گی، یہ اقرار نامہ بتاریخ ۱۹۸۷/۱۲/۱۲ء کو عمل میں آیا۔

المستفی: نور محمد، قصبہ باری، محلہ انصاریان، ضلع مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شوہر کی تحریر میں جو الفاظ ہیں کہ ہم دونوں فریق اپنی خوشی سے ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لئے الگ ہو رہے ہیں، اس تحریر میں اگر شوہر طلاق کا ارادہ کر چکا ہے تو اس سے ایک طلاق پائی واقع ہو چکی ہے اور میاں بیوی کا تعلق باقی نہیں ہے۔

ویقع بأنامنک بائین (شرح وقایہ، مکتبہ یاسر ندیم اپنڈ کمپنی دیوبند ۲/۸۳)

لو قال: أنا منك بائین و نوی الطلاق يقع الخ. (عالیٰ مکری، زکریا قدیم

۱/۴۴۳، جدید ۳۷۵) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

لکھنہ: شبیر احمد قاسمی عفی اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۲ھ ربيع الثانی

۱۴۱۲/۳/۶

(۲۶۲۵) الف ۷۲

طلاق کے صریح الفاظ لکھوانے کے بعد کنائی الفاظ لکھوانا

سوال [۶۵۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں خود شہادت ولد مستان عمر تقریباً ۲۵ رسال سا کن کاشی پور ضلع: نینی تال کا ہوں، میری قوم مسلمان ہے؛ چونکہ میرا نکاح مسماۃ شاہدہ بیگم خاتون دختر محمد عبدالحمید عمر تقریباً ۲۰ رسال کے ساتھ اب سے تقریباً ۳ رسال پہلے ہوا تھا اور ہم دونوں فریقین دو تین سال تک میاں بیوی کی طرح رہتے رہے تھے، اس کے بعد میاں بیوی میں آپس میں ان بن ہو گئی، یعنی ٹکراؤ رہنے لگا، جس کا سبب یہ ہوا کہ میری بیوی کو عجیب و غریب قسم کی بیماری ہے، آئے دن دورے پڑتے رہتے ہیں، جس کو محمد عبدالحمید سا کن نواسی محلہ

بمباگھیرام نگروالوں نے اور ان کے ساتھ کے کچھ لوگوں نے نکاح سے پہلے کی اصلاحیت کو میرے سامنے بیان نہیں کیا اور نہ ہی مجھے اس بیماری کے بارے میں معلوم ہوا، اس بات کو لے کر ہم دونوں فریقین میں ناتفاقی ہو گئی ہے اور میں نے اس مسماۃ کو طلاق دیدی ہے اور اپنے ساتھ رکھنے سے بھی صاف منع کر دیا ہے اور اپنے سے علیحدہ کر دیا ہے اور اب ہم دونوں فریقین کا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی یا کسی قسم کا مطلب یا واسطہ نہیں رہا ہے، ہم دونوں فریقین کو اب کچھ بھی کرنے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، دونوں فریقین کچھ بھی کرنے کے لئے آزاد ہیں اور اس میں مجھے کسی قسم کا یا میرے کسی وارث کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی کبھی زندگی میں ہوگا؛ لہذا یہ طلاق نامہ اپنے پورے ہوش و حواس میں بغیر کسی کی زبردستی سے اچھی طرح پڑھ سن کر لکھ دیا ہے تاکہ سند رہے اور وقت پر کام آئے۔ اب میں اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہوں، اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی گنجائش ہو تو بتائیں۔

المستفتی: شہادت حسین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: لفظ طلاق دیدی سے ایک طلاق صریح واقع ہو گئی ہے۔ صریحہ ما استعمل فيه خاصة ولا يحتاج إلى نية وهو أنت طالق، ومطلقة، وطلقتك، وتقع بكل منهما واحدة رجعية. (مجمع الأئمہ، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۱۱)

اور بعد کے تمام الفاظ الفاظ کنایہ میں سے ہیں، ان میں سے اول لفظ (علیحدہ کر دیا) سے اگر نیت طلاق کی تھی تو اس سے ایک طلاق باکن واقع ہو گئی ہے اور طلاق نامہ لکھنا لکھوانا مذکورہ طلاق ہے؛ اس لئے یہ نیت کے قائم مقام ہے اور بعد کے الفاظ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہو گی، وہ سب تاکید ہیں اور چونکہ صریح کنایہ سے ملتی ہے؛ اس لئے مذکورہ صورت میں

دو طلاق بائن واقع ہو گئی ہیں، بل احالہ دوبارہ نکاح کر کے اپنے پاس بیوی بنا کر کھلکھلتا ہے۔
(مستقاد: فتاویٰ دارالعلوم ۲۱۶/۹)

الصريح يلحق الصريح والبائني، والبائني يلحق الصريح لا البائني.

(تنویر الأبصار علی الدر المختار مع الشامي، کراچی ۳۰/۷، زکریا ۴/۴۰، هندیہ
زکریا قدیم ۱/۳۷۷، جدید ۱/۴۵) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

مرتیع الثانی ۱۴۰۹ھ

(فتاویٰ نمبر: الف/۲۲ ۱۴۰۵)

موکل نے ایک طلاق دی اور وکیل نے تین لکھ دی تو کتنی واقع ہوئیں؟

سوال [۶۵۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی اہلیہ کو تیرہ ماہ پہلے گواہوں کے سامنے ایک طلاق دی تھی، اس مجلس میں وکیل صاحب بھی تھے، انہوں نے کہا کہ تین طلاق دو، میں نے کہا میں تو ایک طلاق دوں گا، پھر ایک طلاق دی، اس کے باوجود وکیل صاحب نے تحریر میں تین طلاق لکھ دیا، اس تحریر کو نہ میں نے پڑھا اور نہ ہی وہ تحریر مجھ کو پڑھ کر سنائی گئی اور اسی پروکیل صاحب نے دستخط کرالیا، تو کتنی طلاق واقع ہوئیں اور اب دوبارہ بیوی کو ساتھ رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟

المستفتی: محمد اعجاز، پیرزادہ، گلداری مسجد، مراد آباد

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب وکیل نے پہلے ہی سے تحریر لکھ رکھا ہے، اس کے بعد مجلس میں آپ سے کہا کہ تین طلاق دو تو آپ نے تین طلاق دینے سے انکار کر دیا اور صرف ایک طلاق دینے کی آمادگی ظاہر کی اور ایک ہی طلاق دی ہے، تو ایسی صورت میں بیوی پر صرف ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی ہے اور وکیل نے جو تحریر لکھی ہے وہ تحریر نہ آپ نے پڑھی ہے اور نہ ہی آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، تو محض اس پر دستخط کر دینے کی وجہ سے اس تحریر کے

مطابق طلاق واقع نہیں ہوگی؛ بلکہ جو ایک طلاق زبانی دی ہے، وہی ایک طلاق واقع ہو گئی ہے اور چونکہ تیرہ ماہ کے درمیان بیوی کی عدت بھی پوری ہو گئی ہے؛ اس لئے وہ ایک طلاق باس ہو گئی ہے؛ لہذا اب دوبارہ اس کو رکھنا چاہیں تو بغیر حلالہ کے نکاح کر کے رکھنا جائز ہو گا۔

کل کتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع به الطلاق، إذا لم يقرأنه كتابه. (ہندیہ، زکریا قدیم ۳۷۹/۱، جدید ۴۴۶/۱، شامی، کراچی ۲۴۷-۲۴۶/۳، زکریا ۴/۴۵۶، تاتار خانیہ ۴/۵۳۱، رقم: ۶۸۴۳)

إذا كان الطلاق بائناً دون الشلات فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها. (ہندیہ، زکریا قدیم ۴۷۲/۱، جدید ۳۵۳/۱، هداۃ اشرفی دیوبند ۳۹۹/۲)

ولا يخفی أن الشرط واحد هو كون الطلاق رجعیاً، وهذه شروط کونه رجعیاً متى فقد منها شرط کان بائناً. (شامی، کراچی ۴۰۰/۳، زکریا ۲۶) فقط والله سبحانه وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان متصور پوری غفرله
۱۳۳۵/۳/۱۱

لکتبہ: شبیر احمد قاسمی عفی اللہ عنہ

۱۳۳۵ھ

(فتوى نمبر: الف ۱۳۸۲/۳۰)

وکیل ایک طلاق کی جگہ تین لکھ دے تو کیا حکم ہے؟

سوال [۶۵۳۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد اکرام نے اپنی بیوی سے جھگڑا ہونے کی وجہ سے ایک وکیل سے طلاق نامہ لکھوا�ا، اس سے کہا کہ ایک طلاق لکھدے، اکرام کا کہنا ہے کہ اس سے میرا مقصد طلاق دینا نہیں تھا؛ بلکہ بیوی کو ڈرانا دھمکانا تھا، وکیل نے طلاق نامہ لکھا اور اس میں تین طلاق لکھدیا اور پھر وہ مضمون اکرام کو سنایا، اکرام نے اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کی اور دستخط بھی کر دیئے، پھر اس کو اسی نے بتایا کہ اس سے تو تمہاری بیوی بالکل الگ ہو جائے گی، تو اکرام وہ طلاق نامہ ڈاکخانہ سے واپس لے آیا، تو اب بتائیئے کہ ایسی صورت میں کجب طلاق نامہ ڈاکخانہ

سے واپس لے آیا؛ جبکہ وہ طلاق نامہ لڑکی کے پاس نہیں پہنچا تھا اور اکرام کا مقصد طلاق دینا بھی نہیں تھا، تو اس صورت میں طلاق ہوئی یا نہیں؟

المسنون: محمد بن سعد رضی، چاند پور جامع مسجد، بجنور

بسم اللہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: محمد اکرام نے وکیل کو ایک طلاق لکھنے کا حکم دیا تھا؛ لیکن اس نے تین طلاق لکھیں اور اس کا مضمون محمد اکرام کو سنایا، پھر جب اس پر محمد اکرام نے بلا کسی روک ٹوک کے دستخط کر دیئے تو یہ تین طلاق پر رضامندی کی دلیل ہے، ایسی صورت میں اگر محمد اکرام اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے طلاق لکھنے کا حکم دیا تھا اور پھر طلاق نامہ سننے کے بعد میں نے بخوبی دستخط کئے ہیں، تو محمد اکرام کی بیوی پر تین طلاق واقع ہو چکیں نیت یا عدم نیت کا اعتبار نہیں۔ اب دونوں کے درمیان بلا حللا شرعیہ کے ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔

ولو قال للكاتب: اكتب طلاق امرأتي كان إقراراً بالطلاق وإن لم يكتب ،
ولو استكتب من آخر كتاباً بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذته الزوجة وختمه
وعنونه وبعث به إليها - وقع إن أقر الزوج أنه كتابه . (شامي، زکریا ۴/۴۵۶،
کراجی ۳/۴۶، الفتاوی التاثارخانیة، زکریا ۴/۵۳۱، رقم: ۶۸۴۳، هندیہ، زکریا قدیم

۱/۴۴۶، جدید ۱/۳۷۹) فقط والله سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان مصوّر پوری غفرله
۱/۸ ۱۳۲۲ھ

كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۸ محرم الحرام ۱۳۲۲ھ
(فتوى نمبر: الف ۳۵۰/۱۱۰)

وکیل کا موکل کی نیت کے خلاف طلاق نامہ میں تین طلاق لکھنا

سوال [۶۵۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متبین مسئلہ ذیل

کے بارے میں : کہ آپسی کچھ ناراضگی کی وجہ سے پریشان ہو کر میں نے مقامی قاضی آفس میں جا کر ان سے کہا کہ میں اپنی بیوی کو ”طلاق دینا چاہتا ہوں“، اس وقت میرے ذہن میں ایک طلاق کی بات تھی؛ لیکن قاضی کو صرف اتنا ہی کہا کہ ”میں طلاق دینا چاہتا ہوں“، پھر انہوں نے مجھے کچھ رقم بتا کر کہا کہ آپ ۲۰۱۰ء کو نواسہ آ جائے، متعینہ تاریخ میں نواسہ پہلو نچنے پر قاضی صاحب نے مجھے طلاق نامہ دیا، جوانہوں نے پہلے سے میری شادی اور گھر یلو زندگی سے متعلق تفصیلًا معلوم کر کے تیار کر رکھا تھا، میں نے اپنے ڈنی تناول کی وجہ سے اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہا، میں نے نہ کچھ کہا اور نہ تین طلاق کی بات اپنی زبان سے نکالی اور نہ مجھے اس بات کا علم تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ قاضی صاحب نے اس کے اندر کیا لکھا تھا؟ میں نے اس کو پڑھے بغیر اس پر دستخط کر کے قاضی صاحب کو واپس کر دیا، پھر انہوں نے میری بیوی کی رہائش گاہ پر بذریعہ ڈاک ”طلاق نامہ“ روانہ کر دیا۔ واضح رہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، قاضی صاحب کو ”میں طلاق دینا چاہتا ہوں“ کے علاوہ دوسرا کوئی جملہ نہیں کہا۔

ادھر شیریں کے بیان اور بات چیت سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق نامہ اس کی رہائش گاہ پر پہنچا تو اس نے لفافہ کھول کر بڑے حروف میں صرف طلاق نامہ دیکھ کر اس کو جوں کا توں موڑ کر اپنے گھروں کے حوالہ کر دیا، طلاق نامہ کا مضمون اس نے پڑھا بھی نہیں اور قاضی صاحب کے ذریعہ سے طلاق دینے کا طریقہ اس کو سمجھ میں آیا ہی نہیں، اس واقعہ کے تقریباً دو مہینے پانچ دنوں کے بعد یعنی ۱۸ ار جولائی ۲۰۱۰ء کو میں اپنی بیوی کے یہاں آیا اور دونوں پہلے کی طرح میاں بیوی مانتے ہوئے رہنے لگے، ان دنوں ہمارے کچھ جسمانی تعقات بھی ہوئے؛ اس لئے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک طلاق دینے سے ہمیشہ کے لئے طلاق نہیں ہوتی، چھ سات دنوں کے بعد یعنی ۱۸ ار جولائی ۲۰۱۰ء کو میرے سارے ہو کو معلوم ہونے پر جب انہوں نے اور شیریں کے گھروں نے کہا کہ ”تمہارے درمیان طلاق واقع ہو گئی وہ تمہارے لئے

حرام ہو گئی ہے؛ لہذا تم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، تو ہم دونوں الگ الگ ہو گئے، ۲۰۱۰/۸/۶ کو میں نے بنا پڑھے طلاق نامے پر دستخط کئے تھے اور ۱۰۰۰ روپے کو میں شیریں کے گھر پہنچا اور میاں بیوی کی طرح رہنے لگے اور ہم نے ان دونوں وہ کام کیا جو دنیا میں ہر کوئی میاں بیوی کرتے ہیں، ہماری یہ ملاقات شیریں کی عدت کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہوئی تھی۔ اور میں آج بھی اس کو بیوی کا حق دیتا ہوں اور طلاق نامہ بھینے کے بعد بھی ہمیشہ میں شیریں کا اور اس کے گھروالوں کا خیال رکھتا رہا، ان کی ضرورتیں پوری کرتا رہا۔

ذکورہ بالاصورت میں کیا میری بیوی پر طلاق واقع ہوئی ہے؟، اگر ہوئی ہے تو کس طرح کی کتنی طلاق؟ طلاق ہونے کی صورت میں اگر ہم آپس میں ازدواجی زندگی قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ صحیح اور شرعی رہنمائی فرمائ کر منون مشکور فرمائیں

فتوث: استفتاء کے ساتھ طلاق نامہ کی کاپی مع اردو ترجمہ کے، ہڑکی کا بیان اور میرے

نہ پڑھنے پر دو گواہوں کے بیانات ہم رشتہ ہیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ذکورہ سوال میں چونکہ شوہرنے ایک طلاق کا وکیل بنایا تھا؛ اس نے ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی اور شوہرنے جو بغیر پڑھے طلاق نامہ پر دستخط کر دیئے تھے، جس میں قاضی صاحب نے تین طلاقوں کا حصہ تھیں اس کا اعتبار نہ ہو گا اور شوہرنے عدت کے اندر اندر رجعت بھی کر لی؛ اس نے وہ اب آپس میں میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں؛ لیکن شوہر آئندہ دو ہی طلاق کا مالک ہو گا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمود یڈابھیل ۲۰۱۲/۹، فتاویٰ دارالعلوم)

ولو قال لل كتاب: اكتب طلاق امرأتي كان إقراراً بالطلاق وإن لم يكتب - ولو استكتب من آخر كتاباً بطلاقها وقرأه على الزوج، فأخذته الزوج وختمه وعنونه وبعث به إليها فأتتها، وقع إن أقر الزوج أنه كتابه.

(شامي، زکریا ۴/۴۵۶، کراچی ۳/۲۴۶، تاتار خانیہ، زکریا ۴/۵۳۱، رقم: ۶۸۴۲)

ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۷۹، جدید ۱/۴۴۶)

ولو قال: طلقی نفسک واحدة، فطلقت نفسها ثلاثةً لم يقع شيء في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف و محمد: يقع واحدة. (بدائع الصنائع، زکریا ۳/۱۹۶) **فقط والد سجانه وتعالى علم**

الجواب صحیح:

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان متصور پوری غفران
۱۴۳۳ھ / ۲۸

۳ / رجہادی الثانیہ ۱۴۳۳ھ
(فتاویٰ نمبر: الف ۱۰۷۱۸ / ۳۹)

بیوی کے نام طلاق نامہ ارسال کرنا

سوال [۶۵۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ رفع الدین بن محمد عبد حسین کا عقد زکاح بی بی فرزانہ بنت عبدالرحمن سے ۱۴۳۳ھ اپریل ۱۹۹۲ء تاریخ میں ہوا اور خصتی نہیں ہوئی۔

رفع الدین بن محمد عبد حسین نے اپنی منکوحہ بیوی فرزانہ بنت عبدالرحمن کو تین طلاق کہہ کر دیں کہ بدربیعہ خط اس نے اپنے والد کو مخاطب کر کے لکھا کہ میں نے اس لڑکی کو تین طلاق دیدی ہیں، اس خط کو رفع الدین بجائے اپنے والد کے پاس روانہ کرنے کے اس نے اس خط کو فرزانہ کے والد کے پاس ارسال کر دیا، کیا ایسی صورت میں طلاق واقع ہو گئی کہ نہیں؟ اگر طلاق واقع ہو گئی تو مہر کتنا ادا کرنا ہوگا؛ چونکہ ابھی تک عقد کے بعد رخصتی نہیں ہوئی ہے؟

المستفتی: عبدالرحمن، ڈھمر، پوسٹ: چریا، بانکا (بہار)

باسم سجنانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب رفع الدین نے اپنی بیوی فرزانہ ہی کے بارے میں طلاق لکھا ہے تو وہ طلاق نامہ چاہے اپنے کو دیا ہو یا فرزانہ کے باپ کو ہر صورت میں فرزانہ پر طلاق بائن مغلظہ واقع ہو گئی ہے اور رفع الدین پر نصف مہرا دا کرنا لازم ہوگا۔

عن حماد قال: إذا كتب الرجل إلى امرأته -إلى- أما بعد فأنت طلاق فهـي طلاق، وقال ابن شبرمة: هي طلاق. (مصنف لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده، مؤسسة علوم القرآن بيروت ۹/۵۶۲، رقم: ۴) (۱۸۳۰)

إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طلاق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة، وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب إذا جاءك كتابي، فأنت طلاق، فجاءه الكتاب فقرأته، أو لم تقرأه طلاق. (شامي، كراچی ۳/۲۴۶، زکریاء/۴۵۶، هندیہ، زکریا قدیم ۳۷۸، زکریا جدید ۱/۴۶) فقط واللہ سمجھانے و تعالیٰ علم

الجواب صحیح:
كتبه: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
احقر محمد سلمان مصور پوری غفرلہ
۲۱ رشوآل المکرم ۱۳۱۸ھ
(فونی نمبر: الف ۳۳۱۸/۱۰/۲۱)

بذریعہ خط طلاق دینا

سوال [۶۵۳۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں محمد اعظم ولد محمد حسین قریشی ساکن: کھینو اسر ضلع: راجستان کا ہوں، میری شادی بچپن میں ہوئی تھی اور بلوغ کے بعد خصتی ہوئی اور چار ماہ میرے ساتھ رہی، اس کے بعد میں سعودی عرب چلا گیا، میری عدم موجودگی میں میرے گھر آئی گئی، اسی دوران میرے والدین سے اڑائی جھکڑا ہوا والدہ نے کیس بھر کر اس کے خلاف بھیجی اور والد صاحب نے زبانی مجھ سے کہا، گویا والدین کے کہنے سے میں نے بذریعہ خط متین طلاق تین گواہوں کی موجودگی میں دیدیں اور یہ خط متین بار بھیجا، دوسرا سال میں اور ایک اپنے گھر میں؛ لیکن سرال والے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خط نہیں ملا، گویا تیوں خط غالب ہیں، میں لڑکی کو لانا چاہتا ہوں اور وہ آنا بھی چاہتی ہے، تو دریافت طلب بات یہ ہے کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ واضح رہے کہ لڑکی کے والدین اہل حدیث میں سے ہیں اس کو طلاق

نہیں مانتے؛ اس نے حلالہ کے لئے تیار نہیں ہیں؛ اس نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مل جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں؟

المستفتی: محمد عظم بن محمد حسین قریشی کھنیوا سر، ضلع: چورو (راجستان)
با اسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب آپ نے اپنی بیوی کو طلاق لکھی تو اسی وقت طلاق واقع ہوگئی اور چونکہ تین طلاقوں کا ہے؛ اس نے طلاق مغاظہ واقع ہو گئی۔ اب بغیر حلالہ شرعی کے دوبارہ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا اور جب آپ کے خر حلالہ کے لئے تیار نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ دونوں الگ الگ رہیں؛ کیونکہ حلالہ کے بغیر وہ آپ کے لئے کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہوگی؛ اگرچہ وہ اہل حدیث ہوں اور وہ اپنے لئے جائز سمجھتے ہوں، مگر آپ کے لئے حرام ہے۔

إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأت طلاق فكما كتب هذا يقع
الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة. (شامی، زکریا ۴/۴۵۶، کراچی ۳/۲۴۶)

ہندیہ زکریا قدیم ۱/۳۷۸، جدید ۱/۴۴۶)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحُلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . [البقرہ: ۲۳۰]
وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثبتين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(عالمگیری، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹)

عن عامر الشعبي قال: قلت لفاطمة بنت قيس: حدثني عن طلاقك،
قالت: طلقني زوجي ثلاثةً وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله
صلى الله عليه وسلم. (ابن ماجه شریف، أبواب الطلاق، باب من طلاق ثلاثةً في مجلس

واحد، النسخة الہندیہ ۱۴۵-۱۴۶، دارالسلام رقم: ۲۰۲۴)

عن نافع كان ابن عمر إذا سئل عنمن طلاق ثلاثةً. قال لو طلقت مرة ،

أو مرتين (لكان لك الرجعة) فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم أمرني بهذا فإن طلقتها ثلاثة حرمت حتى تنكح زوجاً غيرك . (بخاري شريف، كتاب الطلاق، باب من قال لامرأته أنت على حرام، النسخة الھندية ۲/۷۹۲، رقم: ۵۰۶۶، ف: ۵۲۶۴) فقط واللہ سبحانه وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان الدعنه
۱۳۲۳ھ رشوان المکرم
(فتویٰ نمبر: الف ۸۱۷۲/۳۷)

بذریعہ خط طلاق دینا

سوال [۶۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری شادی پانچ سال قبل ہوئی تھی اور شروع ہی سے مجھ میں اور بیوی میں نہیں بنی، بالآخر تنگ آ کر میں نے ایک روز قدر سختی کی اور وہ اس کی تاب نہ لا کر میری عدم موجودگی میں کمرہ سے پچیس ہزار روپیہ نقد اور بغیر سلا کپڑا اور زیورات لے کر فرار ہو گئی اور اپنے میکہ پھونچ گئی، اس کی یہ حرکت دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے بذریعہ خط اس کو طلاق دیدی، طلاق کے بعد اس کے گھر والوں نے مجھ پر مقدمہ دائز کر دیا جو ابھی تک چل رہا ہے، اب میں اگر دوسری شادی کرنا چاہوں تو کرسکتا ہوں یا نہیں؛ جبکہ مطلقہ کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم طلاق قبول نہیں کریں گے طلاق نہیں ہوگی اور دوسری شادی بھی ہماری اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، تو کیا شریعت میں یہ اجازت عورت یا اس کے گھر والوں کو دی ہے کہ طلاق قبول کریں گے تو ہوگی ورنہ نہیں اور مرد عورت اور سرال والوں کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا؟ ان تمام حالات میں شرعی اعتبار سے کوئی برائی تو نہیں ہے؟ اور بذریعہ خط دی گئی طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی

روشنی میں مفصل جواب سے مطلع فرمائیں۔

المستفتی: نبیل احمد، قصبہ سواوا، ضلع: بجور (بیوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: خطا اور تحریر کے ذریعہ جو آپ نے طلاق نامہ بھیجا ہے شرعی طور پر اس سے طلاق واقع ہو گئی، طلاق واقع ہونے کے لئے بیوی اور اس کے گھر والوں کو قبول کرنا لازم نہیں ہے؛ لہذا آپ کی بیوی پر طلاق واقع ہو گئی اور عدت کے بعد آپ پر اس کا نان و نفقة بھی واجب نہیں اور نہ آپ کی میاں بیوی کی طرح تعلق قائم رکھنا جائز ہے۔

قال الله تعالى: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. [البقرة: ۲۸]

قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسير هذه الآية إن الزوج قادر على تطليقها، وإذا طلقها فهو قادر على مراجعتها شاءت المرأة أم أبٍ، أما المرأة فلا تقدر على تطليق الزوج، وبعد الطلاق لا تقدر على مراجعة الزوج ولا تقدر أيضاً على أن تمنع الزوج من المراجعة. (تفسير كبرى ۱/۶۰۱)

وللرجال عليهن درجة: قال يطلقها وليس لها من الأمر شيء.

(الدر المنشور للسيوطی، دار الكتب العلمية، بيروت ۱/۴۹)

نیز دوسری شادی کرنے کے لئے بیوی اور سرال والوں سے اجازت لینا ضروری نہیں، ان کی اجازت کے بغیر بھی دوسری شادی کرنا جائز ہے۔ (مستقاد: عزیز الفتاوی ۱/۵۱)

فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احترم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۰/۵/۲۵

لکتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۲۲۷
۱۴۲۰ھ

(فتوى نمبر: اف ۳۲/۲۱۲۸)

”میں نے تم کو رو برو گواہ ان طلاق دیدی،“ لکھی رجسٹری کا حکم

سوال [۶۵۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نکتہ جہاں جس کی شادی ۱۳ ارسال پہلے رئیس احمد ولد اسلام الدین مر حوم سے ہوئی تھی، جو آٹھ ماہ سے اپنے شوہر رئیس سے ناراضگی ہو جانے کی وجہ سے میرے گھر رہ رہی ہے، اب رئیس احمد نے اپنے وکیل انتظار احمد بخنوری کے ذریعہ ایک تحریر بذریعہ رجسٹری بابت طلاق اطلاع دی ہے کہ میں نے تم کو رو برو گواہاں طلاق دیدی۔ اور پھر لکھا ہے کہ تم اپنے اختیار سے عقد ثانی کر سکتی ہو۔ مذکورہ صورت میں نکتہ گل کو طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟

المستفیی: احسان احمد ولد رضوان احمد، الالباعث نئی آبادی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق نامہ میں صاف الفاظ کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ میں نے تم کو رو برو گواہاں طلاق دیدی، اس سے ایک طلاق رجعی پڑگئی ہے اور اس کے بعد جو یہ لکھا ہے کہ تم اپنے اختیار سے عقد ثانی کر سکتی ہو، یہ کناہیے کے الفاظ میں سے ہے، اگر اس کے ذریعہ سے مستقل طلاق کی نیت کی ہے، تو اس سے الگ سے ایک طلاق باس پڑ جائے گی، پھر پہلی طلاق ملأ کرد و طلاق باس پڑ جائیں گی اور اگر اس سے الگ سے طلاق کی نیت نہیں کی ہے؛ بلکہ پہلی طلاق کی وضاحت کے لئے کہا ہے، تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی رکھنے کی گنجائش ہے اور اگر دوسرے لفظ سے طلاق کی نیت کی تھی تو دو طلاق باس ہو گئیں، عدت کے اندر یادوت کے بعد بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح کر کے رہنے کی گنجائش ہے۔

اب شوہر خود فیصلہ کرے گا کہ دوسرے لفظ سے اس نے طلاق کی نیت کی تھی یا نہیں؟

(مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۹/۳۲)

صريحة ما استعمل فيه خاصة ولا يحتاج إلى نية وهو أنت طلاق،
ومطلقة، وطلقتك، وتقع بكل منها واحدة رجعية. (مجمع الأئمہ، دارالكتب)

العلمية بيروت ۲/۱۱

وباب بتغیي الأزواج تقع واحدةً بائنةً إن نواها. (فتاویٰ عالمگیری، زکریا قدیم / ۱ ۳۷۵، جدید / ۴۴۲)

ابتغی الأزواج واحدةً بائنةً إن نواها. (شرح الوقایہ، مکتبہ یاسر ندیم اینڈ کمپنی دیوبند / ۸۷)

الصريح يلحق الصريح والبائن، والبائن يلحق الصريح لا البائن.
(تنویر الأبصار علی الدر المختار مع الشامي، کراچی / ۳۰۷، زکریا / ۴۰، ۵، هندیہ زکریا قدیم / ۳۷۷، جدید / ۴۵)

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان الدعنه
الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۹ ربیعان المعنی ۱۴۲۷ھ
۱۴۲۷/۸/۹
(فتولی نمبر: الف ۹۰۹۲۳۸)

طلاق کا نوٹس سمجھنے سے وقوع طلاق کا حکم

سوال [۶۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نوٹس من جانب: محمد ساجد ولد مرحوم محمد نجمیل، ساکن: محلہ کرسوی، شکلوں کا کنوں، مراد آباد۔

بنام: اسلوب فاطمہ دختر جناب مظاہر حسین، ساکن: پیٹل بستی کوارٹر نمبر ۱۱/۱ را پورروڑ، مراد آباد۔

واضح ہو کہ میرا آپ کے ساتھ نکاح ۲۷ دسمبر ۲۰۰۸ء کو مسلم روانج کے مطابق بالعوض مہر فاطمی معجل بنا دان و دہیز کے ہوا تھا، رخصت ہو کر آپ میرے گھر محلہ کرسوی شکلوں کا کنوں مراد آباد آئیں اور فرائض زوجیت ادا کیں، مہر کی رقم میں نے شب عروی میں ہی ادا کر دی تھی، میں نے آپ کو ہر طرح خوش رکھنے کی کوشش کی؛ لیکن آپ آزاد خیال کی عورت ہیں، بنا تھائے میرے گھر سے غائب ہو جاتی ہیں، کئی کئی دن غائب رہتی ہیں، میرے گھر پر

بھی آپ سے ملنے نئے نئے لڑکے آتے رہتے ہیں، کسی کو آپ رشتے کا بھائی بتاتی ہیں، تو کسی کو چچازاد بھائی بتاتی ہیں، کسی کوماموں زاد بھائی بتاتی ہیں اور ان کے ساتھ باسک پر بیٹھ کر چلی جاتی ہیں۔ گھنٹوں موبائل پر لڑکوں سے اشتملیں بتیں کرتی ہیں، میں نے سیکڑوں مرتبہ خود سنی ہیں، میرے منع کرنے پر میرے ساتھ بد تمیزی کرتی ہیں، کئی مرتبہ میں نے آپ کی ان حرکتوں کی شکایت آپ کے ماں اور باپ سے کی تو انہوں نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا اور الٹا مجھ سے کہا کہ ہماری لڑکی اپنی مرضی کی مالک ہے اور جیسے چاہے گی ویسے رہے گی، وہ پڑھی لکھی گریجو یٹ ہے، تم جاہل گنوار دقیانوی ہو۔ اب موڈرن زمانہ ہے، اگر اپنے ساتھ کے دوستوں سے ملتی ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تم بھی مجھے ہمیشہ جاہل لٹگنوار کہتی ہو اور بے عزت کرتی ہو اور میرے ہاتھ لگانے میں بھی اعتراض کرتی ہو۔ اب حالات اس قدر سنگین ہو گئے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہنا اور شوہر یوں کے روپ میں زندگی گزارنا ممکن ہو گیا ہے، میں نے اپنے والدین و رشتہ داروں اور آپ کے رشتہ داروں کو نیچ میں ڈال کر فیصلے کی کوشش کی؛ لیکن آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔

لہذا میں محمد ساجد ولد محمد جمیل نواسی محلہ کسرول شکلوں کا کنوں ضلع: مراد آباد آپ اسلوب فاطمہ دختر مظاہر حسین نواسی پیتل بستی کوارٹر نمبر ۱۱ ار امپور روڈ تھانہ کٹ گھر مراد آباد کو آج بتاریخ ۲۰/۱/۲۰۱۰ کو طلاق دیتا ہوں / میں محمد ساجد آپ اسلوب فاطمہ دختر مظاہر حسین کو طلاق دیتا ہوں، میں محمد ساجد آپ اسلوب فاطمہ دختر مظاہر حسین کو طلاق دیتا ہوں اور اپنی زوجیت سے الگ کرتا ہوں، آپ اسلوب فاطمہ دختر مظاہر حسین کو طلاق دیتا ہوں اور اپنی زوجیت سے الگ کرتا ہوں، آپ کی عدت کی مدت بتاریخ ۲۰/۱/۲۰۱۰ سے شروع ہوتی ہے تا کید جانیں۔ فقط

المستفتقی: محمد ساجد ولد محمد جمیل نواسی محلہ کسرول شکلوں کا کنوں ضلع: مراد آباد

سوال [۶۵۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ دختر اسلوب فاطمہ کا عقد مسنون ۲۷ دسمبر ۲۰۰۸ء کو بالعوض مہر فاطمی محمد

ساجد ولد محمد جیل مرحوم ساکن شکلوں کا کنوں کسرول مراد آباد کے ساتھ ہوا تھا؛ لیکن حالات ناخوشنگوار ہونے کی بنا پر اسلوب فاطمہ کا وہاں رہنا ناممکن ہو گیا اور اے اکتوبر ۲۰۰۹ء کو وہ اپنے والد کے گھر پیتل گیری مراد آباد پر ہی مقیم ہے، اسی درمیان ۲۳/۰ جنوری ۲۰۱۰ء کو ساجد (اسلوب کے شوہر) نے بذریعہ ڈاک ایک نوٹس کے ذریعہ تین طلاق دینے کی اطلاع دی، میرے بہنوئی محمد کامل صاحب نے اپنے سمدھی جناب حبیب الرحمن ساکن قانون گوئیاں سے جو محمد ساجد کے ماموں ہیں تصدیق کرالی ہے، میں شرعی فتویٰ حاصل کر کے یہ جانا چاہتا ہوں کہ

(۱) کیا طلاق کی تکمیل ہو گئی؟

(۲) عدت کب سے شروع مانی جائے گی؟

(۳) اور مہر فاطمی کی رقم کا حساب کیسے لگایا جائے؟

نوت: طلاق نامہ کی فوٹو کا پیشہ مسلک ہے۔

المسنونتی: مظاہر حسین، والد فاطمہ اسلوب، پیتل گیری مراد آباد

با اسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: حسب تحریر سوال مذکورہ صورت میں شوہر ساجد اگر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس نے طلاق کا نوٹس بھیجا ہے یا اس پر دو گواہ موجود ہیں، تو نوٹس کے مطابق شرعاً اس کی بیوی اسلوب فاطمہ پر تین طلاق مغلظہ ہو گئیں اور جس دن شوہر نے تحریر کیا ہے، اسی دن سے عدت شروع مانی جائے گی اور مہر فاطمی کی مقدار موجودہ اوزان سے ڈیڑھ کلوٹیں گرام نوسولی گرام چاندی ہے، جو دس گرام کے تولہ سے ۱۵۳۰ رملی گرام چاندی بنتی ہے۔ (ستقاد: ایضاح المسائل ۱۲۹-۱۳۰)

ولو استکتب من آخر كتاباً بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذته

الزوج -إلى قوله -وبعث به إليها، فأتتها وقع إن أقر الزوج أنه كتابه. (شامی، کراچی ۳/۴۷، زکریا ۴/۶۴، تاتار خانیہ، زکریا ۴/۳۱، رقم: ۶۸۴، هندیہ، زکریا

قدیم ۱/۳۷۹، جدید ۱/۴۴۶ (۴۴۶)

مبداً العدة بعد الطلاق، والموت على الفور، وتنقضي العدة وإن

جهلت المرأة بهما۔ (الدر المختار مع الشامي، کراچی ۳/۵۲۰، زکریا ۵/۲۰۲، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۸۷، جدید ۱/۴۴۶)

وتلزمها العدة من وقت الكتابة. (شامی، کراچی ۳/۴۶۲، زکریا ۴/۴۵۶،

هنڈیہ، زکریا قدیم ۱/۳۸۷، جدید ۱/۴۴۶)

عن أم سلمة سالت عائشة عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقالت: ثنتا عشرة أوقيية. (أبوداؤد شریف، کتاب النکاح، باب الصداق، النسخة

الهنڈیہ ۱/۲۸۷، رقم: ۲۱۰۵)

وفي النسائي: وذلك خمس مأة درهم. (نسائي شریف، کتاب النکاح،

القسطط في الأصدقة، النسخة الهنڈیہ ۲/۷۲، دارالسلام رقم: ۳۳۴۹) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان الدین

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

رصف المظفر ۱۴۳۱ھ

۱۴۳۱/۲/۲۲

(فتوى نمبر: الف ۹۸۹۹/۳۸)

طلاق نامہ لکھوا کر بھجوانے کا حکم

سوال [۶۵۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مตین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ظہیر عالم کا نکاح شہناز سنبھل کی رہنے والی تھی کسی جھگڑے کی بنا پر کئی باروہ سنبھل رک گئی اور پھر بعد میں آگئی، اس بار جھگڑے میں ظہیر عالم اس کو پھونچا کر چلا آیا اور سوچا کہ کچھ روز وہاں رہے گی تو میں بلا لاؤں گا، لڑکے کے دل میں چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اسی دوران لڑکی نے ایک درخواست دیں میں لگادی مہیلہ تھا نہ میں، ہم وہاں پر پھوپھے تو حاکم نے کہا آپ اسے لیجانا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا فوراً آپ ہمارے ساتھ کر دیجئے، حاکم نے لڑکی سے کہا آپ ان کے ساتھ جاؤ تو لڑکی نے منع کر دیا، پھر ہم مراد آبا دو اپس آگئے، اسی دوران لڑکی نے ایک مقدمہ خرچ کا کر دیا، میں، ہم نے

مرا آباد میں وکیل صاحب سے مشورہ کیا، تو وکیل صاحب نے کہا آپ ایک طلاق نامہ بھیج دیجئے، ہم نے طلاق نامہ بھیج دیا، تو لڑکی نے واپس کر دیا۔ اب لڑکی کہتی ہے، ایسے طلاق نہیں ہوتی ہے وہاں لوگوں نے بتایا۔ نیز واضح رہے کہ طلاق نامہ میں تین طلاق دینے کا تذکرہ ہے اور شوہرنے خوشی سے دستخط کئے ہیں۔

المستفتی: محمد سید ماندوی

بسم اللہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شوہرنے جب طلاق نامہ میں اپنی بیوی کو تین طلاق دینے کا اقرار کیا اور اس پر خوشی دستخط کئے تو بیوی مسماۃ شہناز پر طلاق مغلظہ واقع ہو گئی۔ اب بلاحالہ کے وہ شوہر کے لئے حلال نہ ہو گی۔

رجل استكتب من رجل آخر إلى امرأته كتاباً بطلاقها وقرأه على الزوج، فأخذوه وطواه وختم وكتب في عنوانه وبعث به إلى امرأته فأتاها الكتاب وأقر الزوج أنه كتابه فإن الطلاق يقع عليها. (هندية، كتاب الطلاق، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة قديم زکریا ۱/۳۷۹، جدید ۱/۶۴، شامي، کراچی ۲۴۷/۳، زکریا دیوبند ۴/۴۵۶)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة..... لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. كذا في الهدایة (الفتاوى الهندية، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به زکریا جدید ۱/۵۳۵، قديم ۱/۴۷۳) فقط والحمد لله سبحانہ وتعالیٰ علیم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان مصوّر پوری غفرلہ
۱۴۲۹/۲/۲۳

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۱۴۲۹ھ / ۲۳ ربیع الثانی
(فتویٰ نمبر: الف ۹۵۸۰/۳۸)

مکرہ کی طلاق یا کتابت کا حکم

سوال [۶۵۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شمشاد کی بیوی شیماء کسی ناراضگی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے گھر گئی، ایک ہفتہ کے بعد شمشاد کو پولیس چوکی میں بلوا کر بیوی کے ماں باپ نے کاغذ لکھوا یا، جس میں لکھا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہوں؛ جبکہ نہ اس سے پہلے دی تھی، نہ اس کے بعد، تو کیا طلاق مانی جائے گی یا نہیں؟

- (۱) صرف ایک بار یہ لکھنے پر کہ طلاق دے چکا ہوں، کیا طلاق مانی جائے گی یا نہیں؟
 - (۲) شیماء کے ماں باپ نے شیماء کا نکاح عدت کی مدت سے پہلے یعنی تین حیض سے پہلے ہی کر دیا وسرے شخص کے ساتھ، تو کیا وہ نکاح مانا جائے گا یا نہیں؟
 - (۳) شیماء کے دوسرے شوہر سے دو اولادیں ہیں دوسرا شوہر بھی زندہ ہے، شیماء اپنے پہلے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، اس کے لئے شریعت کا کیا حکم ہے؟
- المستفتی: محمد شمشاد، لائن آزادگر، بدوافی، نینی تال (یوکے)
با سم سجاحہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) پولیس کی طرف سے جبرا کراہ کی حالت میں جو طلاق لکھا ہے اور زبان سے کچھ نہیں کہا ہے، وہ طلاق شرعاً معتبر نہیں، اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی؛ لہذا بیوی شوہر کے نکاح میں بدستور باقی رہی۔

وفي البحر: إن المراد بالإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتبه لا تطلق؛ لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة له هنا، كذا في الخانية. (شامي، كتاب الطلاق، قبيل مطلب في المسائل التي تصح مع الإكراه، زكرياء / ۴۴)

رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان بن فلان، فكتب امرأته فلانة بنت فلان بن فلان طلاق لا تطلق امرأته، كذا في فتاوى قاضي خان. (عالمنگیری، كتاب الطلاق، الفصل السادس في الطلاق

بالكتابه، قدیم زکریا قدیم ۱/۳۷۹، زکریا جدید ۱/۴۶۴)

(۲) شیما کو چونکہ پہلے شوہر سے طلاق ہی نہیں ہوئی ہے؛ اس لئے نکاح بدستور باقی ہے؛ لہذا دوسرے مرد سے نکاح فاسد ہوا اور شیماء کو اس سے علیحدہ ہو جانا چاہئے۔
وأما النکاح الفاسد نحو ما إذا ترو جها في نکاح الغیر، أو عدة الغير.

(تارتا خانیہ قدیم ۴/۷۷، جدید زکریا دیوبند ۴/۷۷، رقم: ۵۵۶۹)

ولو تزوج بمنکوحة الغير وهو لا يعلم أنها منکوحة الغير فوطئها
تجب العدة، وإن كان يعلم أنها منکوحة الغير لا تجب حتى لا يحرم على
الزوج وطؤها. (فتاویٰ عالمگیری قدیم ۱/۲۸۰، جدید زکریا ۱/۳۴۶)

(۳) چونکہ شیماء کے اوپر پہلے شوہر کی طرف سے طلاق ہی واقع نہیں ہوئی ہے؛ اس لئے شیما اعبدستور پہلے شوہر کی بیوی ہے؛ لیکن چونکہ دوسرے مرد کے ساتھ جو ہمستری ہوئی وہ حلال اور جائز سمجھ کر ہوئی ہے؛ اس لئے دوسرے شوہر سے جو اولادیں ہوئی ہیں، ان کا نسب اسی سے ثابت ہوگا؛ البتہ پہلے شوہر کے پاس جانے کے لئے تین ماہواری کے ساتھ عدت گذارنا لازم ہوگا؛ اس لئے کہ دوسرے مرد کے ساتھ جو ہمستری ہوئی وہ حلال سمجھ کر ہوئی ہے، جس کو ولی بالشبہ کہا جاتا ہے، ایسی صورت میں عدت لازم ہوتی ہے اور پہلے شوہر کے پاس رہنے کے لئے دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں؛ اس لئے کہ وہ اسی کی بیوی ہے۔

والنکاح الفاسد بعد الدخول في حق النسب بمنزلة النکاح

الصحيح. (المحيط البرهانی، المجلس العلمي بيروت ۴/۱۶۸)

وتجب العدة بعد الوطء من وقت التفريق ويثبت النسب احتياطاً
بلا دعوة. (در مختار علی رد المحتار، کتاب النکاح، باب المهر، کراجی ۳/۱۳۳، زکریا ۴/۲۷۶-۲۷۷)

وأما النکاح الفاسد فلا حکم له قبل الدخول، وأما بعد الدخول
فيتعلق به أحكام، منها ثبوت النسب (نسب الولد المولود في النکاح

الفاسد). (بدائع الصنائع، كتاب النكاح بباب النكاح الفاسد، زکریا ۲/۶۵۱، عالمگیری، قدیم زکریا ۱/۳۳۰، جدید ۱/۳۹۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

اخضر محمد سلمان متصور پوری غفرانہ

۲۰ روزی قعدہ ۱۴۳۳ھ

۱۴۳۳/۱۱/۲۰

(فتویٰ نمبر: الف/۱۰۸۲۷/۲۰)

ایک طلاق دینے کے بعد طلاق نامہ لکھنا

سوال [۲۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ”میں اکرام اللہ ولدشان اللہی اپنے ہوش و حواس میں اپنی بیوی کا شفہ ناٹر کو طلاق دے رہا ہوں، آج کے بعد میرا اس سے یا اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ اور نہ میری کسی چیز میں کوئی حق رہے گا، نہ میرا آج کے بعد آپس میں کوئی لینادینا رہے گا، میں ان کے بھائیوں اور ماں کی موجودگی میں طلاق دے رہا ہوں“

اب سوال یہ ہے کہ اس تحریری طلاق نامہ کے مطابق میری بیوی پر کتنی طلاق واقع ہوئیں؟ اور جو طلاق دی گئی ہے، وہ اسی تحریر کے ذریعہ دی گئی ہے زبانی کوئی طلاق نہیں دی ہے، مسئلہ کا حل شریعت کی روشنی میں تحریر فرمائیں۔

المستفتی: اکرام اللہی، نواب پورہ، مراد آباد

باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: شوہر اکرام اللہی کا جملہ کہ میں اپنی بیوی کا شفہ ناٹر کو طلاق دے رہا ہوں، طلاق کے بارے میں صریح ہے؛ لہذا اس کی وجہ سے اس کی بیوی پر ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی اور اس کے بعد طلاق نامہ میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، وہ سب شروع میں جو طلاق دی گئی ہے، اس کی وضاحت کے قبیل سے ہے اور طلاق نامہ کے آخر میں بھی جو ہے کہ میں فلاں کو طلاق دے رہا ہوں، وہ پہلی والی طلاق کی قبیل سے ہے؛ اس لئے

مزید کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور عدت کے اندر اندر شوہر کو رجعت کا اختیار ہو گا۔

عن شعبۃ قال: سأَلَتِ الْحُكْمَ وَحَمَادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأُمِّهِ أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، وَنُوْيٌ بِالْأُولَىٰ، قَالَا: هِيَ وَاحِدَةٌ. الْحَدِيثُ (مصنف ابن أبي شيبة، کتاب الطلاق، باب في الرجل يقول لأمرأته اعتقد، اعتقد ما يكون) (مؤسسہ علوم القرآن جدید ۹/۴۵۴، رقم: ۱۸۲۰)

وهو كانت طالق، ومطلقة، وطلقتك تقع واحدة رجعية.

(الفتاوى الهندية، ذکریا قدیم ۱/۳۵۴، جدید ۱/۴۲۲)

فالصريح قوله: أنت طالق، ومطلقة، وطلقتك، فهذا يقع به الطلاق الرجعي. (هدایۃ، کتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق، اشرفی ۳۵۹/۲)

فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عطا اللہ عنہ
۱۴۲۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۵۳۸)

اسٹامپ پسپر پر طلاق لکھ کر بھیجنा

سوال [۶۵۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر شوہرنے دس روپے کے اسٹامپ پسپر پر لکھ کر جس میں دو گواہ کے دخنخ ہوں، اپنی بیوی کو بذریعہ ڈاک طلاق بھیج دی ہو، تو کیا طلاق واقع ہوگئی؟

المستفتی: نواب احمد، محلہ: سرو، امروہہ

بسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مسئولہ صورت میں بیوی پر تحریر میں لکھی گئی طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ اگر ایک طلاق لکھی تھی تو ایک طلاق واقع ہوگئی، اگر دو طلاق رجعی لکھی تھیں تو دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں اور اگر تین طلاق لکھی تھیں تو طلاق مغلظہ واقع ہوگئی

اور اگر مطلق طلاق لکھی ہے، تو ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی۔ اب دیکھ لیا جائے کہ تحریر میں کون سی طلاق لکھی ہے۔

عن علی بن الحکم البنابی قال: سئل الشعبي عن رجل خط طلاق امرأته وسادة. فقال: هو جائز عليه. (مصنف عبد الرزاق، کتاب الطلاق، باب الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها، المجلس العلمي ۶/۴۱، رقم: ۱۱۴۴۰)

كتب الطلاق إن مستبينا على نحو لوح وقع إن نوى، وقيل مطلقاً.

(شامی، کتاب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابة، کراچی ۳/۲۴۶، زکریا ۴/۴۵۶)
إن كانت مستبينة؛ لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا فلا، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى، أو لم ينو. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۷۸)
جديد ۱/۴۴۶) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:
كتبه: شیبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
احترم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۹ ربیع الثانی ۱۴۳۲ھ
۱۴۳۲/۲/۹
(نوتی نمبر: الف ۱۰۳۲۹/۳۹)

بخوشی یا بحالت اکراہ لکھ کر طلاق دینا

سوال [۶۵۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو لکھ کر بخوشی طلاق دی یا کہ شوہر سے زبردستی لکھوا کر طلاق لی گئی، زبردستی کوئی بھی صورت ہو چاہے مکان کے اندر بند کر کے یا کہ بندوق اس کے سامنے کر کے دونوں صورتوں میں شوہر بولنے پر قادر بھی ہے، اس کے باوجود لکھ کر طلاق دے رہا ہے، تو کسی صورت میں طلاق واقع ہو گئی؟ واضح فرق بیان فرمائیں۔

المستفتی: ثناء اللہ، پرتا بگڈمی

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب وبالله التوفيق: اگر بخوشی لکھ کر طلاق دی ہے، تو شرعاً

طلاق ہو جائے گی۔

كتب الطلاق إن مستينا على نحو لوح وقع إن نوى. (شامي، كتاب الطلاق،

مطلوب في الطلاق بالكتابة، ذكرى ۴/۶۴، كراچي ۳/۶۲۴)

اگر زبردستی طلاق لکھوائی ہے اور شوہرنے اپنی زبان سے طلاق کا لفظ نہیں نکالا ہے،
تو شرعاً طلاق واقع نہ ہوگی۔

فلو أكره على أن يكتب طلاق أمرأته فكتب لا تطلق الخ.

(شامي، كتاب الطلاق، قبيل مطلب في المسائل التي تصح مع الإكراه، ذكرى ۴/۴۰،

هكذا في التatars خانية، ذكرى ۴/۳۲، رقم: ۴۵۸، كراچي ۳/۶۲۳، ذكرى ۴/۴۰،

البحر الرائق كوثي ۳/۶۲۴، ذكرى ۳/۲۹، فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۲/ رجدادی آخرۃ ۱۴۱۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۸/۲۷)

نوُسِ طلاق کی شرعی حیثیت

سوال [۶۵۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ ڈیڑھ سال سے بیوی کے لگاتار میکہ میں رکی رہنے اور آنے سے منع کرنے کی
وجہ سے شوہرنے لکھ کر طلاق کا نوُس بتأریخ ۲۰۱۲ء رجولائی ۲۰۱۲ء بذریعہ رجسٹری ڈاک
تأریخ: ۲۰ اگست ۲۰۱۲ء کو بھیجا اور بتاریخ ۲۰۱۲ء کو ہی چار معزز لوگوں کو جو بیوی کی
طرف سے فیصلے کے لئے آئے تھے، طلاق کا نوُس بھیجنے کی بات بتادی اور اس طلاق کے نوُس
کو بتاریخ: ۲۰ اگست ۲۰۱۲ء کو بیوی کے باہر جانے کی روپورٹ ڈاکنے سے لگوا کر مجھے واپس
کرادیا اور اس کے بعد شوہرنے اس طلاق کا نوُس کو اپنے وکیل صاحب کی معرفت ڈاک
سے بھجوایا، جو آج تک واپس نہیں آیا، اس صورت حال میں مندرجہ بالا طلاق طلاق کے نوُس

کی بنیاد پر طلاق مانی جائے گی؟ قرآن و حدیث کی رو سے رہنمائی کرنے کی زحمت فرمائیں۔

المستفتی: نفیس احمد ولد ضیاء اللہ، ساکن: رحمت مگر، مراد آباد

با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب شوہ تحریری طلاق دینے کا خود اقرار کر رہا ہے اور تحریری طور پر طلاق لکھ کر بیوی کے پاس بھیجنے کا بھی اقرار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں تحریری طور پر جتنی طلاق دی ہے، اتنی طلاق تحریر لکھنے کے بعد واقع ہو گئیں، اگر مطلق طلاق لکھا ہے، تعداً دطلاق کچھ بھی نہیں لکھا ہے، یا ایک طلاق لکھا ہے، تو دونوں صورتوں میں ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی ہے، اگر دو طلاق لکھا ہے تو دو طلاق رجعی واقع ہو گئی ہیں؛ لہذا ان صورتوں میں عدت کے اندر اندر رجعت کی گنجائش ہے اور عدت گذرنے کے بعد بغیر حلالہ کے نکاح کرنے کی گنجائش ہے اور اگر تحریر میں تین طلاق لکھا ہے، یا طلاق کے الفاظ تین بار لکھا ہے، تو طلاق مخالفہ واقع ہو کر بیوی شوہر کے لئے قطعی طور پر حرام ہو گئی ہے، آئندہ بلا حلالہ کے دونوں کے درمیان نکاح بھی درست نہ ہوگا۔

ثم إن كتب على الوجه المرسوم ولم يعلقه بشرط بأن كتب أما بعد: يا فلانة أنت طالق وقع الطلاق عقب كتابة لفظ الطلاق بلا فصل لما ذكرنا أن كتابة قوله: أنت طالق على طريق المخاطبة بمنزلة التلفظ بها.

(بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في النوع الثاني من طلاق الكتابة، زكريا ۳۷۴/۱، هندية، قديم ۳۷۸/۱، زكريا جديد ۶/۴۶، خانية على هامش الهندية قديم ۱/۴۷۱)

جديد زكريا ۱/۲۸۷) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفوا اللہ عنہ

۱۴۳۵ھ / شوال المکرم

(فتویٰ نمبر: الف ۵/۳۷۶)

طلاق کا نوٹس بھیجننا

سوال [۶۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے ایک نوٹس وکیل کے ذریعہ اپنی بیوی شمع پر دین کے پاس بھیجا، جس میں یہ لکھا تھا کہ ”میں نے ۹/۸/۸۷ء کو تمہیں طلاق دیدی ہے“، یا ایک مرتبہ لکھا تھا اور پھر اس نوٹس کے بارے میں دوبارہ اطلاع بذریعہ تار迪ٰ کرنا تھا کہ ہم نے تمہیں طلاق دیدی ہے۔ اب تاریخ کے ذریعہ اطلاع دے رہا ہوں، اس کو طلاق دیئے ہوئے اب تقریباً نو ماہ ہو چکے ہیں، ابھی تقریباً ایک ہفتہ پہلے بچے کی ولادت بھی ہوئی ہے، اب میں دوبارہ بیوی کو رکھنا چاہتا ہوں شرعاً کیا شکل اختیار کروں؟ شرعی حکم سے مطلع فرمائیں۔

المسنون: محمد ارشد، مغلپورہ اول، مراد آباد

بسم اللہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مسئلہ مذکورہ میں جو نوٹس بھیجا تھا، اس سے ایک طلاق واقع ہو چکی ہے، دوبارہ جو اطلاع دی ہے، وہ پہلی والی طلاق کی تاکید ہے، اس سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور عدت گذرنے سے وہ باسنہ ہوگئی۔ اب نکاح کے ذریعہ دوبارہ اپنی بیوی بننا کر رکھنا جائز ہے حالہ کی ضرورت نہیں ہے۔

وإذا كان الطلاق بائنا دون الشلات فله أن يتزوجها في العدة،
وبعد انقضائها. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة، اشرفی بدکڈپو
ديوبند/۲، ۳۹۹، هکذا في المهدية، زکریا قدیم /۱، ۴۷۲، جدید /۱، ۵۳۵، هکذا في
التاتار خانیة، زکریا /۵، ۱۴۸، رقم: ۴۰۵) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عنفاللہ عنہ

۱۴۳۱ھ/ جمادی الثانیہ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۳۳، ۵۷۹۶)

ڈاک کے ذریعہ بھیجے گئے طلاق نامہ سے طلاق کا حکم

سوال [۶۵۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں اظہرخاں ولد زاہد خاں میں نے اپنی بیوی شازیہ سلیم ولد سلیم میاں کو شرعی اور قانونی طریقے سے تین گواہوں کے سامنے یہ کہہ کر طلاق دی کہ میں نے شازیہ سلیم کو طلاق دی، طلاق دی، اپنی بیوی کے حق سے آزاد کر دیا۔ آپ کی مہر ۵۰۰۰۰ روپے ہزار میں نے شادی کی رات کو ادا کر دیا ہے، جس کا اظہار سبھی رشتہ داروں کے سامنے کیا، آپ کی عدت کا خرچ منی آڑ پر سے بھیجا جا رہا ہے، آپ کا سارا سامان میرے پاس حفاظت سے ہے آپ اور آپ کے گھروں لے چند لوگوں کی موجودگی میں سامان لے سکتے ہیں اور میری طرف سے بنا یا گیا زیور کپڑا اور باقی سامان جو کہ آپ کے پاس ہے، اسے میرے ہوا لے کر کے رسید حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا سامان واپس لے کر مجھے گواہوں کے سامنے سامان واپسی کی رسید حوالہ کر دیں، آج سے آپ شرعی اور قانونی طور پر میری بیوی نہیں ہیں اور بعد عدت آپ اپنا نکاح جہاں چاہیں کر سکتی ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھ سے آپ کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی آپ حاملہ ہیں، آپ نے جو بھی میرے اور میرے گھروں والوں کے خلاف جھوٹے کیس دائر کر کھے ہیں مہربانی کر کے انہیں خارج کر دیں، یہ طلاق نامہ گواہوں کے سامنے ۱۳/۱۲/۱۴۰۷ء کو تحریر کر ہا ہوں تاکہ سندر ہے، طلاق نامہ کو بذریعہ ڈاک بھیجا جا رہا ہے اور ایک کاپی میرے پاس رہے گی، جناب مفتی صاحب وضاحت کریں کہ ڈاک سے بھیجی گئی طلاق واقع ہو گی یا نہیں؟

المستفتی: اظہرخاں ولد زاہد خاں، لا باغ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہر نے تحریری طور پر اپنی بیوی کو تین

مرتبہ طلاق دیدی ہے اور شوہر زبانی اس کا اقرار کر رہا ہے، تو بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر شوہر کے لئے قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے، اب دونوں کے درمیان رشیۃ نکاح اور میاں بیوی والاعلّق باقی نہیں رہا ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈاہیل ۲۲۵/۱۲)

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثة قبل الدخول بها وقعت عليهما؛ لأن الواقع مصدر محدود؛ لأن معناه طلاقاً ثلاثة. (هداية، كتاب الطلاق، باب الطلاق قبل الدخول، اشرفي بكڈپو دیوبند ۳۷۱/۲)

وأما الطلقات الثلاث فحكمها الأصلي هو زوال الملك وزوال حل المحلية أيضاً حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر، لقوله عزوجل: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره وسواء طلقها ثلاثة متفرقاً أو جملة واحدة. (بدائع الصنائع، زکریا ۲۹۵/۳)

إذا قال لزوجته: أنت طلاق، طلاق، طلاق، طلقت ثلاثة. (الأشباه قدیم ۲۱۹)
وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هنديہ، قدیم زکریا بکڈپو دیوبند ۱/۴۷۳، زکریا جدید ۱/۵۳۵) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۵ھ / ۰۱/۲۰

لکتبہ: شیخ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴۳۵ھ / ۰۱/۲۰

(فتویٰ نمبر: الف ۱۱۶۱/۳۱)

بغیر تحقیق کے دوسرا ملک سے طلاق کر بھیجنے سے طلاق

سوال [۶۵۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع عتیین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اقبال فاطمہ عرف نہیں میری کشور شیم جو کہ قصبہ سیبو ہارہ ساکن کی ہوں قوم شیخ محلہ ملکیان، معین الدین ولد نظیر الدین ساکن قصبہ نہٹور محلہ سادات دربار کے ساتھ

شادی ہوئی، جس کو پندرہ سال ہوئے ہیں، معین الدین ڈھائی سال کے عرصہ سے عرب ملازمت میں گئے ہوئے ہیں، ان کے عزیزوں کو یعنی والدین کو کشور شیم کے بھائیوں سے ملنے میں اعتراض ہوا کہ وہ اپنی بھیرہ سے نہ ملیں، نہ کشور شیم سیبو ہارہ جائے؛ لہذا بھائیوں نے بھی ڈھائی سال کے عرصہ سے بہن سے نہ ملاقات کی نہ بہن سیبو ہارہ آئی۔

اب معین کے عزیزوں نے قسم قسم کے بہتان لگائے اور خطوط میں معین الدین کو لکھنا شروع کر دیا کہ تمہاری بیوی بھائیوں سے برابر ملتی جلتی ہے؛ جبکہ معین عرب میں ہے کوئی غلط یا صحیح کہہ گا وہ ضرور اس پر عمل کر سکتا ہے، لکھنا جو کچھ تھا وہ تو خطوط سے کیا دوسرا ہے ان کے والد عامل ہیں انہوں نے معین پر عمل چلا یا وہ کاری ہو گیا، معین کے جن پر بغیر تحقیق کے معین نے وہاں سے طلاق لکھ کر بھیج دی۔ برائے کرم آپ مجھ کو بذریعہ ڈاک مطلع فرمادیں کہ طلاق ہو گئی یا کچھ گنجائش ہے؟

میں بیوہ عورت ہوں، میرا کوئی وارث نہیں جس کی وجہ سے سخت پریشانی ہے اور تردید ہے کشور شیم سیبو ہارہ کی ہے اس کے چار بچے ہیں، تین بڑے ایک بڑی جو کہ پڑھتے ہیں بڑا لڑکا آٹھویں کلاس میں پڑھتا ہے، بڑی چھٹی کلاس میں ہے، چھوٹا لڑکا دوسرا کلاس میں ہے، سب سے چھوٹا لڑکا دینی تعلیم میں ہے، چاروں بچے دینی تعلیم ہی پڑھتے ہیں، معین کا ایک خط بذریعہ رجسٹری میرے پاس آیا، یہ خط معین نے موئی ختم کیا تھا، ۱۳ اگست ۱۹۸۹ء کو لکھا، دوسرا خط کشور شیم نہThor میں مقیم ہیں وہاں آیا، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ دوسری حکومت سے بغیر اطلاع کے طلاق ہو سکتی یا گنجائش ہے؟ برائے مہربانی مجھنا چیز پر حرم کھا کر آپ فوراً بذریعہ ڈاک مجھ کو اطلاع دیں بڑی مہربانی ہو گی، امید کہ آپ بغور ملا حظفر ما نہیں گے، آپ کی عین نوازش ہو گی پر جب آپ فتوی دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ فقط خدا ذات خاکسرا قبائل فاطمہ عرف نہیں۔

المستفتیہ: اقبال فاطمہ، سیبو ہارہ

باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: دوسری حکومت سے بغیر تحقیق کے طلاق لکھ کر بھیجنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

ولو کتب علی وجہ الرسالة والخطاب کاں یکتب یا فلانة، إذا أتاك كتابي هذا فأنت طلاق طلاقت بوصول الكتاب. (المر المختار، کتاب الطلاق، ملطب فی الطلاق بالكتابة، زکریاء / ۴۵۶، کراچی ۳/۲۴۶)

فیمن کتب كتاباً علی وجہ الرسالة وكتب إذا وصل كتابي إليك، فأنت طلاق.....وقد الطلاق لوجود الشرط، وهو وصول الكتاب إليها. (بدائع الصنائع، کتاب الطلاق، فصل فی النوع الثاني من طلاق الكتابة، زکریاء جدید ۳/۱۷۴، هکذا فی الفتاوى الناتار خانية، زکریاء ۴/۲۹، رقم: ۶۸۳۷) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ علّم

کتبہ: شیبیر احمد قادری عفان الدین عنہ
۱۳۱۰ھ صفر امظفر
(فتاویٰ نمبر: الف/۲۵، ۱۳۳۹)

رجسٹری طلاق نامہ پڑھ کی کے دستخط کرنے سے طلاق کا حکم

سوال [۶۵۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ پڑھ کی نادرہ پروین نے رجسٹری طلاق نامہ بذریعہ ڈاک وصول کر کے رسید پر اپنے دستخط کر کے ڈاکیہ کو دیدیا، پڑھ کی کے والدین محمد حبیب نے رجسٹری ان تین صاحبان جن کے نام حسب ذیل ہیں: عبداللطیف ولد علی، وثکیل احمد ولد محمد سلیم و فقیر محمد ولد رمذان نے ان تینوں کے سامنے کھول کر پڑھ لیا، یہ پنجابی زبان میں لکھی ہوئی ہے، جس کو ادویں کراکر آپ کی خدمت اقدس میں بھیج رہا ہوں، دلیل سے جواب تحریر فرمائیے کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟

گواہ: عبداللطیف، وثکیل احمد، فقیر محمد

المستفتی: محمد حبیب، سا شتری گلر، ملیکوٹ ملہ (پنجاب)

با سمسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مذکورہ طلاق نامہ سے بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے؛ جبکہ شوہراس کے لکھنے یا لکھوانے اور بھینے کا اقراری ہو، اب بلا حلالہ دوبارہ نکاح بھی درست نہ ہوگا۔

ولو استكتب من آخر كتاباً بطلاقها وقرأه على الزوج، فأخذه الزوج وختمه وعنونه وبعث به إليها فأتاها وقع إن أقر الزوج أنه كتابه.

(شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی الطلاق بالكتابه، کراچی ۳/۴۷۲، ذکریا دیوبند ۴/۵۶، مثله فی الفتاوی التاتار خانیة زکریا ۴/۵۳۱، رقم: ۶۸۴۳، وفي الهندية زکریا قدیم ۱/۳۷۹، ۱/۴۶۴، جدید ۱/۳۷۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۲۵ رب رمضان المبارک ۱۴۱۹ھ

(فتوى نمبر: الف / ۳۲ ۵۸۸۹)

احقر محمد سليمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۹/۹/۲۵

کیا طلاق نامہ پڑھے بغیر دستخط کرنے سے طلاق ہو جائے گی؟

سوال [۶۵۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عتین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ حافظ محمد علی کو ایک دن آنت میں درد کا دورہ پڑا، تو تکلیف کی حالت میں اپنے لڑکے محمد یاسین سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو بلا لداہ اور رات کو رکنا مت اور اپنی سرال والوں سے کہنا کہ میری بڑی بھاونج اپنے میکے کل جانے والی ہے؛ چونکہ بھاونج کے والدج کو جارہ ہے ہیں اور میری تکلیف بھی بیان کردیا، محمد یاسین کے سرال والوں نے یاسین کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور نہ ہی محمد یاسین کی بیوی کو بھیجا، محمد یاسین نے ناراضگی کی صورت اختیار کر لی، جب محمد یاسین لوٹ کر گھر آیا تو مجھے (محمد علی) بہت افسوس ہوا اور غصہ آیا اور غصہ کی حالت میں، میں (محمد علی) نے لڑکے سے رشتہ ختم کر دینے کی بات کی اور میں (محمد علی) نے طلاق کا خط کسی دیگر آدمی سے لکھوا کر جس کو میں (محمد علی) نے لکھوا یا کہ میں (محمد یاسین) اپنی بیوی ناصرہ کو سچے دل سے طلاق دیتا ہوں، طلاق دی، میں نے طلاق دی، میں نے

طلاق دی میں نے لکھوا کر لڑکے سے دستخط کرنے کو کہا، تو اس نے ایک دن برابر دستخط نہیں کیا؛ لیکن پھر میرے (محمد علی) سخت ناراض ہونے پر محمد یاسین نے دستخط کر دی، نہ اس نے اس خط کو پڑھا، نہ سننا، نہ بھی تک اس نے طلاق کا لکھا ہی اپنے زبان سے کہا ہے اور نہ ہی اس کو معلوم تھا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، محض باپ کے کہنے پر دستخط کر دیئے، وہ خط جب محمد یاسین کی سر اُل پہنچا تو چند آدمی میرے (محمد علی) کے گھر آئے اور انہوں نے لڑکے سے دریافت کیا، تب لڑکے نے اپنے والد کی ناراضگی کا حوالہ دے کر کہا کہ جو کچھ بھی مجھ سے کرایا ہے میرے والد نے کرایا ہے، اس کے بعد ٹھاکر دوارہ پنجاہیت ہوئی، جس میں لڑکے نے اپنی بیوی کو رکھنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔

المستفتی: محمد یاسین، موضع: رام نگر، کھاکوالا، ٹھاکر دوارہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر محمد یاسین نے طلاق نامہ نہیں لکھا ہے اور نہ ہی اس نے لکھوا ہی ہے، نہ ہی لکھے ہوئے طلاق نامہ کو خود پڑھا ہے اور نہ ہی اسے پڑھوا کر پوری عبارت سنی ہے اور صرف باپ کے کہنے پر دستخط کر دیئے ہیں، تو ایسی صورت میں محمد یاسین کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، نکاح بدستور باقی ہے۔

و كذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق مالم يقر أنه كتابه الخ. (شامي، كتاب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابة، زكرياء / ۴۵۶،

كراچي ۲۴۷/۲، هكذا في الناتارخانية، زكرياء / ۵۳۱، رقم: ۶۸۴۳، هكذا في الهندية،

زكرياء قديم ۳۷۹/۱، جديد ۴۶/۴) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احترم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۲ھ ذی الحجه ۸

۱۴۳۲/۱۲/۵

(فتوى نمبر: الف ۲۹۳۲/۲۸)

الگ کرنے کی نیت سے طلاق نامہ پر دستخط کرنا

سوال [۶۵۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مตین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ارذی الحجہ ۱۴۳۱ھ کو آپ کے دارالافتاء سے ایک فتویٰ ۵۰۵۳/۲ رکھا گیا، جس کے استفتاء میں حقیقت واقعہ کو مخفی رکھ کر اس کے عزیز کو ظاہر کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس استفتاء میں عین واقعہ پر موجود گواہوں کے بیانات کو تحریر کر کے تائیدی و سنجنگی کرائے گئے ہیں، ریاض احمد شادی کے بعد ۱۸ اپریل ۱۹۹۲ء کو عرب گئے اور ۲۷ فروری ۱۹۹۷ء کو واپس آئے جس کی مدت تین سال سے زائد ہوتی ہے نہ کہ ۲۰ دوسال اور چونکہ یہ رشتہ ریاض احمد کے بہنوئی نے طے کیا تھا، اس وجہ سے لڑکی کے والد نے ریاض کے بہنوئی کو رات تقریباً ۸ بجے کے بعد بلا کر کہا کہ جس طرح سے تم نے میری لڑکی کو اس گھر میں پہنچایا ہے، اسی طرح سے ابھی جا کر اس کو واپس لے آؤ اور ان کے پیچھے اپنی بیوی کو ایک عورت کے ہمراہ بھیجا کر وہ اپنے ساتھ لے کر آئیں؛ لیکن اس وقت سر اوالوں نے صبح کو دو گھنٹے کی شرط پر بھیجا قبول کیا اور صبح کو لڑکی میکے آگئی۔ اور یہ طے پایا تھا کہ دن میں بارہ بجے دیور جا کر بھا بھی کو واپس لے آئے گا، حسب وعدہ ۱۲ ار بجے لڑکی نے دیور کا انتظار کیا، جب ایک بجے تک کوئی لینے نہیں آیا تو لڑکی کے والد نے ایک بچے کے ذریعہ واپس کر دیا، اب واپس جانا تھا کہ سر اوالوں نے لڑکی کو مزید ستانہ شروع کر دیا، تو تنگ آ کر اب لڑکی کے والد نے چھوٹی لڑکی کو بھیج کر لڑکی کو بلوالیا، تب سے وہ لڑکی واپس سر اوالوں نہیں گئی؛ کیونکہ وہ نہایت خوف زدہ تھی اور اس گھر میں اپنی جان تک کو غیر محفوظ سمجھتی تھی اور اس کا شوہر ریاض احمد بیوی کو چھوڑ کر اور چھوٹی بہن کو ساتھ لے کر دہلی شادی میں تفریح کے لئے گیا ہوا تھا اور واپس آ کر بھی اس نے بے تعقی کا اظہار کیا، تو لڑکی کے اعزہ سامان لانے کے لئے ریاض کے گھر پر گئے، اس وقت محلہ کے بھی کافی لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے، اس وقت لوگوں نے بہت سمجھا یا اور ریاض کے ایک پڑوئی فاروق صاحب نے کہا کہ تم کچھ وقت ابھی مہلت لے لو اور اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو، اگر دس دن کا بھی وقت لو گے تو لڑکی والوں کو ہم راضی کر لیں گے تمام کوشش

کے بعد ریاض کے والد نے دودن کی مہلت مانگی، تو فاروق بھائی نے کہا کہ آپ نہیں؛ بلکہ ریاض کا معاملہ ہے اگر وہ اپنی زبان سے کہیں تو ٹھیک ہے، مگر بہت کوشش کے باوجود ریاض نے مہلت نہیں مانگی، اس کے بعد سامان جہیز وصول کیا جانے لگا تو وہ تحریر جس کا مضمون تھا ”فریق دوم نے فریق اول کو شرعی طور پر طلاق دے کر اپنی زوجیت سے آزاد کر دیا، اس طرح فریقین کا رشتہ زن و شوہر کا ختم ہو گیا ہے۔“ ہر دو فریق کو اپنی زندگی اپنی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہو گیا ہے، یہ تحریر ریاض کو دستخط کے لئے دی گئی، بڑکی کے پہلے ہی دستخط کرائے جا چکے تھے، اس پر ریاض نے کچھ تو قف کیا مگر پھر اپنے والد کے ایماں پر دستخط کر دیا، اس کے بعد ریاض نے پورے مہر اور عدت کا مکمل خرچ بھی ادا کر دیا اور جب سامان بھی وصول ہو چکا، تو آخر میں کچھ جھگڑے کی نوبت بھی آئی، پھر اگلے دن جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا تب ریاض کے خیرخواہ پڑوسی فاروق بھائی نے ریاض کو گھر بلا یاتا کہ صلح کی اب بھی کوئی صورت نکل سکے، وہاں جمیل ٹھیکیدار اور نثار احمد بھی موجود تھے اور نہایت سکون اور حفاظت کا ماحدول تھا، تو فاروق بھائی نے ریاض سے سوال کیا کہ کل جو آپ نے دستخط کئے تھے کسی دباؤ کی وجہ سے تو نہیں کئے تھے، ریاض نے جواب دیا دباؤ تو تھا، مگر دستخط بھی دل کے ساتھ کئے ہیں، اس کے بعد یہ حضرات ریاض کو محلہ کی مسجد کے امام صاحب مولا ناریاض احمد کے پاس لے گئے وہاں پر بھی ریاض نے اقرار کیا کہ دل میرا کہیں اور تھا تھوڑے ہی دل سے دستخط کئے ہیں، اس کے بعد نثار بھائی بھی وہاں پر پہنچ چکے اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے جو دستخط کئے ہیں وہ علیحدگی اختیار کرنے کی نیت سے کئے ہیں؟ ریاض نے جواب دیا کہ میں نے علیحدگی اختیار کرنے کی نیت سے ہی دستخط کئے ہیں۔

تو اب جواب طلب امر یہ ہے کہ ریاض نے اپنے گھر کے اندر دن کے وقت جبکہ وہاں پر اہل محلہ بھی بڑی تعداد میں موجود تھے اس وقت دستخط کئے اور اس وقت ان کو کسی نے بھی دھمکی وغیرہ نہیں دی، تو ایسے وقت طلاق نامہ پر دستخط کرنے سے طلاق واقع ہو گی یا نہیں؟
 (۲) ریاض نے دل سے طلاق کا اقرار تین مرتبہ کیا، ایک فاروق بھائی کے گھر،

- دوسرے مولانا کے پاس، تیرے نثار بھائی کے جواب میں، ان سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟
 (۳) ریاض کا سامان جبیز واپس کرنا اور مہر وعدت کا خرچ بھی ادا کرنا یہ طلاق واقع کرنا ہے یا نہیں؟
 (۴) اب ریاض کی بیوی کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس کا ازدواجی تعلق ریاض سے کسی قسم کا باقی ہے یا نہیں؟
 (۵) نیزاکراہ اور دباؤ کا تحقیق کب ہوگا؟ اس کے شرائط بھی تحریر فرمائیں۔

المستفتی: محمد فاروق، محمد ریاض، نثار احمد

با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: رذی الحجے ۱۳۱ حکومی واقع سے متعلق ایک فتویٰ لکھوا کر لیا گیا تھا، جس میں سائل نے یہ لکھا تھا کہ شوہر اور شوہر کے باپ پر دباؤ ڈال کر دستخط کرایا گیا ہے اور زبان سے کوئی طلاق نہیں دی ہے، اس فتویٰ کا جواب اسی سوال کے مطابق تھا، مگر دوسرے سوال گواہوں کے دستخط کے ساتھ جو آیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ سوال نامہ سے واضح ہوتا ہے کہ شوہر پر کوئی ایسا داد بانہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے دستخط نہ کرنے پر کوئی خطرہ ہو۔ نیزا اس نے دوسرے لوگوں کے سامنے اقرار کر لیا ہے کہ دل سے دستخط کیا ہے، نیزا اقرار کیا ہے کہ علیحدگی اختیار کرنے کی نیت سے طلاق نامہ پر دستخط کیا ہے، تو ایسی صورت میں بیوی پر طلاق واقع ہو چکی ہے۔

لو استكتب من آخر كتاباً بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذته الزوج
 وختمه وعنونه وبعث به إليها، فأناها وقع إن أقرّ الزوج أنه كتابه، أو قال للرجل:
 بعث به إليها . (شامی، کتاب الطلاق، مطب فی الطلاق بالكتابة، زکریا دیوبند
 ۴۵۶/۴، کراچی ۳۷۹/۲۴۷، هکذا فی الفتاوی التاتار خانیة، زکریا ۴/۵۳۱، رقم: ۶۹۴۳؛
 هکذا فی الہندیۃ، زکریا قدیم ۱/۳۷۹، جدید ۱/۴۴۶) فظوظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

کتبہ: شیعی احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۷ محرم الحرام ۱۴۱۸ھ

(نحوی نمبر: الف ۵۱۲/۳۳)

طلاق نامہ کو لکھوانے اور سن کر اس پر دستخط کرنے سے طلاق کا حکم

سوال [۶۵۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متبین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محترمہ شہنماز پروین یوی جناب ڈاکٹر سلیق احمد قریشی اڑکی جناب افتخار احمد قریشی، محلہ حاجی کا کنوں ملاجھش کی حوالی محلہ اصالت پورہ، مراد آباد، فریق اول، و جناب ڈاکٹر سلیق احمد صاحب قریشی محلہ ۱۰۸ ار سی ار کتابخانہ اصالت پورہ، مراد آباد فریق دوم سوال یہ ہے کہ ہم فریقین کی شادی عرصہ قریب دس سال ہوئے مسلم رسم و رواج کے مطابق ہوئی تھی، شادی کے بعد ہم فریقین بحیثیت میاں یوی کے گذر بسر کرنے لگے، اسی نیچ فریقین کے میل جوں سے ایک اڑکی جس کی عمر سات سال ہے شاذی، ایک اڑکا جس کی عمر ۳ رسال صھیب اختر پیدا ہوا جو کہ فریق دوم کے پاس موجود ہے، شادی کے بعد ہی سے ہم فریقین کے نیچ من مٹا و آئے دن چھوٹی چھوٹی بات پر بھگڑا رہنے لگا، اسی نیچ برادری کے لوگوں نے بھی کافی سمجھایا اور قریبی رشتہ داروں نے بھی سمجھایا؛ لیکن صلح زیادہ نہ رہ سکی کچھ ٹائم کے بعد حالات پھر بگڑ گئے، اسی درمیان ۹۸/۳۳ کو فریق اول اپنی مرضی سے اپنے میکے اپنے دونوں بچوں کو چھوڑ کر چل گئی اور اس نے فریق دوم پر برادری کے لوگوں کے ذریعہ دباؤ ڈالا کہ فریق دوم فریق اول کو طلاق دی دے، تو فریق دوم کافی سوچ سمجھ کر فریق اول کو طلاق دینے و آزاد کرنے پر رضامند ہو گئے؛ لیکن کچھ شرط کے مطابق کہ دونوں بچے فریق دوم کے پاس رہیں گے؛ کیونکہ ان کی پڑھائی لکھائی پروش و متفرق خرچ فریق اول نہیں اٹھا سکتی اور مہر فاطمی ۱۴۲۶ھ تو لہ چاندی جس کی موجودہ قیمت جو فریق دوم چیک نمبر کے ذریعہ ادا کر رہا ہے اور کل جہیز کا سامان زیور وغیرہ جس حالت میں تھا فریق دوم فریق اول کو واپس کر رہا ہے، جو فریق اول نے وصول کر لیا ہے، اسی کے ساتھ فریق دوم نے فریق اول کو

الگ الگ تین بارہم گواہان کی موجودگی میں طلاق، طلاق، کہہ کر اپنے نکاح سے آزاد کر دیا ہے، اور آج سے فریق اول کا فریق دوئم سے ایک دوسرے کا کوئی رشتہ پتی پتی کا باقی نہیں رہا اور آج انہیں شرطوں کے ساتھ دونوں فریقین کو ایک دوسرے کے خلاف آج کی تاریخ سے کوئی عدالتی یا اور کوئی کارروائی کرنے کا اختیار نہ ہوگا؛ لہذا یہ چند کلمات بطور ثبوت دس روپیہ کے اسٹامپ پر ایک دوسرے کو فریقین نے تحریر و تکمیل کر کر دید یہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت پر کام آوے۔

..... فریق اول فریق دوئم

..... گواہ گواہ

یہ اقرار نامہ آج بتاریخ: ۱۱/۶/۹۸ء کو مقام مراد آباد جناب اشرف علی سیفی ایڈ و کیٹ کے ذریعے تحریر و تکمیل کیا گیا، یہ تحریر وکیل نے لکھ کر مجھے سنائی اور میری مرضی سے کہنے سے میری سرال بھیج دی اور ایک کاپی میرے پاس ہے، یہ تحریر میں نے شاہی مسجد میں کئی آدمیوں کے سامنے بیان کے طور پر لکھ دی ہے، جو اصل واقعہ ہے، یہ تحریر میں نے وکیل کے ذریعہ بیوی کو حکمکی دینے کے لئے لکھوائی تھی۔

المستفتی: سلیمان احمد، محمد نعیم، عتیق احمد

با سمسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب وکیل نے شوہر کے حکم اور اس کی مرضی سے لکھا ہے اور لکھنے کے بعد وکیل نے سنایا ہے شوہر نے خود بھی پڑھ لیا ہے، اس کے بعد شوہر کے کہنے پر وکیل نے اس کو بیوی کے پاس روانہ کر دیا ہے اور اس تحریر کے اندر صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ فریق دوئم نے فریق اول کو الگ الگ تین بارہم گواہان کی موجودگی میں طلاق، طلاق، کہہ کر اپنے نکاح سے آزاد کر دیا ہے اور شوہر نے زبانی اور تحریری اس کا اقرار کیا ہے کہ یہ تحریر اس کو سنائی گئی ہے اور اسی کے کہنے کے مطابق وکیل نے بیوی کے پاس روانہ کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں شرعاً شوہر ہی کی تحریر مانی جائے گی اور اس سے طلاق

مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔ اب بلا حلال نکاح کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی۔
 لو استكتب من آخر كتاباً بطلاقها وقرأه على الزوج، فأخذته الزوج
 وختمه وعنونه وبعث به إليها، فأتاهما وقع إن أقر الزوج أنه كتابه، أو قال
 للرجل: أبعث به إليها، أو قال له: أكتب نسخة وابعث بها إليها۔ (شامی،
 کتاب الطلاق، مطب فی الطلاق بالكتابة، ذکریا دیوبند ۴/۴۵۶، کراچی ۳/۴۷، هکذا
 فی الفتاوى الشافعية، ذکریا ۴/۵۳۱، رقم: ۶۸۴۳، هکذا فی الهندية، ذکریا
 قدیم ۱/۳۷۹، جدید ۱/۴۴۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
 كتبه: شیبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
 احریج مسلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۹ ربیع الاول ۱۴۱۹ھ
 (نومی نمبر: الف ۵۶۸۵/۳۳)

اسٹا مپ پسپر پر جبراً انگوٹھا لگوانے سے طلاق کا حکم

سوال [۶۵۵۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
 بارے میں: کہ آپسی ناراضگی کی وجہ سے لڑکی والوں نے زبردستی لڑکے سے سادہ اسٹا مپ
 پر انگوٹھا لگوایا۔

اب دریافت طلب بات یہ ہے کہ صرف انگوٹھا لگوایے سے طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟

المستفتی: محمد عبداللہ، مراد آباد

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر زبان سے طلاق کے لفاظ نہیں کہے ہیں
 اور نہ ہی بخوبی تحریر لکھوائی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔
 (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۹/۱۰۲)

و کذا کل کتاب لم یکتبه بخطه ولم یمله بنفسه لا یقع الطلاق مالم

يقر أنه كتابه. (شامي، كتاب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابة، كراچي ۳/۲۴۷، ۵۳۱/۴، هكذا في التأريخانية، ذكرى ۴/۶۸۴، رقم: ۶۸۴۳، هكذا في الهندية، ذكرى قديم ۱/۳۷۹، جديد ۱/۴۴۶) **فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علّم**
کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفی اللہ عنہ
 ۱۲ جمادی الاولی ۱۴۱۵ھ
 (فتویٰ نمبر: الف/۳۱، ۳۹۹۷/۳۱)

تحریری طور پر طلاق دے کر انکار کرنا

سوال [۶۵۵۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے تقریباً دو سال قبل اپنی بیوی کو تحریری طلاق نامہ دو گواہان دستخط کے لئے کراپنی بیوی کو بھیج دیا اور پھر اس کے بعد کبھی بھی اس کی بیوی سے ملاقات نہیں ہوئی، اب اگر اس کا شوہر طلاق سے انکار کرے تو شرع میں اس کا کیا حکم ہے؟
 تفصیلی جواب سے نوازیں۔

المسئیتی: شیما خاں، بلاڑی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جن گواہان کے دستخط موجود ہیں ان سے معلوم کیا جائے، اگر گواہان اپنے شہادتی دستخط کا اقرار کریں اور شوہر کی طرف سے طلاق نامہ کی شہادت دیدیں تو اب شوہر کا انکار قبل اعتبار نہیں ہے، بیوی پر طلاق واقع ہو چکی ہے، اگر تین طلاق دی گئی ہیں تو طلاق مخالف ہو چکی ہے، بغیر حالہ کے کوئی گناہ نہیں ہے اور دو گواہان کی شہادت کی وجہ سے شوہر کا انکار کوئی اثر نہیں کر سکتا اور گواہوں کی بات پر حکم شرعی جاری ہو گا۔

وماسوی ذلك من الحقوق يقبل فيه رجالن، أو رجال وامرأتان
 سواء كان الحق مالاً أو غير مال مثل النكاح، والعتاق، والطلاق.
 (الجوهرة النيره، کتاب الشهادات، دارالكتاب ديو بند ۹/۳۰، مکتبہ امدادیہ ملتان)

۳۲۶/۲) نقطہ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴۱۳ھ اول ربیع الاول

(فتویٰ نمبر: الف/۲۸، ۳۰۶۷ھ)

الجواب صحیح:

احضر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۳/۳/۱۴

لڑکا طلاق نامہ کا منکر ہو تو کیا حکم ہے؟

سوال [۶۵۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مตین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عارف بن اقبال نے بذریعہ رجسٹری بنام نسرین بنت علیم الدین، بتاریخ ۱۴/۱۱/۲۰۱۸ء کو ایک طلاق نامہ بھیجا، جس میں لڑکے نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ میں نے طلاق نامہ اپنی مرضی سے اور ہوش و حواس کو باقی رکھتے ہوئے لکھا ہے، جب یہ طلاق نامہ لڑکی کے باپ علیم الدین کو موصول ہوا، تو اس نے اس طلاق نامہ کو اپنی برادری لوہار میں رکھا، تو برادری نے طلاق نامہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور لڑکا بھی اس طلاق نامہ کا انکار کرتا ہے؛ لیکن لڑکے کا کے انکار کرنا صرف برادری نے بتایا ہے، لڑکے نے لڑکی والوں کے سامنے اس کا انکار نہیں کیا ہے، نہ ان سے طلاق نامہ کے متعلق کچھ مذاکرہ ہوا ہے اور نکاح نامہ پر اور طلاق نامہ پر لڑکے کے وجود سخت ہیں ان دستخطوں کو محکمہ انکوائری نے ایک دستخط مانا ہے۔ ہم سوال نامہ کے ساتھ طلاق نامہ اور دستخط انکوائری بھی آپ کی خدمت میں ارسال کر رہے ہیں، آپ ہم کو صحیح راہ بتائیں۔

المستفتی: محمد علیم الدین، اگوان مناور، ضلع: دھار (مدھیہ پردیش)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مذکورہ تحریر میں لڑکے کی طرف سے طلاق کے لئے کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے اور لڑکا طلاق نامہ کا انکار کر رہا ہے اور لڑکا جب طلاق نامہ کا انکار کر رہا ہے، تو محض دستخط کے مشابہ ہونے کی وجہ سے طلاق کا حکم نہیں لگے گا اور دستخط کو بھی دیکھ لیا گیا ہے کہ دونوں میں معمولی فرق بھی ہے، ایسی صورت میں لڑکے سے حلفیہ بیان لیا جائے

کہ اس نے طلاق دی تھی یا نہیں اور اس کے حلفیہ بیان کے مطابق شرعی حکم مان لیا جائے اور تحریری طلاق میں طلاق کے واقع ہونے کے لئے یہ لازم ہے کہ شوہر اس بات کا اقرار کرے کہ مذکورہ تحریری اسی کی ہے یا اس کی طرف سے لکھی گئی ہے۔

وَإِنْ لَمْ يُقْرَأْ أَنَّهُ كَتَبَهُ وَلَمْ تَقْمِ بِبِيَّنَةٍ؛ لَكِنَّهُ وَصْفُ الْأَمْرِ عَلَى وَجْهِهِ
لَا تُطْلُقُ قَضَاءً وَلَا دِيَانَةً، وَكَذَا كُلُّ كِتَابٍ لَمْ يَكْتُبْ بِخَطْهُ وَلَمْ يَمْلِهِ بِنَفْسِهِ
لَا يَقُولُ الطَّلاقُ مَالِمٌ يَقُولُ أَنَّهُ كَتَبَهُ۔ (شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی الطلاق بالكتابة،
زکریا ۶/۴۵، کراچی ۳/۴۷، ۲۴۷، هکذا فی الفتاوی التاتار خانیہ، زکریا ۴/۵۳۱، رقم: ۶۸۴۳،

ہمکنا فی الہندیہ، زکریا قدیم ۹/۳۷، ۱/۴۶، جدید ۱/۴۶) **فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم**

الجواب صحیح:

لکتبہ: شیبیر احمد قاسمی عفی اللہ عنہ

۲ رجب المرجب ۱۳۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۹/۳۲۳، ۱۰۷/۳۲۳)

وکیل نے طلاق نامہ لکھا اور شوہر طلاق کا منکر ہے

سوال [۶۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عارضہ محلہ باغ گلاب رائے تھانہ ناگ پھنسی مراد آباد کی باشندہ ہے، عارضہ کا نکاح سمعیں الدین ولد جناب صدر الدین ساکن باغ گلاب رائے تھانہ ناگ پھنسی مراد آباد کے ساتھ عرصہ قریب قریب ۲۰ رسال ہوا مسلم رسم و رواج کے مطابق عمل میں آیا تھا، عارضہ مذکورہ کے سمعیں الدین سے چھ بچے ہیں، پانچ لڑکے و سیع الدین عمر ۱۹ رسال، سلیم الدین عمر ۱۸ رسال، فہیم الدین عمر ۱۶ رسال، شمس الدین عمر ۱۵ رسال، لڑکی شمر جہاں عمر ۱۰ رسال اور لڑکا معین الدین عمر ۹ رسال، پیدا ہوئے، عارضہ کے تعلقات شادی کے بعد سے اس کے شوہر سمعیں الدین کے ساتھ اچھے نہیں رہے؛ لیکن اب کافی عرصہ سے عارضہ اور اس کے شوہر کے تعلقات کافی حد تک خراب ہو گئے اور ان کا ایک ساتھ بھیتیت زوج و شوہر رہنا ممکن ہو گیا؛

لہذا عارضہ نے اپنے شوہر سمیع الدین سے بلاکسی کے شکایت و بہکاوے کے اپنی مرضی سے خوب سمجھ کر طلاق حاصل کر لی ہے، اب عارضہ کا مہر وغیرہ کی بابت باقی رہتا ہے، اگر کوئی قانونی کارروائی کر لیں یا کسی طرح کا مطالبہ سمیع الدین کے خلاف عمل میں لائے گی، تو وہ قطعی غیر قانونی ہو گا اور اس کا کوئی اثر سمیع الدین مذکورہ پر نہیں ہو گا؛ لہذا جناب عالیٰ سے گزارش ہے کہ درخواست عارضہ اور بعد تاریخ ضروری کارروائی کی جاوے۔

نحوٗ: عارضہ کا اپنے شوہر سمیع الدین کی تجوہ و پیشہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، عارضہ انور جہاں زوجہ سمیع الدین ساکن گلاب رائے تھانہ ناگ پھنی مراد آباد مورخہ: ۱۵ افروری ۱۹۹۰ء۔
حلفیہ بیان سمیع الدین: میں خود کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے اور نہ ہی طلاق کے الفاظ میں نے اپنی زبان سے ادا کئے ہیں، وکیل نے اپنی طرف سے مضمون بنایا ہے اور میری اجازت سے بنایا ہے، میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میری بیوی کو طلاق دینے کی نیت نہ تھی؛ بلکہ بیوی کو حقوق کے مطالبہ سے روکنے کے لئے یہ مضمون عمل میں لا یا گیا ہے۔ سمیع الدین - محلہ گلاب رائے، تھانہ ناگ پھنی مراد آباد

المستفتی: محمد سمیع الدین، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر سائل اپنے بیان میں سچا ہے تو مذکورہ تحریرات سے طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، کیونکہ مذکورہ تحریر میں طلاق کا اشارہ نہیں ہے اور نہ ہی نیت طلاق کا کنایہ ہے؛ لہذا دونوں کا ازدواجی تعلق شرعاً برقرار ہے۔

کل کتاب لم یکتبه بخطه ولم یمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم یقر أنه كتابه. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابه زکریا ۴/۴۵۶، الفتاویٰ الشافعیۃ الفصل السادس، یقایع الطلاق بالكتابه، زکریا ۴/۵۳۱، رقم: ۶۸۴۳، هکذا فی الہندیۃ، زکریا قدیم ۱/۴۴۶، جدید ۱/۳۷۹)

فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان الدین عنہ
۱۰ شعبان المظہم ۱۴۳۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۱۹۲۲/۲۶)

بیوی کے طلاق کا انکار کرنے سے طلاق کا حکم

سوال [۶۵۶۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ منور حسین کی شادی شاہجہاں بیگم کے ساتھ ہوئے تقریباً چار سال ہوئے، اس دوران کوئی اولاد نہیں ہوتی، شادی کے بعد ہی سے شاہجہاں بیگم کی اپنے شوہر کے ساتھ نوک جھونک ہوتی رہی، اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کر پائی؛ اس لئے منور حسین نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی۔

- (۱) شوہر کے مطابق اپنی بیوی کو فون پر بھی اور لکھت روپ میں بھی ڈاک کے ذریعہ تین طلاق دے چکے ہیں؛ جبکہ ان کی طلاق کے تین گواہ بھی ہیں، کیا یہ طلاق مانی جائے گی یا نہیں؟
- (۲) طلاق کے بعد حق مہر ۵۰۰/- رہزار روپیہ اور عدت کا خرچ ۵۰۰۰/- رہزار روپیہ بینک چیک ڈاک کے ذریعہ ان کے پاس پہنچا چکے ہیں، اس کے بعد بھی وہ طلاق سے انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اسے طلاق نہیں مانتی۔

المسفتی: منور حسین، آ درش کا لوئی ردر پور، احمد شاہ گور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: حسب تحریر سوال شاہجہاں بیگم پر طلاق مغلظہ واقع ہو کروہ منور حسین کی زوجیت سے خارج ہو چکی ہے اور میاں بیوی دونوں ایک دوسرے پر قطعی طور پر حرام ہو چکے ہیں، بیوی کے طلاق نہ ماننے کا کوئی اعتبار نہیں۔

إِذَا قَالَ لِزَوْجِهِ: أَنْتَ طَالِقٌ، طَالِقٌ، طَالِقٌ طَلَقْتَ ثَلَاثًا۔ (الأشباه

ولو خطب علی وجه الرسالۃ والخطاب..... طلقت بوصول الكتاب.

(شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی الطلاق بالکتابة، کراچی ۳/۲۴۶)

فیمن کتب کتاباً علی وجہ الرسالۃ و کتب إذا وصل کتابی إلیک،
فأنت طلق..... وقع الطلاق لوجود الشرط وهو وصول الكتاب إلیها.

(بدائع الصنائع، کتاب الطلاق، فصل فی النوع الثاني من طلاق الكتابة، زکریا دیوبند

۳/۱۷۴) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفانہ اللہ عنہ

احقر محمد سلیمان منصور پوری غفرلہ

۵ رجب المربج ۱۳۳۲ھ

۱۳۳۲/۷/۵

(فتویٰ نمبر: الف ۱۰۳۵۲/۳۹)

شوہر سے علمی میں طلاق نامہ پر دستخط کروانا

سوال [۶۵۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کرم نے اپنی بیوی عائشہ پر وین کونہ طلاق دی ہے اور نہ طلاق نامہ لکھ کر بھیجا ہے اور نہ کسی سے لکھوا�ا ہے اور لڑکے کو طلاق نامہ کا علم بھی نہیں اور نہ طلاق نامہ لڑکے کو پڑھ کر سنایا گیا اور نہ لڑکے نے پڑھا ہے اور نہ لڑکے کے دل میں طلاق دینے کا ارادہ تھا اور لڑکے کی مرضی بھی نہیں تھی؛ لیکن لڑکے سے علمی میں دستخط کرو اکر طلاق نامہ کو تھانے میں پیش کر دیا گیا؛ لہذا اس صورت میں طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں مدل تحریر فرمائیں، نوازش ہوگی۔

المسنون: محمد کرم علی، لال اسکول مغل پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر سائل اپنے بیان میں سچا ہے اور واقعی مکرم علی نے طلاق نامہ نہیں لکھا ہے اور نہ ہی کسی سے لکھوا�ا ہے اور نہ پڑھا ہے اور نہ ہی کسی سے سنا ہے، تو مکرم علی کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی اور نکاح بدستور باقی ہے۔

وکذا کل کتاب لم یکتبه بخطه ولم یمله بنفسه لا یقع الطلاق
مالم یقر أنه كتابه . (شامي، كتاب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابه، زکریا
دیوبند / ۴۵۶، هکذا فی الشاتار خانیة، زکریا / ۴۳۱، رقم: ۶۸۴۳، وهكذا في
الهنديه، زکریا قدیم / ۳۷۹، جدید / ۴۴۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم

الجواب صحیح:

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۵/ ذی الحجه ۱۴۳۲ھ

(نقوی نمبر: الف ۲۸۱۵/ ۲۹۱۵)

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۲/ ۱۲/ ۵

فرضی طلاق نامہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی

سوال [۶۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ زید اور ہندہ میں جو کہ میاں بیوی ہیں، کسی وجہ سے نہ اتفاقی ہوئی، ہندہ کے
والدین ہندہ کو اپنے گھر لے آئے، اس کے بعد زید ہندہ کو بلا نے گیا، تو اس کے والدین نے
ہندہ کو بھیجنے سے منع کر دیا، ایک سال گذر جانے پر ہندہ کے والدین نے نان و نفقہ کے ادا
کرنے کا دعویٰ کیا حتیٰ کہ دونوں طرف سے مقدمہ قائم ہو گیا، اسی طرح مقدمہ چلتے ہوئے دوسال
گذر گئے، مقدمہ کے دوران وکیل نے عدالت میں بحث کرتے ہوئے کہا کہ میں طلاق
دے چکا اور مہر بھی ادا کر چکا، زید وہاں کھڑا سن رہا ہے، نہ ہی زید سے ان الفاظ کے استعمال
کرنے کی اجازت لی گئی اور نہ ازخود زید نے ان الفاظ کو اپنی زبان سے کہا، اس کے بعد وکیل نے
ایک درخواست لکھی اور درخواست میں اپنی طرف سے یہ تحریر کیا کہ میں طلاق دے چکا ہوں
اور مہر بھی ادا کر چکا ہوں اور جمیز بھی دے چکا ہوں، یہ درخواست نہ زید نے لکھوائی اور نہ ہی
زید کو پڑھ کر سنائی گئی اور زید سے انگوٹھا درخواست پر لگوالیا گیا اور وکیل نے اپنی طرف سے
دو گواہوں کے نام بھی فرضی درج کر دیئے اور زید قسمیہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہ ہی میں نے یہ
درخواست لکھوائی ہے اور نہ ہی مجھکو پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ اور وکیل نے اپنے دعویٰ کو مضبوط

بنانے کی خاطر میر انگوٹھا درخواست پر لگوالیا، تو کیا ہندہ کو طلاق ہوئی یا نہیں؟
 (۲) نیز ہندہ گذشتہ سالوں کے نان و نفقة کی حقدار ہے یا نہیں؟ مفصل و مدل
 جواب سے آگاہ فرمائیں۔

المستفتی: مطلوب احمد، امام مسجد حکمہ کندن پور، مراد آباد
 باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) شوہر کے حلفیہ بیان سے واضح ہوتا ہے کہ شوہرنے نزبانی طلاق دی ہے، اور نہ ہی اس نے طلاق نامہ خود لکھا ہے، اور نہ ہی طلاق نامہ کا املا کرایا ہے اور نہ ہی طلاق نامہ پڑھ کر بخوبی انگوٹھا لگایا ہے اور نہ ہی کسی سے پڑھوایا ہے اور نہ ہی پوری تحریر سن کر انگوٹھا لگایا ہے، تو ایسی صورت میں شرعی طور پر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے؛ لہذا ہندہ کا کاح زید کے ساتھ بدستور باقی ہے۔

کل کتاب لم یکتبه بخطه ولم یمله بنفسه لا یقع الطلاق مالم
 یقر أنه كتابه. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابة، زکریا دیوبند
 ۴/۴۵۶، هکذا فی التاتار خانیة، ذکریا ۴/۳۲۱، رقم: ۴۳۸۶، وهكذا في الهندية،
 ذکریا قدیم ۱/۳۷۹، جدید ۱/۴۴۶)

(۲) شرعی طور پر گذشتہ سالوں کے نان و نفقة کی حقدار ہندہ نہیں ہے اور نہ ہی شوہر پر شرعاً واجب ہے۔

والنفقة لا تصير ديناً—أي إذا لم ينفق عليها، بأن غاب عنها، أو كان حاضراً فامتنع فلا يطالب بها؛ بل تسقط بمضي المدة. (شامی، باب النفقة، مطلب لا تصير النفقة ديناً إلا بالقضاء، أو الرضا، ذکریا دیوبند ۵/۱۱، کراچی ۳/۴۵۹، هدایہ، اشرفی بکڈپو دیوبند ۲/۰۴) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۶/۵/۲۰۱۱م

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
 ۱۶/۱/۲۰۱۱
 (فتاویٰ نمبر: الف ۲۲۰/۲۲)

غیر شوہر کا فرضی طلاق نامہ معتبر نہیں

سوال [۶۵۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں محمود علی کی بیوہ ہوں، میرے دیور مقصود علی عرف ریاست علی سے میرا اور میرے بچوں کا خاندانی جھگڑا چلا آ رہا ہے۔

(۲) میرے شوہر محمود علی ریلوے میں ملازم تھے ریٹائر ہو گئے، ریٹائر ہونے کے بعد میرے شوہر کو تقریباً ایک لاکھ روپیہ ملا، میرے دیور کی نظر ان کے اس روپیہ پر لگی رہتی تھی، میری طرف سے اور میرے بچوں کے طرف سے اٹی سیدھی با تین کرتا تھا اور ان کو گمراہ کرتا رہتا تھا، روپیہ ملنے کے بعد میرے شوہرنے پچاس ہزار روپیہ میل ایم آئی ایس کا کھانا کھلوالیا اور ایک لاکھ چالیس ہزار کا دوسرا مکان خریدا، میرا دیور مکان اور ایم آئی ایس دونوں اپنے نام کرایا دھوکہ بازی سے، کیونکہ وہ کافی عرصہ سے بیمار چل رہے تھے، ہم برابران کا علاج کرتے رہے دیور سے میرا میل نہیں تھا، صرف اس وجہ سے کہ ہر وقت بھائی کے پیسے پر نظر رہتی تھی، بیماری کی حالت میں میرے شوہرنے اپنے بھائی کو بلا یا؛ جبکہ ہم ان سے بالکل نہیں ملنا چاہتے تھے، وہ میرا اور میرے بچوں کا کھلا دشمن ہے، لیکن ان کی بیماری کی وجہ سے بلا یا میرا دیور میرے اور بچوں کے بالکل خلاف کروادیا میرے شوہر سے ہم لوگوں کے کچھ دماغی حالات خراب چل رہے تھے، میرا دیور ایک جھوٹا طلاق نامہ تیار کیا اور اس کو جھوٹا رجسٹری کروایا، جس کا علم نہ مجھے اور نہ میرے بچوں کو اور نہ محلہ والوں کو اور نہ رشتہ داروں کو ہوا، میرے شوہر کا انتقال ریلوے ہسپتال میں ہو گیا، میں اور میرے بچے ہر وقت ان کی خدمت کرتے رہتے تھے، میرے شوہرنے زندگی میں کبھی بھی مجھے طلاق نہیں دی، ان کے مرنے کے بعد قریب ایک مہینہ کے بعد میرے دروازے پر ڈاک آئی، ہم نے واپس کر دی؛ جبکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ طلاق نامہ تھا،

تو آپ بتائیں اس طرح طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟

(۳) جائیداد کس کو ملے گی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مطلوب ہے۔

الْمَسْتَفْتِيَهُ: آمنہ بیگم محلہ مقبرہ اولی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر شوہرنے زندگی میں کوئی طلاق نہیں دی ہے، اور نہ زندگی میں اس کا کوئی ثبوت تھا، تو ایسی صورت میں موت کے بعد یورکا طلاق نامہ دکھلانا اور اس کی شہرت دینا، اگرچہ جستری شدہ ہو طلاق واقع ہونے کے لئے معین نہیں ہے، اس مذکورہ صورت میں طلاق معین نہ ہوگی۔ (مستقاد: فتاویٰ دارالعلوم ۹/۱۲۸)

نیز اگر مرض الموت میں شوہرنے طلاق دے بھی دی ہے، تو ایسی صورت میں طلاق شدہ بیوی شوہر کے ترکہ سے شرعی طور پر محروم نہیں ہوئی ہے؛ اس لئے مرحوم کی ساری جائیداد مرحوم کی بیوی اور بچوں کو مل جائے گی اور اگر مرحوم کا کوئی لڑکا بھی ہے، تو یور کو مرحوم کے ترکہ جائیداد اور رقم وغیرہ میں سے کوئی چیز شرعاً نہیں ملے گی۔

(مستقاد: فتاویٰ دارالعلوم ۹/۱۲۸) فضیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴۳۱ھ / جمادی الاولی

(فتویٰ نمبر: الف/۳۲۵/۲۹)

شوہر کی طرف فرضی طلاق نامہ منسوب کر کے طلاق دلوانا

سوال [۶۵۶۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں محمد سلیم ولد..... میرا نکاح شیع پروین بنت..... سے ہوا تھا، میری بیوی اور میری بھاونج میں کچھ جھگڑا ہوا، اس دوران میں بیوی کے چچانے جہیز کے سامان اور مہر کا پیسہ مجھ سے وصول کر لیا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، دخخط بھی نہیں جانتا، مجھ سے ایک کاغذ پر انگوٹھا لگوالیا، میں نے جہیز کے سامان کی فہرست سمجھ کر انگوٹھا لگا دیا، میں

بخلاف کہتا ہوں میں نے کبھی طلاق نہیں دی ہے اور یہ جو لڑکی کے چچا نے فرضی طلاق نامہ لکھوا یا ہے، اس کی مجھے کچھ خبر نہیں، نہ میں نے طلاق دی ہے اور نہ میں نے کسی سے لکھوا یا ہے اور نہ ہی کسی نے طلاق نامہ لکھ کر مجھے سنایا ہے، سامان جہیز کی واپسی کے وقت مجھ سے ایک تحریر پر انگوٹھا لگوالیا تھا، جس کو میں نے آج تک جہیز کے سامان کا کاغذ سمجھا، آج تقریباً دو مہینے بعد اس کا غذ کی فوٹو کا پی مجھے حاصل ہوئی، میں نے لوگوں سے پڑھوا کر سننا، تو اس میں میری طرف منسوب کر کے تین مرتبہ طلاق لکھا ہوا ہے، اس سے تو میں حیران رہ گیا کہ اس طرح دھوکہ دے کر مجھ سے انگوٹھا لگووالیا تھا اور اس میں جو گواہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کے دستخط ہیں، ہم نے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا ہمیں طلاق کے بارے میں معلوم نہیں، ہم سے یونہی دستخط کرالیا ہے نہ ہی بتایا اور نہ پڑھ کر سنایا، تو کیا ایسی صورت میں جبکہ میاں بیوی میں سے کسی کو طلاق کی خبر نہیں، طلاق واقع ہو سکتی ہے، میں تیریز بخلاف لکھوا رہا ہوں اور جس وقت مجھ سے انگوٹھا لگووالیا ہے، اس وقت ہمارے اور ان کے گھر کے بہت آدمی موجود تھے اور لڑکی کو بھی طلاق نامہ کی خبر نہیں ہے، جو اس کے چچا نے دھوکہ دے کر لکھوا یا ہے۔

المستفتی: محمد سلیمان ندرابچوک، مراد آباد

باسم سجادۃ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر سائل اپنے بیان میں سچا ہے اور اس نے نہ زبانی طلاق دی ہے اور نہ ہی تحریر لکھوا کر طلاق دی ہے اور نہ ہی طلاق نامہ کی تحریر کسی سے پڑھوا کر سننے کے بعد بخوشی طلاق ہی کے لئے دستخط یا انگوٹھا لگایا ہے، تو ایسی صورت میں بیوی پر کسی قسم کی طلاق واقع نہیں ہوئی اور اس طلاق نامہ کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، جس کی تحریر سے شوہر کو کوئی خبر نہیں ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں محمد سلیمان کا نکاح شرع پروین کے ساتھ بدستور باقی ہے، دونوں بلا تردید میاں بیوی کی طرح ساتھ رہ کر زندگی گزار سکتے ہیں۔

وکذا کل کتاب لم یکتبه بخطہ ولم یمله بنفسہ لا یقع الطلاق
مالم یقر أنه كتابه. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابة، زکریا

دیوبند ۴/۴۵۶، هکذا فی التاتار خانیہ، زکریا ۴/۵۳۱، رقم: ۶۸۴۳، هکذا فی
الهنڈیہ، زکریا قدیم ۱/۳۷۹، جدید ۱/۴۴۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۵ جمادی الثانی ۱۴۲۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۲۸۸۹)

سادہ کاغذ پر مختص انگوٹھا لگانے سے طلاق کا حکم

سوال [۶۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بزرگی شادی ہندہ سے ہوئی چند ماہ کے بعد بزرگ نے ہندہ کو تسلیک کرنا و مارنا شروع کر دیا، جب ہندہ کے والدین کو پتہ چلا تو اپنی بیٹی کو اپنے گھر بلا لائے، پھر کچھ دنوں بعد بزرگ نے اپنی سرال آیا تو ہندہ کے والدین نے بھیجنے سے انکار کر دیا اور ہندہ کو انگوٹھا دینے کو کہا اور کاپی پیدا انگوٹھے کے لئے لے آئے، پھر جب اس نے بار بار ہندہ کے والدین و ہندہ سے انگوٹھامانگے کے الفاظ سننے تو محلہ کے دو تین آدمی اور آگئے اسی دوران بزرگ نے کاغذ پر ایک انگوٹھا کے بجائے تین انگوٹھے لگائے اور اسی کاغذ پر ان موجودہ لوگوں نے ہندہ کے بھی تین انگوٹھے لگوائے؛ لیکن بزرگ نے لفظ طلاق منح سے نہیں کہا، پھر اپنے ماموں کے ساتھ گھر چلا آیا، جب کہ اس واقعہ کو پانچ ماہ گذر چکے ہیں، اب ہندہ کے والدین عدت پوری مان کر ہندہ کا نکاح دوسرا جگہ کرنے کو تیار ہیں؛ لیکن بستی والے ان انگوٹھوں کو طلاق نہیں مان رہے ہیں اور دوبارہ سے بزرگ کا بیان چاہتے ہیں؛ جبکہ بزرگ کے گھر پر پتہ چلا کہ بزرگ ہر سے ناراض ہو کر دو ماہ پہلے دہلی چلا گیا، مگر دہلی میں جہاں اس کا مقام تھا تلاش کیا، مگر کچھ پتہ نہیں چلا؛ جبکہ تلاش کرنے والوں میں بزرگ کا ماموں تھا، جو بزرگ کے ساتھ ہندہ کے گھر گیا تھا؛ لیکن ماموں کا بیان تو یہی ہے کہ بزرگ تو اس دن آزاد کر چکا ہے؛ لیکن بزرگ کے ماموں اور وہ موجودہ لوگ سب ان پڑھ اور بے شرع ہیں، جو یہ لوگ انگوٹھے کو ہی طلاق سمجھے ہوئے ہیں اور ہندہ کے والدین اپنی تسلی

کی وجہ سے ہندہ کا نکاح جلد کرنے کو تیار ہیں، ان سب کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتی: اسرار حسین، بیرو، رامپور

بسم اللہ تعالیٰ
بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صرف سادہ کاغذ پر انگوٹھا لگانے سے طلاق واقع نہیں ہوئی؛ جبکہ شوہرنے زبان سے کوئی لفظ طلاق کے لئے نہ نکالا ہو؛ لہذا ہندہ کا نکاح بکر کے ساتھ بدستور باقی ہے، دوسری جگہ ہندہ کا نکاح جائز نہ ہوگا۔

وَكَذَا كُلُّ كِتَابٍ لَمْ يَكْتُبْ بِخُطْهٖ وَلَمْ يَمْلِهِ بِنَفْسِهِ لَا يَقْعُدُ الطَّلاقُ
مَالِمٌ يَقْرَأُهُ كَتَابَهُ۔ (شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی الطلاق بالكتابة، زکریا
دیوبند ۴۵۶/۴، هکذا فی التاتار خانیة، زکریا ۴/۵۳۱، رقم: ۶۸۴۳، هکذا فی
الهنديہ، زکریا قدیم ۱/۳۷۹، جدید ۱/۴۶) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

لکتبہ: شیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفران

۱۴۲۶/۱۰/۱۵

۱۴۲۶/۱۰/۱۵

(فتویٰ نمبر: الف/۳۷۸) (۸۲۱۹/۳۷۸)

دھمکی دے کر خالی اسٹا مپ پر دستخط کروانے سے طلاق

سوال [۶۵۶۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد شفیع نے نو مسلم اڑکی سے شادی کی، شادی کے بعد نو مسلم اڑکی کے رشتہ داروں نے محمد شفیع پر زور دیا کہ پچاس روپیہ کے سر کاری اسٹا مپ پر دستخط کر دو، محمد شفیع نے نو نٹری کے خالی اسٹا مپ پر دستخط کر دیئے، اس کے بعد محمد شفیع کی پہلی بیوی کے میکہ وہ اسٹا مپ بھیج دیا گیا اور یہ بتلا دیا گیا کہ محمد شفیع نے اپنی پہلی بیوی مریم کو طلاق دیدی ہے؛ جبکہ محمد شفیع کا یہ بیان ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ان کے برابر

دھمکی دینے پر میں نے یہ کہا کہ میں تو اس کو چھوڑ آیا ہوں، صورت مذکورہ میں یہ یوں مریم کو طلاق ہوئی کہ نہیں؟ اگر طلاق ہوئی تو کون سی ہوئی؟

المستفتی: نور الدین، پتی بازار، امرتسر (پنجاب)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: دھمکی دے کر اسام پر جو دستخط کرایا گیا ہے، شرعی طور پر شوہر کے حق میں اس کاغذ کا کوئی اعتبار نہ ہو گا اور لفظ چھوڑ آیا ہوں سے، ایک طلاق صریح رجعی واقع ہو گئی ہے؛ اس لئے کہ چھوڑنے کا لفظ یہ یوں کے حق میں طلاق صریح کے لئے مستعمل ہے۔

سرحتک وہ رہا کردم؛ لأنَّه صار صريحاً في العرف (وقوله) رہا
کردم سرحتک یقع به الرجعي۔ (شامي، کتاب الطلاق، باب الکنایات، قبیل مطلب
لا اعتبار بالاعراب هنا، زکریا دیوبندی / ۵۳۰، کراچی ۲۹/۳، فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

كتبه: شیخ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احترم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۹ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ

۱۴۱۸/۳/۲۹

(فتوى نمبر: الف ۵۲۶۷/۳۳)

والد نے بغیر لڑکے کی اجازت کے طلاق نامہ لکھوا یا

سوال [۲۵۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ میرے والد نے کچھری میں جا کر میری جانب سے وکیل سے طلاق نامہ
لکھوا یا؛ حالانکہ مجھے اس طلاق نامہ کے متعلق کچھ خبر نہیں تھی اور نہ ہی میں نے ان کو
اجازت دی تھی، پھر اس طلاق نامہ پر مجھ سے دستخط کروائے گئے، نیز نہ میں نے اس
طلاق نامہ کو پڑھا اور نہ کسی سے سننا اور یہ سمجھ کر دستخط کر دیئے کہ یہ دستخط میرے چیز سے
متعلق کرائے جا رہے ہیں۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس طرح والد صاحب کا وکیل

سے طلاق نامہ لکھوا کر مجھ سے دستخط کروانے سے میری بیوی پر طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ جبکہ اس پر میں بالکل راضی نہیں ہوں۔

المستفتی: محمد شمشاد، محلہ: کٹار شہید، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر آپ نے طلاق نامہ بخوبی نہیں لکھوا یا ہے، اور نہ ہی آپ کو طلاق نامہ پڑھ کر سنایا گیا ہے اور نہ ہی آپ نے طلاق نامہ سمجھ کر دستخط کیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے والد کا وکیل کے ذریعہ طلاق نامہ لکھوانا شرعاً طلاق واقع ہونے کے لئے معترض نہیں ہے؛ اس لئے طلاق واقع نہ ہوگی اور نکاح بدستور باقی ہے۔

وکذا کل کتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق مالم يقرّ أنه كتابه. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابه، زکریا دیوبند ۴۵۶/۴، کراچی ۲۴۷/۳، تاتار خانیہ، کتاب الطلاق، الفصل السادس، إيقاع الطلاق بالكتابه، جدید زکریا ۴/۵۳۱، رقم: ۶۸۴۳، کراچی ۲۴۷/۳، هکذا فی الہندیہ، زکریا قدیم ۳۷۹/۱، جدید ۴۴۶/۱) فنظ و اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۱۲/۲/۲۸

ررقج الشانی ۱۳۱۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۶۰ ۲۷)

طلاق نامہ دینے سے طلاق کا حکم

سوال [۷۰-۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری پوتی آفرین قریشی ولد محمد شیم قریشی، مراد آباد کی شادی اعجاز ولدانور ساکن A و مگ فیلیٹ نمبر ۱۰۲ ارشتمیل گر بلڈنگ میرا روڈ ممبئی کے ساتھ ہوئی تھی، قریب تین

مہینہ بعد میاں بیوی کے درمیان تکرار کے بعد میری پوتی آفرین کو خالی ہاتھ مار پیٹ کر اپنے گھر سے نکال دیا ہے، بعد میں ایک طلاق نامہ بھیج دیا، جس میں تین طلاق مغلفظ دے کر اپنی زوجیت سے الگ کر دیا، پھر ہم نے اس پر مقدمہ کر دیا ہے۔ اب وہ ہم کو خبر بھیج رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی صرف کاغذ پر دستخط کئے ہیں اور وہ میری پوتی آفرین کو واپس بلا ناچاہتا ہے۔ ان حالات میں میری پوتی کو طلاق ہو گئی یا نہیں؟ اس کے بعد سے میری پوتی اپنے والدین کے ساتھ مراد آباد ہی میں رہتی ہے۔

المستفتی: عبدالقیوم، اصلاحت پورہ، مراد آباد

بسم اللہ سجادہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر اعجاز علی انصاری ن محمدہ دار القضاۓ سے طلاق نامہ لکھوایا ہے اور اس طلاق نامہ پر بلا کسی جبرا کراہ کے اپنے اختیار سے دستخط کئے ہیں، تو طلاق نامہ کے مطابق اعجاز علی انصاری کی بیوی آفرین پر طلاق مغلفظ واقع ہو چکی ہے۔ اب بیوی شوہر پر قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے اور طلاق واقع ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ طلاق نامہ لکھو کر اس کے اوپر بخوبی دستخط کر دیں، ایسی صورت میں زبان سے طلاق کے الفاظ استعمال کرنے لازم نہیں۔

ولو استكتب من آخر كتاباً بطلاقها وقرأه على الزوج، فأخذه الزوج وختمه، وعنونه وبعث به إلىها فأتاهما وقع إن أقر أنه كتابه.
 (شامی، کتاب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابة، کراچی ۳/۴۷، زکریا ۴/۴۵۶، هکذا فی التاتار خانیة، زکریا دیوبند ۴/۳۱، ۴/۳۱، رقم: ۶۸۴۳، هکذا فی الہندیۃ، زکریا قدیم ۳/۳۷۹، جدید ۱/۴۴۶)

أرسل الطلاق بـأأن كتب أما بعد: فأنت طلاق، فـكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمـه العدة من وقت الكتابة. (ہندیۃ، کتاب الطلاق الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، قدیم زکریا ۱/۳۷۸، جدید زکریا ۱/۴۴۶)

ولو كتب آخر أو أمر غيره أن يكتب نسخة ولم يمله، فأنها
الكتاب طلقت تطليقتين في القضاء إذا أقر أنه كتابه، أو قامت عليه بینة.

(تاتارخانیہ، کتاب الطلاق، الفصل السادس ایقاض الطلاق بالكتاب، قدیم ۳۷۹/۳)

جديد، ذکریا ۴/۵۳۱، رقم: ۶۸۴، هکذا فی الہندیہ، ذکریا قدیم ۱/۳۷۹، جدید

۱/۴۶) فقط واللہ سمجھانے و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۲۳۱/۱۳۳۱ رجب المرجب ام

(فتوى نمبر: الف ۳۹/۱۰۱۳۲)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان مصوّر پوری غفرله

۱۳۳۱/۷/۲۳

طلاق نامہ لکھوا کرو والد کو دینے سے طلاق کا حکم

سوال [۱۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کے بارے میں اپنے والد کو تحریری طور پر یہ لکھ کر دیا کہ میں
اپنی بیوی حنا کو طلاق، طلاق، طلاق، دیتا ہوں اور دستخط کر کے تاریخ ۱۲ مئی ۲۰۰۳ء۔
کیا اس طرح تحریری طور پر اپنے والد کو لکھنے سے طلاق ہو جائے گی؟ باپ نے اس
بات کو اپنے گھر میں بھائیوں کے سامنے ظاہر کر دی ہے، مگر لڑکی کے والدین کو باخبر اس لئے
نہیں کیا کہ لڑکی والے زوردار ہیں، جھگڑے کا اندیشہ ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہئے؟

المستفتی: حاجی عاشق قریشی، ملکوگلی ہاجن، آگرہ

با سمہ سمجھانے تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تحریری طلاق زبانی طلاق کی طرح ہے یعنی
جس طرح زبانی طلاق دینے سے طلاق پڑ جاتی ہے، اسی طرح تحریر اطلاق واقع ہو جاتی ہے،
لہذا مذکورہ صورت میں زید کی بیوی پر تین طلاق مغلظہ واقع ہو گئیں اور وہ اس پر بالکل حرام
ہو گئی۔ اب بغیر حلالہ شرعیہ کے اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہ ہو گا۔

وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينوه، ثم المرسومة لا تخلو
أما إن أرسل الطلاق بأن كتب، أما بعد: فأنت طالق فكما كتب هذا يقع
الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة. (شامي، كتاب الطلاق، مطلب في الطلاق

بالكتاب، ذكرها ديو بند ۴۵۶/۳، كراچی ۲۴/۳)

وإن كانت الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل، ثم يطلقها، أو يموت عنها.
(المسنون، كتاب الطلاق، الباب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به،

جديد ۱/۵۳۵، قديم ۱/۴۷۳)

ولو قال: لزوجته أنت طالق، طالق، طالق طلقت ثلاثة. (الأشباه
والنظائر قديم ۲۱۹) فقط والسبحانه وتعالى عالم

كتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۲۰ ربیع الثانی ۱۴۲۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۷۳۰/۳۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۵/۳/۲۰

دھمکی دے کر طلاق نامہ لکھوانے سے طلاق کا حکم

سوال [۶۵۷۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ میں محمود علی ولد شبیر علی محلہ دولت باغ گلی نمبر ۷ مراد آباد، میری شادی
ڈیڑھ سال قبل ہوئی تھی، لڑکی کچھ دن بعد اپنے میکہ میں رک گئی مطالبه یہ تھا کہ آدھا مکان
میرے نام کردو، میں نے یہ نہیں کیا، تو لڑکی کے گھروں والوں نے اس کو روک لیا اور طلاق
ماگنگ رہے ہیں، میں طلاق نہیں دوں گا، ایک دن میں ادھر سے گذر رہا تھا تو مجھے روک کر
گھر لے گئے اور بہت مارا اور پستول میرے سر پر رکھ کر مجھ سے ایک کاغذ پر لکھوایا تو کیا
اس طرح طلاق ہو جاتی ہے؟

المستفتی: محمود علی، دولت باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر آپ کو مارکار ورد ہمکی دے کر طلاق لکھوا لیا ہے، اور آپ نے اپنی زبان سے نہیں کہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی بیوی پر اس تحریر کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، وہ بدستور آپ کی بیوی ہے۔

أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق أمراته، فكتب لا تطلق؛ لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا. (شامي، كتاب الطلاق، قبيل مطلب في المسائل التي تصح مع الإكراه، ذكرى ۴۰، ۴۴، كراچی ۲۳۵/۳)

وفي فتاوى أهل سمر قند: إذا أكره الرجل بالضرب، والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فكتب، فلانة طالق لا تطلق. (الفتاوى التاتار خانية، ذكرى ۶۸، رقم: ۴۵، رقم: ۴۲، ۵۳۲، رقماً ۶۸) فقط للسبحانه ولتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان متصور پوری غفران
۱۳۱۹/۲/۱۳

كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۳۱۹ھ

(فتوى نمبر: الف ۵۶۳۲، ۳۳)

طلاق نامہ لکھوانے سے وقوع طلاق کا حکم

سوال [۶۵۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری شادی (نکاح) ۲۷ دسمبر ۲۰۰۸ء کو اسلوب فاطمہ بنت مظاہر حسین، محلہ: پیٹل ہستی سے ہوا تھا، کچھ دن بعد سے اختلاف شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر چل گئی، میں نے لڑکی کے عزیزوں سے یہ کہہ دیا کہ بزرگوں کے درمیان بیٹھ کر مسئلہ کو سمجھیں اور اس کو حل کریں؛ لیکن انہوں نے بات نہیں کی اور ایک مہینے کے بعد میرے اوپر دعویٰ عدالت میں داخل کر دیا، اس کے بعد پنچاہیت ہوئی، اس میں یہ طے ہوا کہ لڑکی کی جانب سے مقدمہ واپس لیا جائے اور لڑکے والے اسے واپس سرمال لے جائیں گے، مگر

اس کے دس دن بعد لڑکی کے والد نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے مقدمہ کر دیا، تو آپ بھاگے پھر رہے ہیں اور مجھے آپ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے باوجود سمجھانے کے وہ نہیں مانے، اس کے بعد مجبوراً مجھے وکیل سے صلاح لینی پڑی، میرے وکیل نے طلاق کا نوٹس دیدیا اور کہا کہ اس سے طلاق نہیں ہوتی؛ بلکہ یہ مقدمہ کی کارروائی کا ایک طریقہ ہے اور مجھ سے نوٹس پر دستخط کرا لئے اور کہا کہ یہ نوٹس لڑکی کو تعییل کر دیں، میرا طلاق کا ارادہ نہ پہلے تھا نہ اب ہے، یہ نوٹس میرے وکیل نے میرے بچاؤ کے لئے دیا ہے، میں نے نہ کسی گواہ کے سامنے طلاق دی ہے، نہ میرا ایسا کوئی ارادہ ہے لڑکی تقریباً چھ ماہ کے حمل سے ہے، نوٹس ۲۱ رجبوری کو دیا ہے، جس میں وکیل نے تین طلاق کا ذکر کیا ہے، برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب سے مطلع فرمائیں۔

المستفتی: محمد ساجد ولد محمد جبیل مرحوم، کسرول، شکلوں کا کنوں، مراد آباد

باسم سجادہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: بذریعہ وکیل ہندی میں جو طلاق نامہ لکھوا یا گیا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ شوہر کی طرف وہ ساری باتیں وکیل نے اپنی طرف سے لکھی ہوں؛ جب تک کہ شوہر بیٹھ کر وکیل کو نوٹ نہ کر دے، اس وقت تک یہ ساری اندورنی باتیں وکیل نہیں لکھ سکتا۔

بہر حال اس کے باوجود طلاق کی نیت کے بغیر ڈرانے دھمکانے کی غرض سے ہی طلاق نامہ لکھوا یا گیا ہو اور پھر لڑکے کے دستخط کے ساتھ وہ طلاق نامہ لڑکی کو پہونچ گیا ہو اور لڑکا اس بات کا اقرار کر رہا ہو کہ وکیل کو طلاق نامہ لکھنے کی اجازت دی ہے، اس کے بعد طلاق نامہ پر اس نے خود دستخط کیا ہے، تو اتنی بات سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور بغیر نیت کے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور طلاق کے واقع ہونے کے لئے شہادت اور گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے؛ لہذا بغیر حلالہ کے جانبین میں نکاح بھی درست نہیں ہو گا۔

ولا يحتاج إلى النية في المستبين المرسوم ولا يصدق في القضاء أنه
عنى تجربة الخط. (شامي، كتاب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابة، کراچی
زکریا ۴/۲۴۷، ۴۵۶/۳)

لو كتب كتاباً في قرطاس وكان فيه إذا أتاك كتابي هذا فأنت طلاق،
فننسخه في كتاب آخر، أو أمر غيره أن يكتب نسخة ولم يمل هو فأناها
الكتاب طلقت تطلقتين في القضاء إذا أقر أنهما كتابان، أو قامت عليه بینة.
(تاتارخانية، كتاب الطلاق، الفصل السادس في إيقاع الطلاق بالكتابة، جدید
زکریا ۴/۵۳۱، رقم: ۶۸۴۱، قدیم ۳/۳۷۹، شامي، كتاب الطلاق، مطلب في الطلاق
بالكتابة، کراچی ۳/۲۴۷، زکریا ۴/۴۵۶)

ولو قال للكاتب: اكتب طلاق امرأتي كان إقرار بالطلاق وإن لم
يكتب. (شامي، كتاب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابة، کراچی ۳/۲۴۷،
زکریا ۴/۲۵۶) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

ہجری ۱۴۳۱ھ / اول ربیع

(فتویٰ نمبر: الف ۳۸/۹۹۶۲)

طلاق نامہ لکھنے سے طلاق کا حکم

سوال [۶۵۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متبین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ ہندی میں لکھے طلاق نامہ کی مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھ کر زید نے
اب سے ڈھائی ماہ قبل دوبارہ سختخط کئے، پہلے ۵ رجولائی ۲۰۰۲ء کو پھیکی نیلی بالپنسل سے
(یہ سختخط زیادہ نمایاں نہیں تھے) پھیکی روشنائی کی وجہ سے ایک ہفتہ بعد ۱۲ رجولائی ۲۰۰۲ء کو
کالی رنالڈ پنسل سے دوبارہ سختخط کئے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ابھی روک دو مناسب
وقت پڑا کہ سے روانہ کر دینا زیاد کا اب یہ کہنا ہے کہ میں نے سختخط طلاق دیئے کی نیت

سے نہیں کئے تھے بس میں نے تو ایک کاغذ سمجھ کر کئے تھے اور مزید یہ کہ زید نے اپنی زبان سے ایک بھی حرف طلاق دینے کا دانہ بیس کیا ہے

طلاق نامہ کی عبارت مندرجہ ذیل ہے

زید کی جانب سے خوب سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ کو (اہلیہ کو) مسلم قانون کے مطابق طلاق دے کر اپنی زوجیت سے آزاد کر دے: الہدایہ میں ۳/رجولائی ۲۰۰۲ء کو یہ لکھت تحریری طلاق نامہ سے مطلع کرتا ہوں (روانہ کرتا ہو) اس طلاق نامہ کے ذریعہ بھی میں آپ کو لکھت تحریری طلاق دیتا ہوں۔ ۳/رجولائی سے آپ کی عدت شروع ہو چکی ہے، تین ماہ کی عدت کا خرچ ۱۵۰۰ روپیہ اور مہر کے ۵۰۰ روپیہ کل ۲۰۰۰ روپیہ بذریعہ منی آڈر ارسال کئے جاتے ہیں۔

تا حال طلاق نامہ کی تحریر ڈاک سے روانہ نہیں کی جاسکی ہے اور نہ ہی ۳۰۰۰ روپیے کامنی آرڈر روانہ کیا ہے، ان تمام مذکورہ بالتحریر اور تفصیل کے بعد دریافت طلب امر یہ ہے کہ طلاق ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوئی تو کون سی ہوئی؟

المستفتی: حاجی حسین، دولہاپور، ٹانڈہ افضل، شاکر دوارہ، مراد آباد

با سمسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: طلاق نامہ کی جو عبارت سوال نامہ میں موجود ہے، اگر شوہر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ تحریر اسی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے یا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ سرے سے لکھوانے کے بعد اس کوں کر بخوشی اس پر دستخط کر دیا ہے؛ لیکن اس کو ابھی روانہ نہیں کیا ہے اور اب وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ تحریر اس نے خود لکھی ہے یا دوسرے سے لکھوانے کے بعد بخوشی اس پر دستخط کیا ہے چاہے اس کی نیت کچھ بھی ہوا گروہ اقرار کرتا ہے، تو اس کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی بیوی کے پاس نہ منی آرڈر پہوچنا شرط ہے، نہ طلاق نامہ پہوچنا شرط ہے۔ بہر صورت طلاق

مغلظہ واقع ہو گئی۔ (مستفاد: امداد الفتاوی ۳۸۶/۲، محمود یز ۱۳۵/۲)

ولو قال للكاتب اكتب طلاق امرأتي كان إقرار بالطلاق وإن لم يكتب (إلى قوله) وقع إن أقر الزوج أنه كتابه. (شامي، كتاب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابة، كراچی ۴/۶، زکریا ۴/۴۷، ۲۴۷) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

کتاب: احرار جب المجب ۱۳۲۳ھ

(فتوى نمبر: الف ۵۷/۳۶، ۷۷/۵۷)

الجواب صحیح:

احترم مسلمان منصور پوری غفرله

۱۳۲۳/۷/۱۷

زبردستی طلاق نامہ لکھوانا

سوال [۶۵۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص کی شادی ہوئی اور اڑکی دو مرتبہ سوال گئی اور اس کا شوہر معاش کے لئے ڈیڑھ دو سال کے لئے باہر چلا گیا، پھر شوہر آیا اور اڑکی کو لینے کے لئے میکہ گیا، مگر والے راضی تھے کہ بھیجا جائے گا؛ لیکن اڑکی کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی اگر تم لوگ بھیجو گے تو میں زہر کھا کر مرجاؤں گی اور اڑکا کہہ رہا تھا کہ میں طلاق دینے کے لئے تیار نہیں ہوں، تو جب اڑکی راضی نہیں ہوئی، تو اس کے گھروں نے زبردستی اس سے طلاق نامہ لکھوا لیا، تو کیا خلع کی صورت ہوئی یا طلاق کی؟ اب اس صورت میں مہر اور خرچہ دیا جائے گا یا نہیں؟

المستفتی: نور الدین، سنت کبیر گری

با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: زبردستی محض طلاق نامہ لکھوا لینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، ہاں البتہ زبردستی پہلے اس سے زبانی طلاق دلائی گئی، پھر طلاق نامہ بھی لکھوا یا گیا، تو اب طلاق واقع ہو گئی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۹/۳۸)

شامي کی عبارت ہے:

وفي البحر أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته، فكتب لا تطلق. (شامي، كتاب الطلاق، كراچی ۳/۲۳۶، زکریا ۴/۴۴۰، البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۴۵، زکریا ۳/۴۲۹)

سوال میں مذکورہ صورت خلع کی نہیں ہوگی؛ اس لئے کہ خلع کے لئے جامین سے رضامندی ضروری ہے کہ عورت مہر معاف کر دے اور شوہر طلاق دے۔

قال اختعلعت بتطليقة بائنة على كل حق يجب للنساء على الرجال

قبل الخلع وبعده. (بزاریہ، زکریا ۱/۱۳۷، وعلی هامش الہندیہ ۱/۲۱۰) اور طلاق کے واقع ہونے کی صورت میں شوہر پر مہر اور نفقة واجب ہوگا؛ جبکہ اس نے دخول کر لیا ہو، اگر دخول نہیں کیا ہے تو نصف مہر دینا ہوگا۔

صح نکاحه و طلاقه و عناقه و رجع نصف المسمى إن لم يطأ وفي الشامية: لأنه إن وطئ لا يرجع؛ لأن المهر تقرر هنا بالدخول لا بالطلاق.

(در مختار مع الشامي، زکریا ۹/۱۸۹ - ۱۹۰، کراچی ۶/۱۳۷ - ۱۳۸)

تجب لمطلقة الرجعي والبائن، تحته في الشامية؛ لأن النفقة تابعة للعدة. (شامي، کراچی ۳/۶۰۹، زکریا دیوبند ۵/۳۳۲) فقط والد سبحانہ و تعالیٰ اعلم

كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
الجواب صحیح:

اعقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۶۲۲۶/۳۲) ۱۴۱۹ھ/۱/۱۹

طلاق نامہ کی تفصیل بتائے بغیر شوہر کے اس پر دستخط لینا

سوال [۶۵۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بندہ محمد علیم بن محمد شیم کا نکاح ۲۳ اپریل ۱۹۹۹ء کو شرع محمدی کے مطابق عبدالجمیل کی دختر شازیہ پروین کے ہمراہ ہوا تھا؛ لیکن پکھڈنوں کے بعد اس کے بیچ میں پکھڈ لوگوں نے

مداخلت کر کے لڑکی کو رخصت کرنے سے انکار کر دیا اور جہیز والپس کرنے پر اصرار کرنے لگے، مجبوراً ہم نے لڑکی کا جہیز والپس کر دیا اور لڑکی والوں نے اسٹامپ پیپر پر ہم سے دستخط لے لیا کہ بنده محمد علیم بن محمد نسیم نے تین طلاق دیدی ہیں، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جس کاغذ پر دستخط لیا گیا ہے اس میں تین طلاق کا ذکر ہے؛ جبکہ ہم نے ایک طلاق بھی نہیں دی اور اس کا غذ پر لڑکی سے بھی جبراً دستخط کرا لیا گیا ہے اور اسٹامپ پیپر پر حن دو گواہ کے دستخط ہیں کہ لڑکے نے طلاق دیدی ہے، اس اسٹامپ پیپر پر لفظ طلاق کو پڑھ کر نہیں سنایا گیا ہے اور دستخط لے لیا گیا، علمائے دین اس بارے میں فتویٰ صادر فرمائیں کہ طلاق ہو گئی یا نہیں؟

المسنونتی: محمد علیم الدین ابن محمد نسیم، محلہ: مغلپورہ، سقہ اوی، مراد آباد (یوپی)
با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق نامہ لکھ کر اس کی تفصیلات شوہر کو بتائے بغیر اور طلاق کی صراحة کی تحریر شوہر کو دکھائے یا بتلائے بغیر محض اس سے دستخط لینے سے طلاق نہیں ہوتی؛ بلکہ تحریر یہ طلاق کے لئے شرط یہ ہے کہ شوہر اپنے ہاتھ سے خود لکھ کر طلاق نامہ پر دستخط کر دے یا اس کے حکم سے دوسرا آدمی لکھ دے اور کیا لکھا ہے اسے پڑھ کر سنادے اس کے بعد شوہر بخوبی اس پر دستخط کر دے، جب جا کر کے طلاق واقع ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی اور مذکورہ طلاق نامہ میں ایسی کوئی شکل نہیں ہے اور نہ ہی الفاظ طلاق شوہر کو پڑھ کر سنائے گئے ہیں؛ اس لئے مذکورہ طلاق نامہ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی اور دونوں کا نکاح شرعی طور پر بدستور باقی ہے۔

وکذا کل کتاب لم یکتبه بخطه ولم یمله بنفسه لا يقع الطلاق مالم
يقر أنه كتابه. (شامی، کتاب الطلاق، قبیل باب الصریح، کراچی ۳/۸۴، زکریا
۴/۶۴، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۷۳، جدید ۱/۶۴، تاتار خانیہ، زکریا ۴/۱۵۳،
رقم: ۴۳۸) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عفان الدین عنہ

۱۳ / جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۷۰۳، ۳۵)

طلاق نامہ پر دستخط کرنے کی شرعی حیثیت

سوال [۷۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں رقیہ خاتون ولد حافظ عبد القیوم میری شادی ۵ نومبر ۲۰۱۰ء میں ہوئی تھی، میرے شوہر عبدالکریم ولد زین العابدین کا میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا، ان کی بہت سی عادتیں میرے مزاج کے خلاف تھیں، وہ ناجائز طریقے سے ہم بستر کرتے تھے، جسے شریعت میں حرام قرار دیا ہے، تعویذ غنڈے کرتے ہیں، تنز کرتے ہیں وہ آسام کے ہیں۔

قرآن کا غلط استعمال کرتے ہیں، میرے لڑکی پیدا ہوئی تو مجھ سے جھگڑا کیا اور مار پیٹ کی کہ لڑکی کیوں ہوئی، لڑکا کیوں نہیں ہوا، ان تمام باتوں کے سامنے میرا دل نہیں ملا، میں نے ان سے پنچایت کی اور ان سے طلاق لے لی؛ لیکن پنچایت میں میں موجود نہیں تھی، اس طلاق کے گواہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ طلاق دے دی؛ لیکن میرے شوہر اس طلاق سے مکر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں نے زبان سے لفظ ادا نہیں کیا طلاق نامہ پر دستخط کئے ہیں، اس سے طلاق واقع ہو گی یا نہیں؟

المستفتيہ: رقیہ خاتون

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر شوہر نے طلاق نامہ پر خوشی دستخط کر دیئے ہیں اور اس کا اقرار بھی کر رہا ہے، تو جتنی طلاق طلاق نامہ پر لکھی گئی ہیں اتنی طلاق واقع ہو چکیں اور طلاق کے واقع ہونے کے لئے زبان سے کہنا لازم نہیں ہے؛ بلکہ اپنی خوشی سے تحریر کے طور پر طلاق دینے سے یا لکھی ہوئی تحریر پر سمجھ کر دستخط کر دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

(مستقار: محمودیہ ڈاہیل ۱۲/۵۸۵)

عن حماد قال: إذا كتب الرجل إلى امرأته - إلى قوله - أما بعد
 فأنت طلاق، فهي طلاق. الحديث (مصنف لابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، في
 الرجل يكتب طلاق امرأته بيده، مؤسسة علوم القرآن بيروت ۹/۶۲، رقم: ۴۱۳۰)
 وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوی، أو لم ينو، ثم المرسومة
 لا تخلوا إما أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد! فأنت طلاق، فكما كتب هذا
 يقع الطلاق، وتلزمها العدة من وقت الكتابة. (شامي، ذكرى ۴/۶۵،
 كراچی ۳/۶۴، هندية، ذكرى قديم ۱/۷۳، جديد ۱/۶۴، فتاوى قاضي خان،
 ذكرى ۱/۷۸، وعلى هامش الهندية، ذكرى ۱/۷۱، الفتاوى التاتار خانية، ذكرى
 ۱/۴۳، رقم: ۴۳۸، شامي، ذكرى ۳/۷۴، ذكرى ۴/۳۵، رقم: ۳۱۵)
 رجل استكتب من رجل آخر إلى امرأته كتاباً بطلاقها وقرأه على
 الزوج، فأخذه وطواه وختم وكتب في عوانه وبعث به إلى امرأته فأناها
 الكتاب وأقر الزوج أنه كتابه فإن الطلاق يقع عليها. (هندية، ذكرى قديم
 ۱/۹۷۳، جديد ۱/۶۴، الفتاوى التاتار خانية، ذكرى ۴/۳۱، رقم: ۳۷۹، شامي،
 كراچی ۳/۶۴-۶۴/۲۴، ذكرى دیوبند ۴/۶۵) فقط واللہ سبحانو تعالیٰ اعلم
 الجواب صحیح:
 کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفی اللہ عنہ
 اختر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۲۸ شوال المکرم ۱۴۳۵ھ
 (فتوى نمبر: الف ۹/۱۶۸۱)

زبان سے طلاق دینے بغیر طلاق نامہ پر دستخط لینے سے عدم قوع طلاق

سوال [۲۵۷۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مตین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ شبنم جہاں کی شادی راشد علی کے ساتھ لگ بھگ ۲ سال قبل ہوئی تھی، لڑکی کے باپ سے لڑکے والوں میں کسی بات پر تکرار ہو گئی اور شادی کو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ لڑکی کے باپ نے جہیز کی دفعہ لگا کر پولیس کیس بنادیا اور پولیس کے دباؤ میں آکر لڑکی کا تمام جہیز واپس کر دیا اور اپنا سب زیور و اپس لے لیا اور قانونی طریقہ سے وکیل سے فیصلہ نامہ لکھا کہ لڑکے سے زبردستی دستخط ۲ رگوا ہوں کے سامنے کرائے، دونوں گواہوں کا کہنا ہے کہ لڑکے نے زبان سے طلاق انہیں کی اور نہ لڑکا طلاق دینا چاہتا تھا، اب یہ مسئلہ لوگوں میں زیر بحث ہے کہ نکاح کا اقرار زبان سے کیا جاتا ہے؛ لہذا طلاق بھی زبان سے دی جاتی ہے، اس بارے میں علماء دین کا کیا فیصلہ ہے؟

المستخفی: شاکر حسین، جوڑی فروش، محلہ: نوبت خانہ، امردہہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جرأۃ اور دباؤ کے ذریعہ طلاق کے الفاظ کہلوائے جائیں تو اس سے شرعاً طلاق ہو جاتی ہے اور اگر زبان سے نہ کہلوا کہ صرف تحریر لی جائے یا طلاق نامہ پر دستخط کرائے جائیں اور شوہر بخوشی دستخط نہ کرے؛ بلکہ صرف دباؤ میں آکر دستخط کرے، تو اس سے طلاق نہیں ہوتی اور مسئولہ صورت میں چونکہ شوہر پر دباؤ ڈال کر صرف فیصلہ نامہ پر دستخط لئے گئے ہیں؛ لہذا اس سے طلاق نہیں ہوئی۔

فلو اکرہ علیٰ ان یکتب طلاق امرأته فکتب لا تطلق الخ. (شامی،

کراچی ۲۳۶/۳، زکریا ۴/۴۰، البحر الرائق کوئٹہ ۳/۲۴۶، زکریا ۳/۴۲۹)

رجل اکرہ بالضرب، والحبس علیٰ ان یکتب طلاق امرأته، فکتب
فلانة بنت فلانة امرأته طالق وفي الحاوي: ولم يعبر بلسانه، لا تطلق.

(الفتاویٰ التاتار خانیہ، زکریا ۴/۵۳۲، رقم: ۶۸۴۳، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۷۹)

۱/۴۴۶، فتاویٰ قاضی خان، زکریا ۱/۲۸۷، وعلیٰ هامش الہندیہ، ۱/۴۷۲، بزازیہ،

زکریا ۱/۱۲۰، وعلیٰ هامش الہندیہ، ۴/۱۸۵) فقط والله سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
لکتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۲۹ جمادی الاولی ۱۴۲۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۵، ۲۶۹۷)
اختر محمد سلمان مصوّر پوری غفرله
۲۹ ربیع الاول ۱۴۲۱ھ / ۲۹ مئی ۲۰۰۹ء

پولیس کے دباؤ سے طلاق نامہ پر دستخط

سوال [۶۵۷۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع مตین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا (محمد رضی) کا نکاح فرح ناز کے ساتھ ۲۰۰۹ء میں ہوا تھا، ایک پچی کی ولادت بھی ہوئی؛ لیکن بعد میں ہم دونوں میں آپسی اختلاف بڑھنے کی وجہ سے ناراضگی میں فرح ناز اپنے میکہ چلی گئیں اور کچھ ماہ بعد انہوں نے تھانے میں میرے خلاف درخواست دی دی، مجھے طلب کیا گیا اور تھانے میں مجھ سے سوال ہوا کہ تم کیا چاہتے ہو، میں نے کہا کہ میں اپنی بیوی فرح ناز کو رکھنا چاہتا ہوں، فرح ناز نے کہا کہ میں رہنا نہیں چاہتی، مجھے میر اسامان چاہئے اور پچی چاہئے، اس کے بعد پولیس کے دباؤ اور سختی سے بچنے کے لئے کچھری میں طلاق نامہ تیار کرایا گیا اور اس پر مجھ سے دستخط کراۓ؛ لیکن میں نے نہ اس طلاق نامہ کو پڑھا اور نہ زبان سے تلفظ کیا طلاق کا، طلاق نامہ میرے ہاتھ میں دیتے وقت کہا گیا تھا کہ یہ طلاق نامہ ہے، اس پر دستخط کر دو، میں نے یہ سمجھ کر کہ جب تک زبان سے طلاق کا لفظ ادا نہ کیا جائے طلاق نہیں ہوتی، میں نے دستخط کر دیا، اس کے بعد گھر آنے کے بعد والد صاحب نے کہا زبانی طلاق دو، میں نے صاف منع کر دیا، آپ بتائیں میں طلاق ہوئی یا نہیں؟ اس کے بعد اس کا سامان چلا گیا اور پچی میرے ہی پاس رہی، اب فرح ناز میرے پاس رہنا چاہتی ہے اور میں بھی اس کو رکھنا چاہتا ہوں از روئے شرع اس طرح طلاق نامہ تیار ہونے سے جس کونہ میں نے پڑھا اور نہ طلاق کا تلفظ کیا، کیا طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب زبان سے کوئی لفظ طلاق استعمال نہیں کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں تحریری طلاق اس وقت معتبر ہوتی ہے، جب شوہرنے اپنی مرضی سے طلاق نامہ لکھوا یا ہوا اس پر بخوبی دستخط کر دیا ہو اور یہاں ایسا نہیں ہے؛ بلکہ پولیس کے دباؤ کی وجہ سے شوہرنے طلاق نامہ پر دستخط کیا ہے اور تحریری طلاق میں دباؤ کے ساتھ دستخط کر دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے؛ چنانچہ بعد میں جب باپ نے زبانی طلاق دینے کے لئے کہا تو بیٹھے نے صاف انکار کر دیا ہے، یہ سب باتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ سرکاری دباؤ کے نتیجے میں اس نے دستخط کر دیا ہے؛ اس لئے صورت مذکورہ میں طلاق نامہ پر جو دستخط کیا گیا ہے اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی؛ لہذا محمد رضی کا نکاح فرح ناز کے ساتھ بدستور باقی ہے، شرعی طور پر دونوں ایک دوسرے کے میان بیوی ہیں۔

رجل أکرہ بالضرب، والحبس على أن يكتب طلاق امرأته، فكتب فلانة بنت فلا نة امرأته طلاق. وفي الحاوي: ولم يعبر بلسانه، لا تطلق.

(الفتاوى التatars خانية، زکریا ۴/۵۳۲، رقم: ۶۸۴۳، وہکذا فی الہندیۃ، زکریا قدیم ۳۷۹/۱، جدید ۴۶/۱، فتاوى قاضی خان، زکریا ۱/۲۸۷، وعلی هامش الہندیۃ، ۴۷۲/۱، برازیہ، زکریا ۱/۱۲۰، وعلی هامش الہندیۃ، ۴/۱۸۵، شامی، کراچی ۲۳۶/۳، زکریا ۴/۴۰، البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۲۴۶، زکریا ۳/۴۲۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۵/۸/۳

كتبه: شیعراحمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۱۴۳۵/۱۴/۲۹

(فتویٰ نمبر: الف ۱۴۰۱/۳۱)

طلاق نامہ پر دباؤ ڈال کر دستخط کرانا

سوال [۶۵۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متبین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ میرے والد اور میری بیوی کے والد میں کسی بات پر کچھ تکرار ہو گئی انہوں نے اپنی بیٹی کو روک لیا، میں بلا نے گیا لڑکی کو نہیں بھیجا اور میرے اوپر مقدمہ قائم کر دیا جو کہ اب بھی چل رہا ہے، پنچاہیت بھی ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کر دیا؛ لیکن میں نے اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دی؛ کیونکہ میں اپنے گھر تھا اور میری بیوی اپنے میکے میں تھی؛ لہذا یہ طلاق ہوئی یا نہیں؛ کیونکہ خسر صاحب نے زبردستی طلاق نامہ لکھا وادیا اور کہا کہ اس پر دستخط کر دو میں نے دستخط کر دیئے، میری بیوی نے بھی دستخط کر دیئے، ادھر میرے والد امیر خاں کا انتقال ہو گیا، اب میری بیوی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مقدمہ بھی ختم ہو جائے، میں بغیر پڑھا لکھا تھا، طلاق نامہ نہ ہی مجھے پڑھ کر سنایا گیا اور نہ ہی میری بیوی میرے سامنے موجود تھی، مجھ سے زبردستی دستخط کرا لئے گئے اور میری بیوی سے کہا گیا جب تمہارے شوہر نے دستخط کر دیئے تو تم بھی دستخط کر دو؛ لہذا میری بیوی نے بھی دستخط کر دیئے، میں نے ان کے مطلب کو سمجھے بغیر دستخط کر دیئے اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے۔

المسئلہ: ناصر خاں، تھانے، ناگ پھنی دولت باغ، مراد آباد

با اسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: تحریری طلاق کے واقع ہونے کے لئے یہ لازم ہے کہ اپنی مرضی سے تحریر خود لکھا ہو یا اپنی مرضی سے دوسرے سے لکھوا یا ہو، پھر وہ لکھی ہوئی تحریر اس نے پڑھی ہو یا پڑھ کر اسے سنائی گئی ہو اور پھر اس نے اس تحریر پر اپنی مرضی سے دستخط کر دیا ہو، تب جا کر طلاق واقع ہوتی ہے ورنہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور سوال نامہ میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ شوہر پر دباؤ ڈال کر دستخط کروایا گیا ہے اور شوہر نے نہ اس تحریر کو پڑھا ہے اور نہ ہی اس کو پڑھ کر سنایا گیا؛ اس لئے مذکورہ طلاق نامہ پر بغیر پڑھے اور بغیر سے دستخط کر دینے کی وجہ سے طلاق واقع نہ ہوگی؛ لہذا ناصر خاں کی بیوی ریشمہ پروین ناصر خاں کے نکاح میں بدستور باقی ہے۔

وکذا کل کتاب لم یکتبه بخطہ ولم یمله بنفسہ لا یقع الطلاق
مالم یقر أنه کتابه۔ (شامی، کتاب الطلاق، قبیل باب الصریح، کراچی ۳/۲۴۷،
زکریا ۴/۴۵۶، تatar خانیة، زکریا ۴/۵۳۱، رقم: ۶۸۴۳، هندیہ، زکریا قدیم
۱/۴۴۶، جدید ۳۷۹/۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ علم

لکتبہ: شیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

الجواب صحیح:
احضر محمد سلمان متصور پوری غفرانہ
۱۳۲۷ھ تعداد ۱۳۲۷/۱۱/۳

۱۳۲۷ھ فتویٰ نمبر: الف ۹۱۳۹/۳۸

شوہر سے اس کی مرضی کے بغیر طلاق نامہ پر دستخط کرانا

سوال [۶۵۸۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ ایک اسٹامپ پیپر پر ایک مشی سے طلاق نامہ لکھوا یا گیا، پھر شوہر سے زبردستی
دباوڈال کر اس اسٹامپ پیپر پر دستخط کرائے گئے، شوہرنے نہ اس طلاق نامہ کو پڑھا، نہ ہی
اس نے سننا اور نہ ہی شوہر نے اسٹامپ پیپر میں لکھے ہوئے مضمون کا اقرار کیا اور نہ ہی شوہر
نے اس وقت یا اس سے قبل زبان سے بھی طلاق کے الفاظ کو ادا کیا؛ البتہ شوہر اور بیوی کے
اہل خانہ نے اس اسٹامپ پیپر کے مضمون پر رضامندی کا اظہار فرمایا، بیوی اس وقت اپنے
والدین کے گھر ہے اور شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لئے رضامند ہیں
اور بے چین ہیں؛ کیونکہ ان کے تین بچے ہیں؛ لہذا بیوی پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: شمس الدین، خوشبو گار میٹس، محلہ: پنجابی مندر، مینا مارکیٹ، نہرور، بخور

باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر سوال نامہ کا بیان اپنی جگہ صحیح ہے کہ جس تحریر
پر دباوڈال کر شوہر سے دستخط کرایا گیا ہے، اس پر شوہرنے بخوبی دستخط نہیں کیا ہے، تو اسی تحریر
سے شرعی طور پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، دونوں کا نکاح بدستور باقی ہے۔ نیز اسی تحریر سے
بھی طلاق نہیں ہوتی ہے، جس کو خود نہ لکھا ہو یا تحریر میں کیا بات ہے سن کر بخوبی دستخط نہ کیا ہو

اور نہ ہی زبان سے کہا ہو۔

رجل أکرہ بالضرب، والجنس على أن يكتب طلاق امرأته، فكتب
فلانة بنت فلا نة امرأته طالق. وفي الحاوي: ولم يعبر بلسانه لا تطلق.

(الفتاوى التاتار خانية، ذكرى ۴/۳۲، رقم: ۶۸۴۳، هندية، ذكرى قدیم ۱/۳۷۹، جدید

۱/۴۴۶، فتاوى قاضي خان، ذكرى ۱/۲۸۷، وعلى هامش الهندية، ۱/۴۷۲، بزاریہ،

ذكرى ۱/۱۲۰، وعلى هامش الهندية، ۱/۸۵، شامي، کراچی ۳/۲۳۶، ذكرى ۴/۴۰،

البحر الرائق، كونه ۳/۲۴۶، ذكرى ۳/۴۲۹) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

لکتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴۲۵ھ محرم الحرام ۲۳

(نوقی نمبر: الف ۷/۳۷۱، ۸۲۱/۱۳۲۵)

۱/۱۳۲۵، ۲۳

طلاق نامہ پر زبردستی انگوٹھا لگوانا

سوال [۲۵۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ چند سال قبل میرا نکاح ہوا اور ابھی تک خصتی نہیں ہوئی ہے، دریں
اشتاء جامین میں کچھ تلخی اور ناچاقی پیدا ہو گئی، جس کی بناء پر میرے خسر اور دیگر افراد خانہ
نے ڈر ادھم کا کرز برداشتی ایک ہندی میں لکھے ہوئے پرچہ پر مجھ سے دستخط اور انگوٹھا لگوالیا،
جس پرچہ پر یہ الفاظ درج تھے، دوسال ہوئے لوگوں کا آنا جانا ہوا، جس میں ادھر کی بات
ادھر ادھر کی بات ادھر ہوئی جس کی بناء پر بیحانہ سرال جانا نہیں چاہتی، میں اس کو دین مہر
دلا کر اپنی زوجیت سے برخواست کر رہا ہوں، واضح رہے کہ میں نے زبان سے کچھ بھی
نہیں کہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مذکورہ صورت میں میری بیوی پر طلاق واقع ہو گی یا نہیں؟
جواب با صواب سنوازیں۔

المستفتی: صابر عالم

بسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جس طلاق نامہ پر زبردستی اور دباؤ کے ذریعہ سے انکوٹھا گلوایا گیا ہے اور شوہر نے زبان سے کوئی طلاق نہیں دی ہے، تو ایسے طلاق نامہ سے بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، ریحانہ صابر عالم کے نکاح میں بدستور باقی ہے۔
(مستقاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۸۱/۸، ۳۸۷/۱۰، جدید ۱۲/بھیل ۵۸۹-۶۲۸)

رجل اکرہ بالضرب، والحبس علیٰ ان یکتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان ابن فلان، فكتب: امرأته فلانة بنت فلان ابن فلان طالق، لا تطلق امرأته لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا۔ (فتاویٰ قاضی خان، زکریا ۱/۲۸۷، وعلیٰ هامش الہندیۃ، ۱/۴۷۲، بزاریہ، زکریا ۱/۱۲۰، وعلیٰ هامش الہندیۃ، زکریا قدیم ۱/۳۷۹، ۱/۴۶، تاتار خانیۃ، زکریا ۴/۵۳۲، ۴/۱۸۵، هندیۃ، زکریا قدیم ۱/۳۷۹، ۱/۴۶، البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۶۲۴، رقم: ۳/۶۸۴۳، شامی، کراچی ۳/۲۳۶، زکریا ۴/۴۰، البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۶۲۴، زکریا ۳/۴۲۹) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:
كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
احقر محمد سلمان مخصوص پوری غفران
۱۴۲۵ھ / ۱۹۰۳ء
(فتویٰ نمبر: الف ۷/۳۷۵، بھیل ۵/۳۷۵)

طلاق نامہ پر جبراً دستخط کرانے کے بعد زبانی طلاق کھلوانا

سوال [۲۵۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ضیاء الرحمن سے چھ ماہ قبل ایک طلاق نامہ پر دستخط کروالئے گئے، ضیاء الرحمن نے اس طلاق نامہ کو نہ ہی پڑھا اور نہ سننا، پویس کی پیائی کے بعد اس پر دستخط کر دیئے، طلاق نامہ میں تین دفعہ طلاق دینے کا تذکرہ ہے اور دستخط کے بعد صرف ایک دفعہ زبان سے بھی طلاق لی گئی تھی۔ اب جبکہ اس واقعہ کو چھ ماہ کا عرصہ ہو چکا، تو بیوی دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے تو شرعاً کیا حکم ہے؟

المستفتی: ضیاء الرحمن، محلہ: شیدی سراۓ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق نامہ پر جبراً دستخط کروانے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، لہذا جب شوہر ضیاء الرحمن نے اس طلاق نامہ کونہ پڑھا ہے اور نہ ہی سنائے تو اس صورت میں اس کی بیوی پر کوئی طلاق نہیں ہوئی؛ لیکن چونکہ اس نے دستخط کے بعد زبان سے بھی ایک مرتبہ طلاق دیدی ہے؛ اس لئے اس سے ایک طلاق رجیٰ واقع ہوئی، شوہر کو عدت کے درمیان رجوع کا حق تھا؛ لیکن اس واقعہ کو اب چھ ماہ ہو چکے ہیں اس درمیان اس کی عدت بھی گذر گئی ہے اور عدت گذرنے کے بعد باشہ ہو جاتی ہے؛ اس لئے اب رجعت کا حق باقی نہ رہا۔ اب بیوی کو پورا حق مل گیا کہ کسی کے ساتھ بھی دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔

وفي البحر أن المرأة الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتبه لا تطلق؛ لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا، كذا في الخانية. (شامي، كراجي ۲۳۶/۳، زكريا ۴۰/۴، البحر الراهن، كوثي ۲۴۶/۳، زكريا ۲۹/۴، تatar خانیہ، زکریا ۵۳۲/۴، رقم: ۶۸۴۳، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۷۹، جدید ۱/۴۶، قاضی خان، زکریا ۱/۲۸۷، وعلى هامش الهندية ۱/۴۷۲، برازیہ، زکریا ۱/۲۰، وعلى هامش الهندية ۴/۱۸۵)

فإن طلقها ولم يراجعها؛ بل تركها حتى انقضت عدتها بانت.

(بدائع الصنائع، زکریا ۳/۲۸۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
كتبه: شیبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
اطخزم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
صفر امظفر ۱۴۲۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۸۲۰/۳۷۲)

طلاق نامہ پر دستخط کرنا

سوال [۶۵۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ موئرخہ: ۱۹۹۱ء/۲۱۳: کو میری شادی ہوئی دو ماہ تک حالات معمول پر

چلتے رہے، اس کے بعد میرے والدین اور شوہر کے گھر والوں کے نیچ سخت کشیدگی پیدا ہو گئی، دونوں طرف کے فریقین اپنی اپنی ضد پر اڑ رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اور میرے نیچ علیحدگی کا فیصلہ ہوا، اسٹامپ پیپر کے اوپر طلاق نامہ لکھا گیا، میرے شوہرنے دستخط نہیں کئے، انہوں نے کہا پہلے عائشہ سے کراکر لاؤ، لہذا میرے پاس کاغذ آیا تو اپنے والدین کے ارادوں کے مطابق میں نے دستخط کر دیئے اس کے بعد انہوں نے کر دیئے، ۷ اپریل ۱۹۹۲ء کو یہ کام ہوا۔ دوسرا دن سے ہی میرے شوہر میرے اور اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے اور یہ کہا کہ میں اپنا گھر بر باد کرنا نہیں چاہتا تھا، مجھ سے میرے گھر والوں نے یہ کام جبراً کرایا ہے، میرے گھر بھی انہوں نے اپنے دوست احباب کو بھیجا اور خود بھی آئے، وہ میرے والدین اور خاص طور سے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، میں ایام عدت میں ہوں، اسی لئے میں نے بات کرنے سے انکار کر دیا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے لفظ طلاق منہ سے ادا نہیں کیا ہے اور نہ ہی دل سے ارادہ کیا تھا؛ اس لئے یہ کام شرعی طور پر نہیں ہوا ہے، موؤد بانہ التماس ہے کہ مجھے تما نہیں کہ یہ طلاق ہوئی یا نہیں؟ اور مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہئے؟ اپنے قیمتی مشورہ سے آگاہ کریں، عین نوازش ہو گی۔

المستفتیہ: عائشہ پروین، محلہ: سراء کشن لال، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ کی عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ شوہر نے اپنے دستخط کو بیوی کے دستخط پر موقوف کیا ہے؛ چنانچہ بیوی کے دستخط کرنے پر شوہرنے بھی دستخط کر دیئے ہیں، اس میں کسی نے شوہر کو مار پیٹ وغیرہ سے ڈرایا دھمکا یا بھی نہیں ہے؛ اس لئے اگر شوہرنے طلاق نامہ کی عبارت خود پڑھا ہے یا دوسرا سے سن کر دستخط کیا ہے، تو طلاق نامہ میں جتنی طلاق لکھی گئی ہیں وہ واقع ہو جائیں گی اور اگر تعداد نہیں لکھا ہے؛ بلکہ صرف ایک بار لفظ طلاق لکھا ہے تو عدت کے اندر رجعت کی گنجائش ہے اور بعد عدت نکاح کی اجازت ہے اور اگر تین مرتبہ لکھا گیا ہے تو بلا حلالة نکاح بھی درست نہ ہو گا۔

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويد خل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(فتاویٰ عالمگیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹)

عن عبد الله وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التفسير -إلى قوله- الطلاق مرتان: قال: وهو المیقات الذي يكون عليها فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة، أو ثنتين، فإما أن يمسك ويراجع بمعروف وإنما يسكت عنها حتى تقضى عدتها، ف تكون أحق بنفسها. (سنن

کبریٰ للبیهقی، دارالفکر بیروت ۱۱/۲۸۲، رقم: ۱۵۵۳۹)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين، فله أن يراجعاً لها في عدتها. (هدایۃ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۴، مختصر القدوی، امدادیہ دیوبند ۱/۷۷، ذکریا

قدیم ۱/۴۷۰، جدید ۱/۵۳۳)

عن سماک قال: سمعت عکرمة، يقول: الطلاق مرتان فامساک بمعروف، أو تسریح باحسان. قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نكحها، وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها، فإذا طلقها ثلاثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (المصنف لابن أبي شيبة، مؤسسة علوم القرآن، بیروت ۱/۱۹۷، رقم: ۱۹۵۶۴) فقط والبسجناه وتعالیٰ علیم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۲۹ ربیٰ قعده ۱۴۳۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۸) (۲۹۰۷/۲۸)

طلاق نامہ پر زبردستی و سخنخط کرانے کا حکم

سوال [۶۵۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا نام محمد سلیم ہے، میری شادی ۱۹۹۶ء میں ہوئی تھی، میرے سرال والوں

نے مجھ پر پولیس اور نیتاوں کا دباؤ ڈال کر مجھ سے طلاق کے کاغذ پر دستخط لئے؛ جبکہ میں نے آج تک ان کا غذوں کو پڑھا بھی نہیں ہے اور میں نے زبان سے بھی طلاق کا کوئی لفظ نہیں بولا ہے اور اس واقعہ کو دوسال گزر چکے ہیں۔ اب دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا اس طرح پولیس اور نیتاوں کے دباؤ پر مجھ سے جو دستخط لئے گئے ہیں اس سے طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ جبکہ یہ دباؤ والی بات میرے گھر والے اور بیوی کے گھر والے سب جانتے ہیں۔ شریعت کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔

المستفتی: محمد سلیم بن محمد فاروق، مقبہہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر سوال نامہ میں لکھی ہوئی تحریر صحیح اور واقعہ کے مطابق ہے تو حکم شرعی یہ ہے کہ محمد سلیم نے نہ طلاق نامہ اپنی مرضی سے لکھوایا ہے اور نہ ہی اس نے لکھا ہے اور نہ ہی اس نے اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ استعمال کئے ہیں اور دوسروں کے تیار کردہ طلاق نامہ پر مخفی دستخط کر دینے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی؛ لہذا سوال نامہ کے مطابق محمد سلیم کی بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، زن و شوہر کا رشتہ بدستور باقی ہے۔

فلو اکرہ علیٰ ان یکتب طلاق امرأته فکتب لا طلاق۔ (شامی، زکریا

۴۴۰، ۳/۲۳۶، کراچی)

و كذلك كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع به الطلاق إذا لم يقر أنه كتابه . وفي الظهيرية: رجل أكره بالضرب، والحبس على أن يكتب طلاق امرأته، فكتب فلانة بنت فلانة امرأته طلاق . وفي الحاوي: ولم يعبر بلسانه لا طلاق . (تاتار خانیہ، زکریا ۴/۵۳۱-۵۳۲، رقم: ۶۸۴۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
 کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
 اختر محمد سلمان مصوّر پوری غفرلہ
 ررجب المرجب ۱۴۲۸ھ
 (فتاویٰ نمبر: الف، ۳۸، ۹۳۵۷، ۱۴۲۸ھ)

طلاق نامہ پر بغیر پڑھے ہوئے شوہر کا دستخط کرنا

سوال [۶۵۸۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع عتین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے والد نے کچھری سے اشامپ پیپر پر ایک طلاق نامہ لکھوا�ا، جس میں تحریر ہے کہ آپسی سہمتی سے طلاق ہو گئی ہے، اس تحریر پر میں نے بغیر پڑھے اور بغیر سنے دستخط کر دیتے ہیں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں بعد میں مجھے بتایا گیا کہ تیری بیوی کا فصلہ ہو گیا ہے، تو دریافت یہ کرنا ہے کہ اس صورت میں جبکہ میں نے نہ طلاق نامہ لکھوا�ا، نہ پڑھا، نہ سناتو کیا طلاق ہو گئی؟ اور اب میں بیوی کو رکھنا چاہتا ہوں طلاق نہیں دینا چاہتا نہ دوں گا اور طلاق نامہ میں "قطعی طلاق رو بروگواہاں دینے کی جو بات لکھی ہے وہ غلط ہے، طلاق نہ زبانی دی گئی ہے، نہ گواہاں کے سامنے دی گئی ہے۔

المستفی: ریاض حسین، پیر غیب، مراد آباد

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہر نے خود لکھوا یا نہیں اور نہ ہی اس نے خود لکھا اور نہ ہی اس کو پڑھ کر سنایا گیا اور نہ ہی زبانی طلاق دی، تو ایسی صورت میں بغیر پڑھے اور بغیر سے محض دستخط کر دینے سے طلاق واقع نہیں ہوئی اور نہ کوئی تحریر میں رو برو طلاق دی وغیرہ جو الفاظ بھی ہیں سوال نامہ میں اس کا انکار ہے؛ لہذا میاں بیوی کے درمیان نکاح بدستور باقی ہے اور دونوں میاں بیوی کی طرح ایک ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔

وکذा کل کتاب لم یکتبه بخطہ و لم یمله بنفسہہ لا یقع الطلاق مالم
 یقر أنه کتابہ۔ (شامی، کراچی ۳/۲۴۷، ۴/۵۶، زکریا، تاتار خانیہ، زکریا، ۵۳۱)

رقم: ۶۸۴۳، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۷۹، جدید ۱/۴۶) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۹ھ / ۲۳ مارچ ۱۴۲۹ھ

لکتبہ: شیبیر احمد قاسمی عفاف اللہ عنہ

۳ صفر المظفر ۱۴۲۹ھ

(فتوى نمبر: الف ۹۲۳۲، ۳۸)

طلاق نامہ پر بخوبی دستخط کرنا

سوال [۶۵۸۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری لڑکی کی شادی محمد اسلام سے ہوئی، تین سال تک میری لڑکی اپنی سسرال رہی اس کے بعد سات سال تک میرے یہاں رہی، مقدمہ بازی ہوئی تو اسلام کے وکیل نے کہا کہ تم مہرجہیز وغیرہ نہ لو تو ہم صلح کر دیں گے اور مقدمہ بھی ختم کر دیں گے، میں تیار ہو گیا اور دو وکیلوں نے اسلام پر پھر خرید کر لادیا اس پر لکھا تھا کہ میں نے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، تو اسلام نے آٹھ گواہوں کے سامنے اور لڑکی کے سامنے اور دونوں وکیلوں کے سامنے کہا میں راضی ہوں، پھر وکیل نے کہا کہ اب تمہاری زوجیت سے عیحدہ ہو گی تو اس پر بھی اسلام نے کہا کہ میں راضی ہوں۔ اب بتائیے کہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: حاجی محمد اسماعیل، رام پور (یوپی)

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تحریری طلاق بھی صحیح ہو کر واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا جب تین طلاق لکھوا کر بخوبی اس پر دستخط کر دیا، تو اس سے بیوی پر طلاق مغلظ واقع ہو چکی ہے۔ ولو استكتب من رجل آخر كتاباً بطلاقها وقرأه على الزوج، فأخذته الزوج وختمه، وعنونه وبعث به إليها فأناها وقع إن أقر الزوج أنه كتابه.

(شامی، کراچی ۳/۷۴، زکریا ۴/۶۴، تatar خانیہ، زکریا دیوبند ۴/۳۱، ۵۳۱)

رقم: ۶۸۴۳، هندیہ، زکریا قدیم ۳/۳۷۹، جدید ۱/۴۶) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۸ ربیعی صد و سی و سوی

(نومبر نمبر: الف/۳۱ ۱۹۷۴)

تحریری طلاق بائے

سوال [۶۵۸۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع عتیقین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی منکوحہ بیوی کو کسی ناراضگی کی بنا پر اس کی غیر موجودگی میں تحریری طلاق بائے اور طلاق نامہ بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک اس کے پاس بھیج دیا جسے مذکورہ عورت یا اس کے والد یا بھائی کسی نے وصول نہیں کیا، طلاق نامہ پر گواہوں کے دستخط بھی ثابت ہیں، اس کی اطلاع زید نے اخبار کے ذریعہ بھی دے دی، بعد میں مذکورہ عورت کے بھائیوں وغیرہ کے سامنے بھی زید نے طلاق کا اقرار کیا۔

(۱) کیا صورت مذکورہ بائے میں ازروئے شریعت طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: زید، مجلہ بھٹی، مراد آباد

باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: خط میں طلاق لکھنے سے شرعاً طلاق واقع ہو جاتی ہے، اگرچہ لڑکی والوں نے طلاق نامہ وصول نہ کیا ہو۔ نیز جب بعد میں شوہرنے اقرار کر لیا ہے، تو مزید تائید ہو گئی ہے؛ اس لئے مذکورہ صورت میں بیوی پر طلاق واقع ہو چکی ہے۔

(مستفاد: فتاویٰ امداد الفتاویٰ ۳۸۶۲)

إن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى، أو لم ينو الخ. (شامي، كتاب الطلاق، قبل باب الصریح، کراچی ۳/۶۴، ۶/۴۵، هندیة، زکریا ۱/۳۷۸، جدید ۱/۴۶، فتاویٰ قاضی خان، جدید زکریا ۱/۲۸۷، وعلى هامش الهندية، زکریا ۱/۴۷۱) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان الدین عنہ

۱۴۳۱ھ جمادی الآخری

(فتویٰ نمبر: الف/۲۸۳۷، گ/۲۸)

نوٹس کے ذریعہ سے بیوی کو تین طلاق لکھ کر دینا

سوال [۶۵۸۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شوہر محمد فہیم نے اپنی بیوی کو ایک نوٹس لکھ کر بھیجا، جس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ سے میرا کسی طرح کامیاب بیوی کا کوئی تعلق نہیں؛ لہذا آج سے میں آپ کو اپنی طرف سے اپنے نکاح سے آزاد کرتا ہوں اور آپ کو تین بار طلاق، طلاق، طلاق، کہہ کر رو برو گواہان طلاق دیتا ہوں اور اب آج سے آپ سے میاب بیوی یا کسی طرح کے تعلق کا واسطہ نہیں ہے اور شوہر محمد فہیم اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میں نے ہی یہ مذکورہ الفاظ بذریعہ نوٹس لکھ کر بھیجے ہیں اور بیوی نے بھی اسے پڑھوا کر سن کر اس پر دستخط کر دیئے، اب پوچھنا یہ ہے کہ بیوی پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر طلاق واقع ہو گئی، تو بیوی پر عدت گزارنا لازم ہے یا نہیں اور بیوی اپنے میکہ ہی میں ہے؟

المستفتی: سعید الرحمن، متصل ہری گلگوک والی مسجد اصلتپورہ، مراد آباد

باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہر نے بذریعہ نوٹس یہ الفاظ لکھ کر بھیجے کہ میں تین طلاق دیتا ہوں اور شوہر اس بات کو تسلیم بھی کر رہا ہے، تو شوہر محمد فہیم کی بیوی پر تین طلاق واقع ہو چکی ہیں اور بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو گئی ہے۔ بغیر حالہ کے دوبارہ نکاح درست نہیں ہے اور بیوی پر عدت گزارنا لازم اور ضروری ہے اور عدت کی ابتداء طلاق کے وقت سے مانی جائے گی۔

ولو استكتب من آخر كتاباً بطلاقها وقرأه على الزوج، فأخذده

و ختمه و عنونه و بعث به إلیها، فأتاها وقع إن أقر الزوج أنه كتابه. (شامی، کراچی ۳/۴۵۶، ذکریا ۴/۲۴۶، الفتاوی التاتارخانیہ ذکریا ۴/۵۳۱، رقم: ۶۸۴۳، هندیہ ذکریا قدیم ۱/۳۷۹، جدید ۱/۴۴۶)

رجل تزوج امرأة نكاحاً جائزًا فطلقتها بعد الدخول، أو بعد خلوة الصحيحة كان عليها العدة. (عالِمگیری، ذکریا قدیم ۱/۵۲۶، جدید ۱/۵۷۹) **فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم**

الجواب صحیح:	كتبه: شیر احمد قاسمی عن عنا اللہ عنہ
احترم مسلمان منصور پوری غفرلہ	ارجب المرجب ۱۴۲۵ھ
۱/۱۴۲۵ھ	(فتوى نمبر: الف ۸۳۳۲/۳۷)

طلاق ثلاثہ کی رجسٹری کرنا

سوال [۶۵۹۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متبین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے ۲۰۰۹/۱۲/۵ء کو اپنی بیوی شمع پروں عرف شبانہ کو ایک طلاق نامہ بذریعہ رجسٹری ڈاک بھیجا تھا، جس کو انہوں نے وصول نہیں کیا، وہ رجسٹری واپس آگئی، اس طلاق نامہ میں میں نے ”تین مرتبہ طلاق دیدی“ لکھا تھا تو دریافت یہ کرنا ہے کہ میری بیوی کو طلاق ہو گئی یا نہیں؟

(۲) کیا مجھے اپنی بیوی کو مہر دینا پڑے گا؟

(۳) میرا زیور بیوی کے پاس ہے، وہ مجھے واپس ملے گا یا نہیں؟؛ جبکہ خاندان میں طلاق کے موقع پر زیور واپس لے لیا جاتا ہے؟

(۴) اگر ہم اس فتویٰ کو رجسٹری کے ذریعہ شمع پروں کے پاس بھیجتے ہیں اور وہ اس کو قبول نہ کریں تو کیا اس رجسٹری کا قبول نہ کرنا اس کا ثبوت ہو گا کہ ہم نے اسے پوری طرح طلاق دیدی ہے؟

المستفتی: انور حسین، سرائے حسین، بیگم ڈپلی گنچ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) جب شوہر خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی شمع پروین عرف شبانہ کو تین طلاقوں دے کر تحریری طور پر رجسٹری کر دی، تو ایسی صورت میں بیوی پر طلاق مغلاظہ واقع ہو گئی ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان اسلامی شریعت کے مطابق میاں بیوی کا تعلق ختم ہو چکا ہے اور طلاق کے واقع ہونے کے لئے نہ بیوی کا آمنے سامنے ہونا ضروری ہے اور نہ ہی تحریر کردہ خط کا بیوی کو پڑھنا ضروری ہے اور نہ ہی مرسل ڈاک کا وصول کرنا ضروری ہے؛ بلکہ شوہر کا طلاق کا اقرار کرنا کافی ہے۔

لو استكتب من آخر كتاباً بطلاقها وقرأه على الزوج، فأخذوه
وختمه وعنونه وبعث به إليها، فأتاها وقع، إن أقر الزوج أنه كتابه،
أوقال للمرجل: أبعث به إليها، أو قال له اكتب نسخة وابعث بها إليها.
(شامی، کراچی ۳/۷۴، زکریا ۴/۴۵۶، تاتار خانیہ، زکریا ۴/۵۳۱، رقم: ۶۸۴۳)
هنديہ، زکریا قدیم ۱/۳۷۹، جدید ۱/۶۴)

(۲) جب آپ نے اپنی مرضی سے اپنی بیوی کو طلاق دیدی ہے، تو اس کا مقررہ مہر ادا کرنا آپ کے اوپر لازم ہے۔

المهر يتأكّد بأحد معان ثلاثة الدخول، والخلوة الصحية، وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى، أو مهر المثل، حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق. (عالمگیری، زکریا قدیم ۱/۳۰۳، جدید ۱/۳۷۰)

(۳) شوہر کی طرف سے دیا گیا زیوراً گربیوی کو ماکانہ طور پر نہیں دیا گیا ہے اور نہ ہی شوہر کے خاندان اور برادری میں ماکانہ طور پر دینے کا دستور ہے، تو ایسی صورت میں وہ زیور شوہر کو واپس لینے کا حق ہے۔ (مستقاد: فتاویٰ محمودیہ ڈا جیل ۱۰۲/۱۲)

إذا بعث الزوج إلى أهل زوجته أشياء عند زفافها منها ديناج فلما
زفت إليه أراد أن يسترد من المرأة الديناج ليس له ذلك، إذا بعث إليها

علی جہة التملیک. (فتاویٰ عالمگیری، زکریا قدیم ۱/۳۲۷، جدید ۱/۳۹۳)

(۲) طلاق کے واقع ہونے کے لئے عورت کا مانا لازم نہیں ہے اور یہ فتویٰ بھی نہ
وصول کریں تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی اور عدت یعنی تین ماہواری گذرنے کے بعد
عورت کو دوسرا جگہ نکاح کرنے کا حق حاصل ہو جائے گا۔

وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى، أو لم ينو، ثم المرسومة لا تخلوا
إما إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد! فأنت طالق، فكلما كتب هذا
يقع الطلاق، وتلزمها العدة من وقت الكتابة. (فتاویٰ عالمگیری، زکریا قدیم
۱/۳۷۸، جدید ۱/۴۶، فتاویٰ قاضی خان، جدید زکریا ۱/۲۸۷، وعلی هامش الہندیۃ،
زکریا ۱/۴۷۱، شامی، کراچی ۳/۲۴۶، زکریا ۴/۴۵۶) **فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم**

كتبته: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
الجواب صحیح:
احترم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۶ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ
(فتوى نمبر: الف-۹۸۲۲۳۸)

بذریعہ خط طلاق دینے کے بعد زبانی تین طلاق کا اقرار

سوال [۶۵۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ زید (شوہر) نے ہندہ (بیوی) کو سفر میں رہتے ہوئے خط میں اس طرح لکھ
کر بھیجا ہے ”میں نے تجوہ کو طلاق دی ہے اور عدت گذارنے کے خرچ کے طور پر پانچ ہزار
روپے بذریعہ ڈاک بھیج دیئے ہیں اور میرے دو بچوں کی پورش کی ذمداداری میں لیتا ہوں۔
ہندہ نے خط ملنے کے بعد اپنے اہل خانہ کو اکسایا، شوہر کے محلہ کے عوام کو بھڑکایا
اور چند امور بذریعہ میٹنگ طے کئے ہیں مثلًا:

(۱) ہندہ کہتی ہے خط سے طلاق نہیں پڑتی (پھر زید نے کہا میری مراد تین طلاق ہیں
یعنی خط میں طلاق مغلظہ دی ہے)

(۲) جب دلائل سے وقوع طلاق ثابت ہو گیا، تو اب عدت گزاری مگر عدت ختم ہو کر ایک سال گذر گیا، مگر وہ شوہر کے گھر سے جانا نہیں چاہتی اور شوہراس کے خوف یا فتنہ کے اندر بیشہ سے گھر واپس نہیں آسکا۔

(۳) زید نکاح ثانی بھی کر چکا ہے، مگر عوام کہتی ہے ہم فتویٰ نہیں جانتے۔ بہر حال زید کو دوبارہ ہندہ کے ساتھ نکاح کرنا ہی پڑے گا اور دوسرا بیوی کو گھر میں گھنے نہیں دیں گے۔

(۴) عوام کہتی ہے: ہندہ اب کیسے کھائے گی؟ جب ہندہ سے نکاح کرانے کی بات کہی گئی تو کہتی ہے کہ میں یا تو زید کے ساتھ رہوں گی یا پھر نکاح ہی کبھی نہیں کروں گی۔

اب معلوم یہ کرنا ہے کہ مندرجہ بالا ۵/۲۷۵ راتوں میں شریعت کیا کہتی ہے، ہم مسلمان ہیں ہمیں عوام اور ہندہ کی نہیں؛ بلکہ ”ان الحکم إلا لله“ صرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ معلوم کرنا ہے۔ برائے کرم قرآن و نص صریح یا فقہی (حفیہ) عبارات مع حوالہ جواب مرحمت فرمائیں۔

جزاكم الله تعالى في الدارين.

المستفتی: اکرام الحسن

باسم سجحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شوہرنے خط میں جو طلاق دی ہے اس کے بارے میں شوہر زبانی اقرار کر رہا ہے کہ میری مراد خط میں تین طلاق ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی پر تین طلاق (طلاق مغلظہ) واقع ہو گئی ہیں اور اب بلا حلالة شرعیہ زید کے لئے ہندہ کو اپنے پاس رکھنا جائز نہ ہوگا۔

نیز ہندہ کا زید کے گھر پر قضاۓ کرنا جائز نہیں اور محلہ والوں کا ہندہ کا ساتھ دینا اور زید کو ہندہ کو اپنے پاس رکھنے پر مجبور کرنا جائز نہیں ہے، اس سے محلہ والے جو اسی حالت میں رکھنے پر مجبور کرتے ہوں آنکھ گار ہوں گے۔

فإإن كتب امرأته طلاق، فهي طلاق سواء بعث الكتاب إليها، أو لم يبعث.

(مبسوط سرخسی، دارالكتب العلمية بيروت ۶/۴۳، أشرط الفقهاء بالكتاب بشرطین

الأول أن تكون مستحبة والثاني مرسومة)

قال الحنفية: الكتابة إذا كانت مستحبة ومرسومة يقع بها نوى أو لم ينو.

(الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٩ / ٢٤)

وإن كان الطلاق ثالثاً في الحرمة، وثبتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً يدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هندية، قدیم ٤٧٣ / ١، هندية، إتحاد جدید ٥٣٥ / ١)

قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُلُوْانِ . [المائدہ: ٢]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً.
(نسائي شريف، كتاب الزكاة، باب التحريريض على الصدق، النسخة الهندية ١ / ٢٧٤، دارالسلام رقم: ٤٥٥) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عن فنا اللہ عنہ
۳ شعبان المعظم ۱۴۳۵ھ
(نومی نمبر: الف ۱۹۱۶/۳۱)

اسٹامپ پر سہ طلاق دے کر آزاد کر دیا لکھ کر بیوی کو دینا

سوال [٦٥٩٢]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد کبیر نے اپنی بیوی کو اسٹامپ پر لکھ کر دیا کہ میں نے پچوں کے سامنے اپنی بیوی کو سہ (تین) طلاق دے کر آزاد کر دیا ہے، اس تحریر سے کون سی طلاق ہوئی تحریر پر مادیں۔

المستفتی: نور الدین، البا غ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق نامہ میں صاف لکھا ہے کہ سہ طلاق دے کر آزاد کر دیا ہے، سے کے معنی تین کے ہیں؛ اس لئے یہو پر تین طلاق مغلظہ واقع ہو کر یہو شوہر پر بالکل حرام ہو گئی ہے۔ اب بغیر حلالہ کے دوبارہ دونوں میں نکاح بھی جائز نہ ہو گا۔

عن سماک قال: سمعت عکرمة، يقول: الطلاق مرتان فِإِمْسَاكٍ بِمُعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيعٍ بِالْحَسَانِ۔ قَالَ: إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَإِنْ شَاءَ نَكِحَهَا، وَإِذَا طَلَقَهَا ثَنَتِينِ فَإِنْ شَاءَ نَكِحَهَا، فَإِذَا طَلَقَهَا ثَلَاثَةً فَلَا تَحْلُلُ لَهُ حَتَّى تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ (المصنف لابن أبي شيبة، مؤسسة علوم

القرآن، بيروت ۱۹۷۰، رقم: ۱۹۵۶۴)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويد خل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(فتاویٰ عالمگیری، ذکر یا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۳۵۰، هدایۃ اشرا فی دیوبند ۲/۳۹۹، قلوری امدادیہ دیوبند ۱/۷۸، مجمع الأنہر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۸۸، تاتار خانیہ، ذکر یا ۱/۱۴۷، رقم: ۳۰۵/۷۵۰) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان الدین عنہ
۱۰ ارشعبان المعظم ۱۳۲۵ھ
(نومی نمبر: الف ۳۲/۸۵۲)

تحریراً تین طلاق دینا

سوال [۲۵۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں ریس احمد ولد اشتیاق احمد مرحوم ساکن کسریول تھا نہ: ناگ پھنی مراد آباد خدائے کریم کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اپنے پورے ہوش و حواس میں بغیر کسی زور یا دباؤ کے یہ بیان قلم بند کر رہا ہوں کہ میری یہو مسماۃ فرحة دیبا، لیڈی اسپیشل شٹ ڈاکٹروں کے مشورے نیز میڈیکل کی بیشتر روپوں کی روشنی میں رحم یعنی بچہ دانی میں

سالوں پرانے کینسر کے موزی اور مہلک مرض میں بنتا ہے، جس کے نتیجہ میں وہ اولاد آدم کو بڑھانے یعنی بچہ پیدا کرنے کے لائق ہرگز نہیں ہے اور بیماری کے سبب نہ ہی حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل ہے، اس کے علاوہ وہ عالی کردار اور اخلاق کی بھی حامل نہیں اور نہ ہی وہ امور خانہ داری کے دیگر اصولوں سے روشنas ہے؛ لہذا ان مشکل حالات کی روشنی میں، میں رئیس احمد ولد اشتیاق اپنی یوںی فرحد بیان ختنہ خلیق احمد ساکن تحری داسرائے سنن الجل کو تین طلاق دیتا ہوں اور ساتھ ہی یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ آج موئخہ: ۱۵ اپریل سے پوری طرح میرے نکاح سے باہر اور آزاد ہے۔

میر ان کو رہ بالا بیان پورا درست ہے، اللہ تعالیٰ میری مد فرمائے۔

(۱) ایسی صورت میں کون سی طلاق واقع ہوتی؟

(۲) طلاق ہونے کی صورت میں شوہر کے اوپر کس کس چیز کی ادائے کی لازم ہے؟

(۳) مطلقہ کا جہیز اور جو سامان شوہرنے شادی کے وقت چڑھایا تھا یا دیا تھا اس کا

مالک کون ہے؟

المستفتی: رئیس احمد، کسرول، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسئولہ میں تین طلاق "مغلظہ" واقع ہو گئیں۔

کما فی الہدایۃ: أَن يطلقبها ثلاثاً بكلمة واحدة، أو ثلاثاً في طهر واحد، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق. (ہدایۃ، کتاب الطلاق، باب طلاق السنۃ،

اشرفی دیوبند ۲۹۲/۹، دارالسلام ۳۵۵/۲)

طلاق مغلظہ کے بعد اگر جہاں شوہر کہے عورت وہیں عدت گزارے تو عورت ایام عدت کے نفقہ کی مستحق ہے، اس کے بعد کسی قسم کا حق نہیں ہے۔

فی الہدایۃ: إِذَا طلق الرَّجُل امْرَأَهُ فَلَهَا النَّفَقَةُ الْخ. (ہدایۃ، اشرفی دیوبند

۴۴۳/۱۱، دارالسلام ۱۱۷/۱۱)

(۳) سامان جیز شرعاً لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے، وہ اسے ہی واپس ملے گا اور لڑکے کی طرف سے دیئے جانے والے سامان کا مدار عرف پر ہے، اگر آپ کی برادری کے عرف و رواج میں وہ لڑکی کی ملکیت سمجھے جاتے ہیں، تو لڑکی ہی مالک ہے ورنہ اگر ملکیت نہ سمجھا جاتا ہو؛ بلکہ لڑکے والوں کا ہی سمجھا جاتا ہے، تو لڑکا مالک ہے، وہ واپس لے سکتا ہے۔
 (مستقاد: فتاویٰ دارالعلوم ۳۵۹/۸)

فی الشامیة: إِن كُلَّ أَحَدٍ يَعْلَمُ أَنَّ الْجَهَازَ مُلْكُ الْمَرْأَةِ، وَأَنَّهُ إِذَا طَلَقَهَا تَأْخِذُهُ كَلْهٗ. (شامی، کراچی ۳/۵۸۵، زکریا ۵/۲۹۹) فَقْطُ اللَّهُ سَبَّاحَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

كتبة: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
 الجواب صحیح:
 احقر محمد سلمان منصور پوری غفران
 ۲۱ رب جمادی الثانيہ ۱۴۳۷ھ
 (فتوى نمبر: الف ۲۲/۳۹۳۶)

بیوی کو تحریری تین طلاق دینا

سوال [۶۵۹۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے ایک عزیز اسرار احمد نے اپنی رائٹنگ ہندی بھاشا میں مندرجہ ذیل عبارت لکھتے ہوئے اپنی اہلیہ سروری بیگم کو طلاق دی، سروری بیگم اپنی پیش کو طلاق دینا چاہتا ہوں اب سروری بیگن کے ساتھ رہنا منظور نہیں ہے اور سروری بیگم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں دستخط ہندی اسرار احمد پر محمد اسلام ۲/۱۹۹۲ء۔

طلاق دینے کی وجہ دوسروی عورت سے لگاؤ تھا، بعد طلاق سروری بیگم نے اپنے بچوں کی طرف سے گزارہ بھتہ کا دعویٰ عدالت مجاز میں کر دیا، جو سروری بیگم و بچوں کے حق میں پورا ہوا تقریباً ۲۳ ماہ پیشتر اسرار احمد بیمار ہوئے، تب بڑا لڑکا عیادت کے لئے گیا، اسرار احمد سے سروری بیگم کے کئی بچے ہیں، جن میں سے ایک لڑکی کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ باپ بیٹے سے ملنے پر آپسی صلح صفائی کے ذریعہ پھر اسرار احمد نے سروری بیگم کو بحیثیت بیوی

رکھنے کی خواہش ظاہر کی دونوں باپ بیٹی کسی مولانا سے مل کر حالات سے آگاہ کرنے کے بعد مولانا سے کوئی راستہ نکالنے کو کہا، اسرار احمد کا لکھا ہوا طلاق نامہ سروری بیگم کے مقدمہ میں داخل ہے، آپسی ملی بھگت کر کے طلاق نامہ کی ہو بہ نقل لکھا کر مولانا کو دے کر اسرار احمد نے اپنا حلفیہ بیان مولانا کو دیا کہ یہ میرا لکھا ہوا طلاق نامہ نہیں ہے، طلاق میں نہ نہیں دی ہے، مولانا نے فتویٰ صادر فرمادیا کہ طلاق نہیں ہوئی ہے، جس پر میاں بیوی پھر ایک ساتھ رہنے لگے، کچھ لوگوں کوشک ہوا تو حلفیہ بیان کے ساتھ دیا ہوا طلاق نامہ کی تحریر دیکھا گیا، تب راز کھلا کہ مولانا کو دی ہوئی طلاق نامہ کی تحریر اسرار احمد کے لڑکے کے ہاتھ کی ہے، اسرار احمد نے چالاکی سے لڑکے سے تحریر لکھوا کر حلف لیا ہے کہ یہ میری تحریر نہیں ہے؛ جبکہ اصل تحریر آج بھی مقدمہ میں لگی ہے۔

الف: مندرجہ حالات کے تحت اسرار احمد و سروری بیگم کا ایک ساتھ بحیثیت میاں بیوی کے رہنا اور مولانا کا دیا ہوا فتویٰ درست ہے، اگر نہیں تو اسرار و سروری بیگم کے ایک ہونے کی کیا صورت ہے۔

ب: اگر فتویٰ درست نہیں ہے، تو عزیزوں کے لئے کیا حکم ہے؟ عزیزوں کو اسرار احمد کے یہاں کھانا پینا درست ہے یا نہیں؟

المستفی: انصاف حسین صدیقی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) سوال نامہ کے ہر پہلو پر غور کیا گیا ہے، مذکورہ واقع میں بیوی پر طلاق مخالفہ واقع ہو چکی ہے، جو اسرار احمد کی ہندی تحریر سے ثابت ہوا ہے۔
وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى، أو لم ينو. (شامی، کتاب الطلاق، قبیل باب الصریح، زکریا ۴/۴۵۶، کراچی ۳/۲۴۶، فتاویٰ قاضی حان، زکریا ۱/۲۸۷)
وعلى هامش الهندية، زکریا ۱/۷۱، عالمگیری، زکریا قدیم ۱/۳۷۸، جدید ۱/۴۴۶)

اور بعد میں جن مولانا صاحب سے غلط بیانی کے ساتھ طلاق واقع نہ ہونے کا فتویٰ

لیا گیا ہے، وہ خلاف واقعہ ہے، اس نے مولانا صاحب کو دھوکہ دے کر اپنی مرضی کا جواب حاصل کیا ہے اور اس جواب کے ذریعہ سے یہوی اس کے لئے حلال نہیں ہو سکتی ہے، وہ حرام ہی ہے، کسی چیز کو حلال کرنے والا اور حرام کرنے والا اللہ ہے، غلط بیانی سے حرام چیز کے بارے میں حلال ہونے کا فتویٰ لیا جائے، تو وہ حلال نہیں ہو سکتی ہے اور ان دونوں کے ایک ساتھ ہونے کے لئے شرعی حلالہ ضروری ہے۔

وَإِنْ كَانَ الطَّلاقُ ثُلَثًا فِي الْحُرَةِ لَمْ تَحْلِ لَهُ حَتَّى تَنكِحْ زَوْجًا غَيْرِهِ
نِكَاحًا صَحِيبًا وَيَدُ خَلْ بَهَا، ثُمَّ يَطْلُقُهَا، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا۔ (فتاویٰ عالمگیری، زکریا
قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ اشرفی دیوبند ۹/۳۹۹، تاتار حانیہ، زکریا ۵/۱۴۷،
رقم: ۳۹۵، مجمع الأنہر، دارالكتب العلمية بیروت ۲/۸۸، بدائع الصنائع، زکریا ۳/۷۵)
(۲) اسرار احمد گناہ کبیرہ، حرام کاری اور زنا کاری میں مبتلا ہے، جب تک کہ وہ حلالہ کا طریقہ نہ اختیار کر لے اور اپنے گناہ سے توبہ نہ کر لے، اس کے ساتھ حقہ پانی بند کر دینا چاہئے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ [المائدہ: ۲]

قَالَ اللَّهُ تَبارَكَ وَتَعَالَىٰ: وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَسَّكُمُ النَّارُ۔
[سورة الہود: ۱۳] فقط واللہ سمجھا نہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان متصور پوری غفرله
۲۵ ربیع الاول ۱۴۲۱ھ
۲۵/۳/۱۳۲۱ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۲۵ ربیع الاول ۱۴۲۱ھ
(فتولی نمبر: الف ۳۵/۶۵۵۹)

تحریری طلاق مغلظہ

سوال [۶۵۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ میں اسے چھوڑ رہا ہوں، میں ان کو طلاق دیتا ہوں، میں اسے چھوڑ رہا ہوں میں ان کو طلاق دیتا ہوں میں اسے چھوڑ رہا ہوں، میں ان کو طلاق دیتا ہوں، میں اسے چھوڑ رہا ہوں، میں ان کو طلاق دیتا ہوں۔

میرا عقد ثانی بہ مراد جناب رفتت اللہ خان کے ساتھ مورخہ: ۸ اپریل ۱۹۷۳ء کو ہوا تھا اور ان کے نطفے سے میرے چار بچے جس میں ایک لڑکی اور تین لڑکے پیدا ہوئے، میرے شوہر ایک ناکارہ قسم کے انسان ہیں، سلفا اور شراب کے عادی ہیں، ہم دونوں میں اسی بنا پر تنازعہ ہونے لگا اور میں اپنے شوہر کے وطن کو چھوڑ کر اپنے بہنوئی کے گھر آگئی، اس واقعہ کو قریب سال سال ہو گئے اور میں نے اپنی گذر اوقات کے لئے ایک دینی مدرسہ میں بچیوں کو قرآن پاک اور دینی تعلیم اردو وغیرہ پڑھانے کے لئے نوکری کر لی، میرے شوہرا کثیر میرے بہنوئی کے گھر آتے رہے؛ لیکن کبھی بچوں کے لئے خرچ وغیرہ نہیں دیا۔ اب سے قریب دو سال پہلے ایک دن میرے شوہر آئے تو چھوٹی بچی جو ہے ان کو دیکھ کر چھپ گئی تو کہنے لگے، یہ لڑکی مجھ سے اس قدر کیوں ڈرتی ہے، تو میں نے کہا آپ اس طرح آتے ہیں کہ کبھی ان کو پیار نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی چیز لے کر آتے ہیں اور اگر کبھی آپ ان کی کسی ضرورت کا خیال کرتے تو یہ سمجھتے کہ یہ ہمارے باپ ہیں، میری بات سن کر اپنے لڑکے سے کاپی اور پنسل منگائی اور مندرجہ بالآخری جس کی یہ فوٹو کاپی ہے لکھ کر چلے گئے، میں نے اس تحریر کو باقاعدہ طلاق سمجھ کر عدت گزاری، دوران عدت پھر میرے بہنوئی کے گھر آئے اور کہنے لگے عدت کر رہی ہو، بس اتنا ہی کہا اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ واپس چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے خود بھی اور کئی لوگوں سے بھی کہا کہ میں نے طلاق نہیں دی اور طلاق تو ”ط“ سے ہوتی ہے ”ت“ سے نہیں ہوتی اور پہلی بات کہ مجھ سے لکھنا نہیں آتا برائے کرم آپ شریعت کی روشنی میں فتویٰ دیں کہ آیا مجھ پر طلاق پڑ گئی یا نہیں؟

الجواب وبالله التوفيق: اگر سائل اپنے بیان میں سچا ہے اور نفس الامر اور واقع میں شوہرنے مذکورہ تحریر لکھ کر دی ہے، تو یوں پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر شوہر پر بالکل حرام ہو یکی ہے اور طلاق واقع ہونے کے لئے صحیح الفاظ بولنا یا لکھنا شرط نہیں ہے؛ بلکہ بگڑے ہوئے الفاظ سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

و يَقُولُ بِهَا ؛ أَيْ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَمَا بِمَعْنَا هَا مِنَ الصَّرِيحِ وَيَدْخُلُ نَحْوَ طَلَاقٍ وَطَلَاقَ ، أَوْ طَلَاقَ لَ ، قَ ، أَوْ طَلَاقَ بَاشَ بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ عَالَمٍ وَجَاهِلٍ . (الدر المختار، کتاب الطلاق، باب الصریح، کراچی ۲۴۸/۴، زکریا ۴۵۹، مجمع الانہر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۱/۲) **نَفْطَةُ الدِّينِ بِسْجَنَةِ وَتَعَالَى عَلَمُ**

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۱۳۱۰ھ / شعبان المعنیم

(فتویٰ نمبر: الف ۱۹۲۷/۲۶)

غصہ میں کاغذ پر تین طلاق لکھنے کا حکم

سوال [۲۵۹۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کا عقد مسماۃ ہندہ سے ہوا، اور زوجین میں موافقت ہے؛ لیکن بعض خانگی امور کے سلسلے میں زید کی والدہ اور ہندہ کی والدہ کے درمیان ترش کلامی ہوئی، اس منظر کو دیکھ کر زید کا ذہن ماؤف ہو گیا، اس حالت میں زید نے ایک کاغذ کے پرچہ پر ہندہ کو طلاق، طلاق، طلاق، دیتا ہوں لکھا، اس تحریر پر زید نے اپنے دستخط یا نشانی انگوٹھا ثبت نہیں کیا؛ بلکہ فرضی نام لکھ دیا، زید از روئے حلف خدا نے قدوس کو حاضر و ناظر جان کر یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے یہ جو لکھا اس حال میں لکھا جبکہ ذہن ماؤف تھا، زید نے صیغہ طلاق زبان سے قطعاً ادا نہیں کیا، زید کی نیت و ارادہ قطعاً اپنی زوجہ کو طلاق دینے کا نہ تھا، کوئی نارضی کی اپنی وجہ کے ساتھ نہ پہلے تھی نہ اب ہے، بس یہ ایک تحریر غیر شوری طور پر

زید کے قلم سے لکھی گئی، کیا ایسی حالت میں جبکہ نہ طلاق کی نیت ہے اور نہ زبان سے طلاق دی گئی اور نہ تحریر پر دستخط ہیں، تو کیا حکم طلاق نافذ کیا جا سکتا ہے؟ زید مکر عرض کرتا ہے کہ وہ تحریر نہ شعوری طور پر لکھی ہے اس میں نیت و ارادے کو قطعاً خل نہیں ہے، برائے کرم حکم شرعی سے رہنمائی فرمائی جائے، بینوا تو جروا۔

محمد اسلم قریشی

بیان ہذا سائل محمد اسلم نے میرے رو برو بیان کیا ہے اور بیان مذکور میں عبدالحمید امام مسجد محلہ: آنکھونہ قریہ تنا گلہ ضلع چوروراجستھان جہاں کا سائل باشندہ ہے نے تحریر کیا ہے میں اپنے گمان پر کہہ سکتا ہوں، سائل محمد اسلم نے غلط بیانی نہیں کی ہے؛ کیونکہ میں محمد اسلم کے عادات و اطوار سے بخوبی واقف ہوں۔

المستفتی: عبدالحمید، امام مسجد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہرنے ہندہ کو طلاق طلاق لکھا ہے تو شرعاً اس سے ہندہ پر تین طلاقیں واقع ہو کروہ مغلظہ ہو گئی ہے، اگرچہ حالت غصہ اور ماونی میں زبان سے کہے بغیر لکھا ہو۔ اب آئندہ بلا حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی جائز نہیں ہو گا۔

(مستقاد: فتاویٰ محمودیہ ۳۲/۳، ۳۸۲/۲، امداد الفتاویٰ ۱۳۱/۹)

الكتابة على نوعين مرسومة، وغير مرسومة (إلى قوله) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى، أو لم ينو. (شامي، كتاب الطلاق، قبل باب الصریح، کراجی ۴/۳، زکریا ۴/۵۶، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۷۸، جدید ۱/۴۶، قاضی خان، زکریا ۱/۲۸۷، وعلى هامش الہندیہ، زکریا ۱/۴۷۱)

ولو قال لزوجته أنت طالق، طالق، طالق طلقت ثلاثاً الخ. (الأشباه والنظائر قدیم ۱/۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶، هکذا فی الہندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۵۶، جدید ۱/۴۲۳) **نقطة والله سبحانه وتعالى اعلم**

کتبہ: شیعہ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴۰۹ھ ربيع الاول ۲۶

(فتاویٰ نمبر: الف/۲۳۲)

شوہر کا بیوی کو طلاق کا پرچہ دینا اور بیوی کا نہ لینا

سوال [۶۵۹۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) ہماری بہن کی شادی نبی الدین سے ہوئی اور وہ شادی کے روز سے ہی راضی نہیں تھا؛ لیکن اُڑکی پر پینگ اڑانے کا جھوٹا الزام لگا کر خوب پٹائی کی۔ نیز ساس نے بھی ناجائز تعلقات کا الزام لگایا، ایک مرتبہ لڑکے نے تجارت کرنے کے لئے زیور فروخت کرنا چاہا، تو لڑکی نے سمجھایا کہ روپے کہیں سے قرض لے لو، زیور فیچ کر دوبارہ خریدنا مشکل ہوتا ہے، اس پر اس نے وہ زیور لڑکی سے اتر والیا اور کچھ زیور میکے میں تھا وہ بھی منگوالیا بہت کہا کہ اب اپنا سامان لو اور اپنے گھر چل جاؤ۔ نیز مہر کے پورے میے لو اور طلاق کا پرچہ لو، تمہارا ہم سے کوئی مطلب نہیں؛ لیکن اُڑکی نے وہ پرچہ نہیں لیا اور معلوم نہیں ہو سکا کہ اس میں طلاق لکھی تھی یا نہیں لکھی تو کتنی تھیں؛ لہذا شرع کی رو سے لڑکے کے بیہاں اُڑکی بھیجی جائے یا نہیں؟ (۲) اب اگر لڑکا پرچہ میں لکھی ہوئی طلاق کے بارے میں نہ بتائے تو شرعاً اس پر کیا حکم لاگو ہوتا ہے؟ لڑکے کو حقیقت بیان کر دیں چاہئے یا نہیں؟

المستفتی: محمد عثمان، قصبہ: تمبور، سینتا پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) مذکورہ پرچہ میں لکھی ہوئی طلاق کے بارے میں یہی حکم ہوگا کہ شوہر سے معلوم کیا جائے کہ اس نے اس میں اپنی بیوی کے لئے کتنی طلاقیں لکھی ہیں، اگر صرف افظ طلاق ایک بالکھا ہے، تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور اگر دوبار لکھا ہے تو دو طلاق رجعی ہوں گی اور اگر تین بار یا زیادہ لکھا ہے تو طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی؛

لہذا اگر تین یا زیادہ طلاق لکھی ہیں تو لڑکی کو بغیر حلال نہ بھیج دینا جائز نہ ہوگا اور اگر تین سے کم لکھا ہے اور ابھی عدت ختم نہیں ہوئی ہے تو لڑکی کو بھیج دینا جائز ہوگا اور اگر عدت ختم ہو گئی ہے، تو بغیر نکاح بھیج دینا جائز نہ ہوگا اور یہ سب صورتیں اس وقت ہیں؛ جبکہ وہ اس میں طلاق لکھنے کا خود اقرار کر رہا ہو یا گواہوں سے ثابت ہو اور اگر وہ اس میں طلاق لکھنے کا انکار کر رہا ہو اور نہ ہی شرعی گواہ موجود ہوں تو ایسی صورت میں کوئی طلاق شمار نہ ہوگی، لڑکی کو بھیج دینا جائز نہ ہوگا۔

عن عامر الشعبي: قال: قلت لفاطمة بنت قيس، حديثي عن طلاقك، قالت: طلقني زوجي ثلاثة، وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. (السنن ابن ماجه، أبواب الطلاق، باب من طلق ثلاثة في مجلس واحد، النسخة الهندية ۴۵، رقم: ۲۰۲۴)

وإن لم يقر أنه كتابه ولم تقم ببيانه؛ لكنه وصف الأمر على وجهه لاتطلق قضاء ولا ديانة الخ. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی الطلاق بالكتابة، ذکریاء ۴۵۶، کراچی ۳/۲۴۷) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۵ اصراف المظفر ۱۴۳۱ھ

۱۴۳۲/۲/۱۵

(فتوى نمبر: الف ۳۳۶/۲۹)

شوہر سے جبراً طلاق کا املاء کرنا

سوال [۱۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نفیس ولد عبد اللطیف محلہ: مفتی ٹولہ مراد آباد کا ہوں، میری شادی ہوئے عرصہ ایک سال ہوا، شگفتہ پروین بنت انوار نعیم مرحوم رفت پورہ کے ساتھ ہوئی ہے، اس عرصہ میں میرے والد اور والدہ میری بیوی پر جنات کے اثرات کے الزام لگا کر مجھ سے الگ کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے مجھ پر زور دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دید وورنہ

تم گھر سے اور کاروبار سے باہر ہو جاؤ تقریباً تین ماہ سے انہوں نے مجھے زیادہ پریشان کیا، جس کی وجہ سے میں اپنی بیوی کو اس کے میکہ میں پہنچا آیا اور میں بھی تین مہینے سے اپنے سسرال میں ہی رہ رہا ہوں۔

آج میں اپنے لئے مکان و دوکان کے واسطے بازار میں معلوم کرنے گیا، تو میرے والد نے مجھے واحد بھائی جو کہ دوکان کے اوپر رہتے ہیں، ان سے بلوایا اور واحد بھائی کے گھر اوپر کمرے میں لے گئے اور وہاں پر میرے بھائی بھی موجود تھے اور انہوں نے کمرہ بند کر لیا اور میرے والد نے شگفتہ پروین کو طلاق دینے کو کہا میں نے ان کو جواب دیا کہ میں طلاق نہیں دوں گا، انہوں نے مجھے زور دیا کہ تو ابھی لکھ اور کاپی پینسل میرے ہاتھ میں دیدی اور کہا کہ لکھ میں نے شگفتہ پروین کو طلاق دی؛ لیکن میں نے جواب دیا کہ جو تم کہتے ہو لکھ دیتا ہوں، مگر یہ طلاق نہیں ہوگی، اس وقت تو تم نے مجھے کمرے میں بند کر لیا ہے، جو کہو لکھ دوں گا، اس کے بعد جیسے وہ بولتے گئے میں نے تحریر کر دیا، اس کے بعد میں یہ سوچ کر کہ پرچہ ابھی میری بیوی تک نہیں پہنچا ہو گا اور میں فوراً سسرال چلا گیا کہ پرچہ ان کونہ ملے اور میں راستے میں پھاڑ کر پھینک دوں گا؛ کیونکہ مجھ سے زبردستی یہ پرچہ لکھوایا گیا تھا۔ اور نہ میں نے طلاق دینے کو کہا تھا؛ اس لئے میں اوپر وال ر صاحب کو یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ آپ جو چاہو لکھواؤ؛ لیکن یہ طلاق نہیں ہوگی، اس بارے میں میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ میں نے یہ پرچہ پر تحریر لکھ دی، اپنے والد کے کہنے سے، انہوں نے کہا کہ لکھو شگفتہ پروین کو تین طلاق دیتا ہوں، پھر اس کے بعد کہا کہ لکھو میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے ایک ایک بار لکھ دیا، پھر انہوں نے کہا تین بار لکھو، میں نے دوبار لکھ دیا، اسی طرح تین بار طلاق لکھ دی اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے نیچے دستخط کر دو، پھر میں نے دستخط کر دیئے، پھر انہوں نے یہ پرچہ اپنی جیب میں رکھ لیا اور چھوٹے بھائی کے ہاتھ بھیج دیا، میں ایک بار پھر حلفیہ کہتا ہوں کہ میرا طلاق دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور مجھ سے یہ تحریر زبردستی لکھوائی گئی ہے، میں نے طلاق

نہیں دی ہے اور نہ ہی زبان سے کہا ہے اور نہ ہی لکھتے وقت میری مراد میری بیوی تھی، صرف والد صاحب کے جملوں کو بطور مالکھا ہے۔

المستفتی: محمد نشیس، محلہ: مفتی ٹولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ کی عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ شوہر نے محض باپ کے دباؤ اور جرکی بناء پر باپ کے املاک جملوں کو لکھا ہے نہ اس کی طلاق دینے کی نیت تھی اور نہ ہی بیوی کو طلاق دینے کے لئے اپنی مرضی سے کوئی جملہ لکھا ہے اور نہ زبان سے طلاق کا کوئی جملہ استعمال کیا ہے۔

نیز اس نے باپ کے املاک جملوں کو لکھنے سے پہلے یہ کہدیا ہے کہ نہ طلاق دوں گا اور نہ ہی طلاق اس تحریر سے ہوگی؛ اس لئے مذکورہ صورت میں بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی، میاں بیوی آپس میں ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں؛ کیونکہ اس طرح جبر و دباؤ سے الفاظ طلاق لکھوانے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے؛ جبکہ زبان سے کوئی الفاظ استعمال نہ کیا ہو۔
(مسئلہ: کفایت المفتی ترمیم ۵۶۲، جدید زکر ۷۳/۲)

إذا كتب الطلاق واستثنى باللسان، أو عكس لا يقع الطلاق الخ.

(فتاویٰ عالمگیری، کتاب الطلاق، الفصل السادس فی الطلاق بالكتابة، زکریا

قدیم ۱/۳۷۸، جدید ۱/۴۴۶)

وقیدنا بكونه على النطق؛ لأنَّه لو أكره على أن يكتب طلاق امرأته، فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا، وفي البزارية: أكره على طلاقها، فكتب فلانة بنت فلانة طلاق لم يقع .
(البحر الرائق، ۳/۳۴۶، شامي، کراچی ۳/۲۳۶)

رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته، فكتب
فلانة بنت فلانة امرأته، طلاق..... ولم يعبر بلسانه لا تطلق. (تاتارخانیہ، کتاب الطلاق،
الفصل السادس، فی إيقاع الطلاق بالكتابة قدیم ۳/۳۸۰، جدید زکریا دیوبند ۴/۵۳۲)

رقم: ۶۸۴۳، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۷۹، جدید ۱/۴۴۶) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۲/ جمادی الثانیہ ۱۴۳۱ھ
۱۳۱۱/۶/۱۶

کتبہ: شیبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۲/ جمادی الثانیہ ۱۴۳۱ھ

(فتوى نمبر: الف ۲۲۶۸/۲۶)

طلاق دے کر اور طلاق کے کلمات ادا کر کے زوجیت سے الگ کر دیا لکھوانے کا حکم

سوال [۶۵۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد تو صیف ول محمد رفیق نے اپنی زوجہ اقبال فاطمہ کو تحریری طور پر طلاق دیدی ہے اور یہ تحریری وکیل کے ذریعہ سے قانونی شکل میں لکھوا کر دی ہے اور طلاق نامہ کی فوٹو کا پی ساتھ میں منسلک ہے اور طلاق نامہ میں یہ الفاظ لکھوائے ہیں، ”طلاق دے کر اور طلاق کے کلمات ادا کر کے زوجیت سے الگ کر دیا تو مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ اس طلاق نامہ کے ذریعہ سے شرعی طور پر طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟

المستفتی: محمد تو صیف ول محمد رفیق، محلہ سید ھی سراۓ مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق نامہ کے الفاظ ہمارے سامنے آچکے ہیں، ان الفاظ کے رو سے محمد تو صیف کی بیوی پر شرعی طور پر طلاق واقع ہو چکی ہے اور طلاق کے وقت سے تین ماہواری کے ذریعہ دت گزار کر اقبال فاطمہ کو مکمل آزادی حاصل ہو جائے گی اور عدت کے بعد اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر کے باعصمت زندگی گزارنے کا حق حاصل ہو جائے گا۔

ثُمَّ الْمَرْسُومَةُ لَا تَخْلُو إِمَّا إِنْ أَرْسَلَ الطَّلاقَ بِأَنْ كَتَبَ أَمَا بَعْدَ: فَأَنْتَ طَالِقٌ، فَكَمَا كَتَبَ هَذَا يَقُولُ الطَّلاقُ وَتَلَزِّمُهَا الْعِدَةُ مِنْ وَقْتِ الْكِتَابَةِ.

(ہندیہ زکریا قدیم ۱/۳۷۸، زکریا جدید ۱/۴۴۶)

ولو استكتب من آخر كتاباً بطلاقها وقرأة على الزوج، فأخذه الزوج،
وختمه، وعنونه، وبعث به إليها فأتاهما وقع إن أقر الزوج أنه كتابه.
(شامي، كتاب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابة كراچی ۲۴۷/۳، زکریا
دیوبند ۴۵۶/۴) فقط واللہ سمجھانہ و تعالیٰ اعلم

لکتبہ: شبیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۲۹ ربیع الثانی ۱۴۳۶ھ

(نحوی نمبر: الف ۱۲۰۱۲/۳۱)

الجواب صحیح:

احترم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۶/۳/۲۹



(۷) باب الطلاق الثالث

ایک مجلس کی تین طلاق تین ہی شمار ہوتی ہیں

سوال [۲۶۰۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متبین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی سے کئی بار کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، ۲۳ ستمبر ۲۰۰۲ء کو ایک سانس میں کم سے کم چار پانچ مرتبہ کہا میں طلاق دیتا ہوں، اس کو سننے پر اس کی بیوی نے کہا کہ ایسے طلاق نہیں ہوتی ہے، دو چار آدمیوں کے سامنے کہوتا ہو گی، پانچ منٹ کے بعد اس کے کمرے میں جا کر کہا کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ تمہیں طلاق دی، کمرہ میں اندر ہیرا تھا یہ معلوم نہیں ہوا کہ زید نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا تمہیں طلاق دی یا ایسے ہی کہا۔

دوسری رات زید نے رجوع کیا یعنی دونوں زید و بیوی ہمستر ہوئے اور پہلی جنوری ۲۰۰۳ء کو ان کی والدہ زید کی بیوی کو اپنے گھر لے آئیں، ایسی حالت میں زید اپنی بیوی کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے، تو زید کی بیوی کو اس کے ساتھ بھیجنادرست ہو گا یا نہیں؟

المستفتی: انور قیوم، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق کے صحیح ہو کر واقع ہونے کے لئے دو چار آدمی یا گواہوں کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے؛ بلکہ بغیر کسی کی موجودگی میں بھی طلاق ہو جاتی ہے اور قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر طلاق دینا بھی ضروری نہیں ہے، آپس کے تکرار کے وقت میں جو طلاق دی گئی ہے وہ شرعی طور پر واقع ہو گئی ہے، جب تین مرتبہ سے زیادہ ”طلاق دیتا ہوں“ کا الفاظ استعمال کیا ہے اور بیوی نے خود سنा ہے، اس سے تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، پھر شوہرنے

قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ طلاق دی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ بہر صورت طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے اور ایک مجلس کی تین طلاقوں میں ہی طلاق ہوتی ہیں۔ حدیث شریف کی کتابوں میں بے شمار روایات اس سلسلے میں موجود ہیں؛ اس لئے امام ابوحنیفہؓ اور امام مالکؐ، امام شافعیؓ، امام احمد بن حنبلؓ اور جمہور امت کے نزدیک تینوں طلاقوں طلاق مغلظہ کے طور پر واقع ہو جاتی ہیں اور بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو جاتی ہے اور صورت مذکورہ میں طلاق مغلظہ واقع ہو چکنے کے بعد میاں بیوی دونوں کا ہمبستر ہو جانا ناجائز اور حرام کام ہوا ہے، اس کی وجہ سے توبہ کرنا ضروری ہے، یہ مسئلہ کی ناواقفیت کی بنا پر ہوا ہے اور غلطی پر توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، مگر توبہ کرنے کی وجہ سے بیوی شوہر پر حلال نہیں ہو گی اور اس واقعہ کو سوال نامہ کے مطابق آج کی تاریخ تک تقریباً ساڑھے تین مہینے ہو گئے ہیں، اگر اس ساڑھے تین مہینے کے درمیان بیوی کو تین مرتبہ ماہواری آچکی ہے، تو عدت بھی پوری ہو گئی ہے، کسی بھی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے اور اگر تین مرتبہ ماہواری نہیں آئی ہے، تو تین مرتبہ ماہواری مکمل ہونے تک انتظار نالازم ہے، اس کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا درست ہو سکتا ہے، اب اس سلسلہ میں حدیث کی معنبر کتابوں سے کچھ حدیثیں نقل کر دیتے ہیں۔

ان عائشہ[ؓ] أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإنني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتكم وتذوق عسيلتها. (بخاري شریف، کتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق

الثلاث، النسخة الہندیۃ/۷۹۱، رقم: ۵۰۶۱، ف: ۵۶۰)

عن عائشة[ؓ]، أَن رجلاً طلق امرأة ثلاثة، فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول.

(بخاري شریف ۷۹۱/۲، رقم: ۵۲۶۱، ف: ۵۰۶۲، سنن النسائی، کتاب الطلاق،

باب إحلال المطلقة ثلاثةً، النسخة الهندية ۸۴/۲، دارالسلام رقم: ۳۴۴۰)

عن نافع كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثةً، قال: لو طلقت مرة، أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني بهذا، فإن طلقها ثلاثةً حرمت حتى تنكح زوجاً غيره. (بخاري شریف ۷۹۲/۲، رقم: ۵۰۶۶، ف: ۵۲۶۵)

وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحد هم أما أنت طلقت امرأتك مرة، أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثةً، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. (مسلم شریف، کتاب الطلاق،

باب تحريم طلاق الحائض، النسخة الهندية ۱/۴۷۶، بيت الأفکار رقم: ۱۴۷۱)

عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثةً، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويرخي الستار، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر. (نسائی شریف، النسخة الهندية ۲/۸۴، دارالسلام رقم: ۳۴۴۴)

ان حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة تطليقات في كلمة واحدة، فأبانها منه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه. (سنن دارقطني، کتاب الطلاق، دارالكتب العلمية بيروت ۱۰/۴، رقم: ۳۸۷۷)

وكان عبد الله بن عمر إذا سئل عن ذلك، قال: أما أنت طلقت امرأتك تطليقة، أو تطليقتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثةً، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك

وعصیت اللہ فيما أمرک من طلاق امرأتك . (سنن دارقطبی، دارالكتب العلمية

بیروت ۴ / ۱۸، رقم: ۳۹۲۱)

ثم يقول ابن عمر أما أنت فطلقت امرأتك واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد أمرني بهذا وأما أنت فطلقت ثلاثة، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وقد عصيت ربك فيما أمرك به من الطلاق . (سنن دارقطبی، دارالكتب العلمية بیروت ۴ / ۱۹، رقم: ۳۹۲۴)

وإن طلق ثلاثة بكلمة واحدة وقع الثالث، وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده . روى ذلك عن ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وابن مسعود، وأنس، وهو قول أكثـر أهـل الـعـلـم مـن التـابـعـيـن وـالـائـمـة بـعـدـهـمـ . (المـعـنـي لـابـنـ قـادـمـهـ، دارالکفرک بـیـرـوـتـ ۲۸۲ / ۷)

لو قال لزوجته: أنت طلاق، طلاق، طلاق، طلقت ثلاثة . (الأشـاـبـ وـالـنـظـائـرـ)

قديم ۲۱۹، جديـدـ زـكـرـيـاـ ۳۷۶ـ فقطـ وـالـلـهـ سـجـانـهـ وـتـعـالـىـ اـلـعـلـمـ

الجواب صحیح

کتبـ: شـیـرـ اـحمدـ قـاسـیـ عـفـاـ اللـدـعـنـهـ

احقر محمد سليمان منصور پوری غفرله

۹ صفر المظفر ۱۴۲۳ھ

۱۴۲۳م ۲/۹

(فتوى نمبر: الف ۷۹۱۷/۳۶)

ایک مجلس کی تین طلاق تین ہیں یا ایک؟

سوال [۲۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ تین طلاقیں یک وقت یعنی ایک، ہی مرتبہ میں تین بار کہنا ”ایک طلاق رجعی ہے“ کا محققانہ جواب اخبار میں پوری تفصیل تحریر ہے۔

جواب نمبر ۱: (از غیر ملقدین) جب تین طلاق ایک مجلس میں دیجا میں، تو قرآن شریف اور حدیث صحیح کی رو سے ایک طلاق رجعی ہوتی ہے۔

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الظَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ . [البقرة: ۲۲۹]

ترجمہ: طلاق دو مرتبہ ہے، پھر یا تو بھلانی کے ساتھ روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، احسان کے ساتھ چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر طلاق دینے کے بعد عدت گز رجاء نہ دے، عدت گز رجاء کی تو عورت اپنے شوہر سے مکمل طور پر الگ اور جدا ہو جائے گی۔ اور اسے اختیار ہو گا کہ جہاں بھی جی چاہے نکاح کرے۔ اب پہلے شوہر سے سارا تعلق ختم ہو گیا، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں، قرآن مجید کے اس حکم کے دو پہلو قابل غور ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ چونکہ شوہر کو پہلی اور دوسری مرتبہ اس بات کا موقع دیا گیا ہے کہ چاہے رجعت کر لے اور چاہے تو عدت گز رجاء نہ دے کہ عورت جدا ہو جائے؛ اس لئے ظاہر ہے کہ دونوں رجعی طلاقیں ایک ساتھ نہیں ہونی چاہئیں اور چونکہ دوسری مرتبہ کی طلاق کے بعد شوہر کو اختیار ہے؛ اس لئے اس کے ساتھ تیسری نہیں ہونی چاہئے، یعنی شوہر کو جن تین طلاقوں کا حق حاصل ہے وہ بیک وقت نہیں دی جاسکتی ہیں؛ بلکہ ایسا کرنا شرعاً ممنوع ہے۔

(۲) محمد بن لبید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ:

أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضِبًا، ثُمَّ قَالَ أَيْلَعِبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِهِمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُقْتَلَهُ.

(نسائی، کتاب الطلاق الثلاش، مجموعۃ وما فيه من التغليظ النسخة الہندیہ ۲/۸)

رسول اللہ ﷺ کو ایک آدمی نے خبر دی، یعنی ایک آدمی کے متعلق بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو تین طلاق اکٹھا دیدی ہیں، اس پر آپ غضبناک ہو کر کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے؛ حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ یہاں تک کہ ایک آدمی نے کہا۔ اللہ کے رسول ﷺ! کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟

(۲) دوسری بات قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بیک وقت ایک سے زائد یعنی دو یا تین طلاقیں دیدے تو وہ ایک طلاق رجعی ہی ہو گی؛ کیونکہ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا ہے: **الطلاق طلاقان**، طلاق رجعی دو طلاق ہیں؛ بلکہ یہ کہا: **الطلاق مرتان** (طلاق رجعی) دو مرتبہ، دو طلاق اور دو مرتبہ طلاق میں جو فرق ہے واضح ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جاتا کہ طلاق رجعی دو طلاق ہیں، تب تو پہلی ہی مرتبہ طلاق دینے سے طلاق رجعی کا نصاب پورا ہو جاتا؛ لیکن جب یہ کہا گیا ہے کہ طلاق رجعی دو طلاق دو مرتبہ ہے، تو پہلی مرتبہ طلاق دینے سے یہ نصاب پورا نہیں ہو گا، بلطف دیگر شوہر جب اپنی ازدواجی زندگی میں پہلی مرتبہ طلاق دے تو چاہے ایک طلاق دے، یا ایک سے زائد اس سے بظاہر رجعت کا ہی حق ہو گا؛ کیونکہ بہر حال پہلی مرتبہ ہے، پھر اس طرح جب دوسری مرتبہ طلاق دے تو چاہے ایک دے یا ایک سے زیادہ اسے رجعت کا حق ہو گا؛ کیونکہ یہ دوسری مرتبہ طلاق ہے اور طلاق دو مرتبہ رجعی ہوتی ہے، آیت مذکورہ کے ٹھیک اسی معنی کے مطابق رسول اللہ ﷺ کا فیصلہ بھی ہے، مندرجہ ۲۶۵/۱ میں ابن عباسؓ سے مروی ہے:

طلق رکانہ بن عبد یزید اخو بنی مطلب امرأته ثلثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديداً، قال: فسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثة، قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم! قال فإنما تلقك واحدة فارجعها إن شئت قال فرجعها. (مسند أحمد ۲۶۵)

ترجمہ: رکانہ بن عبد یزید مطلبی نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دیں، پھر اس پر سخت غمگین ہوئے، رسول اللہ ﷺ نے ان سے پوچھا تم نے کس طرح طلاق دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تین طلاقیں دی ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک ہی مجلس میں؟ انہوں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک ہی ہے تم چاہے تو رجعت کرلو، اس کے بعد رکانہ نے رجعت کر لی، پھر یہی فیصلہ پوری خلافت صدیقی میں اور دو برس تک عہد فاروقی میں قائم رہا۔

حدیث شریف مسلم شریف ۱/۷۷، پرمروی ہے یعنی نبی کریم ﷺ کے عہد میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں دو سال تک عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تین طلاق ایک ہی تھی، یاد رہے کہ اسلام میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی جلت ہیں اور کوئی نہیں؛ اس لئے شریعت اسلامی کا ثابت شدہ مسئلہ یہی ہوا کہ اگر کسی نے ایک مجلس میں تین طلاق دیدیں، تو اس پر ایک ہی طلاق کا حکم ہو گا یعنی اسے عدت کے اندر اندر رجعت کا حق حاصل رہے گا اور اگر عدت گزر چکی اور میاں بیوی دونوں راضی ہوں، تو آپس میں نکاح کر کے رہ سکتے ہیں۔

المستفتی: طاہر حسین، طالب پریس، سہار پور

جواب من جانب حضرت مفتی صاحب مدرسہ شاہی مراد آباد

باسم سجادۃ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: (۱) اخبار میں دیا ہوا مطلب غیر مقلدوں کے عقائد کا مراد ہے، قرآن کریم کا مطلب ان صاحب سے زیادہ جمہور صحابہ امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، جمہور مفسرین اور فقهاء امت زیادہ جانتے اور سمجھتے تھے، ان کا فیصلہ یہی ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ بغیر حالہ کے نکاح درست نہیں اور آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنا قطعی حرام ہے، وہ زانی و بدکار سمجھے جائیں گے، غیر مقلدوں کا سہارا لینے سے حرام عورت حلال نہیں ہو سکتی؛ چنانچہ امام المفسرین فقیہ بغداد علامہ آلویؒ نے تفسیر روح المعانی میں مردان کا معنی دو کے بیان فرمایا ہے:

هذا يدل على أن معنى (مردان) اثنان ولعله أليق بالنظم وأوفق بسبب النزول الخ. (روح المعانی، سورۃ البقرہ تحت تفسیر

(۲) حضرت محمود بن لمبیگی حدیث کا معنی اور مطلب بالکل واضح ہے، اس میں تین طلاق ہی واقع ہوئی ہیں، اسی وجہ سے آنحضرت ﷺ نا راض اور غضباناً ک ہوئے ہیں اور اگر ایک طلاق ہوتی تو فرمادیتے کہ رجعت کرو؛ چنانچہ اس حدیث شریف کے تحت محدثین نے جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ اربعہ کا مسلک نقل فرمایا ہے:

فَيَمْنَ قَالَ لِأُمِّهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَ: مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ وَالْجَمَهُورُ مِنَ السَّلْفِ وَالخَلْفِ يَقُولُ ثَلَاثًا۔ (مرقاۃ، شرح مشکوہ، باب الخلع، الفصل الثالث، الطلاق الثلاث بلفظ واحد، امدادیہ ملتان ۶/۲۹۳، بذل المجهود، شرح أبو داؤد شریف، کتاب الطلاق، باب بقیة نسخ الراجعة بعد التطlications الثالث، مکتبہ یحییٰ سہلارنیور ۳/۲۷۶، دارالبشایر الإسلامية بیروت ۸/۱۹۵، رقم: ۲۲۰۰)

(۳) مندرجہ احمد رحمہ اللہ علیہ اور سنن کبریٰ بیہقی جدیداً رقم ۲۲۷۱، میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت موجود ہے اور سنن اس میں روایت کرنے والوں کی طرف سے تصرف ہوا ہے اس لئے کہ حضرت ابن عباسؓ سے یہ روایت مروی ہے اور خود ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہے اور ان کا فتویٰ ایک مجلس کی تین طلاق میں تین طلاق ہی کا ہے نیز حضرت رکانہؓ کے گھر والوں کو دوسروں کے مقابلہ میں اصل حقیقت زیادہ بہتر معلوم ہے اور ان کے گھر والوں میں سے کوئی بھی تین طلاق کی بات نہیں فرماتے ہیں بلکہ لفظ البتہ نقل کرتے ہیں اور ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مشکوہ میں حدیث رکانہؓ اس طرح ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ يَزِيدَ بْنِ رَكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ: أَتَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَلَّتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ، فَقَالَ: مَا أَرْدَتْ بِهَا؟ قَلَّتْ: وَاحِدَةً، قَالَ وَاللَّهُ! قَلَّتْ: وَاللَّهُ، قَالَ فَهُوَ كَمَا أَرْدَتْ.

(سنن الترمذی، أبواب الطلاق، واللسوان، باب فی الرجل طلق امرأته البتة، النسخة الهندية ۱/۲۲، دارالسلام رقم: ۱۷۷، اسی سے ملتقیٰ حدیث سنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب فی البتة، النسخة الهندية ۱/۳۰۰، دارالسلام رقم: ۲۲۰۸)

سنن ابن ماجہ أبواب الطلاق، باب طلاق البنت، النسخة الہندیۃ ۴۸، ۱، دارالسلام رقم: ۲۰۵، ۲۰۱، مشکوہ شریف ۲/۲۸۴

میں ہے کہ انہوں نے لفظ البنت سے طلاق دی تھی، جس میں ایک سے تین طلاقوں تک کی گنجائش ہے، ایک طلاق کی نیت ہو تو ایک تین کی نیت ہو تو تین واقع ہوتی ہیں۔ مذکورہ حدیث میں حضرت رکانہ اللہ کی فقہ کھا کر فرمार ہے ہیں کہ ایک طلاق ہی کی نیت تھی۔

ترجمہ: میں نے بنی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ! یہ شک میں نے اپنی بیوی کو طلاق البنت دیدی ہے، تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم نے اس سے کیا ارادہ کیا تھا، تو میں نے کہا ایک طلاق کا، تو حضور ﷺ نے فرمایا اللہ کی فقہ! تو میں نے کہا اللہ کی فقہ! تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ ہو گی جس کا تم نے ارادہ کیا ہے؛ لہذا حضرت رکانہ نے تین طلاق دی، ہی نہیں؛ اس لئے اس سے ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک طلاق ثابت کرنا حدیث رسول اللہ اور صحابہ محمد شین پر اتہام ہے۔ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۳۰ ذی الحجه ۱۴۰۷ھ

(فتوى نمبر: الف ۲۲۲/۲۲)

ایک مجلس کی تین طلاق کا حکم

سوال [۶۶۰۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مตین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کو بد تیزی کی وجہ سے ۲۰ اگست ۲۰۱۲ء بروز اتوار کو ایک مجلس میں تین طلاقوں دیدی ہیں، معلوم ہوا کہ زید کا طلاق دینے کا قطعی ارادہ نہ تھا؛ بلکہ زید کی پہلی بیوی کے بچوں کے دباؤ میں یہ اقدام اٹھایا گیا اور طلاق دینے کے وقت سات لوگ موجود تھے، تو کیا ایک مجلس کی تین طلاق تین واقع ہو گئیں یا ایک؟ اور کیا شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟

المسنون: محمد اسلم، گویاں باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں اور غیر مقلدین ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق کہتے ہیں، وہ اس بات پر جو روایت پیش کرتے ہیں، وہ روایت معتبر نہیں ہے، اور معتبر روایت میں حضور ﷺ نے ایک مجلس کی تین طلاق کو تین ہی شمار فرمایا ہے اور انہے اربعہ اور جمہورامت کا اتفاق اس پر ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہی ہوتی ہیں، شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے، ہاں البتہ شرعی حلالہ کے بعد باضابطہ نکاح کی گنجائش ہو جاتی ہے اور بغیر حلالہ شرعیہ کے آپس میں نکاح بھی درست نہیں ہے۔

حدیث شریف کی اور فقہ کی عبارت ملاحظہ فرمائیے:

عن سهل بن سعدٌ في هذا الخبر قال: فطلقها ثلاثة تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(ابو داؤد شریف، کتاب الطلاق، باب فی اللعان، النسخة الہندیۃ / ۱ ۶۰، رقم: ۲۲۵۰)

عن عائشة، أَن رجلاً طلق امرأته ثلاثة، فتزوجت زوجاً، فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أَ تحل للأول؟ قال لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. (نسائی شریف، کتاب الطلاق، باب احلال

المطلقة ثلاثة، النسخة الہندیۃ / ۲۸۴، دار السلام رقم: ۳۴۴۱)

عن أنسٌ، قال كأن عمر إذا أتى برجل قد طلق امرأته ثلاثة، في مجلس أو جمعه ضرباً وفرق بينهما. (مصنف ابن أبي شيبة، مؤسسة علوم القرآن
بیروت ۹/۵۱، رقم: ۸۹۰۸)

عن واقع بن سحبان فإن سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثة في مجلس قال أثم بربه وحرمت عليه امرأته الحديث (مصنف ابن أبي شيبة جدید ۹/۱۹، رقم ۸۷۰۱)

والبدعی ثلاث متفرقة، وكذا بكلمة واحدة بالأولی..... وذهب جمهور الصحابة، والتابعین ومن بعدهم من أئمۃ المسلمين إلى أنه يقع ثلاث.

(شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی طلاق الدور، کراچی ۳/۲۳۲، ذکریا ۴/۴۳۴)

فالكتاب و السنة، وإجماع السلف توجب إيقاع الثالث معاً، وإن كانت معصية. (احکام القرآن، سورۃ البقرۃ، باب ذکر الحاجاج لا یقاع الطلاق الثلاث معاً، سهیل اکیدمی لاہور پاکستان ۱/۳۸۸، ذکریا دیوبند ۱/۴۶۹)

وإن كان الطلاق ثالثاً في الحرمة..... لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (عالیگیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، کذا فی الهدایة، اشرفی دیوبند ۳/۳۹۹) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

الجواب صحیح:
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
احترم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۲۵ ربیعہ تھدہ ۱۴۳۳ھ
(فتوى نمبر: الف ۱۰۸۲۰/۳۰)

ایک مجلس کی تین طلاق کا ثبوت حدیث شریف سے

سوال [۶۶۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ غیر مقلدوں کا کہنا ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق واقع نہیں ہوتیں، اگر واقع ہو جاتی ہیں تو صرف قرآن پاک یا حدیث شریف سے ثابت فرمائیں؟

المستفتی: زبیر عالم، تجویدی، قصہ: درھیاں، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: یہ کہنا سائل کے مغالطہ پر محول ہے کہ غیر مقلدین کے یہاں ایک ساتھ تین طلاق واقع نہیں ہوتی ہیں؛ اس لئے کہ اس صورت میں ان کے یہاں بھی ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے، اختلاف اس میں ہے کہ ایک ساتھ یا ایک

مجلس میں دی گئی تین طلاقیں تین ہی طلاق ہوتی ہیں یا ایک؟ تو غیر مقلدین ایک مانتے ہیں، جس کو ثابت کرنے کے لئے انہیں بڑی تاویلات و پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں اور ہم اہل السنۃ والجماعۃ مختلف صحیح احادیث کے ذریعہ سے ایک مجلس کی تین طلاق قول رسول اور قول صحابہ سے تین ثابت کرتے ہیں؛ اس کے لئے حدیث حسب ذیل ہیں۔

وقال الیث عن نافع کان ابن عمر إِذَا سُئلَ عَنْ طَلَقِ ثَلَاثَةَ، قَالَ: لَوْ طَلَقْتُ مَرْأَةً، أَوْ مَرْتَيْنَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمْرَنِي بِهَذَا فَإِنْ طَلَقْهَا ثَلَاثَةً حَرَمَتْ حَتَّى تَنكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ (بخاری شریف، کتاب الطلاق، باب من قال لا مرأته أنت على حرام، النسخة الهندية ۷۹۲/۲، رقم: ۵۰۶۶، ف: ۲۶۴، صحيح مسلم، کتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض، النسخة الهندية ۱۴۷۶/۱، بیت الأفکار رقم: ۱۴۷۱)

عن عامر الشعبي، قال: قلت لفاطمة بنت قيس حدثني عن طلاقك، قالت: طلقني زوجي ثلاثة، وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ابن ماجه، أبواب الطلاق، باب من طلق ثلاثة في مجلس واحد، النسخة الهندية ۱۴۶-۱۴۵، دار السلام رقم: ۲۰۲۴)

عن داؤد بن عبادة بن الصامت قال طلاق جدی امرأة له ألف تطليقة فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما اتقى الله جدك أما ثلاثة فله وأما تسعمائة وسبعين وتسعون فعدوا أن وظلم إن شاء الله عذبه وإن شاء غفرله. (مصنف عبدالرزاق، المجلس العلمي بيروت ۳۹۳/۶ رقم ۱۳۳۹)

كتبه: شیبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴۳۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۸/۲۹۸)

الجواب صحیح:

احضر محمد سلامان منصور پوری غفرله

۱۴۳۱/۱/۱۷

ایک مجلس کی تین طلاق کا حکم

سوال [۶۶۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا نکاح ذوالقدر حسین کے ساتھ ۱۹۹۵ء میں ہوا تھا، اس کے کچھ عرصہ کے بعد اپنے اسٹاپ پیپر پر بذریعہ ڈاک طلاق نامہ موصول ہوا، جو انگریزی میں تھا، جس میں یہ لکھا تھا ”میں تمہیں تین طلاق دیتا ہوں، طلاق، طلاق، طلاق“ اور اب ہم دونوں شوہر یوں نہیں رہے اور ایک لاکھ مہر کا چیک تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اور اس طلاق نامہ میں ذوالقدر حسین اور دیگر دلوگوں کے دستخط تھے، اس واقعہ کے تقریباً نو ماہ کے بعد ذوالقدر حسین نے میرے پاس فون کرنا شروع کر دیا اور کہیں سے ایک فتویٰ حاصل کر لیا، جس میں یہ لکھا تھا ایک ساتھ دی گئیں تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی ہیں؛ لہذا ہم اور تم بغیر حلالہ کئے ہوئے دوسرا نکاح نئے مہر کے ساتھ کر لیتے ہیں؛ چنانچہ ہمارا دوسرا نکاح ہو گیا، اس کے تقریباً ایک ڈیڑھ سال بعد میرے ایک بچی پیدا ہوئی، جو اس وقت ساڑھے دس سال کی ہو چکی ہے۔

اب دو سال سے میرے شوہر میرے ساتھ بہت ہی ظلم کر رہے ہیں، ان کا ایک، گجراتی لڑکی سے پیار چل رہا ہے، جس کے ساتھ کبھی کبھی وہ ہو گئی میں راتیں بھی گزارتے ہیں اور گھنٹوں فون پر باتیں کرتے رہتے ہیں اور خوش فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، منع کرنے پر زد و کوب کرتے ہیں، ان کی چال چلن بہت ہی خراب ہے، جس کا براثر میری لڑکی پر بھی پڑ سکتا ہے، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ:

- (۱) کیا ایک ساتھ دی گئی تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں یا پھر تین؟
- (۲) مذکورہ صورت میں بغیر حلالہ کئے ہوئے، دوسرا نکاح صحیح ہے یا غلط؟
- (۳) نکاح ثانی کے بعد پیدا ہونے والی بچی پر حق کس کا ہے؟

کیا ایسے بدچلن شخص کے پاس لڑکی کو چھوڑنا جائز ہے یا نہیں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دے کر عند اللہ ماجور ہوں۔

المسئلۃ: انوپا، دوبے خان، ۲۹ مارچ ۱۹۷۶ء
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ایک ساتھ دی ہوئی تین طلاق تین ہی ہوتی ہیں، چاروں اماموں اور امت کا اس پر اتفاق ہے، بعضے گمراہ فرقہ اس کو ایک طلاق مانتا ہے، جو فتویٰ ایک طلاق کا لیا گیا ہے، وہ غلط ہے، اس پر عمل کرنا جائز نہیں اور بعد میں بلا حلال جو نکاح کیا گیا ہے، وہ نکاح نہیں ہوا اور اس نکاح کے ذریعہ سے آپ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں۔ اور اس نکاح کے بعد جو بچی پیدا ہوئی ہے، وہ اس لئے ثابت النسب ہے کہ دونوں کے درمیان میں جو ہمستری ہوئی ہے، وہ اس غلط فتویٰ کو صحیح سمجھنے کی وجہ سے ہوئی ہے، ایسی ہمستری کو ولی باشہ کہا جاتا ہے، اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ ثابت النسب کہلاتا ہے حرام کا نہیں اور بچی کے بالغ ہونے تک ماں کو اپنے پاس رکھنے کا حق ہے اور بالغ ہونے کے بعد باپ کو اپنے پاس رکھنے کا حق ہے۔ اور باپ ہی خرچ کر کے اس کی شادی وغیرہ کرے گا۔

عن سهل بن سعد^{رض} في هذا الخبر قال: فطلقتها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة . (ابو داؤد شریف، کتاب الطلاق، باب فی اللعan، النسخة الہندیة ۱/۶۰، دارالسلام رقم: ۵۰۲۲) اذا قال لا مرأته

انت طلاق، طلاق طلقت ثلاثة الاشباه قديم ص ۱۹ (جديد زكرياء ص ۳۷۶)

عن نافع عن بن عمر^{رض} قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المطلقة ثلاثة لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره، ويختلطها وتندوق من عسيلته . (طبراني الكبير، دار أحياء التراث العربي بيروت ۱۲/۲۹۵، رقم: ۹۴۳)

فإن المطلقة الثلاث يثبت النسب منها؛ لأنه وطى في شبهة

العقد، فيكتفي ذلك لإثبات النسب. (فتح القدير، بيروت ۵/۲۵۱، ۲۳۹/۳۴، ذكرى ۵/۲۶۸، كراچي ۳/۵۶۶)

والأم والجدة لأب، أو الأم أحق بها بالصغيرة حتى تحيس أي تبلغ
في ظاهر الرواية. (شامي، ذكرى ۵/۲۶۸، كراچی ۳/۵۶۶)

ونفقة الإناث واجبة مطلقاً على الآباء مالم يتزوجن فإذا لم يكن لهنّ مال .
(هندية، ذكرى قديم ۱/۵۶۳، جديد ۱/۶۰۹) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

لکتبہ: شبیر احمد قاسمی عغا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۳ھ / ۲۲ جمادی الثانی

۱۰۷۲۹/۳۹ (فتویٰ نمبر: الف)

چاروں ائمہ کے نزدیک ایک مجلس کی تین طلاق تین ہی ہیں

سوال [۶۶۰۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے نومبر ۱۹۷۷ء میں اپنے مکان میں ٹیلی ویژن لگانے کا ارادہ کیا، اس پر زید کی والدہ صاحبہ نے ٹیلی ویژن لگانے کی مخالفت کی، اس بات نے طول پکڑ لیا، زید نے غصہ کی شدت میں اپنے گھر کا سامان برتن وغیرہ الماری سے نکال کر صحن میں پھینکا شروع کر دیا، اس درمیان زید کی بیوی نے زید کو سامان وغیرہ پھینکنے سے منع کیا اور کہا کہ یہ کیا کرتے ہو، زید غصہ میں اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا، اسی حالت میں زید نے اپنی بیوی کو تین بار طلاق کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، موقع واردات کے وقت زید کی والدہ صاحبہ گھر سے کہیں چلی گئیں، زید اور ان کے والد، والدہ صاحبہ اور پریخچے ایک ہی مکان میں رہتے ہیں اور ان کا کھانا پینا بھی ایک دوسرے سے الگ ہے، والدہ صاحبہ کے گھر سے چلے جانے کے پندرہ منٹ کے بعد زید کی نانی صاحبہ گھر تشریف لائیں اور انہوں نے زید کو سمجھانے کی کوشش کی؛ لیکن زید سمجھانے پر مزید بھڑک اٹھا اور اس نے نانی صاحبہ کی موجودگی

ہی میں متعدد بار بیوی کے لئے لفظ طلاق کو دہرا�ا اور کہا کہ بیوی کو اس کے میکے پھو نچا دو یا اس کے میکے والوں کو مطلع کر دو، مگر زید کی بات ان سنبھل کرتے ہوئے نتو بیوی کو میکے پھو نچا کیا اور نہ بیوی کے میکے والوں کو خبر دی، اور نہ ہی خود بیوی گھر سے گئی، نہ اپنے میکے والوں کو خبر دار کیا، اس کے بعد زید کے نانا صاحب نے اخبار الجمیعیۃ کی ایک لٹنگ لا کر زید کو دکھائی، جس میں ۱۹۶۷ء یا ۱۹۶۸ء میں احمد آباد میں علمائے حضرات کا ایک اجلاس طلاق کے مسئلہ پر بحث و مباحثہ کے لئے منعقد ہوا تھا، اس میں امام شافعیؓ، مسلم کے مطابق طلاق نہیں ہوتی اور امام ابوحنیفہؓ کے مسلک کے مطابق ہو گئی، اس پر زید نے جو امام ابوحنیفہؓ کے ماننے والوں سے ہے اپنے نانا سے کہا کہ طلاق ہو گئی نانا صاحب نے جواب دیا کہ چاروں امام برحق ہیں اور ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، نانا صاحب نے پھر بھی کسی مفتی صاحب سے رجوع کیا اور زید کو بتایا کہ میں نے ساری معلومات کر لی ہیں، ”طلاق نہیں ہوتی“، اس کے بعد زید اور اس کی بیوی بھیشیت زن و شوہر آج تک رہے ہیں، اس واقعہ سے قبل زید کے دونوں پچ موجود تھے اور زید کی بیوی حاملہ تھی، اس واردات کے بعد ۱۹۸۱ء میں ایک بچہ پیدا ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، زید کے نانا صاحب اور نانی صاحبہ دونوں انتقال فرمائچکے۔ ان تمام حالات کی روشنی میں شرعی احکام سے مطلع فرمائیں۔

المستفتی: محمد عبداللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ایک مجلس میں تین یا تین سے زائد بار طلاق دینے سے امام ابوحنیفہؓ، امام شافعیؓ، امام مالکؓ، امام احمد بن حنبل چاروں اماموں کے نزدیک طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے، جس شخص نے یہ کہا کہ امام شافعیؓ کے مسلک کے مطابق طلاق نہیں ہوتی ہے، اس کی بات غلط ہے چاہے وہ اخبار میں آیا ہو یا کسی رسالہ میں وہ بات صحیح نہیں ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں زید کے لئے مطلقاً بیوی کو اپنے پاس بیوی بننا کر کسی بھی امام کے نزدیک جائز نہیں ہے۔

وقد اختلف العلماء في من قال لامرأته: أنت طلاق ثلاثة، فقال الشافعی، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف: يقع، وقال طاؤس وبعض أهل الظاهر لا يقع بذلك إلا واحدة.

(شرح المسلم للنووي، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث ۱/۴۷۸، مرقاة شرح مشكوة، باب الخلع، الطلاق الثالث بلفظ واحد، امدادیہ ملٹان ۶/۹۳، بذل المجهود، شرح أبو داؤد، كتاب الطلاق، باب بقية نسخ المراجعة بعد التطبيقات الثالث، مکتبہ یحیی سهارنپور ۳/۲۶۷، دارالبشایر الإسلامية بیروت ۸/۵۹، تحت الرقم: ۲۰۰۰، فتح الباری، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث، دارالریان للتراث بیروت ۹/۲۷۸، اشرفیہ دیوبندی علاء السنن، باب إيقاع الثلاث، مجموعة معصبة، کراچی ۱۱/۱۸۰، دارالكتب العلمية بیروت ۱۱/۱۹۹، شامی، كتاب الطلاق، مطلب في طلاق الدور، کراچی ۳/۲۳۲، زکریا ۴/۴۳، طحطاوي على الدر المختار، کوئٹہ ۵/۱۰، تبیین الحقائق، امدادیہ ملٹان ۲/۹۱، زکریا دیوبند ۳/۲۶، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۵۵، جدید ۱/۴۲۲، فتح القدير دارالفکر بیروت ۴/۵۵، کوئٹہ ۳۹۲/۳، زکریا دیوبند ۴/۳۹۲) فقط والله سبحانه وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۱۳۱۹ھ
(فتوى نمبر: الف ۳۳۷/۱)

ایک مجلس کی تین طلاق تین ہیں ایک نہیں

سوال [۲۶۰۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نفیس احمد بن صابر حسین ساکن محلہ فتح اللہ گنج قصبہ ٹھا کر دوارہ، ضلع: مراد آباد نے اپنی بیوی ائیسہ بنت رفیق احمد ساکن محلہ فتح اللہ گنج ٹھا کر دوارہ، ضلع: مراد آباد کو بتارخ کیم ستمبر ۲۰۰۷ء بروز بدھ آپسی نزاع پر ایک ہی مجلس میں تین بار لفظ طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، کہہ دیا ہے۔ اب اس پر ناہم ہوں، قرآن و حدیث میں رجوع کی کوئی گنجائش ہو

تو مسئلہ صادر فرمائیں؛ جبکہ ایک غیر مقلد عالم نے ایک طلاق ہونے کا فتویٰ دیا ہے اور غیر مقلد عالم کا فتویٰ سوال کے ساتھ منسلک ہے۔

المستفتی: رفیق احمد، فتح اللہ گنج، خاکردوارہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب شوہرنے اپنی بیوی کو تین طلاقيں دیدیں، تو تینوں طلاقيں واقع ہو گئیں اور بیوی شوہر پر حرام ہو گئی ہے، بغیر شرعی حلالہ کے ان کا آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنا جائز اور قطعی حرام ہے، دونوں زانی اور بد کار سمجھے جائیں گے، مذہب کے خلاف غیر مقلد کا سہارا لینے سے حرام شدہ عورت حلال نہیں ہو سکتی غیر مقلد مولوی کا یہ سمجھانا کہ تین طلاق ایک ساتھ دینے سے ایک ہی طلاق پڑتی ہے قطعاً غلط اور گمراہ کن ہے، قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ علماء سلف و فقهاء و مشائخ اور ائمہ مسلمین حضرت امام اعظمؒ، حضرت امام شافعیؓ، حضرت امام مالکؓ اور حضرت امام احمد بن حنبلؓ وغیرہم بزرگان دین کے متفقہ فیصلہ کے خلاف ہے، صورت مسؤولہ میں بیوی پر تینوں طلاقيں واقع ہو گئیں۔

قرآن شریف میں ہے کہ:

الطلاق مرتان فاما مساك بمعروفٍ أو تسریحٍ باحسانٍ: أي اثنان.

[سورۃ البقر: ۲۲۹]

جس طلاق کے بعد جو عن کر سکتے ہیں وہ دو ہی طلاق ہیں یعنی ایک سے دو تک جو عن جائز ہے۔

الطلاق التطليق الذي يراجع بعده مرتان: أي اثنان. (تفسیر جلالیں ۳۳)

آگے تیسرا طلاق کے متعلق ہے۔

فإن طلقها فلا تحل له من بعد الطلاق الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره.

پھر اگر مرد عورت کو دو طلاق کے بعد تیسرا طلاق دیدے، تواب وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں رہے گی، یہاں تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر لے۔ (تفسیر جلالیں شریف: ۳۳)

اور احکام القرآن میں ہے۔

والكتاب والسنۃ وإن جماع السلف الصالحين توجب إيقاع الثالث معاً،
وإن كانت معصية.

قرآن شریف و سنت اور اجماع سلف صالحین کا فیصلہ یہی ہے کہ یک بارگی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اگرچہ یک بارگی تین طلاقیں دینا معصیت ہے۔ (مستقاد: احکام القرآن للجصاص، باب ذکر الحاجاج لا يقاضي الطلاق الثالث معاً۔ سہیل اکیڈمی لاہور ۱/۳۸۸، ذکر یاد یوبندا ۳۶۹)

اسی طرح علامہ نووی تحریر فرماتے ہیں:
فقال الشافعیُّ، وَمَالِكُ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدُ، وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السُّلْفِ وَالخُلُفِ: يَقْعُدُ الْثَلَاثَ.

یعنی ائمہ اربعہ اور جمہور علماء سلف و خلف سب قائل ہیں کہ تین طلاقیں ہو جاتی ہیں۔
(شرح مسلم شریف، کتاب الطلاق، باب الطلاق الثالث ۱/۲۸۷)

امام بخاریؓ کے نزدیک بھی بیک وقت ایک مجلس کی تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں،
اس کے لئے آپ نے ایک باب باندھا ہے۔ باب من أحجاز طلاق الثالث اس کے تحت
احادیث لائے ہیں، مجملہ ان کے ایک حدیث یہ ہے کہ

عن عائشةَ أَن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فتزوَّجَتْ فطلاقاً، فسئلَ
النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحْلِلُ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ عَسِيلَتَهَا
كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلَ. (بخاری شریف، کتاب الطلاق، باب من أحجاز الطلاق الثالث،
النسخة الهندية ۲/۷۹۱، رقم: ۵۰۶۱، ف: ۵۲۶۰، صحيح مسلم، کتاب النکاح،
باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقاتها حتى تنكح زوجاً غيره، النسخة الهندية ۱/۴۶۳،
بیت الأفکار رقم: ۱۴۳۳)

یعنی ایک آدمی نے اپنی عورت کو تین طلاق دیں، پھر اس عورت نے دوسرے شوہر

سے نکاح کیا، اس دوسرے نے صحبت کئے بغیر طلاق دیدی، آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ پہلے خاوند کے لئے یہ حلال ہوئی؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک دوسرا شوہر صحبت نہ کر لے پہلے شوہر کے لئے حلال نہ ہوگی۔

مزید تفصیل بخاری ۹۶۲/۲، مسلم شریف ۲/۲۷، ابو داؤد شریف ۳۰۷/۱ رپرینجی موجود ہے اور مسلک فتویٰ میں جو حدیث نقل کی گئی ہے خود اس کے خلاف حضرت ابن عباسؓ کا فتویٰ موجود ہے۔ عن مجاهد قال: كنْتَ عِنْدَ أَبْنَى عَبَّاسٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ طَلاقُ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَةً، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنِنَتْ أَنَّهُ رَادَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيُرِكِ الْحَمْوَقَةَ، ثُمَّ يَقُولُ يَا أَبْنَى عَبَّاسٍ يَا أَبْنَى عَبَّاسٍ وَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: وَمَنْ يَتَقَبَّلُهُ مَخْرَجًا وَإِنَّكَ لَمْ تَنْقِ اللَّهَ فَلَا أَجَدُ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتِكَ۔ (سنن ابی داؤد، طلاق، باب بقیة بعد نسخ المراجعة التطبيقات الثلاث، النسخة الهندية ۱/۹۹، دارالسلام رقم ۲۹۷ مصنف عبد الرزاق، المجلس العلمي بيروت ۶/۴۳۴، رقم:)

حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ کا فتویٰ ہے کہ تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں۔ نیز حضرت عائشہؓ بھی یہ فتویٰ ہے۔ اور حضرت ام سلمہؓ کا بھی یہی فرمان ہے کہ تین طلاقیں دیدینے سے تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ (مصنف بن ابی شیبہ ۵/۲۲۵)

اور اہل حریم کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ دینے سے واقع ہو جاتی ہیں، اور جو غیر مقلد ہیں نے حدیث مسلم شریف کے حوالہ سے پیش کی ہے، اس کو سنداً و متنًا مضطرب قرار دیا ہے۔ (حسن الفتاویٰ ۵/۲۶۷)

اہل حریم کا فتویٰ مکمل احسن الفتاویٰ کے ساتھ مسلک ہے۔ اس کو ملاحظہ فرمالیں۔

فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۲۶ جمادی الحجه ۱۴۲۵ھ

(فتاویٰ نمبر: الف ۳۲/۸۷۸)

ایک مجلس میں تین طلاق دینے کے بعد غیر مقلد کے فتویٰ پر عمل کرنا

سوال [۷۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مตین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے بھائی شکیل احمد نے اپنی بیوی کو تین سے زائد مرتبہ ایک مجلس میں طلاق دیدی ہے اور ایک اہل حدیث کے فتویٰ کے مطابق ”کہ ایک مجلس کی کئی طلاقوں ایک ہی ہوتی ہے، پر عمل کرنا چاہتا ہے، تو کیا ہم اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیں یا میں ملاپ رکھیں، شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کے لئے اہل حدیث کے فتویٰ پر عمل کرنا جائز ہے یا بیوی حرام ہو چکی ہے؟ شرعی حکم تحریر فرمادیں۔

المستغتی: حسیب احمد، سیفی، رامپور

با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے تینوں طلاقوں واقع ہو جاتی ہیں، طلاق مغلظہ واقع ہو جانے کی وجہ سے بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو جاتی ہے، پھر اس کو رکھنا حرام کاری اور بدکاری ہے، جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ درحقیقت غیر مقلد اور آزاد خیال کے ہیں، ان کا فتویٰ صحیح نہیں ہے، ان کے فتویٰ پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، شکیل کی بیوی پر طلاق مغلظہ ہونے کی وجہ سے وہ شکیل پر قطعاً حرام ہو چکی ہے، بغیر حالہ شرعی کے اس کو بیوی بنا کر رکھنا سخت گناہ اور عذاب الہی کا خطرہ ہے۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۹، جدید زکریا (۳۷۶)

اممہ مبتویین اممہ اربعہ حضرت امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور جمہور امت کے نزدیک ایک مجلس کی تین طلاقوں تین ہی ہو جاتی ہیں۔

وقد اختلف العلماء في من قال لامرأته: أنت طلاق ثلاثة، فقال الشافعی، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وجماهير العلماء من السلف والخلف: يقع. وقال طاؤس وبعض أهل الظاهر: لا يقع بذ لك إلا واحدة. (شرح السلیمان لنوری، کتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث ۴۷۸/۱، مرقاة شرح مشکوہ، باب لخلع، الطلاق الثالث بلفظ واحد، امدادیہ ملقات ۶/۲۹۳، بذل المجهود، شرح أبو داؤد، کتاب الطلاق، باب بقیة نسخ المراجعة بعد التفصیلات الثالث، مکتبہ یحیی سہارپور ۳/۲۶۷، دارالبشاریہ الإسلامية بیروت ۹۵/۸، تحت الرقم: ۲۲۰)

اور غیر مقلدین کا دلیل میں یہ پیش کرنا کہ مصر، سودان، اردن، شام، مرکش، عراق، پاکستان نے ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک طلاق ماننے کا قانون بنایا ہے یہ مخفی ڈھونگ ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ۱۹۸۹ء میں مستفیض الحسن کے حوالہ سے ایک اشتہار شائع کیا تھا، اور اشتہار میں بہت سے علماء دیوبند مسلک حنفی کے مفتیان کرام کے نام ہیں اور ان ملکوں کی تاریخیں بھی اس طریقہ سے ہیں، جس طریقہ سے سوال نامہ میں ہے، یہ اشتہار غیر معتر ہے اور غیر ذمہ دار ہے؛ اس نے اشتہار کے حوالہ سے ان ملکوں کا یہ قانون بتانا اعتماد کے قابل نہیں ہے، یہ اشتہار ہمارے پاس بھی آچکا ہے، اگر شکیل احمد تین طلاق والی عورت کو ایسے ہی رکھتا ہے اور کسی کی نہیں سنتا ہے، تو رشتہ دار کتبہ والے اس کے ساتھ حقہ پانی بند کر دیں۔

وَلَا تَرْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولَيَاءَ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ. [سورہ هود: ۱۱۳]

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ. [مائده: ۲] فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفران

۵۱۳۲۳/۲/۹

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۹ صفر المظفر ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۷۹۱۵/۳۶)

غیر مقلد کے فتویٰ سے مطلقاً ثلاٹہ حلال نہ ہوگی

سوال [۶۰۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنے بیوی کو ۹ رماہ قبل تین طلاق دیدی تھیں، اس کے بعد میرے سرالیوں نے اہل حدیث سے فتویٰ لا کر میرے پاس بیوی کو زبردستی چھوڑ دیا، بیوی میرے پاس ہی رہ رہی ہے۔

دریافت یہ کرنا ہے کہ اس کا میرے ساتھ رہنا شرعاً کیسا ہے؟ طلاق ہو گئی تھی یا نہیں؟
اب اسے ساتھ رکھنے کی کوئی شکل ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد ناصر، مغلہ: بکہ نور تیراہہ، کروہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب آپ نے اپنی بیوی کو تین طلاق مغلظہ دیدیں، تو آپ پر آپ کی بیوی قطعی طور سے حرام ہو گئی۔ اب بیوی کو بغیر حلالہ شرعیہ کے اپنے ساتھ رکھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں اور ساتھ رہنا حرام کاری اور بدکاری ہے اور غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ اہل حدیث نہیں؛ بلکہ اہل ہوئی ہیں، جو حدیث ان کی مرضی کے موافق ہو اس کو لیتے ہیں اور جوان کی مرضی کے مطابق نہ ہو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آپ کا جو معاملہ ہے اس میں طلاق کا وقوع صریح حدیث سے ثابت ہے؛ اس لئے فوری طور پر آپ اپنی بیوی کو الگ کر دیں، جب تک حلالہ شرعیہ نہ ہو اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہو گا۔

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ [البقرہ: ۲۳۰]
عن سهل بن سعد، في هذا الخبر قال: فطلاقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(أبو داؤد شریف، کتاب الطلاق، باب فی اللعan، النسخة الہندیة ۱/ ۳۰۶، دارالسلام رقم: ۰۲۲۵)

بخاري شریف، کتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث، النسخة الهندية ۲/۷۹۱، رقم: ۴۸۹، ف: ۵۰۶۰، مسلم شریف، کتاب اللعان، النسخة الهندية ۱/۴۸۹، بیت الأفکار، رقم: ۱۴۹۲، نسائی شریف، کتاب الطلاق، باب الرخصة في ذلك، النسخة الهندية ۲/۸۳، دارالسلام رقم: ۳۴۳)

قال الليث عن نافع كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثة، قال: لو طلقت مرّة أو مرتين، فإن النبي صلی الله عليه وسلم أمرني بهذا فإن طلقها ثلاثة حرمت حتى تنكح زوجاً غيره. (بخاري شریف، کتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث، النسخة الهندية ۲/۷۹۲، رقم: ۵۰۶۵، ف: ۵۲۶۴، مسلم شریف، کتاب الطلاق، باب تحریم طلاق الحائض، النسخة الهندية ۱/۴۷۶، بیت الأفکار رقم: ۱۴۷۱)

عن عائشة أن رجلاً طلق امرأته ثلاثة، فتزوجت زوجاً فطلقها قبل أن يمسها، فسئل النبي صلی الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيتها كما ذاق الأول. (نسائی شریف، کتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثة، النسخة الهندية ۲/۸۴، دارالسلام رقم: ۳۴۴۱)

عن عائشة أن رجلاً طلق امرأته ثلاثة، فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلی الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيتها كما ذاق الأول. (بخاري شریف، کتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث، النسخة الهندية ۲/۷۹۲، رقم: ۵۰۶۲، ف: ۵۲۶۱)

عن ابن عمر قال: سئل النبي صلی الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثة، فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر. (نسائی شریف، کتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثة، النسخة الهندية ۲/۸۴، دارالسلام رقم: ۳۴۴۴) **فقط والد سبحانة وتعالى علم**

كتبه: شمیر احمد قادر کمی عقا اللدد عنہ

۱۴۳۵ھ ربیع الثانی

(نوتی نمبر: الف ۱۱۵۰۸/۳۰)

حُنفی مذہب ہونے کی حالت میں تین طلاق دے کر غیر مقلدیت کو اپنانا

سوال [۶۰۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک حُنفی المذہب شخص نے حُنفی ہونے کی حالت میں اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دیدیں، مفتیان احناف نے قرآن و حدیث کے فصل کے مطابق اس کی بیوی کو اس پر حرام قرار دیدیا تا آنکہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد سے شادی کرنے کے بعد مطلقہ یا بیوہ ہو کر عدت نہ گزارے، یہ عورت اس شخص کے لئے حلال نہ ہوگی، اس کے بعد اس حُنفی شخص نے خواہش نفس کے تابع ہو کر غیر مقلد علماء سے فتویٰ لیا، جنہوں نے ان تینوں طلاقوں کو ایک طلاق رجعی قرار دے کر بیوی کو لیے ہی رکھ لینے کا فتویٰ دیدیا، اور اس فتویٰ کے ساتھ ہی اس حُنفی نے اپنے غیر مقلد ہو جانے کا اعلان کر دیا۔ اب تحقیق طلب مسائل یہ ہیں:

- (۱) یہ شخص جس نے تین طلاقیں دی تھیں اور جو اس طرح طلاق دینے کے بعد غیر مقلد بن گیا، اس کی بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو کر بیوی اس پر حرام ہو جائے گی یا غیر مقلدین کے بقول ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور بیوی پہلے کی طرح حلال رہے گی؟
- (۲) اگر اس کی عورت پر تین طلاقیں واقع ہو کر بیوی حرام ہو گئی اور یہ شخص بدستور اس عورت کو ایسے ہی اپنی بیوی بنائے ہوئے ہے، تو ایسے شخص کا از روئے شرع کیا حکم ہے؟
- (۳) اہل بستی محلہ دار اور اس کے رشتہ داروں کو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہئے؟ یعنی اس کے ساتھ پہلے کی طرح تعلقات رکھیں یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ شادی یا ہادی وغیرہ کے تعلقات رکھنے چاہئے یا نہیں؟

- (۴) تین طلاقیں اور غیر مقلد ہو جانے کے بعد ایسے میاں بیوی سے جو اولاد پیدا ہو، وہ حرامی کہلائے گی یا حلالی؟ اور ایسی اولاد کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: لیاقت علی، ثانیہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) حنفی شخص نے حفیت کی حالت میں اپنی بیوی کو جو تین طلاقیں دی ہیں، وہ تین رہیں گی اس کے غیر مقلد بن جانے کی وجہ سے تین طلاق اور طلاق مغلظہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس شخص کے لئے اس عورت کو بیوی بن اکر رکھنا حرام اور زنا کاری ہے اور عذاب آخرت کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی طرح طرح کے وباں سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ (مستقاد: حسن الفتاویٰ ۱۹۹۵، فتاویٰ دارالعلوم ۳۰۳/۹)

وذهب جمهور الصحابة، والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (فتح القدير، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، دار الفكر بيروت ۴۶۹/۳، كوشہ ۳۳۰/۴، زکریاء/۳۳۲، شامی، کراچی/۳۴۳/۴، زکریاء/۴۳۲، زکریاء/۳۳۲/۲) تین طلاقیں دینے کے بعد جو شخص بیوی کو اپنے پاس رکھتا ہے، وہ زنا کار ہے اور غصب الہی کا سخت خطرہ ہے، اگر وہ اپنی حرکت سے باز نہ آئے محلہ والوں کو اس سے قطع تعلق کر لینا چاہئے اور اس حالت میں جوازاد ہوگی وہ حرامی ہوگی۔ (مستقاد: فتاویٰ دارالعلوم ۲۹۸/۳) ومفاده أنه لو وطئها بعد الثلاث في العدة بلا نكاح عالمًا بحرمتها لا تجب عدة أخرى؛ لأنه زناً. (شامی، باب العدة، مطلب في وطء المعتدة بشبهة، زکریاء/۲۰۰، کراچی/۳۵۱۸) فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان الدین عن

۲۷ صفر المظفر ۱۴۳۱ھ

(فتاویٰ نمبر: الف/۲۸ ۳۰۲۹/۲۸)

کیا علماء احناف نے ایک مجلس کی تین طلاق میں غیر مقلدین کے مسلک پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے؟

سوال [الف: ۲۶۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے غصہ کی حالت میں اپنی بیوی کو تین مرتبہ یا اس سے بھی

زیادہ مرتبہ ایک ہی ساتھ یہ کہہ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، پوچھنا یہ ہے کہ یہ طلاق رجعی ہے یا مغلظہ، رجوع کر سکتے ہیں یا حلالہ ضروری ہے؟ اور حلالہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ صورت مذکورہ میں مسلک احناف کے مطابق تین طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہیں؛ لیکن مسلک اہل حدیث کے مطابق یہ صورت طلاق رجعی کی ہے جیسا کہ مولانا اخلاق حسین صاحب نے تحریر کیا ہے۔

مسلم معاشرہ آج جن بدترین حالات سے گزر رہا ہے اس کے پیش نظر خاندان کو ابتری سے بچانا ایک اہم قومی اور دینی ضرورت بن گیا ہے اور علماء احناف نے مسلم خاندان کو بر بادی سے بچانے کے لئے مسلک اہل حدیث پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے، مندرجہ ذکورہ واقعہ میں خاندان کے بزرگ، شوہر کو بٹھا کر اس سے توبہ کرائیں اور رجوع کرادیں، آئندہ اگر اس نے ایسی نالائقانہ حرکت کی تو پھر گھر کی بر بادی کو بچانا مشکل ہوگا۔

المستفتی: ممتاز احمد، مغل کھیڑا، بجور

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ایک مجلس کی تین طلاقیں چاروں اماموں کے نزدیک تین طلاق ہوتی ہیں، بعض لوگ مسلک اہل حدیث کا لفاظ استعمال کرتے ہیں، اہل حدیث جو درحقیقت غیر مقلد ہیں، ان کا کوئی مسلک ہی نہیں ہے، مسلک اور مذہب ہونے کے لئے کسی نہ کسی امام کی اقتداء لازم ہے اور کا کوئی باضابطہ قانون شرعی اور فقهہ ہونا بھی لازم ہے، وہ کون تی کتاب ہے، جس میں ان کا مسلک لکھا ہوا ہو، چاروں اماموں نے قرآن و حدیث سے استنباط کر کے فقہ کو مرتب کیا ہے، غیر مقلد ہیں کے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک[ؓ] اور امام احمد بن حنبل کے درجے میں ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسا کہ ان ائمہ کرام نے قرآن و حدیث سے براہ راست

مسئل کا استنباط کیا ہے، غیر مقلدین میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اس لائق ثابت کرتا ہے؛ اس لئے مگر اسی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مولا نا اخلاق حسین قاسی صاحب کافتوی بھی دیکھنے کو ملا، جو نہایت آزادانہ ہے اور جو بات پیش کی ہے اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، مولا نا اخلاق حسین صاحب نے یہ جو لکھا ہے کہ علماء احناف نے مسلک اہل حدیث پر عمل کرنے کی اجازت دیدی ہے یہ نہایت غیر ذمہ دار اور بے ثبوت بات ہے؛ اس لئے کہ علماء احناف نے غیر مقلدین کے مسلک پر عمل کرنے کے لئے کہیں نہیں لکھا، ہاں البتہ مجبوری کی حالت میں انہمہ اربعہ میں سے کسی ایک کا مسلک اختیار کرنے کی گنجائش دی ہے اور ایک مجلس کی تین طلاقیں چاروں اما موال کے نزدیک تین ہی طلاق ہوتی ہیں۔

اب اصل مسئلہ کا جواب یہ ہے جو مذکورہ سوال میں لکھا ہے غصہ کی حالت میں اپنی بیوی کو تین مرتبہ یا اس سے زیادہ ایک ساتھ تجھے طلاق دی کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس سے طلاق مغلظہ واقع ہو گئی ہے۔ اب بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو چکی ہے، آئندہ بغیر حلالہ شرعیہ کے اس کے ساتھ نکاح بھی درست نہیں ہے۔

لو قال لرو جته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قديم ۲۱۹، جديٰ زکر یا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.
(عالمنگیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، ۵۳۵، جدید ۱/۸۸، هداية اشرفي دیوبند ۲/۳۹۹،
مجمع الأئمہ، دارالكتب العلمیة، بیروت ۲/۸۸، تاتار خانیہ، ذکریا ۵/۱۴۷، رقم: ۳۰۷۵) فقط والله سبحانه وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شمسیہ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۳۰ ربیع الثانی ۱۴۲۵ھ

(فتاویٰ نمبر: الف ۸۳۶۰/۳۲)

ایک مجلس کی تین طلاق کا تحقیقی جائزہ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُولِهِ الْکَرِیمِ امَّا بَعْدُ!

ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی واقع ہونے کے بارے میں غیر مقلدین کی طرف سے مسلسل پروپیگنڈہ جاری ہے اور خالی الذہن مسلمانوں کو طرح طرح کے انداز سے شکوہ و شبہات میں بنتا کرنے کے لئے ہر طرح کے ہتھکندے استعمال کرتے ہیں۔ اور بہت سے خالی الذہن مسلمان نوجوان ان کی باتوں میں آجاتے ہیں اور پھر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ذاکر نامک بھی اپنے چینل کے ذریعہ سے سینکڑوں مسلمانوں کو ایک مجلس کی تین طلاق کے بعد بیوی کو اپنے پاس رکھنے کا فتویٰ جاری کرتا ہے اور اس کے فتویٰ کی وجہ سے سینکڑوں مسلمان حرام کاری اور بدکاری میں بنتا ہیں؛ اس لئے ضرورت محسوس کی گئی کہ احادیث شریفہ کے ذریعہ سے اس مسئلے کو واضح کر دیا جائے بتا کہ مسلمان گمراہی اور معصیت سے محفوظ ہو جائیں اس کی وضاحت پیش خدمت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی واقع ہوتی ہیں، اس سلسلے میں حضرت سید الکوئینی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث و ارشادات اور صحابہ کرام کے فتاویٰ اور روایات مدل طور پر یہاں نقل کردیتے ہیں۔ اور ان روایات اور احادیث کے سامنے آجائے کے بعد کسی بھی مومن کو ایک مجلس کی تین طلاق کو تین طلاق مانے میں ترداد اور شبہ میں بنتا نہیں ہونا چاہئے، اور آخر میں حدیث رکانہؓ کی حقیقت بھی آپ کے سامنے واضح کر دی جائے گی، جس کے غلط پہلو کو لے کر کچھ آزاد خیال چالاک قسم کے لوگ مسلمانوں کو معصیت میں بنتا کرتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے۔ نیز تین طلاق کے بعد بغیر شرعی حلالہ کے عورت کو اپنے پاس رکھنا قطعی طور پر حرام اور ناجائز ہے۔ اور دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد اس سے ہمیستہ

کے بعد ہی طلاق ہو جانے پر عدت گزار کر پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے اس کے بغیر نہیں، اس بارے میں بھی صحیح روایات اور احادیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔

اب علی الترتیب روایات ملاحظہ فرمائیے:

ابوداؤ دشیریف میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ حضرت عوییر عکلائیؓ نے اپنی بیوی کو حضور ﷺ کے سامنے تین طلاقوں دیدیں اور حضور ﷺ نے اس کو تین ہی نافذ فرمادیا اس حدیث شریف میں واضح طور پر موجود ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو حضور ﷺ نے تین ہی ثابت فرمایا۔

حدیث شریف کی عبارت ملاحظہ فرمائیے:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي هَذَا الْحَبْرِ قَالَ: فَكَلَّقُهَا ثَلَاثٌ تَطْلِيقَاتٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْفَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (سنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب في اللعن، النسخة الهندية ۱/۳۰۶، دارالسلام رقم: ۲۲۵۰، رقم: ۳۰۵/۱، ۲۴۵، صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب من اجاز الطلاق الثلاث، النسخة الهندية ۲/۷۹۱، رقم: ۵۰۶۰، ف: ۵۲۵۹، صحيح مسلم، كتاب اللعن، النسخة الهندية ۱/۴۸۹، بيت الأفكار رقم: ۱۴۹۲، سنن نسائي، كتاب الطلاق، باب الرخصة في ذلك، النسخة الهندية ۲/۸۳، دارالسلام رقم: ۳۴۳۱)

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے اسی حدیث شریف میں موجود ہے فرماتے ہیں: پس انہوں نے اپنی بیوی کو حضور ﷺ کے سامنے تین طلاقوں دے دیں، تو حضور ﷺ نے اس پر تین طلاق کا حکم نافذ فرمادیا۔

حضرت حسن بن علیؑ کی روایت اور واقعہ

”سنن کبریٰ تیہقی“ میں حضرت حسن بن علیؑ کی بیوی سے متعلق ایک مفصل حدیث شریف سنده صحیح کے ساتھ مردی ہے۔ اور یہ حدیث شریف ”باب المتعه“ کے تحت میں بھی مفصل موجود ہے اور ”باب ماجاء فی امضاء الطلاق الثلاث“ کے تحت میں بھی مفصل طور سے موجود ہے۔

روایت کا حاصل یہ ہے کہ جب حضرت علیؓ کو شہید کر دیا گیا، تو حضرت حسن بن علیؓ کی ایک بیوی جو قبیلہ ثمُّم کی تھی اس نے حضرت حسنؓ سے کہا کہ تم کو خلافت مبارک ہو، تو اس پر حضرت حسنؓ نے فرمایا کہ تو نے حضرت علیؓ کی شہادت پر دشمنی کے طور پر خوشی کا اظہار کیا ہے، تو اسی مجلس میں حضرت حسنؓ نے یہ کہہ دیا کہ تمہیں تین طلاق۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے دشمنی کے طور پر خوشی کا اظہار نہیں کیا ہے یہ میرا مقصد نہیں تھا، بہر حال عدت گزرنے کے بعد وہ چلی گئی، تو حضرت حسنؓ نے اس کے مہر کا بقايا اور سامان کے طور پر بیس ہزار درہم اس کے پاس بھیج دیئے، تو اس عورت نے اس مال کو دیکھ کر کے کہا کہ ایک جدا ہونے والے دوست کی طرف سے معمولی سامان ہے جب اس کی یہ بات حضرت حسنؓ کو معلوم ہوئی، تو حضرت حسنؓ روتے ہوئے یہ فرمانے لگے کہ اگر میں نے اپنے والد سے وہ حدیث شریف نہ سنی ہوتی جو وہ میرے ننانبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدے، تو وہ عورت اس کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہوتی ہے جب تک وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے، اگر یہ بات میں نے نہ سنی ہوتی، تو میں اپنی اس بیوی کو رجعت کر کے اپنے نکاح میں دوبارہ رکھ لیتا؛ لیکن ایک مجلس میں تین طلاق دینے کی وجہ سے مجھ کو رجعت کا حق حاصل نہیں رہا۔ یہ روایت بھی اس بات کی واضح شہادت دیتی ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہی قرار دیا ہے۔ اور اس عورت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجعت کی اجازت نہیں دی ہے۔ طویل حدیث شریف کا آخری حصہ ملاحظہ فرمائیے:

وَقَالَ حَسَنٌ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثَ عَنْ جَدِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَقَ امْرَأَةً ثَلَاثَةَ لَمْ تَحْلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ لَرَاجِعُهَا.

(السنن الکبریٰ للبیهقی قدیم ۷/۲۵۷، ۳۳۶، رقم: ۱۴۸۵۵، ۱۱/۲۲۱، رقم: ۱۵۳۴۷، سنن الدارقطنی، دارالکتب العلمیة بیروت ۱۱/۵۲، رقم: ۴/۲۰، رقم: ۳۹۲۷)

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے یہ بات اپنے والد سے نہ سنی ہوتی کہ میرے والد نے میرے نانا بی کریمؓ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ آپؓ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دی دے، تو وہ اس کے لئے حلال نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، تو میں اپنی اس بیوی کو رجعت کر کے رکھ لیتا۔

فتوث : حضرت حسن بن علیؑ کی حرس روایت میں امام دارقطنیؓ نے ۳۹۲۸، رقم: ۲۰/۳، میں ضعف کا نشان لگایا ہے، وہ عمرو بن شمر کی وجہ سے ہے۔ اور ہم نے جو نقل کی ہے وہ عمرو بن شمر کی روایت نہیں ہے؛ بلکہ عمرو بن ابی قیس کی روایت نقل کی ہے، وہ صدقہ ہے۔ (تقریب التہذیب کراچی ۱/۲۷۴، رقم: ۷۵۱، مطبع العاصمه ۳۳۷، رقم: ۵۱۳۶)

اور اس کو دارقطنیؓ نے بھی صدقہ کہا ہے۔ اور حافظ ابن رجب وغیرہ نے ”اسنادہ صحیح“ کہا ہے۔ (تمکملہ فتح الہم، کتاب الطلاق، باب الطلاق الشافعی، المکتبۃ الشافعیہ دیوبند تحقیق رقم الحدیث ۳۶۵۳، ۱/۱۵۵)

اما ابو بکر یعنیؓ نے ”مجموع الزوائد، کتاب الطلاق، باب معنیۃ الطلاق، دارالكتب العلمیہ بیروت ۳۳۹/۲“، میں ”وَفِي رِجَالِهِ ضُعْفٌ وَقُدْوَثُقَا“ کے الفاظ نقل فرمائے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث حسن درجہ سے کم نہیں ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف غلط نسبت

امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف یہ بات منسوب کرنا حقیقت اور واقعہ کے خلاف ہے، کہ حضرت علیؓ ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک ہی شمار فرماتے تھے۔ سلیمان بن مہران الاعمش مشہور محدثین میں سے ہیں، انہوں نے اس واقعہ کی تحقیق کر کے اس کی قائمی کھول دی ہے، جس کو امام یعنیؓ نے اپنی کتاب ” السنن الکبریٰ“ میں واضح طور پر نقل فرمایا ہے۔

اب اس حدیث شریف کا پورا اخلاصہ ملاحظہ فرمائیے:

سلیمان بن مہران الْعَمَش فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ایک بوڑھا شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ سے سماعًا یہ روایت نقل کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں تین طلاق دیدے، تو وہ ایک ہی شمار ہو گی اور لوگوں کا تانتا اس کے پاس بندھا ہوا تھا، لوگ آتے تھے اور یہ حدیث اس سے بغور سنتے تھے (اعمش کہتے ہیں) میں بھی اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا آپ نے حضرت علیؑ سے حدیث سنی ہے؟ اس نے مجھے بھی مذکورہ بالا حدیث سنادی، تو میں نے دریافت کیا کہ کہاں سنی؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنی کاپی دکھاتا ہوں، چنانچہ وہ کاپی نکال کر لایا، کاپی میں نے دیکھی، تو اس میں یہ لکھا تھا: میں نے حضرت علیؑ کو یہ فرماتے ہوئے سنائے ہے کہ جو شخص ایک مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے، تو وہ اس سے باسہ ہو جائے گی۔ اور دوسرے شوہر سے نکاح کئے بغیر اس کے لئے حلال نہ ہو گی، اس پر میں نے سوال کیا کہ تعجب ہے، یہ روایت تو تمہاری زبانی روایت کے خلاف ہے، اس نے کہا تھی یہی (کاپی) ہے؛ لیکن لوگ مجھ سے وہی کہلوانا چاہتے ہیں۔ اس روایت سے صاف معلوم ہو گیا کہ حضرت علیؑ کا مسلک کیا تھا، ان کا مسلک یہی تھا کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہوتی تھیں۔ اور رافضیوں نے پروپیگنڈہ کر کے اس حدیث شریف کے مفہوم کو بدلت کر اس شیخ کے ذریعہ سے الثامطلب بیان کرایا ہے، ورنہ حضرت علیؑ کی طرف ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک طلاق کہہ کر منسوب کرنا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ وہ روایت ملاحظہ فرمائیے جس کو حضرت علیؑ کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جاتا تھا:

عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: كَانَ بِالْكُوفَةِ شَيْخٌ يَقُولُ: سَمِعْتَ عَلِيًّا بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يَرْدُ إِلَى وَاحِدَةٍ وَالنَّاسُ عُنْقًا وَأَحَادًا، إِذْ ذَاكَ يَأْتُونَهُ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ، قَالَ: فَاتَّيْتُهُ فَقَرَعْتُ عَلَيْهِ الْبَابَ، فَخَرَجَ إِلَيَّ شَيْخٌ قَلْتُ لَهُ: كَيْفَ سَمِعْتَ عَلِيًّا بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ فِيمَنْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَرْدُ إِلَى وَاحِدَةٍ؟ قَالَ: قَلْتُ لَهُ: أَيْنَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَلِيًّا؟ قَالَ:

حضرت امام اعمش کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک بوڑھے آدمی بیان کیا کرتے تھے، کہ میں نے حضرت علیؑ کو فرماتے ہوئے سنائے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دیدے تو وہ اس کو ایک ہی شمار کرتے تھے اور لوگ اجتماعی اور انفرادی طور پر اس کے پاس آتے تھے۔ اور اس کے پاس آ کر کے اس سے اس حدیث کو سنا کرتے تھے، تو میں نے بھی اس کے پاس پہنچ کر کے اس کا دروازہ کھلکھلایا، تو میرے پاس ایک بوڑھا آدمی نکل کر آیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے حضرت علیؑ سے اس شخص کے بارے میں فرماتے ہوئے کیسے سنائے جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہوں، تو اس نے کہا کہ میں نے حضرت علیؑ کو فرماتے ہوئے سنائے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں تو حضرت علیؑ ایک شمار کرتے تھے۔

**أَخْرُجْ إِلَيْكَ كِتَابًا فَأَخْرَجَ فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا
مَا سَمِعْتُ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَةً ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ
وَاحِدٍ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ، قَالَ: قُلْتُ:
وَبَحَكَ هَذَا عَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، قَالَ الصَّحِيحُ هُوَ هَذَا، وَلِكِنْ هُوَ لِاءٌ
أَرَادُونِي عَلَى ذَلِكَ.** (السنن الکبریٰ للبیهقی جدید، دارالکتب العلمیہ بیروت

(۱۵۳۶۵، قدیم ۷/۳۴۹ - ۳۴۰/۲۲۸) برقم:

فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے حضرت علیؑ سے یہ کہاں سے سنائے ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ میں آپ کے پاس کاپی لا کر کے پیش کر دیتا ہوں، پھر کاپی نکالی، تو اس میں بسم اللہ کے بعد یہ لکھا ہوا تھا: یہ وہ حدیث ہے جو میں نے حضرت علیؑ کو فرماتے ہوئے سنائے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دیدے تو یقیناً وہ عورت اس سے باہمہ ہو کر جدا ہو جاتی ہے، اور اس مرد کے لئے وہ حلال نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، تو میں نے اس سے سوال کیا تیرا ناس ہو یہ تجھب کی بات ہے کہ یہ روایت تو تمہاری اس روایت کے خلاف ہے جو تم اپنی زبان سے بیان

کرتے ہو، اس بوڑھے نے کہا یہی صحیح ہے جو کاپی میں موجود ہے؛ لیکن لوگ مجھ سے وہی کہلوانا چاہتے ہیں (جو حقیقت اور واقعہ کے خلاف ہے)۔

بغیر ہمستری کے حالہ معتبر نہیں

اسی طرح حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی حدیث شریف میں ہے کہ جب یوی کو ایک ساتھ تین طلاق دیدے، تو تینوں طلاقیں واقع ہو کر بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے اور اس وقت تک حرام رہتی ہے کہ جب تک دوسرے مرد سے نکاح کر کے ہمستر نہ ہو جائے اور ہمستری کے بعد اس سے طلاق ہو جائے تب اس سے نکاح جائز ہوتا ہے۔

حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

وَقَالَ الْلَّيْلُ عَنْ نَافِعٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَقَ ثَلَاثًا قَالَ: قَالَ لَوْ طَلَقَتْ مَرْأَةً أَوْ مَرْتَبَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنِي بِهَذَا فَإِنْ طَلَقَهَا ثَلَاثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ (صحیح البخاری، کتاب الطلاق، باب من اجاز الطلاق الثالث، النسخة الهندية ۲/۷۹۲، رقم: ۵۰۶۶، ف: ۵۲۶۵، صحيح مسلم، کتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض، النسخة الهندية ۱/۴۷۶، رقم: ۴۷۶، بیت الأفکار رقم: ۳۹۲۱، سنن الدارقطنی، دارالکتب العلمیہ بیروت ۴/۱۸، رقم: ۱۴۷۱)

جب حضرت ابن عمرؓ سے پوچھا جاتا تھا اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی ہیں، تو جواب دیتے تھے اگر ایک طلاق یادو طلاق دی ہے، تو بے شک حضور ﷺ نے مجھے یہی حکم دیا ہے؛ یعنی رجعت کرنے کا، پس اگر تین طلاق دیدی ہوں، تو یوی حرام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔

مسلم شریف اور نسائی شریف میں حضرت عائشؓ روایت ہے جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ تین طلاق کے بعد اس وقت تک دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے جب تک دوسرے مرد سے نکاح کر کے اس کے ساتھ ہمستری نہ ہو جائے اور پھر ہمستری کے بعد

وہ طلاق دیدے تب پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ اور اس طرح کی روایت بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةً فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَطَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمْسَسَهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحُلُّ لِلَّأُولِ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ۔ (نسائی شریف، کتاب الطلاق، باب احلال المطلقة ثلاثاً النسخة الہندیہ ۲ / ۸۴، دارالسلام رقم: ۳۴۴۱)

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو کٹھی تین طلاقیں دیدیں پھر بیوی نے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیا، پھر اس دوسرے مرد نے اس کے ساتھ ہمبستری سے پہلے طلاق دیدی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا یہ پہلے شوہر کے لئے حلال ہو جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہاں تک کہ وہ مرد اس کا مزہ چکھ لے جیسا کہ پہلے نے چکھا تھا (یعنی پہلے کی طرح یہ بھی ہمبستر ہو جائے)۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَلَقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةً، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ؟ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرَ مِنْ عُسَيْلَتَهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ۔ (مسلم شریف، کتاب النکاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقة الخ النسخة الہندیہ ۱/۴۶۳، بیت الأفکار رقم: ۱۴۳۳)

حضرت عائشہؓ نے اسی ماتحتی ہیں کہ: ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں، پھر اس عورت سے دوسرے مرد نے نکاح کر لیا، پھر اس نے ہمبستری سے قبل اس کو طلاق دیدی، تو شوہر اول نے اس سے نکاح کرنا چاہا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر اول نکاح اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک شوہر ثانی اس کے ساتھ اسی طرح ہمبستر نہ ہو جائے کہ جس طرح شوہر اول نے ہمبستری کی تھی۔

بخاری شریف کی حدیث ملاحظہ فرمائیے:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلقَ امْرَأَهُ ثَلَاثَةً فَتَرَوْجَحَ فَطَلَقَ فَسِئَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحُلُّ لِلَّأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْنِيَّتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلَ.

(بخاری شریف، کتاب الطلاق، باب من اجاز الطلاق الثالث، النسخة الهندية ۲ / ۷۹۱)

(رقم: ۵۲۶۱، ف: ۵۰۶۲)

بخاری شریف کی روایت کا ترجمہ بھی تقریباً اسی طرح ہے، پس اتفاق ہے کہ ”قبل

ان یمسما“ کا لفظ بخاری میں نہیں ہے۔

نسائی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت صاف الفاظ کے ساتھ مروی ہے کہ حضور ﷺ سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدی ہیں۔ اور بیوی نے دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ خلوت ہو گئی، مگر ہمستری نہیں ہوئی اور بغیر ہمستری کے طلاق دیدی، تو حضور ﷺ نے فرمایا: کہ پہلے شوہر کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک ہمستری کے بعد طلاق نہ دے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلَّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةً فَيَتَرَوْجَحُ جُهَادُ الرَّجُلِ، فَيُغْلِقُ الْبَابَ، وَيَرْخُى السُّتُّرَ، ثُمَّ يُطَلَّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لَا تَحُلُّ لِلَّأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ.

(نسائی شریف، کتاب الطلاق، باب احلال المطلقة الثالث، النسخة الهندية ۲ / ۸۴، دارالسلام رقم: ۳۴۴)

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی سے متعلق سوال کیا گیا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی ہیں، پھر اس سے دوسرے مرد نے نکاح کر کے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور پردہ کھینچ دیا، پھر اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے طلاق دیدی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ پہلے شوہر کے لئے اس وقت تک حلال نہ ہو گی جب تک اس سے دوسرہ شوہر جماعت نہ کر لے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معمول رہا ہے کہ جب ایسے آدمی کو لایا جاتا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دی ہوں، تو اس کو سزاد یتے اور میاں بیوی کے درمیان علیحدگی فرمادیتے تھے۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت سیدالکوئین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خلاف فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں؛ بلکہ حضرت عمر کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ ﷺ کے قول فعل کے مطابق ہی ہوتا تھا۔

حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

عَنْ أَنَسٌ قَالَ كَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةً فِي مَجْلِسٍ أَوْ جَعَهُ ضَرْبًا وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا۔ (مصنف ابن أبي شيبة، مؤسسه علوم القرآن

بیروت ۵۱۹/۹، رقم: ۱۸۰۸۹)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے پاس جب ایسے آدمی کو لایا جاتا تھا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دی ہوں، تو حضرت عمرؓ کی پٹائی کر دیتے اور میاں بیوی کے درمیان میں جدا یگی فرمادیتے تھے (یعنی ایک مجلس میں تین طلاقیں دینا اچھا کام نہیں ہے؛ لیکن اس کی وجہ سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں؛ اس لئے دونوں کو علیحدہ کر دیتے تھے)۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کا فتویٰ

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے جب مسئلہ معلوم کیا جاتا کہ جس مرد نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہوں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو وہ جواب دیا کرتے تھے کہ اس نے گناہ کا مکیا ہے اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی۔

حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

عَنْ وَاقِعٍ بْنِ سَحْبَانَ قَالَ: سُئِلَ عَمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَقَ

امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ قَالَ : أَثِمْ بِرَبِّهِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . (مصنف ابن أبي

شيبة، حديث مؤسنہ علوم القرآن بیروت تحقیق شیخ عوامہ ۹/۵۱۹، رقم: ۸۷۰۱۸)

واقع بن سبان کہتے ہیں کہ عمران بن حصینؓ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دی ہیں، تو وہ جواب دیتے تھے کہ اس نے اپنے رب کے ساتھ نافرمانی کا گناہ کیا اور اس کے اوپر اس کی بیوی حرام ہو گئی ہے۔

حدیث رکانہ سے متعلق روایات کا جائزہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے حضرت رکانہؓ کا واقعہ حقیقت کے خلاف نقل کیا جاتا ہے؛ اس لئے پہلے وہ حدیث ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں حقیقت کے خلاف واقعہ پیش کیا گیا ہے اس کے بعد حقیقت کے موافق صحیح واقعہ ابو داؤد شریف سے پیش کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیے:

”سنن کبریٰ یہیقی“، میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی ایک روایت ہے جس میں حضرت رکانہ کا ایک واقعہ ہے اور حضرت رکانہؓ کا واقعہ ابن عباسؓ سے اس طرح مردی ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دیدیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجعت کرنے کی اجازت دی ہے، اب اس حدیث پاک پر غور کرنا ہے کہ اس حدیث شریف کی حقیقت کیا ہے، کیوں کہ حضرت ابن عباسؓ خود اس حدیث شریف کو بھی روایت کرتے ہیں پھر اسی حدیث شریف کے خلاف وہ فتویٰ بھی دیتے ہیں جیسا کہ ”موطا“ کی روایت میں ان کا فتویٰ ہے کہ ایک مجلس میں تین یا تین سے زائد دی ہوئی طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں اور زائد طلاقیں لغو ہو جاتی ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کے متن میں ضرور کوئی گڑ بڑی ہوئی ہے، جیسا کہ اوپر حضرت علیؓ کے بارے میں اس طرح کی روایت منسوب کی گئی تھی، پھر امام اعمش نے جب تحقیق کی تو صحیح بات سامنے نکل کر آئی کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں

ایک نہیں ہیں؛ بلکہ تین ہی ہیں اور اس کی وجہ سے مکمل طور پر جدا یگی ہو جاتی ہے، ہم اس سلسلے میں پہلے سنن کبریٰ کی روایت پیش کرتے ہیں اس کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی نے ”فتح الباری“ میں جو کچھ لکھا ہے وہ پیش کریں گے۔

حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَقُ رَكَانَةً امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَرَزَ عَلَيْهَا حُرْزٌ شَدِيدًا، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَقْتَهَا؟ قَالَ: طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا فَقَالَ: فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّمَا تُلْكَ وَاحِدَةً، فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ فَرَاجِعَهَا۔ (السنن الكبرى جدید دارالفکر بیروت، رقم: ۱۵۳۶۳، ۲۲۸، ۲۲۷/۱۱)

دار الفکر بیروت ۹/۳۲۶، دارالریان للتراث القاهرۃ ۹/۲۷۵، اشرفیہ بکڈپو دیوبند ۹/۴۵۳، ۹/۴۵۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دیں، پھر اس پر سخت رنجیدہ ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے طلاق کیسے دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو تین طلاق دی ہیں، حضور ﷺ نے پوچھا ایک مجلس میں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ ایک ہی ہے؛ لہذا اگر چاہو تو رجعت کرو، تو رکانہ نے ان سے رجعت کر لی۔

حضرت رکانہؓ کے واقعہ میں حدیث شریف کا صحیح مطلب

حافظ ابن حجر عسقلانی نے ”فتح الباری“، دارالفکر بیروت، دارالاحیاء التراث ۹/۲۷۵، ۹/۲۵۳، ۹/۲۵۴، ۹/۲۵۲، ۹/۲۵۱ میں اس حدیث شریف کا اس طرح جواب دیا ہے کہ اس حدیث شریف کی سند میں محمد بن اسحاق اور ان کے شیخ داؤد بن الحصین دونوں مختلف فیہ ہیں۔ محمد بنین نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے؛ اس لئے ابو داؤد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ حضرت رکانہؓ کے واقعہ سے متعلق روایت ہے وہی زیادہ صحیح ہو گی، اس میں ”فطلقها البتة“،

کے الفاظ ہیں اور اس میں ایک مجلس میں تین طلاق دینے کے الفاظ کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہیں؛ بلکہ ابواؤ دشیریف میں الفاظ ہیں: أن رَكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ سَهِيمَةَ الْبَتَّةَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی سہیمہ کو البتہ کے ساتھ طلاق دیدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی اور طلاق البتہ میں تین طلاق بھی مرادی جاسکتی ہیں اور ایک طلاق بھی؛ یعنی لفظ ”البتہ“ سے طلاق دینے میں شوہر کی نیت کا اعتبار ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رکانہؓ کو قسم دلائک پوچھا کہ تم نے اس سے تین طلاق کا ارادہ کیا تھا یا ایک طلاق کا؟ اس پر حضرت رکانہؓ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے لفظ ”البتہ“ سے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجعت کی اجازت دی تھی۔ امام ابواؤ دشیریف میں کہ تین طلاق کے الفاظ کی حدیث کے مقابلے میں یہی حدیث شریف زیادہ صحیح ہے اور تین طلاق والی حدیث کے متن میں گڑ بڑی ہوئی ہے؛ کیوں کہ اس حدیث کو حضرت رکانہؓ کے خاندان اور ان کے گھر کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ اور تین طلاق والی حدیث ان کے خاندان کے علاوہ دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں گھر کے لوگوں کا بیان زیادہ صحیح ہوگا؛ اس لئے ایک مجلس میں تین طلاق کو ایک طلاق شمار کرنے کی روایت واقعہ کے خلاف اور غلط ہوگی۔ اور اس پر عمل کرنا بھی غلط اور گناہ کا ارتکاب ہوگا۔

حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

عَنْ نَافِعِ بْنِ عَجَّبِرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ سَهِيمَةَ الْبَتَّةَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرْدَتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: وَاللَّهِ مَا أَرْدَتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرْدَتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَّقَهَا الشَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُشَمَانَ۔ (أبواؤ دشیریف، کتاب الطلاق،

حضرت رکانہؓ کے پڑپوتے نافع بن عجیر بن عبدیزید بن رکانہ فرماتے ہیں کہ حضرت رکانہ بن عبدیزید نے اپنی بیوی سمیہ کو طلاق البتہ دیدی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے طلاق البتہ سے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا؟ تو حضرت رکانہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو انہی پروالپس کر دیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوسری طلاق دی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تیسرا طلاق دی۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلَيٍّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أَرْدَذَتْ؟ قَالَ: وَاحِدَةً، قَالَ: اللَّهِ؟ قَالَ: اللَّهِ قَالَ: هُوَ عَلَى مَا أَرْدَذَ، قَالَ: أَبُو دَاؤُدُ: هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْحٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَا نَهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ، وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْحٍ رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ بَنِي رَافِعٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ۔ (ابوداؤد شریف کتاب الطلاق، باب فی البتة، النسخة الہندیۃ

(۲۰۰۸)، دارالسلام رقم: ۳۰۰)

حضرت رکانہؓ کے پڑپوتے عبد اللہ بن علی نے اپنے باپ علی سے انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ حضرت رکانہؓ اپنی بیوی کو طلاق البتہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کیا ارادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم، تو حضرت رکانہ نے فرمایا اللہ کی قسم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے ارادے اور نیت پر ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ابن جریر نے جو روایت بعض بنی رافع عن عکرمہ عن ابن عباس کے طریق سے نقل فرمائی ہے (اور اس میں حضرت رکانہ کا اپنی بیوی کو تین طلاق دینے کا ذکر ہے) اس کے مقابلے میں یہی حدیث شریف (طلاق البتہ والی)

زیادہ صحیح ہے؛ اس لئے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت رکانہ کے اہل بیت اور ان کے گھر کے لوگ ہیں۔ اور یہی لوگ دوسروں کے مقابلے میں حضرت رکانہ کے طلاق کے واقعہ کو زیادہ جانتے ہیں۔

نیز تین طلاق والی روایت حضرت عبداللہ بن عباس^{رض} سے مردی ہے حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس^{رض} ایک مجلس کی تین طلاق کے تین ہونے پر ہی فتویٰ صادر فرمایا کرتے تھے۔ اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک طلاق قرار دیتے ہوئے دیکھا اور سننا ہو پھر حضرت ابن عباس^{رض} اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ چوں کہ البتہ سے تین طلاق بھی مرادی جا سکتی ہیں؛ اس لئے بعد کے راویوں نے اپنی طرف سے ایک مجلس میں تین طلاق دینے کے الفاظ البتہ کی جگہ پر بدل دیے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ حضرت رکانہ کا واقعہ دو طریقے سے ہمارے سامنے آیا: ایک طریقہ وہ ہے جو صحاح ستہ میں موجود ہے۔ اور اس کے روایت کرنے والے سب کے سب اعلیٰ درجے کے حفاظ حدیث میں سے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ صحاح ستہ کے علاوہ دیگر کتابوں میں ہے جیسے ”سنن کبریٰ تیہقی“، ”غیرہ میں لفظ“البتہ“ کی جگہ پر ایک مجلس میں تین طلاق کے الفاظ موجود ہیں۔ اور اس کے روایت کرنے والے اتنے اعلیٰ درجے کے راوی نہیں ہیں؛ بلکہ ان کے لئے ہونے اور غیر لئے ہونے میں اختلاف واقع ہوا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ”فتح الباری“ ۹، ۳۶۲، ۳۶۳، ”پروا ضع فرمایا ہے کہ محمد بن اسحاق اور ان کے شیخ داؤد ابن الحصین مختلف فیہ ہیں؛ اس لئے اس طرح کی روایت کا اعتبار نہ ہوگا، نیز رکانہ^{رض} کے واقعہ میں طلاق البتہ ہونے کی تائید میں وہ ساری روایات آجاتی ہیں جن میں ایک مجلس میں تین طلاق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہی قرار دیا ہے، اس سلسلے میں صریح روایات ہم نے نقل کر دی ہیں ان کو لوٹ کر دو بارہ ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ

اور حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کا ایک فتویٰ ابو داؤد شریف میں ان کے پانچ ایسے شاگردوں سے مردی ہے، جن کو فتن حدیث اور رواۃ و رجال میں حفاظ حدیث کا مقام حاصل ہے، یعنی حضرت امام مجاہد ابن حبیر اور امام سعید بن حبیر اور امام عطاء بن ابی رباح اور امام مالک بن الحارث اور امام عمرو بن دینار ان سب سے ایک مجلس کی تین طلاق کے بارے میں حضرت ابن عباسؓ کا یہ فتویٰ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے ان کو تین ہی شمار فرمایا ہے اور بیوی کے شوہر سے جدا ہونے کا فتویٰ صادر فرمایا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ ایک مجلس میں تین طلاق کو ایک طلاق شمار کرنے کی روایت جو حضرت ابن عباسؓ کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ غلط ہے۔

قالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ حُمَيْدُ الْأَعْرَجُ وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَيُّوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ جَمِيعًا عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كُلُّهُمْ قَالُوا فِي الطَّلاقِ الْثَّلَاثِ أَنَّهُ أَجَازَهَا، قَالَ وَبَانَثَ مِنْكَ . (أبوداؤد شریف، کتاب الطلاق، باب بقیة النسخ المراجعة

بعد التطlications الثلاثة، النسخة الهندية ۱/۹۹، دار السلام رقم: ۲۱۹۷)

امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کو حمید اعرج وغیرہ نے امام مجاہد سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ اور اس حدیث شریف کو شعبہ نے عمرو بن مرہ سے انہوں نے سعید بن حبیر سے انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ اور ابن حرتاج نے عبد الحمید بن رافع سے انہوں نے عطاء سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ اور اس حدیث شریف کو امام اعمش نے مالک بن الحارث

سے انہوں نے ابن عباس سے روایت نقل کی ہے۔ اور ابن جرتج نے عمرو بن دینار سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے۔ اور ان تمام شاگردوں نے تین طلاق کے بارے میں ابن عباس سے یہی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے تین طلاق کے واقع ہونے پر فتویٰ دیا ہے اور بیوی کے تم سے باستہ ہو کر الگ ہوجانے کا فتویٰ دیا ہے۔

اور ”مَوَطِّا إِمَامٍ مَالِكٍ“ میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اور فتویٰ منقول ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ سو طلاقیں دیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ایک مجلس کی سو طلاقوں میں سے تین طلاقیں فوری واقع ہو گئیں اور تین ہی معتبر ہو گئیں اور بقیہ ستانوے کے ذریعہ سے اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑایا ہے۔

حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً تَطْلِيقَةٍ فَمَاذَا تَرَى عَلَيْيَ ؟ فَقَالَ لَهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ : طَلَقْتُ مِنْكَ بِشَلَاثٍ وَسَبْعَ وَتِسْعَوْنَ اتَّخَذْتَ بِهَا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوا . (المؤطا للإمام مالک، کتاب الطلاق، باب ما

جائے في البتة، اشرفي دیوبند ص: ۱۹۹، بیروت رقم: ۱۲۱)

اماں مالکؓ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ بات پہنچی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عباسؓ سے کہا بے شک میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دی ہیں، تو آپ میرے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباسؓ نے اس سے کہا کہ تمہاری طرف سے بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو گئی ہیں اور ستانوے طلاقوں کے ذریعہ سے تم نے اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑایا ہے۔

متعدد صحابہ عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فتویٰ

حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم ان تینوں حضرات سے اس عورت کے بارے میں مسئلہ معلوم کیا گیا جس کو شوہرنے تین طلاق دی ہیں، تو ان تمام صحابہ کرامؓ نے متفق ہو کر کے یہ مسئلہ بتایا کہ تینوں طلاقیں واقع

ہوگئی ہیں، اب بیوی شوہر کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ اور ان تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا فتویٰ امام ابو داؤد نے سند صحیح کے ساتھ ابو داؤد شریف میں نقل فرمایا ہے۔

حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَّاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبْيَا هُرَيْرَةَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا، فَكُلُّهُمْ قَالَ: لَا تَحْلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ رَوْجًَا غَيْرَهُ۔ (أبو داؤد شریف، کتاب الطلاق، باب بقیة نسخ المراجعة بعد

التطلیقات الثلث، النسخة الہندیۃ / ۱، ۲۹۹، دار السلام رقم: ۲۱۹۸)

حضرت محمد بن ایاس بن بکیر فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ سے اس عورت کے بارے میں مسئلہ معلوم کیا گیا جس کو اس کے شوہرنے تین طلاقوں دیدی ہیں، تو ان تمام حضرات نے فرمایا: کہ اب وہ عورت اس شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔

اوپر کی تفصیلی احادیث اور نصوص کے ذریعہ سے واضح ہو چکا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک طلاق کہنا غلط ہے؛ بلکہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو اس بارے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے پر طبعی طور پر حرام ہو جاتی ہے؛ لہذا مسلمانوں کو اس بارے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ غیر مقلدین کے غلط مسائل سے متاثر ہو کر عمر بھر حرام، معصیت اور بدکاری کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور مسلمان ان کی باتوں میں آ کر کے اپنے دین و ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔

ایک ضروری بہادیت

اس مضمون کو پڑھ کر کے آپ دیکھئے کہ ہر پہلو کی حدیث مقلدین کے سامنے ہے اور ہم ہر طرح کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر مسئلہ بتاتے ہیں؛ اور صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت

اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہم مقلدین ہی ہیں، نیز چاروں اماموں کے نزدیک ایک مجلس کی تین طلاقوں تین ہی طلاق ہوتی ہیں، جیسا کہ اوپر کی احادیث و نصوص کے دلائل سے واضح ہو چکا ہے۔ اور غیر مقلدین اپنی مرضی کی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور جو حدیث شریف ان کی مرضی و خواہش کے مطابق نہیں ہوتی ہے وہ کتنی ہی معتبر کیوں نہ ہو اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اور بعض حدیثیں جن میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل ہوتا ہے۔ اور صحابہ کا عمل ان کے آثار ہوتے ہیں، وہ ان کی مرضی کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں گستاخانہ انداز اختیار کرتے ہیں؛ حالاں کہ صحابہ کرام کا عمل اور ان کا فتویٰ حضرت سید الکوئین علیہ السلام کے قول و عمل کے خلاف قطعاً نہیں ہو سکتا؛ اس لئے غیر مقلدین جو اپنے آپ کو الی حدیث ہونے کی شہرت دیتے ہیں ان کا اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا غلط اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے؛ بلکہ صحیح معنی میں وہ لوگ اہل ہوئی ہیں اور اپنی خواہشِ نفس کے مقلد اور اسی کے پیروکار ہیں، شریعت مطہرہ کے مقلد نہیں ہیں۔



يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ ذَائِمًا أَبَدًا ☆ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلَّهِمْ

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. الحدیث

(المعجم الكبير ۲ / ۱۳۵، برقم: ۱۵۷۰)

شیر احمد قاسمی

خادم الحدیث والافتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد (یو-پی)

بروز جمعہ ۲۹ ذی الحجه ۱۴۳۳ھ

جھوٹ بول کر فتویٰ لینے سے بیوی حلال نہیں ہوتی

سوال [۶۶۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ زید نے اپنی بیوی کو بحالت غصہ کہا کہ ایک دو تین میں نے تجوہ کو طلاق دی، ایک دو تین میں نے تجوہ کو طلاق دی اور اس نے سوچ رکھا تھا کہ میں تیسری طلاق روک لوں گا، مگر غصہ کو تاب نہ لا کر تیسری مرتبہ بھی وہی جملہ یعنی ایک دو تین میں نے تجوہ کو طلاق دی کہا، اب زید نے سوچا کہ طلاق تو واقع ہو گئی کیا کروں؟ چنانچہ اس نے علماء دین سے جھوٹ بول کر فتویٰ لیا اور واضح رہے کہ علماء کے سامنے یہ کہہ کر کہ میں نے تجوہ کو چھوڑ دیا تین مرتبہ کہہ کر کر فتویٰ لیا، جس کے جواب میں آیا تھا کہ تم اس بیوی سے نکاح کرو؛ چنانچہ اس نے اس بیوی سے دوبارہ نکاح کر لیا اور ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اب زید کے دل میں خیال آیا کہ میں نے علماء سے تو جھوٹ بول کر فتویٰ لیا تھا جو بہت بڑا گناہ ہے، اب اس بیوی کو جائز طریقہ سے رکھنا چاہئے، تو اب سوال یہ ہے کہ بیوی کو جائز طریقہ سے رکھنے کی کیا صورت ہے؛ جبکہ پہلے بچکی پیدائش کو چار ماہ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد زید نے دوبارہ اس مطلقہ سے طلبی کر لی ہے، مگر ظہور حمل اب تک نہیں ہوا ہے، تو اب ایسی صورت میں نکاح کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد عالم ابن سمیع، راگھو پور مہدیان، پوسٹ: منی پور مظفر پور (بہار)

با سہ سجائنا تعلیٰ

الجواب وبالله التوفيق: تین طلاق دینے کے بعد بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو جاتی ہے اور تجوہ کو چھوڑ دیا کا لفظ بھی تین مرتبہ بیوی کو کہنے سے طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا امر واقعی کے اعتبار سے بھی طلاق مغلظہ واقع ہو گئی اور جھوٹے بیان کے اعتبار سے بھی طلاق مغلظہ واقع ہو گئی؛ اس لئے اس بیوی کو ساتھ رکھنا حرام کاری ہے، اس کے رکھنے کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ اب اس کا نکاح کسی دوسرے مرد کے ساتھ کر دیا جائے، پھر وہ ہمستری کے بعد طلاق دیدے، پھر اس کے بعد تین ماہواری عدت میں گزارنے کے

بعد شوہر اول نکاح کر سکتا ہے اور اگر عورت فی الحال حاملہ ہے، تو وضع حمل کے بعد ہی دوسرا مرد سے نکاح کرے۔

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(ہندبہ، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۳۵۰، هدایۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، مجمع الأنہر،

دارالكتب العلمیہ، بیروت ۲/۸۸، تاتار خانیہ، ذکریا ۵/۱۴۷، رقم: ۳۰/۷۵۰)

سرحتک وہورہا کردم لأنہ صار صریحاً في العرف (إلى قوله) يقع به الرجعي الخ (شامی، ذکریا ۴/۵۳۰، کراچی ۳/۲۹۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

لکتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳۰ ربیع الثانی ۱۴۱۸ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۳/۳۲/۵۲۷)

تین طلاق دینے کا مسنون طریقہ

سوال [۶۶۱۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میاں اور بیوی کے درمیان بہت ہی جھگڑا پیدا ہو چکا ہے اور اب کوئی گنجائش نہیں ہے؛ لہذا اب راستہ صرف طلاق ہے؛ لہذا طلاق مغلظہ دینے کا طریقہ بتا دیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہونے پائے۔ مفصل جواب سے نوازیں۔

المستفتی: محمد سلیم، بکھرڈی چوراہا محمود، سیتار پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق مغلظہ دینا سخت گناہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی جملہ میں تین طلاق دیدی جائیں یا ایک طہر میں تین طلاق دی جائیں، اس میں شوہر گنہگار ہوتا ہے۔

وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثةً بكلمة واحدة، أو ثلاثة في طهر واحد، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا. (هداية، باب طلاق السنة

اشرفي دیوبند ۲/۳۵۵)

وبدعی یاثم به. (در مختار مع الشامی، کراچی ۳/۲۳۰، زکریا ۴/۴۳۱) مسنون و بهتر طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے عدت گذرنے پر عورت خود ہی نکاح سے نکل جائے گی اور خدا اور رسول کی نافرمانی بھی نہ ہوگی۔

عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتراكمها حتى تحيض ثلاث حيض . (مصنف ابن أبي شيبة مؤسسہ علوم القرآن بیروت ۹/۴۱۰، رقم: ۴۰)

فالأحسن أن يطلق الرجل أمرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويترکها حتى تنقضى عدتها؛ لأن الصحابة كانوا يستحبون أن لايزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضى العدة. (هداية، اشرفی دیوبند ۲/۴۳۵، زکریا ۴/۳۷۸، رقم: ۶۴۷۲) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

كتبه: شمسير احمد قاسمي عفان اللہ عنہ

۲۷ ربیع الاول ۱۴۳۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۵/۲۳۳)

ایک ایک کر کے تین طلاق دینا

سوال [۲۶۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اشFAQ احمد نے اپنی بیوی مشتری خاتون کو ہوش و حواس کی حالت میں ایک طلاق دی اور پھر میاں بیوی دونوں ایک ساتھ رہتے رہے اور چھ سال گذرنے کے بعد پھر اشFAQ احمد نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی اس کے بعد بھی دونوں ایک ساتھ رہتے

رہے اور ۴/۵ رسال گذرنے کے بعد نشہ کی حالت میں پھر ایک بار طلاق دی اور اس تیسری طلاق کے بعد سے دونوں میاں بیوی الگ الگ رہ رہے ہیں۔

اب معلوم یہ کرنا ہے کہ اشفاق کی بیوی پر کون سی طلاق واقع ہوئی ہے اور اب دونوں کے ایک ساتھ رہنے کا شرعاً کیا طریقہ ہوگا؟

المستفتی: محمد بھکو، مستی پور (بہار)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ایک طلاق یاد و طلاق دینے سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، دو طلاق دینے سے بیوی شوہر پر حرام نہیں ہوتی اور دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، پھر شوہرنے کچھ سال گذرنے کے بعد نشہ کی حالت میں جب تیسری طلاق اور دیدی تو اس تیسری طلاق سے طلاق مغلظہ واقع ہو کر عورت شوہر پر حرام ہو گئی۔

اب حلالہ شرعیہ کے بغیر دونوں میاں بیوی جیسی زندگی گذار نہیں سکتے ہیں اور حلالہ شرعیہ کا طریقہ یہ ہے کہ عدت کے گذرنے کے بعد اس کانکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ دوسراشوہراس سے ہمبستری بھی کرے، اس کے بعد وہ دوسراشوہر جب اس عورت کو طلاق دیدے یا اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کی عدت گذرنے کے بعد پہلے شوہر کے لئے اس عورت سے نکاح کرنا جائز اور درست ہے۔

أن سعيد بن المسيب و سليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران،
فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه. الحديث (المؤطا للإمام مالك، باب جامع

الطلاق، النسخة الهندية ۲۱۶، بيروت رقم: ۸۲)

وطلاق السكران واقع إذا أسكر من الخمر، أو النبيذ وهو مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى. (المحيط البرهانی، کتاب الطلاق، الفصل الثالث، المجلس العلمي بيروت ۳۹۱/۴، رقم: ۴۶۳۴، تاتارخانیة، زکریا ۴/۳۹۴، رقم: ۶۵۰۹)
وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له من بعد

حتیٰ تنکح زو جاً غیره نکاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(العامگيري، ذكريات قديم ۱/ ۴۷۳، جديده ۱/ ۵۳۵، الفتاوی التاتار خانية، ذكريات ۱/ ۴۷/ ۱،

رقم: ۰۳، مجمع الأنهر، دار الكتب العلمية، بيروت ۲/ ۸۸) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم

الجواب صحیح:

احترم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۱ھ/۷/۲

كتبه: شبير احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۲ رجب الرجب ۱۴۳۱ھ

(نحوی نمبر: الف ۳۹/ ۱۰۱۱)

یکے بعد دیگرے تین طلاق دینا

سوال [۶۶۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زیداً نکاح نومبر ۲۰۱۰ء میں ہندہ کے ساتھ ہوا، نکاح کے بعد سے ہی زید نے انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا شروع کیا اور معمولی معمولی باتوں پر صراحتہً و کنایہً طلاق کے لفظ کا استعمال کیا، جب اس کو تنبیہ کی گئی تو اس نے دوبار پختہ طلاق دینے کا قرار کیا، جب ہندہ کے والد نے اس کو واضح کیا کہ اب اگر آئندہ تم نے یہ لفظ استعمال کیا، تو ہمیشہ کے لئے تعلق ختم ہو جائے گا؛ لیکن اس کے بعد بھی زید مذکور باز نہیں آیا اور متعدد بار اس نے برادرست ہندہ سے طلاق کا لفظ استعمال کیا، پھر اس کے بعد ہندہ اپنے والدین کے گھر رہنے کے لئے آئی تو ہندہ کے والد نے زید سے کہا کہ کچھ روز ہندہ کو اپنی ماں کے پاس اور رہنے دو؛ لیکن زید نے اپنی مکونو ہندہ سے کہا کہ اگر تم فلاں دن نہیں آئیں تو تم کو پختہ طلاق ہے، پھر ہندہ اس مقررہ دن میں نہیں گئی۔ اب اس طلاق کے ساتھ تین طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، اس کے گواہ بھی موجود ہیں، اب اس صورت میں شریعت مطہرہ کی رو سے ہندہ زید کے نکاح میں باقی ہے یا نہیں؟

المسٹفتی: عبدالرحمٰن

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال میں ذکر کردہ تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ

زیداً پنی بیوی ہندہ کو کیے بعد گیرے تینوں طلاقیں دے چکا ہے؛ لہذا ان دونوں کے درمیان ازدواجی رشتہ باقی نہیں رہا اور حلالہ شرعیہ کے بغیر ان کا دوبارہ نکاح بھی درست نہیں ہو سکتا۔
لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الاشباء والناظائر

قدیم ۲۱۹، جدید زکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هنديہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، تاتار خانیہ، زکریا ۱/۴۷۵، رقم: ۷۵۰۳).
لا يحل للرجل أن يتزوج حرّة طلقها ثلاثاً قبل إصابة الزوج الثاني.
(هنديہ، کتاب النکاح، الباب الثالث فی بیان المحرمات القسم التاسع، زکریا قدیم ۱/۲۸۲، جدید ۱/۳۴۸) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۲۵ ربيع الثانی ۱۴۳۳ھ

(فتوا نمبر: الف ۳۰، ۱۰۲۲۳)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلام منصور پوری غفرله

۱۴۳۳/۲/۲۵

ایک طلاق کے بعد دو طلاق دینا

سوال [۶۶۱۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شوکت علی نے تقریباً گیارہ سال پہلے اپنی بیوی کو ان الفاظ کے ساتھ طلاق دی تھی، میں نے طلاق دی، اس کے بعد دس دن کے اندر عدت گذرنے سے پہلے ہی میں نے اپنی بیوی سے رجعت کر لی تھی، اور ہم دونوں میاں بیوی تجویہ اور رضا مندی کے ساتھ رہنے لگے تھے، پھر تقریباً گیارہ سال بعد ہم میں نا راضگی ہوئی اور پھر میں نے اپنی بیوی کو دو طلاقیں ان الفاظ کے ساتھ دیں ”میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی“۔
دریافت کرنا یہ ہے کہ صورت مذکورہ میں میری بیوی پر کوئی طلاق واقع ہوئی؟ اور میری

بیوی میرے نکاح میں باقی رہی یا نکاح سے نکل گئی؟ ہم دونوں اگر شوہر بیوی کی طرح سے رہنا چاہیں تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ مل مفصل جواب سے نوازیں۔

فتوث: میری بیوی رشتہ میں میری خالہ زادہ بھی ہے، مدت دراز سے بیمار ہے، اس کے ماں باپ بھی انتقال کر چکے ہیں، بظاہر میرے علاوہ اس کے لئے کوئی زندگی گذارنے کے لئے سہارا نہیں ہے۔

المستفتی: شوکت علی، ساکن: نوگانواں سادات، محلہ نی بستی مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: پہلے جو طلاق دی گئی تھی وہ بعد والی دونوں طلاقوں کے ساتھ مل کر طلاق مغلظہ ہو چکی ہے؛ اس لئے اگر آپ بیوی کو دوبارہ زوجیت میں رکھنا چاہتے ہیں، تو شرعی حالہ کے بعد نکاح کر کے رکھ سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ (مستفار: فتاویٰ دارالعلوم ۱۵۸/۱)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(العامگيري، ذكرىقاديم ۱/۴۷۳، ۵۳۵/۱، جديدهاداية اشرفی دیوبند ۳۹۹، مجمع

الأنه، دارالكتب العلمية، بيروت ۸۸/۲، تاتارخانية، ذكريات ۱۴۷/۵، رقم: ۷۵۰۳) (۷۵۰۳: رقم: ۱۴۷/۵، تاتارخانية، ذكريات ۱۴۷/۵، رقم: ۷۵۰۳)

عن عائشة، أن رجلاً طلق أمرأته ثلاثة، فتزوجت زوجاً، فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. (صحیح البخاری، کتاب الطلاق، باب من اجاز الطلاق الثلاث، النسخة الہندیۃ ۲/۷۹۱، رقم: ۵۰۶۲، ف: ۵۲۶۱، نسائی، کتاب الطلاق، باب احلال المطلقة ثلاثة، النسخة الہندیۃ ۲/۸۴، دارالسلام رقم: ۰۴۰) (فقط والله سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعراحمد قاسمی عنفاللہ عنہ
۲۸ ربیع الثانی ۱۴۳۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۸/۳۱۶۷)

طلاق ثلاٹہ

سوال [۶۱۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متبین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے بھائی محمد عیاض نے اپنی بیوی کو بہت غصہ کی حالت میں ایک وقت میں تین مرتبہ طلاق دیدی، جس کے گواہ میری دو بھنیں اور والد ہیں اور محمد عیاض خود تین طلاق دینے کا اقرار کر رہا ہے، لیکن لڑکی دونوں اب بہت افسوس کر رہے ہیں اور دوبارہ ساتھر ہنا چاہتے ہیں اور خدا سے عہد کر رہے ہیں کہ دوبارہ ایسا کام نہیں کریں گے، مہربانی کر کے آسان حل بتا دیجئے۔

المستفتی: محمد زیر، مجتبیہ، لکھنؤ، مراد آباد

بسم اللہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب محمد عیاض نے ایک وقت میں تین طلاقیں دی ہیں، جس کے گواہ بھی ہیں اور وہ اقراری بھی ہے، ایسی صورت میں اس کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر بیوی اس پر قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے۔ اب بغیر حلالہ کے دونوں کا ساتھر ہنا جائز نہیں ہے اور حلالہ کی صورت یہ ہے کہ طلاق کے بعد تین ماہواری گذر جائیں، اس کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کر کے اس کے ساتھ ہمبستر ہو جائے، پھر وہ شوہر طلاق دیدے اور اس پر بھی تین ماہواری گذر جائیں، اس کے بعد عیاض کے ساتھ نکاح درست ہو سکتا ہے۔

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثننتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. كذا في الهدایة. (عالِمُگیری، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ اشتر فی دیوبند ۲/۳۹۹، مجمع الأنہر، دارالکتب العلمیة، بیروت ۲/۸۸، تاتارخانیہ، زکریا ۱/۴۷، رقم: ۳۷۵۰)

عن عائشة، أن رجلاً طلق امرأته ثلاثة، فتزوجت زوجاً، فطلقها قبل

أَنْ يَمْسِهَا، فَسَئَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتْحَلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا حَتَّى
يَنْوِقَ عَسِيلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلَ۔ (بخاری شریف، کتاب الطلاق، باب من اجاز الطلاق
الثالث، النسخة الهندية ۷۹/۱، رقم: ۵۲۶۱، ف: ۵۰-۶۲) **فقط وَاللَّهُ سَجَنَهُ وَتَعَالَى عَلَمُ**

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۱۴۳۳ھ / صفر المظفر

(فتویٰ نمبر: الف/۳۰، ۱۰۹۱۶/۳۰)

تین طلاق

سوال [۲۶۱۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مตین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ کل رات میرے اور میری بیوی کے درمیان بہت جھگڑا رہا، بات
مارنے پہنچنے تک آگئی، اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد میں نے بھی اس
پر ہاتھ اٹھایا، پھر کچھ دیر بعد ہم سو گئے، وہ مجھ سے طلاق بھی مانگ رہی تھی، میں صحیح اٹھ کر
اپنے کام سے چلا گیا اور جب میں جمعہ کی نماز کے بعد گھر آیا تو اس کے گھر سے اس کی ماں
، دادی اور تین چار عورتیں ہمارے گھر آئی ہوئی تھیں، ان لوگوں نے بہت بد تمیزی
اور بد کلامی کی اور کہنے لگیں کہ جب میری لڑکی تم سے طلاق چاہتی ہے، تو تم اس کو طلاق
کیوں نہیں دیدیتے، تب میں نے اپنی بیوی کو ان عورتوں اور اپنے بھائیوں اور والد
صاحب کے سامنے تین طلاق دیدیں۔ اب ہم یہ جانتا چاہتے ہیں کہ اس میں شرعی حساب
سے کیا فتویٰ ہے؟ اس صورت میں طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: اطہر خاں ولڈ زادہ خاں، الالباغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہر خود ہی تین طلاق کا اقراری ہے،
تو اس کی بیوی پر تین طلاق مغاظہ واقع ہو کر بیوی قطعی طور پر حرام ہو گئی ہے، آئندہ بغیر حلالة

کے آپس میں نکاح بھی درست نہیں ہوگا اور حلالہ کی صورت یہ ہے کہ تین ماہواری کے ساتھ عدت گذرنے پر کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے اس کے ساتھ ہمپسٹر ہو جائے، پھر اس کے بعد دوسرا شوہر طلاق دیدے، پھر تین ماہواری گذر جانے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الاشبه والناظائر

قدیم ۲۱۹، جدید زکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(عالیٰ مکتبہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ اشرفی دیوبند/۳۹۹، تاتارخانیۃ، زکریا ۱۴۷/۵، رقم: ۷۵۰، قدوڑی، امدادیہ دیوبند ۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۱۴۳۳ھ / ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/ ۱۴۳۳/۷۰)

تین طلاق کا حکم

سوال [۶۶۱۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے نومبر ۲۰۰۸ء کو شاذیہ صابر سے نکاح کیا تھا اور یہ نکاح ہم دونوں نے گھر سے بھاگ کر کیا تھا؛ کیونکہ ہم دونوں کے والدین اس نکاح کے لئے راضی نہیں تھے، گواہ اور وکیل میرے دوست تھے، شاذیہ نکاح سے پہلے بہت غصہ میں تھی؛ لیکن اس نے نکاح کی رسید پر مستخط کر دیئے، پھر جب میں نے نکاح کی رسید اس کو دی تو اس نے اسے پھاڑ کر طکڑے کر دیا، اس کے بعد ہم دونوں پندرہ دن گھر سے باہر رہے، اس دوران شاذیہ کے والد نے میرے خلاف ہائی کورٹ میں کیس کر دیا اور میں نے ہائی کورٹ میں شاذیہ کے حلف نامہ کے

کاغذات داخل کر دینے اور ہم گھر واپس آگئے، پھر میں نے شاذی کو چند معزز حضرات کے ہمراہ اس کے گھر بیٹھ گئی اور میرے گھر واپس آگئی اور ہم دونوں پھر ایک ساتھ زندگی گذانے لگے؛ لیکن شاذی چند دنوں کے بعد ایک بورڈنگ اسکول میں گھر سے باہر نوکری کرنے لگی بطور ٹیچر کے اس وجہ سے ہم دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور شاذی کے والد نے ایک طلاق نامہ تیار کرایا اور مجھ سے طلاق مانگی، میں نے طلاق دیدی، زبانی طور سے اور اس کا غذ پر شاذی اور میں نے دستخط کر دیئے، گواہوں نے بھی دستخط کر دیئے؛ لیکن دماغی طور پر ہم لوگ اس طلاق کے لئے تیار نہیں تھے، چند دنوں بعد شاذی پھر میرے گھر آگئی اور ہم دونوں پھر سے ازدواجی زندگی لزارنے لگے، شاذی کی عمر ۳۲ رسال اور میری عمر ۱۳ سال ہے، شاذی یہ مرزا برادری کی ہے اور میں تیلی برادری کا ہوں؛ لیکن اس کی بذریعہ بانی کی وجہ سے بہت زیادہ اختلافات ہو گئے، جس کی وجہ سے میں نے شاذی کو طلاق کا لفظ تین بار ایک ساتھ کہ دیا، شاذی کی موجودگی میں، لیکن شاذی اس طلاق کو ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ غصہ کی حالت میں کہا گیا ہے، اور شاذی میرے گھر سے جانے کو تیار نہیں ہے، میں جانتا چاہتا ہوں کہ ان واقعات کی روشنی میں طلاق ہوئی یا نہیں؟

المسنون: محمد عرفان، ملک

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ کی تفصیل کے مطابق آپ نے شاذی کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اختلافات پیدا ہونے پر اسے طلاق دیدی ہے، تو اگر شروع ہی میں تین طلاقيں دی گئی تھیں، تو وہ اسی وقت سے آپ کے نکاح سے الگ ہو چکی ہے اور اگر اس وقت تین سے کم طلاق دی تھیں اور عدالت کے اندر اندر وہ آپ کے پاس لوٹ آئی تھی، پھر آپ نے تین طلاقيں دیدیں، تو اب اس کے مطلقہ مخلسطہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہا اور اس کے طلاق نہ ماننے سے مسئلہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب آپ کا اس سے ازدواجی تعلق قطعاً حرام ہے اور عدالت تین حیض کے بعد اس کا آپ کو اپنے گھر میں رکھنا بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلثاً. (الاشباء والنظائر قدیم ۲۱۹، جدید ذکریا ۳۷۶)

الصريح يلحق الصريح. (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایت، کراچی ۳۰۶/۳، ذکریا ۵۴۰)

وصحة الطلاق فيها أي في العدة. (شامی، باب العدة، کراچی ۴/۵۰، ذکریا ۱۸۰) (فظوالله سبحانہ و تعالیٰ اعلم)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلنہ
۱۴۳۲ھ/۲۰۳۰

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۳۰ ربیع الثانی ۱۴۳۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۰۳۸۲/۳۹)

طلاق مغلظہ

سوال [۲۶۱۹]: کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید چکر کی ملک کا رہنے والا ہے زید کی شادی سیدھی سرائے مراد آباد عرصہ ساڑھے چھ سال کا ہوا ہوئی تھی تقریباً دس ماہ پہلے زید کی بیوی نے زید کی نافرمانی کی اور زید کے ساتھ بدکلامی کی جس سے زید نے انتہائی غصہ میں آ کر دعورتوں کی موجودگی میں اپنی بیوی کو طلاق دیدی، اس طرح سے تین بار کہا ”میں نے تھے طلاق دی“، چنانچہ اس دن زید کی بیوی نے کسی کو بھیج کر میکے سے اپنی بڑی بہن کو بلوایا، بڑی بہن نے آ کر زید کو اور اپنی بہن کو کسی طرح سے سمجھا کر اسی طرح سے رہنے کو کہا، زید اور اس کی بیوی اسی طرح سے رہتے رہے، اس کے کچھ مہینے بعد زید اپنے کام روزگار سے بے کار ہو گیا، اس نے اس بات کا علماء سے ذکر کیا علماء نے فرمایا تم نے طلاق شدہ بیوی کو اپنے ساتھ رکھ کر بہت بڑا گناہ کیا ہے؛ لہذا زید نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی بیوی کو نہیں رکھوں گا، شادی کے اس عرصہ میں زید کی بیوی سے کوئی بچہ نہیں ہوا ہے، زید اپنے باپ کا اکٹو تارٹکا ہے؛ جبکہ زید کی بیوی

بہت تیز اور نہایت بد کلام ہے، جس کے محلہ والے اور پڑوئی سب شاہد ہیں زید کی بیوی زید کی شان میں گالیوں تک کا استعمال کرنے تک سے گرینہیں کرتی اپنی ساس کی جو کہ ۷۰ سال کی عمر کو پہنچ چکی ہیں کوئی خدمت نہیں کرتی، زید کی بیوی تقریباً بیس دن ہوئے اپنے میکے چل گئی، بیوی کے بڑے بھائی کسی آدمی کو لے کر گاؤں چکر کی ملک کے معزز اور بڑے آدمی کے پاس بات کرنے کی غرض سے تشریف لائے، بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جانے کے بعد بات اس نتیجے پر پہنچی کہ بڑے آدمی نے زید کی بیوی کے بھائی سے کہا کہ صبح کو لڑکی کو زید کے گھر پہنچا دیں، اس پر زید نے کہا کہ میں کس رشتے سے اس کو رکھوں گا، اس پر معزز آدمی نے زید کو خاموش کر دیا اور ان کے فیصلے کے مطابق دوسرے دن شام کو زید کی بیوی کو اس کے بھائی نے زید کے گھر پہنچا دیا، اس شکل میں کیا گناہ ہے اور کون کون گنہگار ہیں؟ تحریر فرمادیں؛ جبکہ زید کے پڑوئی او محلے والوں کو اس بات کا علم ہے کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی ہے، زید کی بیوی کہتی ہے کہ میں اسی وقت گھر سے نکلوں گی جب مجھے میرے مہر کے دس ہزار روپے دیدو گے، زید مزدور اور غریب ہے، وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ مہر کی رقم ادا کر سکے؛ جبکہ زید کی بیوی کے میکے والے زید کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، اگر زید کی بیوی رہنا چاہتی ہے، تو کیا کرنا ہوگا اور اگر نہیں رہنا چاہتی تو کیا کرنا ہوگا؟ اور زید جبکہ غریب ہے، تو اس کے مہر کی ادائے گی کی آسان ترکیب کیا ہوگی؟ جبکہ زید بیوی کی بذریعی سے اتنا نالا ہے کہ زید کے دل میں بیوی کی طرف سے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، زید پر دباؤ ڈال کر بیوی کو رکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، زید کی بیوی بات پر کلام مجید کی قسمیں کھانے کی عادی ہے، اس صورت میں جبکہ زید کی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، تو کیا زید کو دوسرا شادی کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟

المسنونۃ: رفت علی خان معرفت ڈاکٹر تاج، چوراہا شاہ بلاقی، مراد آباد

باسم سجادۃ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب زید اپنی بیوی کو تین طلاق دے چکا ہے،

تو بیوی زید پر بالکل حرام ہو چکی ہے، اس کو ساتھ رکھنا حرام کاری ہے اور جو لوگ طلاق کے بعد بیوی کو زید کے گھر رکھوار ہے ہیں، وہ سب لوگ سخت معصیت اور گناہ بکیرہ کے مرتبہ ہو چکے ہیں، ان پر توبہ لازم ہے اور زید پر لازم ہے کہ فوراً بیوی کو اپنے سے الگ کر دے ورنہ سخت ترین عذاب الہی مسلط ہونے کا خطرہ ہے۔ (متقاد: فتاویٰ دارالعلوم ۳۰۷/۱۰، ۳۱۷/۱۰)

ومفاده أنه لو وطئها بعد الثالث في العدة بلا نكاح عالمًا بحرايتها لا تجب عدة أخرى؛ لأنها زناً۔ (شامي، باب العدة، كراچي ۳/۵۱۸، ذكرى ۲۰۰)

اور اگر بیوی کو دوبارہ رکھا جائے، تو حلال شرعیہ کے بعد نکاح کر کے رکھا جاسکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(عالیٰ گیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، تاتارخانیہ، ذکریا ۵/۱۴۷، رقم: ۷۵۰۳)

نیز جب شوہر نے طلاق دیدی ہے، تو اس پر بیوی کا مہر ادا کرنا واجب ہوگا اور اگر زید پورا مہر اکھٹا ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، تو اس کی آمدنی اور روزگار کی رعایت رکھتے ہوئے قسط باندھ دی جائے اور علاقہ کے معزز افراد جانبین کی رعایت رکھ کر قسط مقرر کر دیں اور زید قسط پوار ادا کرتا رہے، نیز زید کو دوسرا نکاح کرنے کا شرعاً ہر وقت حق ہے۔

والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة الدخول، والخلوة الصحيحة،
وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى، أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك۔ (ہندیہ، الباب السابع في المهر، ذکریا قدیم ۱/۳۰۳، جدید ۱/۳۷۰) فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله
۱۴۲۱/۱۱/۰۲

كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۱۴۲۱/۱۱/۰۲
(فتوى نمبر: الف ۲۷۲)

طلاق ثلاثہ سے متعلق ایک سوال اور اس کا جواب

سوال [۲۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اولاً قمر الدین کی کیفیت تحریر کرتا ہوں کہ قمر الدین کو بلڈ پریشر کی شکایت ہے، جب کبھی ذہن پر زیادہ لوڈ پڑتا ہے، تو انی عاقبت سے بے خبر ہو کر زبان کا استعمال کرتے ہیں، چھوٹے بڑے کا لحاظ جاتا ہے اور جب اس سے زیادہ ہوتا ہے، تو پورا بدن کا پنہ لگتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں جیسا کہ اس سے قبل دو یا تین بار بے ہوش ہو چکے ہیں اور گر کر زخمی ہو چکے ہیں۔

قمر الدین کے گھر میں اکثر بھائیوں میں جھگڑا ہوا کرتا تھا اور والدہ صاحبہ میں، درج ذیل مسئلہ میں ایک دن قبل بھائی سے تو تو میں میں ہوئی اسی دن والدہ صاحبہ کو اسپتال لے کر جانا تھا، مگر وہ بھی انکار کر گئیں جس سے قمر الدین کو دلی رنج و صدمہ ہوا؛ اس لئے کہ قمر الدین اپنی والدہ کا دل سے ادب و احترام کرتا ہے، انہیں وجہ کی بناء پر اور مزید چند گھنٹے ہی بند کرنے کے بعد آنکھ کھلی تو والدہ کی آواز کانوں میں پڑی کہ ٹکٹ مٹا گا دو، ہم گھر جائیں گے جس سے قمر الدین کو اور بھی تکلیف ہوئی اور بھائی سے بھی کچھ باتیں ہوئیں، جس سے مندرجہ بالا کیفیت طاری ہونے لگی، تو انہوں نے کہا کہ لو ای جان ہم نے طلاق طلاق دی، اس کے بعد ان کی والدہ نے صحیح نہ سمجھنے کی بناء پر دوبارہ پوچھا کہ یہی رہ گیا تھا کہنے کو یہی باقی تھا، تو قمر الدین بے قابو ہو کر کہنے لگا ہاں تم فلاں فلاں کی وجہ سے طلاق طلاق دی، پھر قمر الدین کا بدن کا پنہ لگا، گرتے گرتے جا کر لیٹ گیا، بقول لوگوں کے قمر الدین سے ایک گھنٹہ کے بعد کچھ دور فاصلہ پر ایک مکان میں کچھ سوالات کئے اور قمر الدین نے جواب بھی دیا، جس میں ان کی اور ان کی بیوی کی برا ایساں کی گئیں تو قمر الدین نے کہا کہ تم لوگوں کی بناء پر ہی ایسا کیا ہے۔

اب قمر الدین یہ کہتا ہے کہ ہم کو ان باتوں کا کوئی علم نہیں ہے، قمر الدین کا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ نہ تھا، نہ کوئی رجسٹریشن، نہ وہ وہاں پر حاضر تھی، نہ ہی قمر الدین کے ذہن میں تھی، قمر الدین کی بیوی سے پندرہ یوم قبل ہی ایک بچی کی پیدائش وجود میں آئی ہے، جس سے بیوی حد سے زیادہ پریشان ہے اور مرنے جینے کو تیار ہے، مگر ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں اور قمر الدین کی بھی قریب قریب یہی کیفیت ہے، بہت پریشان ہے، اب ان مذکورہ بالا حالات میں آیا طلاق کا وقوع ہوا یا نہیں؟ اگر ہوئی تو کون سی ہوئی؟ اور اس کا حکم کیا ہے؟ مدل مفصل تحریر فرمائیں۔

المستفتی: محمد اصغر، قمر الدین خاں، بمعرفت مولانا شاہ راحمہ، مدرسہ امدادیہ، مراد آباد

جواب مخابن: مفتی عزیز الرحمن صاحب مدرسہ عربیہ امدادیہ
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال میں جو کیفیت درج ہے، اس کے مطابق قمر الدین بعض اوقات دماغی خلل میں مبتلا ہو جاتا ہے، فقهاء نے لکھا ہے کہ خلل کا غلبہ اس طرح ہو کہ خلاف عادت اقوال و افعال کا بلا قصد صدور ہونے لگے، توجہ تک یہ کیفیت باقی رہے ان اوقات میں کوئی حکم ایسے شخص کے قول پر مرتب نہ ہوگا۔

علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں:

فالذی ينبغي التعویل عليه في المدهوش و نحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله، وأفعاله الخارجة عن عادته. وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر، أو لمرض، أو لمصيبة فاجأته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال، والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها. (شامی، کراچی مطبع فی طلاق المدهوش ۴/۲۴)

اس بحث میں چند سطر قبل یہ تحریر ہے کہ اگر کسی شخص کی یہ کیفیت معلوم ہے، تو اگر وہ دعویٰ کرے، تو بغیر کسی ثبوت کے طلب کئے ہوئے اس کی بات تسلیم کی جائے گی۔

وإذا كان يعتاده بان عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهان.
لہذا اگر واقعی زید کی یہی کیفیت ہے، جو سوال میں ذکر کی گئی اور جو واقعہ پیش آیا، وہ ایسی حالت میں پیش آیا، تو طلاق واقع نہ ہوگی؛ البتہ ایک گھنٹہ کے بعد کی جس لگنٹگو کا حوالہ ہے، اس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اس واقعہ کے وقت وہ صحیح الدمامغ تھا، یہ بات تو یعنی شاہدین ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں؛ لیکن اگر قطعیت کے ساتھ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور قمر الدین پر سائل کی تحریر کے مطابق اس طرح کے دورے پڑتے ہی رہتے ہیں، تو پھر اس کی بات تسلیم کی جائے گی اور اس حالت میں جو طلاق دی، اس کے متعلق شرعی حکم یہی ہو گا کہ طلاق نہیں ہوئی۔

دوسری بات قبل توجہ یہ ہے کہ سوال میں جو تفصیل درج ہے، اس کی رو سے جھگڑا نہ تو بیوی کے متعلق تھا، نہ بیوی سے تھا، نہ اس کا کوئی ذکر آیا، نہ ہی وہ وہاں موجود تھی اور قمر الدین کے جو الفاظ نقل کئے گئے ہیں، ان میں بھی کہیں بیوی کا نام یا اسے خطاب نہیں ہے؛ بلکہ اس کے برخلاف ماں کو خطاب ہے (لوای جان طلاق طلاق طلاق) اس صورت میں اگر قمر الدین یہ نہ کہے کہ بیوی ہی کو طلاق دینا مقصود تھا، تو شرعاً کوئی وجہ نہیں کہ الفاظ منقولہ سے اس کی بیوی پر طلاق کا حکم ہو سکے؛ لہذا یہ طلاق واقع نہیں مانی جائے گی، دونوں اب بھی میاں بیوی ہیں اور حسب دستور ساتھ رہ سکتے ہیں۔ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

كتبه: عزير الرحمن عفني عنہ

۱۴۱۲ھ ابریل الاول

جواب مخابن: در الافتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: قمر الدین کا نہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ تھا اور نہ ہی کوئی آپسی رخصیت تھی اور نہ ہی بیوی اس جگہ پر موجود تھی اور نہ ہی طلاق کے ساتھ بیوی کا نام لیا ہے اور نہ مذکورہ جھگڑا بیوی سے متعلق تھا اور نہ ہی ماں اور بھائیوں وغیرہ کے بیوی کی

شکایات کرنے کی بناء پر صدمہ پھوپچا ہے اور نہ ہی والدہ کا ہسپتال جانے سے انکار کرنا قمر الدین کی بیوی سے صدمہ پھوپچنے کی بناء پر تھا؛ بلکہ صرف والدہ اور بھائیوں سے اختلاف و صدمہ کی وجہ سے بے خبری میں بے مقصد اور مہمل طور پر قمر الدین کی زبان سے طلاق کا جملہ نکلا ہے، تو عدم وقوع طلاق کے حق میں احقر حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب کے جواب کی تصدیق کرتا ہے اور اگر ایک دن پہلے بھائی سے بیوی کی وجہ سے جھگڑا ہوا ہے اور والدہ اسی بناء پر قمر الدین کے ساتھ ہسپتال نہیں گئی ہے یا والدہ کو الگ سے بیوی کی طرف سے صدمہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہسپتال جانے سے انکار کر دیا ہے اور قمر الدین کی والدہ نے گھر جانے کے لئے جو ٹکٹ منگا نے کو کہا ہے، وہ قمر الدین کی بیوی کے ساتھ رہ کر بناہ نہ ہونے اور اس کی بیوی سے صدمہ پھوپچنے کی بناء پر ہے اور والدہ کو بیوی کی طرف سے مطمئن کرنے کے لئے طلاق کا جملہ زبان سے نکلا ہے، تو قمر الدین کی بیوی پر شرعاً طلاق واقع ہو چکی ہے، اگرچہ بیوی وہاں پر موجود نہ ہی ہوا رہنے کا نام لیا ہو؛ اس لئے کہ ایسی حالت میں بیوی کے موجود ہونے اور نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی؛ بلکہ جھگڑا اور اختلاف کا قرینہ بیوی کی طرف طلاق کے منسوب ہونے کے لئے کافی ہے۔

ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه (إلى قوله) لأن العادة أن من له امرأة إنما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها. (شامي، كتاب الطلاق، باب الصریح،
کراچی ۳/۲۴۸، ذکریا ۴/۴۵۸)

نیز اگر مدھوشی کے حالت میں طلاق دے کر اس کو یاد نہیں رہا ہے؛ لیکن آدمیوں نے اس کو بتایا ہے کہ تم نے ایسے الفاظ زبان سے ادا کئے اور ان کے قول پر قمر الدین کو اعتقاد ہے، تو طلاق ثابت ہو جائے گی اور قمر الدین کے لئے بیوی حلال نہ ہوگی۔

قال في الولوالجية إن كان بحال لو غصب يجري على لسانه مala يحفظه بعده جاز له الاعتماد على قول الشاهدين الخ .

(شامي، کراچی ۳/۲۴، ذکریا ۴/۴۵۳)

اب اس تحریر کے بعد قمر الدین خود اپنے حالات کا جائزہ لے کر اس نے کس حالت اور کس موقع پر طلاق دی ہے اور خداۓ علیم و حکیم سے ڈرے۔ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۹ ربیع الثانی ۱۴۱۲ھ

(نوتیٰ نمبر: الف ۲۷۸۷، گ ۲۶۲۸)

طلاق ثلاثة اور میرا کوئی خدا نہیں کہنے کا حکم

سوال [۲۶۲۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع عتین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے خاوند نے تقریباً ایک سال پہلے فون پر کسی بات پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ ”تمہیں طلاق، طلاق، طلاق، طلاق“ پانچ چھ مرتبہ کہا، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ میں نے فون کاٹ دیا، اس کے بعد دوسرے ہی دن میرے صاحزادے سے شوہرنے کہا کہ میں تمہاری ماں کو ہزار مرتبہ طلاق دوں گا اور رکھوں گا۔

جواب: اس واقعہ کے بعد وہ طلاق دینے سے مکر گئے (یعنی طلاق کا انہوں نے انکار کیا نیز میرے شوہرنے اپنی والدہ سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا (جبکہ لا وڈا سپیکر آن تھا اور وہاں تین چار آدمی موجود تھے اور ان سبھوں نے اس کے کلام کو سنایا ہے) کہ میرا کوئی خدا نہیں اور خود مجھ سے بھی اکثر یہ کہتے کہ ”میں خدا کو نہیں مانتا“ میں تو کافر ہو گیا ہوں اور کافر ہوں، اس طرح کے جملے بار بار کہے؛ لیکن دوسرا طرف وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ (۱) میرا اس شوہر کے ساتھ رہنا شرعاً کیسا ہے؟ اور کیا فون پر اس کے ”تمہیں طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق“ کہنے کی وجہ سے طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوئی تو کونسی طلاق واقع ہوئی؟

(۲) شوہر کا یہ کہنا کہ ”میرا کوئی خدا نہیں ہے، میں خدا کو نہیں مانتا، میں کافر ہو گیا ہوں

اور میں کافر ہوں، ”شرعاً کیسا ہے؟ اور کیا یہ شخص ان جملوں کے کہنے کی وجہ سے دائرة اسلام میں داخل رہا نہیں؟“ اگر دائرة اسلام سے خارج ہو گیا تو تجدید نکاح ضروری ہے یا نہیں؟

نبوت: نبی میر اشوہرا بھی فی الحال سعودی میں ہے، اس واقعہ کے بعد واپسی نہیں ہوئی ہے، واپسی کے بعد اگر وہ ان باتوں سے مکر گیا تو کیا حکم ہو گا؟ جبکہ یہ ایسا شخص ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر خدا اور قرآن کی قسم کھانے لگتا ہے۔

شریعت اسلامیہ کی روشنی میں دونوں جزا جواب عنایت فرمائ کر ثواب دارین حاصل کریں عین کرم ہو گا۔

المستفتيه: اخْمَرْ حَمْنَ، كَانَ نُورَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) صورت مسؤولہ میں آپ کے شوہر کا آپ سے فون پر یہ کہنا کہ ”تمہیں طلاق، طلاق، طلاق، طلاق“ سے آپ پر تین طلاق مغلظہ واقع ہو کر شوہر کے لئے آپ قطعی طور پر حرام ہو گئیں، اب آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ناجائز اور حرام کاری ہو گی۔

لو قال لزوجته: أنت طلاق، طلاق، طلاق، طلقت ثلاثاً. (الاشبه والنظائر

قديم ۲۱۹، جديد زكرياء (۳۷۶)

کرر لفظ الطلاق وقع الكل. (شامي، كتاب الطلاق، باب طلاق

غیر المدخول بها، زکریاء ۴/۵۲۱، کراچی ۳/۳۹۳)

وفي الظهيرية: متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق. (الفتاوى التاتارخانية ۴/۴۲۷، رقم: ۶۵۹، هندية، زکریاء ۱/۳۵۶، جديد ۱/۴۲۳)

(۲) آپ کے شوہر کا یہ کہنا کہ ”میرا کوئی خدا نہیں“، اور ”میں کافر ہو گیا ہوں“ ایسے الفاظ کا کہنا کفر ہے، اس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اس کے اوپر تجدید ایمان لازم ہے اور چونکہ نکاح طلاق کے ذریعہ سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں پڑا،

اگر نکاح باقی رہتا تو ان الفاظ کے ذریعہ نکاح ختم ہو جاتا۔

مسلم قال: أنا ملحد يكفر. (ہندیہ، زکریا قدیم ۲۷۹/۱ جدید ۲۸۹/۱)

مسلم قال: أنا ملحد يكفر؛ لأن الملحد هكذا. (المحيط البرهانی،

المجلس العلمی بیروت ۴۲۵/۷، رقم: ۹۲۷۶، کراچی ۵/۵۷۳)

من أتى بلفظة الكفر مع علمه، أنها لفظة الكفر عن اعتماد، فقد كفر ولو لم يعتقد أو لم يعلم أنها لفظة الكفر؛ ولكن أتى بها على اختيار فقد كفر عند عامة العلماء لا يعذر بالجهل. (Batesarhania، زکریا ۷/۲۸۲، رقم: ۸۸۰۴) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علّم

کتبہ: شیراحمر قاسمی عفنا اللہ عنہ

۱۹ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ

(نحوی نمبر: الف ۳۰/۱۴۳۱۳)

تین مرتبہ طلاق دیدی واقع ہوئی یا نہیں؟

سوال [۶۶۲۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ادریس جس نے اپنی بیوی کنیز فاطمہ کو تین مرتبہ طلاق دیدی، تو طلاق ہوئی یا نہیں؟ طلاق دیتے وقت لڑکے کے ماں باپ بھی موجود تھے، شرعی حکم کیا ہے؟

المستفی: محمد شیخ، محلہ درزیان، مراد آباد

با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہرن نے تین طلاق دیدیں تو اس سے طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔ اب بلا حلالة دوبارہ نکاح بھی صحیح نہ ہو گا۔

عن سماک قال: سمعت عکرمة يقول: الطلاق مرتان: فإمساك بمعرفه، أو تسريح بحسان، قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة فإن شاء نكحها، وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها، فإذا طلقها ثلاثة فلا تحل له حتى

تنکح زوجاً غيره. (المصنف لإبن أبي شيبة، ما قالوا في الطلاق مرتان مؤسسه علوم القرآن بيروت ۱۹۷۱، رقم: ۴۶۱)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنکح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (العالمگیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، قدوری، امدادیہ دیوبند ۱۷۸، مجمع الأنہر، دارالكتب العلمیة، بيروت ۲/۸۸، تاتارخانیہ، ذکریا ۵/۱۴۷، رقم: ۳۰۷۵) فظواللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:	كتبه: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ	۱۲ شوال المکرم ۱۴۲۱ھ
۱۴۲۱/۱۰/۱۲	(فتویٰ نمبر: الف ۲۹۱۲/۳۵)

ایک ہی سانس میں تین مرتبہ طلاق دینا

سوال [۶۶۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متبین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں مستجاب حسین ولد محمد ایوب، محلہ: اصالت پورہ نے اپنی بیوی کو غصہ کی حالت میں ایک ہی سانس میں تین مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کیا یعنی طلاق طلاق تو کیا طلاق واقع ہو گئی؟

المستفتی: مجتبی حسین، اصالت پورہ، مراد آباد
باسہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ایک ہی سانس میں تین مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرنے سے بیوی پر تین طلاق معتبر ہو کر تین طلاق ہو جاتی ہیں؛ لہذا مسؤولہ صورت میں مستجاب کی بیوی پر تین طلاق واقع ہو گئیں۔ اب بلاحالہ شرعیہ دوبارہ نکاح بھی درست نہیں۔
لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الاشیاء والنظائر

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.
 (الملکیگیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، مجمع الانہر، دارالكتب العلمیة
 بیروت ۲/۸۸، هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/۳۹۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۹ مارچ ۱۴۲۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۶/۸۲۱)

میں تجھے تین طلاق دیتا ہوں

سوال [۶۶۲۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ رحمت عالم نے اپنی بیوی زیب النساء کو کہا کہ میں تجھے تین طلاق دیتا ہوں، اس کے بعد طلاق طلاق کہا، اسی کا کہنا ہے کہ بعد کے تین لفظوں سے میں نے پہلی طلاق کو ثابت کیا ہے، تو کیا زیب النساء پر طلاق ہو گئی اور یہ بھی بتائیں کہ کتنی ہوئیں؟ ایک مولوی نے بتایا کہ ایک طلاق ہوئی۔

المسنون: فرجت عالم، بڑھاپور، بخور

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: رحمت عالم کے اس جملہ "کہ میں تجھے تین طلاق دیتا ہوں" سے اس کی بیوی زیب النساء پر تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں، بعد کے الفاظ زائد ہیں۔ (مستفاد: حسن الفتاویٰ ۵/۱۲۹)

وفي الشامية: (ثلاثة متفرقة) وكذا بكلمة واحدة بالأولى!
 وذهب جمهور الصحابة، والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين
 إلى أنه يقع ثلاث. (شامي، كراچي ۳/۲۳۲، ذکریا ۴/۴۳، فتح القدير، دارالفنون
 بیروت ۳/۴۶۹، کوئٹہ ۳/۳۳۰، ذکریا ۳/۴۵۱)

**وفى الدر المختار: ولو قال: لموطئه.....أنت طالق
ثلاثاً.....وقد..** (در مختار، کراچی ۳/۲۳۴، زکریا ۴/۴۳۷، هکذا فی الہندیہ، زکریا
قدیم ۱/۳۵۵، جدید ۱/۴۲۲) **فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم**

کتبہ: شیبیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۲/ رجماںی الثانیہ ۱۴۲۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۸۰۸/۳۵)

تہائی میں طلاق ثلاشہ دینا

سوال [۶۶۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شوہر نے غصہ کی حالت میں اپنی بیوی کوتین طلاقیں دیدیں؛ لیکن اس وقت وہاں موجود کوئی نہ تھا، یہاں تک کہ دوساری کا بچہ تک نہ تھا، کیا طلاق ہو گئی؟ اور وہ شخص اپنی اس غلطی پر بے حد شرمند ہے، اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد ناظر حسین، مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسی صورت میں بیوی پر طلاق مغلظ واقع ہو چکی ہے۔ اب بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح کی کوئی شکل نہیں ہے۔

عن عائشہؓ ان رجلاً طلاق امرأة ثلثاً، فتزوجت فطلق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أتحل للأول؟ قال: لا، حتى ينوق عسيتها كما ذاق الأول.

(بخاری شریف، کتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث، النسخة الہندیہ ۲/۹۱، رقم: ۵۰۶۲، ف: ۵۲۶۱، سنن نسائی، کتاب الطلاق، باب احلال المطلقة ثلاثة، النسخة الہندیہ ۲/۸۴، دارالسلام رقم: ۳۴۴۰)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وشتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (ہندیہ،

زکریا قدیم /۱، ۴۷۳، جدید /۱۵۳۵، هدایۃ الشرفی دیوبند /۲۹۹، مجمع الأنہر، دارالکتب العلمیہ بیروت /۲، ۳۹۹، تاتارخانیہ، زکریا /۴، ۱۴۷، رقم: ۳۰۵، فقط واللہ سب جانہ و تعالیٰ عالم

الجواب صحیح:
 کتبہ: شیبیر احمد قاسی عغا اللہ عنہ
 احتقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 (فتاویٰ نمبر: الف/۲۹، ۱۳۲۹/۳۲۳۹) ۸/۷/۱۳۲۳ھ

ڈرانے کی نیت سے طلاق مغلظہ دینا

سوال [۶۶۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے گھر یا جھگڑے اور ڈھنی ٹینش میں اپنی بیوی کو صرف ڈرانے کی نیت سے کہا میں نے طلاق دی اور پھر طلاق طلاق کہہ کر باہر چلا گیا؛ صرف ان الفاظ کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا؛ لہذا حضور والا سے درخواست ہے کہ شرعی حکم تحریر فرمادیں؟
 المستفتی: مدثر حسین، چیر کا بازار، سرسیدنگر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مسؤولہ صورت میں شوہرنے یہ کہا کہ میں نے طلاق دی، یہ طلاق میں صریح ہے اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی، پھر اس نے لفظ طلاق کو تین مرتبہ مکر راستعمال کیا، تو مزید و طلاقیں اور پڑ کر یہ عورت مغلظہ ہو گئی، اب بدون حل الہ اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔

عن سماع قال: سمعت عکرمة يقول: الطلاق مرتان: فاما سأك بمعرفه، أو تسریح بامحسان، قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة، فإن شاء نكحها، وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها، فإذا طلقها ثلاثةً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (المصنف لإبن أبي شيبة، مؤسسہ علوم القرآن)
 بیروت /۱۹۷، رقم: ۱۹۵۶)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلثاً. (الاشباء والنظائر

قدیم ۲۱۹، جدید زکریا (۲۷۶)

لو كرر لفظ الطلاق وقع الكل. (شامی، باب طلاق غير المدخول بها،
کراچی ۳/۳۹۳، زکریا ۴/۵۲۱) **نقطة اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم**

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴۲۷ھ / ربیع الثانی ۲۸

(فتویٰ نمبر: الف ۸۹۷۹، ۳۸)

شوہر اقرار کرے کہ میں نے تم کو ڈرانے کے لئے تین طلاق دیں

سوال [۶۶۲۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف کے بعد لڑکی اپنے والدین کے گھر آگئی
اور لڑکی نے دعویٰ کیا کہ لڑکے نے مجھے تین بار طلاق دی ہے اور لڑکے نے پنچاہت میں اس
سے انکار کیا؛ لیکن لڑکی کے سامنے اقرار کیا کہ میں نے تم کو ڈرانے کے لئے طلاق دی تھی
اور اس پر گواہ بھی موجود ہیں، لڑکی حاملہ بھی ہے۔

المستفتی: محمد شاہ داہب

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہرنے لوگوں کے سامنے بیوی سے یہ
کہہ دیا ہے کہ میں نے تم کو ڈرانے کے لئے طلاق دی تھی، تو اس سے طلاق کا اقرار ثابت
ہو گیا اور جب تین مرتبہ طلاق دی ہے، تو اس سے طلاق مخلظہ واقع ہو چکی ہے۔ اب بغیر
حالہ کے اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح بھی درست نہ ہو گا۔ (مستفاد: فتاویٰ رحیمیہ قدیم
۵/۳۰۹، جدید زکریا ۸/۲۶۷)

ولو أقر بالطلاق كاذباً، أو هازلاً وقع قضاءً. (شامی، کراچی

۴۰/۴۴، زکریا ۴/۲۸۳)

ولو قيل له طلقت امرأ تك، فقال: نعم! أو بلى بالهجة طلقت.

(شامی، کراچی ۴/۹، ۲۴۹، زکریا ۴/۶۰)

وفي الخلاصة: قيل له ألسنت طلقتها؟ تطلق بلى. (شامی، کراچی

(زکریا ۴/۸۰، ۲۸۳)

وإن كان الطلاق ثالثاً في الحرمة، وثبتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. كذا في الهدایة. (عالِمِ گیری، زکریا قدیم ۱/۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ الشرفی دیوبند ۹/۳۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

لکتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان متصور پوری غفرانہ
۱۴۲۲ھ/۱۸۷۲ھ

۱۶ رجب الموجب ۱۴۲۲ھ
(فتوى نمبر: الف ۳۶۳، ۳۲۳)

ڈرانے کے لئے تین طلاق دینے سے وقوع طلاق

سوال [۶۶۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدیں، ایک مرد اور ایک عورت کی موجودگی میں؛ لیکن شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے بیوی کو ڈرانے کے لئے اس طرح کہا ہے، تو کیا اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی؟

المسئفی: نور محمد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ کی عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ شوہر تین طلاق دینے کا اقرار کر رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تین طلاق نیت و ارادہ سے نہیں دیں؛ بلکہ ڈرانے کے لئے دیدی ہیں؛ لیکن شریعت میں طلاق ایسی چیز ہے کہ مذاق میں دی جائے یا ڈرانے کے لئے دی جائے غلطی سے دی جائے، بہر حال طلاق

واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔ اب بلا حلال دوبارہ نکاح بھی جائز نہ ہو گا۔

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثلث جدهن جد ،
هزلهن جد، النكاح، والطلاق، والرجعة. الحديث (سنن الترمذی، ابواب
ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، النسخة الهندية ۲۲۵ / ۱۱۸۴، دارالسلام رقم: ۱۱۸۴)
سنن ابن ماجہ، کتاب الطلاق، باب الرجل يجدد الطلاق، النسخة الهندية ۷۶ / ۱۴
دارالسلام، رقم: ۲۰۳۹ مشکوٰ شریف ۲ / ۲۸۴)

ولو أقر بالطلاق كاذباً، أو هازلاً وقع قضاءً. (شامی،
کراچی ۳/۲۳۶، زکریا ۴/۴۴۰)

وإن كان الطلاق ثلاثةً في الحرمة..... لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
(هندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵) فقط اللہ سبحانو تعالیٰ اعلم
الجواب صحیح:
احترم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۱۸ھ / ۳۲۵۵۰ فتویٰ نمبر: الف ۷/۳۱۸

اپنے گھر والوں سے ڈر کر بیوی کو تین طلاق دینا

سوال [۶۶۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں : کہ میرے اور میرے سرال والوں کے درمیان کچھ آپسی رنجش چل رہی تھی،
اور میری بیوی اپنے میکے میں تھی، میری سرال والوں نے میرے گھر کہلا بھیجا کہ اپنی بیوی کو
لیجو، میرے والد نے کہلا بھیجا کہ میں دن کے اندر لے جاؤں گا، ابھی میں دن گذرنے بھی
نہیں پائے تھے، یہاں تک میرے والد ایک غیر مسلم وکیل کو متعین کر کے گھر پر بلائے اور اس
نے مجھ سے کہا کہ تم طلاق کہو، میں نے اپنے والد اور بھائیوں سے ڈرتے ہوئے تین
مرتبہ طلاق طلاق کا لفظ کہہ دیا اور بیوی وغیرہ کا نام نہیں لیا، اس کے بعد وکیل نے فارم

بھر کر مجھ سے زبردستی دستخط لے لئے اور اس نوٹس کو میری سرال بھیج دیا، جب نوٹس سرال پہنچا تو انہوں نے واپس کر دیا اور کہا کہ اگر طلاق واقع ہو گئی تو قتل و غارت گری ہی ہو گی۔ اب سوال یہ ہے کہ میری بیوی نکھار عرف بھوری کو طلاق پڑ گئی یا نہیں؟ جبکہ میں نے مجبوراً اس کا نام لئے بغیر طلاق طلاق کے الفاظ ادا کئے اور زبردستی مجھ سے دستخط لئے گئے۔ جلد جواب تحریر فرمائیں۔

المستفیقی: محمد ویم، محلہ: زیارت، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مذکورہ صورت میں جب شوہرنے طلاق کے وقت اپنی زبان سے تین مرتبہ طلاق کے الفاظ جاری کر لئے ہیں، تو اس کی بیوی پر اس سے طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے، زبردستی سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور مطالبه طلاق کے وقت بغیر نیت کے بھی طلاق صریح واقع ہو جاتی ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محدودہ قدیم، جدید ڈاہیل (۳۳/۱۲)

عن ابن عمر ^{رض} قال: طلاق الکرہ جائز۔ (مصنف عبد الرزاق، باب طلاق

الکرہ، المجلس العلمي بيروت ۶/۴۱، رقم: ۱۱۴۲۱)

و يقع طلاق كل زوج عاقل بالغ حر، أو عبد، ولو كان الزوج مكرها،
فإن طلاقه صحيح. (مجمع الأئمہ، کتاب الطلاق، دارالكتب العلمية بيروت ۲/۸، قدیم
۱/۳۸۴، شامی، کراچی ۳/۲۵، زکریاء/۴۳۸، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۵۳، جدید
۱/۴۲۰، الفتاوی التاتارخانیہ، زکریاء/۴۳۹، رقم: ۶۵۱۲) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعہ احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۳۰ صفر ۱۴۱۳ھ

(فتاویٰ نمبر: الف ۲۸/۳۰۳۲)

محض تین طلاق کا اقرار کرنے سے طلاق کا حکم

سوال [۶۶۳۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ زید نے اپنی ممکوحہ کو دوبار کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی؛ لیکن اس کی شریک حیات نے مزید یہ اور یاد دلایا کہ آپ نے قبل چھ ماہ مجھے یہ کہا تھا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گایا کر دیا، یہ بات میری سمجھ میں صحیح نہیں آئی کہ آزاد کر دوں گا کہا تھا یا کر دیا کہا تھا، یہ بات شک کے دائرہ میں ہے، لڑکا (زید) اس بات سے انکار کرتا ہے کہ میں نے تو اپنا کبھی نہیں کہا اڑ کی کہتی ہے کہ آپ نے کہا ہے، اچھی طرح یاد کرو، بقول اپنی بیوی کے آزاد کر دوں گایا کر دیا کو تیسری طلاق مان کر باہر جا کر اخبار کی نیت کے طور پر دوبار طلاق دی، طلاق دی اور تیسری مرتبہ جو میری بیوی نے کہا تھا کہ چھ ماہ قبل تم نے یہ کہا تھا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گایا کر دیا، میں نے اسے طلاق شمار نمبر تین کا عارضی طور پر درجہ دیتے ہوئے پہلے شخص سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو شمار نمبر تین کی طرح تین بار طلاق دی ہے، اس کے بعد دوسرے شخص نے مولانا صاحب سے اپنے کسی ملنے والے کی آڑ میں یہ کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو شمار نمبر تین کی طرح تین بار طلاق دیدے، تو انہوں نے اپنی گردان ہلا دی، زبان سے کچھ نہیں بولا؛ کیونکہ اس وقت وہ مدرسہ میں بچوں کو پڑھا رہے تھے، اگر وہ دونوں شخص اس بات کی گواہی دیدیں کہ زید نے ہم سے تین بار طلاق دینے کا اقرار کیا ہے، کیا ان کی گواہی درست مانی جائے گی؟ مثلاً ایک طالب علم نے امتحان میں تین سوال حل کئے ہوں، ان میں سے دو سوال صحیح ہوں اور ایک سوال غلط تو شمار نمبر تین ہی رہے گا، اسی طرح وہی طلاق مانی جائیں گی؟ طلاق کا شمار نمبر بھلے ہی تین ہے آزاد کر دوں گایا کر دیا، جو شک کے دائرے میں ہے اس جملہ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، جس وقت زید نے اپنی ممکوحہ کو طلاق دی اس وقت وہ پانچ ماہ کی حاملہ تھی اور جب تک بچہ پیدا ہوا، تب تک وہ زید کے ہی ساتھ رہتی رہی، عرصہ چار ماہ کے دوران رجوع بھی ہوا، جب دوران ولادت طفل رجوع ہو گیا، تو لڑکی بدستور پہلے کی طرح زید کے نکاح میں آگئی، اس کے بعد گواہوں کی گواہی بے معنی مسٹرد ہو جاتی ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

المستفتی: سفراز بن محمد حنیف، پہاڑی دروازہ، نئی بستی، گلین، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ پر غور کیا گیا، اس میں دو طلاق کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں؛ لیکن تیسرا طلاق کے بارے میں شکوک و شبہات ظاہر کئے گئے ہیں، میاں بیوی کے درمیان چھ ماہ پہلے کے واقعہ کے بارے میں گھر میں اختلاف ہو رہا ہے؛ لیکن باہر آ کر کے جب شوہرنے کسی کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو شمار نمبر تین کی طرح تین بار طلاق دی ہے، تو صرف اس اقرار کی وجہ سے تین طلاق واقع ہو گئیں ہیں، چاہے اس سے پہلے واقعہ میں طلاق نہ دی ہو، اس لئے کہ مخف اقرار کی وجہ سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا مذکورہ واقعہ میں بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔ اب آئندہ بغیر حلالہ شرعیہ کے جانین میں نکاح بھی درست نہ ہو گا۔

عن سماک قال: سمعت عکرمۃ يقول: الطلاق مرتان: فإمساك
بمعروف، أو تسريح بحسان، قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة، فإن
شاء نكحها، وإذا طلقها ثنتين فإن شاء نكحها، فإذا طلقها ثلاثة، فلا تحل
له حتى تنكح زوجاً غيره. (المصنف لإبن أبي شيبة، مؤسسہ علوم القرآن

بیروت ۱۹۷/۱، رقم: ۱۹۵۶۴)

ولو أقر بالطلاق كاذباً، أو هازلاً وقع قضاء لا ديانة. (شامي، کتاب الطلاق،

قیبل مطلب فی المسائل التي تصح مع الإكراه، زکریا ۴ / ۴۰۰، کراچی ۳/۲۳۶)
إن من أقر بطلاق سابق يكون ذلك إيقاعاً في الحال؛ لأن من
ضرورة الاستناد الواقع في الحال وهو مالك للايقاع غير مالك
للاستناد. (المبسوط للسرخیسی، کوئٹہ ۴/۱۰۹، بحوالہ محمودیہ
جدید ۱۳۰/۲) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احترم محمد سلمان منصور پوری غفرله
۱۳۳۱/۳/۱۰

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۰ اربيع الاول ۱۴۳۱ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۸/ ۹۹۳)

تین طلاق کے اقرار کرنے کا حکم

سوال [۲۶۳۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شاہانہ پروین کی شادی عبد القیوم کے ساتھ ہوئی، پندرہ سال شادی کو ہو گئے، جب سے شادی ہوئی روز کسی نہ کسی بات پر جھگڑا کرتی ہے، ایک روز صبح چائے بنانے پڑھی تو غصہ میں چائے ہاتھ پر ڈال دی، تو اس وقت بھی دوبار طلاق ہوئی، پھر بھی وہ رہتی رہی ایک مرتبہ شوہر دہلی گئے ہوئے تھے، تو آکر دیکھا ایک غیر مرد بیٹھا ہوا ہے، تو اسے دیکھ کر غصہ میں آکر پھر طلاق دی، اس بات پر محلہ والے بھی گواہ ہیں، رمضان میں رپورٹ کرادی، بلا وجہ سب کے سامنے طلاق ہوئی گواہ شعیب، زبیر اور ان کی والدہ موجود تھی، جس وقت شاہانہ کے گھر والے آئے تو ان کے سامنے بھی تین طلاق دیں، اور میں عبد القیوم خود تین بار طلاق دینے کا اقرار کرتا ہوں۔

المستفتی: عبد القیوم، پیززادہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مسؤولہ صورت میں جب شوہر عبد القیوم خود تین بار طلاق دینے کا اقرار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی شاہانہ پروین پر طلاق مغلظہ واقع ہوگئی اور وہ اپنے شوہر پر قطعی طور پر حرام ہو گئی۔ اب بدون حالہ شرعیہ کے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا بھی درست نہیں ہے۔

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدوق كل واحد منهم ما عسيلة صاحبه. (دارقطني، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية
بیروت ۲۱/۴، رقم: ۳۹۳۲)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۲۱۹، جدید ذکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثالثاً في المحرّة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت
عنها. (هنديہ، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ اشرفی
دیوبند ۲/۳۹۹) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۱۴۳۲ھ روزی الحجہ ۲۲
(فتویٰ نمبر: الف ۳۹/۱۰۵)

شوہر کا تین مرتبہ طلاق کا اقرار کرنا

سوال [۲۶۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مตین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ اختر حسین ساکن محلہ لا لباغ، مراد آباد، اپنے گھر پر کھانا کھا رہا تھا،
میری بیوی سے کچھ کہا سنی ہو گئی میری بیوی بہت زیادہ زبان دراز ہے، جس کی وجہ سے
بھگڑا کچھ زیادہ بڑھ گیا اور خوب گالم گلوچ ہو گئی، بہت سمجھانے پر بھی نہیں مانی مجھے بہت
زبردست غصہ آگیا اور میں نے طلاق دیدی، میری والدہ شمیمہ بیگم نے بھی میری بیوی
شاکرہ بیگم کو بہت سمجھایا؛ لیکن وہ نہیں مانی جس کی وجہ سے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، اسی دوران
میرے بھائی انور حسین جو کہ رشتے میں میرے ساڑھو بھی ہوتے ہیں اور پرآگئے، ان کی
بیوی یعنی میری سالی بھی موجود تھی، ان کے سامنے میں نے تین مرتبہ پھر طلاق دی کہ میں
نے تجھے طلاق دی اور شاکرہ کی بہن اس کو نیچے لے گئی، اس کے بعد محلے کے پڑوسی بھی
شور و غل سن کر آگئے، ان کے سامنے بھی سر مرتبہ طلاق کے کلمات دہرائے اس بات کے
گواہ میرے بھائی انور حسین اور چھوٹے خان ہیں اور اس بات کو شاکرہ کے رشتہ دار مان
باپ اور بہن وغیرہ پڑا لئے کی کوشش کر رہے ہیں؛ جبکہ اس کی بہن نے اور کچھ لوگوں نے
خود طلاق کے لفظ اپنے کا نوں سے سنبھال لئے ہیں اور اسی وقت اس کو بر قعہ اڑھا کر مع سروسامان

کے جس میں زیور بھی تھا لے گئے؛ لہذا مفتی حضرات سے اسلام کی روشنی میں اس کا فتویٰ چاہتے ہیں، شاکرہ کو کچھ دن حمل کے چڑھے ہوئے تھے۔

المستفتی: اختر خان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبلله التوفيق: جب شوہرنے خود میں مرتبہ طلاق دینے کا اقرار کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں گواہ وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں شرعاً بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے اور حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب بغیر حلالہ کے نکاح بھی جائز نہ ہوگا۔

ولو أقر بالطلاق كاذباً، أو هازلاً وقع قضاءً۔ (شامی، کتاب الطلاق، قبیل

مطلوب في المسائل التي تصح مع الارکاره، کراچی ۲۳۶/۳، زکریا ۴/۴۰)

وطلاق الحامل يجوز۔ (هدایۃ، اشرفی دیوبند ۲/۳۵۶)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثبتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها۔ (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ اشرفی دیوبند ۹/۳۹) فقط و اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

كتبه: شیبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

بر ریجیع الاول ۱۴۱۹ھ

۱۴۱۹/۳/۲

(فتاویٰ نمبر: الف ۵۶۵۶/۳۳)

تین طلاق کا اقرار کرنے کے بعد ایک کا انکار کرنا

سوال [۲۲۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دینے کا مردوں کی ایک مجلس میں اقرار کیا اور بیوی نے بھی اور ایک دوسرا عورت نے بھی اقرار کیا اور دونوں کے درمیان فیصلہ جدائی ہونے کے ایک ہفتہ بعد شوہر بیوی اور دوسرا عورت تین طلاق سے انکار کر رہے ہیں اور شوہر بیوی دونوں کہتے ہیں کہ دو طلاق دیں اور کہتے ہیں کہ شوہرنے بیوی کو مارا اور کہا کہ اگر تو نے

میرے بھائی سے کہا، تو تجھے طلاق دیدوں گا اور بیوی نے شوہر کے بڑے بھائی سے کہد یا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مارا تو شوہرنے بیوی کو دو طلاق دیں، تیسرا طلاق دینے وقت اس کے بڑے بھائی نے اس کے منھ پر ہاتھ رکھا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

المستفتی: محمد شاکر، موضع: چک گور حسن، پوسٹ: نہپور، بھنور (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جھوٹا اور غلط بیان دے کر فتویٰ لینے سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی ہے؛ اس لئے اگر آپ نے اپنی بیوی کو تین طلاق دینے کا اقرار کر لیا ہے جیسا کہ سوانحہ میں مذکور ہے، تو اس سے آپ کی بیوی پر تین طلاق واقع ہو گئیں اور اب شوہر و بیوی کا میاں بیوی کی طرح زندگی گزارنا بلا حلال شرعیہ جائز نہیں ہے اور تین طلاق کے انکار کے بعد و طلاق کے اقرار کرنے سے بیوی حلال نہیں ہوگی۔

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويذوق كل واحد منهم مما عصيلة صاحبه۔ (سنن الدارقطني، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية

بیروت ۴/ ۲۱، رقم: ۳۹۳۲)

ولو أقر بالطلاق كاذباً، أو هازلاً وقع قضاء لا ديانةً۔ (شامی، كتاب الطلاق، قبیل مطلب فی المسائل التی تصح مع الاکراه، کراچی ۲۳۶/۳، ذکریاء/ ۴۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفران
۱۳۲۲/۵/۶

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۳۲۲/۱۰/۲۶

(فتاویٰ نمبر: الف ۸۰۲۸/۳۲)

میں اپنے ہوش و حواس میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تین مرتبہ کہا

سوال [۲۶۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی فرحانہ کو آٹھ سال پہلے طلاق دی تھی، طلاق کا لفظ اس طرح تھا کہ ”میں اپنے ہوش و حواس میں اپنی بیوی فرحانہ کو طلاق دیتا ہوں، میں اپنے ہوش و حواس میں اپنی بیوی فرحانہ کو طلاق دیتا ہوں، میں اپنے ہوش و حواس میں اپنی بیوی فرحانہ کو طلاق دیتا ہوں“، اس طرح ایک ہی وقت میں تین بار کہلوایا گیا تھا، طلاق دیتے وقت میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، کچھ گھر میں ایسی باتیں بھی ہو گئی تھیں، طلاق دینے کی اپنی میری مرضی نہیں تھی، مجھ سے جس طرح کہلوایا گیا تھا، وہ میں نے کہدیا تھا، طلاق دیتے وقت میری بیوی موجود نہیں تھی، میری ساس، سسر اور سب بھائی موجود تھے، میرے سرساں کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک ہی بار یہ لفظ سناتھا، تو مفتی صاحب اس صورت میں تین طلاق ہوئے یا نہیں؟ اور طلاق کے بعد اس نے عدت بھی نہیں کی، میرے دو بیٹوں میں ایک پندرہ سال کا اور دوسرا دس سال کا ہے، میرا بڑا بیٹا حکمی دیتا ہے کہ میری ماں کو لے آؤ رونہ میں کچھ بھی کروں گا، میں دوبارہ اپنی بیوی کو اپنے گھر لا ناچاہتا ہوں، شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: محمد عظیم گویاں باغ، مراد آباد

با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: حسب تحریرosal آپ کی بیوی پر تین طلاق واقع ہو چکی ہیں؛ اس لئے آئندہ بغیر حلالہ کے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح بھی درست نہ ہوگا اور آٹھ سال کے درمیان عدت بھی گذر چکی ہے اور عدت میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے عورت گنہگار تو ہوتی ہے؛ لیکن عدت خود بخود پوری ہو جاتی ہے۔ اب جب عدت گزر گئی تو بلا تاخیر کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے اور نکاح کر کے اس کے ساتھ ہمبستری لازم ہے اور ہمبستری کے بعد وہ طلاق دیدے، اس کے بعد تین ماہواری گذر جائے تو آپ کے لئے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو جائے گا۔

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، يذوق كل واحد

منهما عسیله صاحبہ۔ (سنن الدارقطنی، کتاب الطلاق، دارالکتب العلمیہ بیروت (۳۹۳۲، رقم: ۲۱/۴)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.
(عالیگیری، ذکریا قدیم ۱/۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، مجمع
الأنہر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۸۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۱۴۲۸ھ
(فوی نہر الف ۳۸/۹۲۲۸)

میں تجھے طلاق دے رہا ہوں کہنے سے طلاق

سوال [۲۶۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا ”میں تجھے طلاق دے رہا ہوں“ یہ الفاظ تین مرتبہ کہہ،
تو اس سے میری بیوی پر تین طلاقيں واقع ہوئیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔
المسنون: غفار احمد، پکباغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: میں تجھے طلاق دے رہا ہوں کے الفاظ تین
مرتبہ کہنے سے آپ کی بیوی پر تین طلاق مغلظہ واقع ہو گئیں اور وہ آپ پر بالکل حرام ہو گئی۔
اب بغیر حالہ شرعیہ کے اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہو گا۔

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.
(هنندیہ، ذکریا قدیم ۱/۷۳، جدید ۱/۵۳۵، تاتارخانیہ، ذکریا ۵/۱۴۷، رقم: ۳۰۷،
هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، مجمع الأنہر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۸۸)

ولو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلثاً۔ (الأشباء والنظائر قدیم ۹، ۲۱، جدید ذکریا ۳۷۶) **فَظْوَاللَّهِ سُجَانَهُ وَتَعَالَى عَلَم**

الجواب صحیح:
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
 اختر محمد سلمان مصوّر پوری غفرلہ
 ۲۰ ربیع الثانی ۱۴۲۵ھ
 (فتوى نمبر: الف ۸۳۲۷/۳)

ایک طلاق کے بعد شوہرنے کہا ”میں نے تیسرا طلاق دی“

سوال [۶۶۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو شراب پی کر نشہ کی حالت میں طلاق دی اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ شوہرنے بیوی سے کہا میں نے ایک مرتبہ طلاق دی، پھر دوسرا مرتبہ شراب پی تو کہا کہ میں نے تیسرا طلاق دی۔ تو دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا طلاق واقع ہو گئی اور کون سی طلاق ہوئی اور دوسرا مرتبہ کی طلاق کا کوئی تذکرہ بیوی سے نہیں کیا، تو کتنی طلاق واقع ہوئیں؟

جواب: تیسرا طلاق کا واقعہ تقریباً چار ماہ کے بعد پیش آیا درمیان میں دوسرا طلاق کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔

المستفتی: محمد جنید

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تیسرا طلاق کے ضمن میں پہلی دوسرا بھی داخل شمار ہوا کرتی ہے اور پہلے ایک طلاق دے چکا ہے۔ اب تیسرا کے ضمن میں دوسرا بھی شامل ہو کر بیوی پر تین طلاق واقع ہو گئیں۔ اب بلا حل والد و بارہ نکاح بھی درست نہ ہو گا۔

ولو قال: أنت طالق تمام ثلاث، أو ثالث ثلاثة فهی ثلاثة.

(البحر الرائق، کتاب الطلاق، باب الطلاق الصریح، ذکریا ۴۳۸/۳، کوئٹہ ۳/۲۵۱)

وقد ذکر الفرق فی البزازیة بأن الآخر هو الثالث، ولا يتحقق إلا بتقدم
مثلیه عليه. (شامی، کراچی، ۳/۲۸۱، زکریا دیوبندی ۴/۵۰) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان متصور پوری غفرلہ
۱۴۳۸/۲/۲۹

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۲۹ ربیع الثانی ۱۴۳۸ھ
(فتوى نمبر: الف ۳۳) (۵۲۶۹)

ایک اور دو طلاق دی اور ایک دو طلاق کا حکم

سوال [۷۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے ایک اور دو طلاق یا ایک دو طلاق دی کہا تو اس جملہ سے بیوی پر کتنی طلاق واقع ہو گئیں؟ کیا طلاق اگر دو سے دوسری طلاق مراد لے اور مفتی صاحب کے سامنے اس کا اظہار کرے، تو کیا طلاق کی یہ نیت معتر ہو گی؟ یا دو سے مستقل دو طلاق مان کر کل تین طلاق مراد لی جائیں گی؟

خلاصہ یہ کہ دو عدد سا منے رکھ کر فیصلہ کیا جائے یا طلاق کی نیت معتبر مانی جائے؟ کیا دو کا عدد دوسری یعنی ایک طلاق کا احتمال رکھتا ہے؟ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحبؒ کے فتاویٰ دارالعلوم ۶/۱۵۲-۳۰۶/۹ میں دو جگہ یہ مسئلہ الگ الگ حکم کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس میں راجح اور صحیح بات کیا ہے؟ فتحی عبارت کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں مہربانی ہو گی۔

المستفتی: شمارا حمد، گوہر (گجرات)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ میں دو قسم کے الفاظ ہیں:

(۱) شوہر بیوی سے کہتا ہے ”ایک اور دو طلاق“، تو ایسی صورت میں بیوی پر تین طلاق واقع ہو گئیں، دوسری قسم کی عبارت ہے ”ایک دو طلاق دی“، تو ایسی صورت میں

اگر شوہر کی نیت میں تین طلاق نہیں ہیں یا کوئی نیت ہی نہیں ہے، تو صرف دو طلاق رجعی واقع ہو جائیں گی، یہی راجح اور مفتی بے قول ہے اور فتاویٰ دارالعلوم جلد نمبر ۹ را اور ۱۰ اور دونوں میں یہ مسئلہ ہے، جلد نمبر ۹ میں حضرت مفتی صاحب نے تین طلاق واقع ہونے کے ساتھ لفظ احتیاط بھی استعمال فرمایا ہے کہ اس میں احتیاط کا پہلو ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کو اس موقع پر تردد رہا ہے۔ اور جلد ۱۰ میں بغیر تردود کے صاف لفظوں میں دو طلاق واقع ہونے کو لکھا ہے، یہی مسئلہ صحیح ہے، جو کتب فقہ کی ذیل کی عبارتوں سے واضح ہوتا ہے۔ اور جلد نمبر ۹ میں فتاویٰ قاضی خاں کی جو عبارت پیش کی گئی ہے، اس عبارت میں ایک طلاق کے بعد سکوت اختیار کیا گیا ہے، پھر دو طلاق کا ذکر ہے، تو قاضی خاں کی وہ عبارت مذکورہ مسئلہ سے متعلق نہیں ہے۔

ولو قال: أنت طالق واحدة في ثنتين..... فإن نوى واحدة، وثنتين فهيا
ثلاث؛ لأنها يحتمله. (هدایۃ، کتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق اشرفی دیوبندی ۳۶۳)

وفي قوله: أنت طالق واحدة في ثنتين تقع واحدة، إن لم ينو
شيئاً..... وقال زفر، والحسن تقع ثنتان..... ورجح في الفتح قول زفر.

(مجمع الأنہر قدیم ۱/۳۹۰، جدید دارالكتب العلمیہ بیروت ۲/۱۸)

قال رحمه الله: وواحدة في ثنتين واحدة، إن لم ينو، أو نوى الضرب
وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث..... و عند زفر يقع ثنتان لعرف الحساب. وهو
قول الحسن. (تبیین الحقائق، امدادیۃ ملتان ۲/۲۰۲، زکریا ۳/۵۰-۵۱)

وبواحدة في ثنتين واحدة إن لم ينوا ونوى الضرب. وتحته في الشامية:
وقال زفر، والحسن، والأئمة الثلاثة يقع ثنتان..... ورجحه في الفتح.

(شامی، کراچی ۳/۲۶۱، زکریا ۴/۴۷۶) فقط واللہ سمجھنا وتعالیٰ علیم

الجواب صحیح:

كتبه: شیعہ احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۵ ارجوف امظفر ۱۴۳۲ھ

۲۱۸/۱۲۳۲

(فتاویٰ نمبر: الف ۳۹، ۳۹۰/۱۰۲۸۳)

۱۳/۲/۱ میں نے طلاق دی

سوال [۶۶۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیوی میرے مقابلے میں آگئی تھی، میں نے غصہ میں آکر کہا ”میں نے طلاق دی“ یہ جملہ غصہ کی حالت میں کہا؛ لیکن یاد نہیں یہ جملہ لتنی پا رکھا۔

لڑکی کے بیانات: لڑکی کا کہنا ہے کہ میرے شوہر کسی دوسرے کی چھت پر بیٹھے بات چیت کر رہے تھے، جب بیوی نے بلا کر کہا کہ نیچے آ کر آٹا لادو، اسی پر تکرار ہو گئی اور لڑکی سے کہا ”۱۳/۲/۱ میں نے طلاق دی۔“

المستفتی: صابر حسین، بارا شاہ، صفائل الام مسجد، مراد آباد
با سمسم سجنا نہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہر خود طلاق کا اقرار کر رہا ہے اور تعداد کے بارے میں عدم علم کا اظہار کر رہا ہے اور بیوی کے بیان کا انکار بھی نہیں کر رہا ہے، تو بیوی کے بیان کے مطابق اگر واقعی ۱۳/۲/۱ میں نے طلاق دی کہا ہے، تو بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں۔ اب دوبارہ بلا حل والہ نکاح بھی درست نہیں ہو سکتا۔

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل أمراته ثلاثة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، يذوق كل واحد منها عسيلة صاحبه. (سنن الدارقطني، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية بيروت ٤ / ٢١، رقم: ٣٩٣٢)

متى قرن الطلاق بالعدد كان الوقوع بالعدد. (شامي، كتاب الطلاق، باب الطلاق غير الدخول بها، كراجي ٤ / ٢٨٧، زكريا ٤ / ٥١٣)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر قدیم ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفان الدین عنہ

۱۴۰۸ھ قعدہ ۱۳

(فتوى نمبر: الف/۲۲/۹۶)

میں نے مینا کو ار ردوی

سوال [۶۶۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے ایک کاغذ پر لکھا ہے کہ میں نے مینا کو ار ردوی اور وہ کاغذ میرے پاس ہی ہے؛ لیکن وہ کاغذ تقریباً ۱۵ آدمیوں اور عورتوں نے دیکھ لیا ہے، یہ کاغذ اپنی بیوی کو نہیں بھیجا ہے۔

وکیل کی معرفت میں نے ہندی میں ٹاپ کرا کے طلاق کی وجہ اور مہر کی رقم اور ننان نفقة کی رقم کا ڈرائف بناؤ کر بھیجا، وہ جستری لڑکی کے والدین نے نہیں وصول کی؛ بلکہ واپس کر دی اس میں تین طلاق کا تذکرہ موجود ہے اور میں نے اپنے ملنے والوں سے بھی کہدیا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی ہے، تو کوئی طلاق ہوئی؟

المستفتی: منصور احمد، تمبا کووالان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب اس تحریر کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے طلاق دینے کا اقرار کر لیا ہے اور وہ پندرہ افراد کو طلاق نامہ دکھادیا ہے اور آپ نے خود اس کا اقرار بھی کر لیا ہے، تو یعنی طلاقوں کا آپ نے اقرار کر لیا ہے، اتنی طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ سوال نامہ سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے تین طلاقیں لکھی ہیں اور اس کا اقرار کیا ہے؛ لہذا ایسی صورت میں بیوی پر طلاق مفاظطہ واقع ہو چکی ہے۔

اما ان ارسل الطلاق، بآن کتب أما بعد، فأنت طالق، فكمما كتب هذا يقع الطلاق، وتلزمها العدة من وقت الكتابة۔ (شامي، كتاب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابة، کراچی ۳/۲۴۶، ۴/۴۵۶، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۷۸، جدید ۱/۴۴۶) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعیر احمد قادری عفان الدین

۱۳۱۵ھ / صرف امظفر

(فتویٰ نمبر: الف ۳۸۵۵/۳۱)

ایک دو تین میں تم کو طلاق دے رہا ہوں

سوال [۶۶۴۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مجاہد نے غصہ میں اپنی بیوی رو بیہ کوفون پر یہ جملہ دو مرتبہ کہا کہ ”ایک دو تین میں تم کو طلاق دے رہا ہوں“، مجاہد سے پوچھے جانے پر کہ تمہاری ”ایک دو تین“ سے کیا مراد ہے، تو مجاہد نے جواب دیا کہ طلاق مراد ہے۔

مذکورہ صورت میں طلاق ہوئی یا نہیں؟ اگر طلاق ہوئی، تو کتنی ہوئیں اور عورت عدت کہاں گزارے گی، شوہر کے گھر یا اپنے میکے میں؟ نیز اگر مجاہد دوبارہ اسے اپنے نکاح میں لانا چاہے تو کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟

المستفتی: ریاض احمد مصطفیٰ، متعلم مدرسہ شاہ ولی اللہ تھیرہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب مجاہد نے اپنی بیوی کو طلاق کی نیت سے ایک دو تین کہا ہے، اس سے طلاق مغایظہ واقع ہو گئی ہے۔ اب آئندہ بغیر حلالہ کے اس کے ساتھ نکاح بھی درست نہیں ہوگا۔ اور اس نے ایک دو تین کے بعد ”میں تم کو طلاق دے رہا ہوں“، بھی کہا ہے؛ لہذا اب کوئی نجاش باقی نہیں رہی عدت شوہر کے گھر میں گزار سکتی ہے، مگر اس دوران شوہر سے سخت ترین پرده کا اہتمام لازم ہوگا اور اگر اس کو دوبارہ رکھنے کا ارادہ ہو، تو شرعی حلالہ کے بغیر نہیں رکھ سکتا۔ اور شرعی حلالہ کا طریقہ یہ ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح ہو جائے اور ہمستری بھی ہو جائے، اس کے بعد وہ شوہر طلاق دے گا، پھر عدت گزار لے اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔

قال لا مرأة: أنت مني ثلثاً، طلقت إن نوى، أو كان في مذاكرة الطلاق .

(شامي، کتاب الطلاق، باب الصريح، زکریا ۴/۹۷، کراچی ۳/۲۷۵)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى

تنکح زوجاً غیره نکاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. كما في الهدایة. (الملکیگیری، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، مجمع الأئمہ، دار الكتب العلمیة، بیروت ۸۸/۲ هدایه اشرفی دیوبند ۹/۳۹) عن عائشة، أن رجلاً طلق امرأته ثلاثة، فتزوجت زوجاً، فطلقتها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. (نسائی شریف، کتاب الطلاق، باب احل المطلقة ثلاثة، النسخة الهندية ۲/۸۴، دار السلام رقم: ۴۱ ۳۴) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

کتبہ: شیعہ احمد قاسمی عفان الدین عنہ

۱۳۳۳ھ قعدہ ۱۲

(فتویٰ نمبر: الف ۳۰۲/۱۰۸)

ایک دو تین دیا، جواب سے طلاق کا حکم

سوال [۶۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میاں بیوی کے آپسی تنازع کے سبب میاں نے کہا کہ آج تم کو جواب دینا ہے، پھر کہہ بھی دیا کہ ایک دو تین دیا جواب جاؤ، اب ہو من اچھا۔ مسئلہ ہذا کا تخفیج جو اب عنایت کریں ازیں قبل علاقہ کے دو مفتیان سے جواب طلب کیا گیا، دونوں حضرات کے جواب مختلف ہیں؛ اس لئے واقعہ شعبان کا ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی فصل نہیں ہوا کہ۔

المستفتی: محمد توحید عالم، ارجیہ (بہار)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: یہ حالت مذکورہ طلاق ہے اور شوہرنے اسی اثناء میں کہا کہ آج تم کو جواب دینا ہے اور اسی دوران ایک دو تین دیا جواب اور یہ کہنا کہ جاؤ اب ہو من اچھا۔ یہ سب تین طلاق کے لئے موید ہیں؛ اس لئے مذکورہ صورت میں بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔

أنت مني ثلثا طلقت إن نوى، أو كان في مذكرة الطلاق. (شامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، ذکریا ۴/۴۹۷، کراچی ۳/۲۷۵) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان مصور پوری غفرلہ
۱۳۱۹ھ/۲/۱۲

لکتبہ: شیبیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۱۴۰۶ھ/۱۳۱۹ھ

(فتوى نمبر: الف ۵۶۲۸، ۳۳)

ایک طلاق دو طلاق، دل سے طلاق کہنے سے تین طلاق کا وقوع

سوال [۶۶۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شوہرنے بیوی سے کہا تجھ کو ایک طلاق دو طلاق دل سے طلاق، تو ایسی صورت میں کون سی طلاق واقع ہوئی؟ مدل جواب تحریر کریں۔

المسٹفتی: محمد صادق

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہرنے بیوی کو کہا کہ تجھ کو ایک طلاق، دو طلاق، دل سے طلاق تو ان الفاظ کے کہنے سے بیوی پر تین طلاق مغلظہ واقع ہو گئی ہیں اور بیوی شوہر پر حرام ہوئی ہے؛ اس لئے کہ شوہر کے الفاظ میں بہر حال طلاق کا لفظ تین مرتبہ نکلا ہے۔

لو کرر لفظ الطلاق وقع الكل، وإن نوى التأكيد دين، وقع الكل
قضاءً. (شامی، کتاب الطلاق، باب طلاق غیر المدخول بها، کراچی ۳/۲۹۳، ۲۹۳)

ذکریا ۴/۵۲۱، شرح الاشباه للحموی قدیم ۹۷، جدید ذکریا (۱۷۸۴)

ولو کرر لفظ الطلاق، فإن قصد الاستئناف وقع الكل،
أو التأكيد فواحدة ديانة والكل قضاءً. (الأشباه والنظائر قدیم ۹۷، جدید
ذکریا ۱۷۸۴) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

لکتبہ: شیبیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۱۴۰۶ھ/۱۳۳۵ھ

(فتوى نمبر: الف ۱۱۷۵، ۳۰)

ایک بار دوبار تین بار طلاق دے کر آزاد کرتا ہوں

سوال [۶۶۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مตین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شوہرنے بے ہوش و حواس اور بغیر غصہ و جذبات کے اپنی منکوح کو مندرجہ ذیل تحریر پڑھی، جو اہلیہ نے وصول کر لی اور پڑھ لی۔

اللہ تعالیٰ مالک کائنات ہے اور اسی کے حکم سے سارا نظام کائنات چل رہا ہے، وہی سب کام لک اور مدگار ہے، ساری خوشیاں اور سارے غم اسی کی طرف سے ہیں، اسی ذات پاک کی مشیت کا احترام کرتے ہوئے میں آج آپ کو اپنے نکاح کے شرعی بندھن سے ایک بار دوبار تین بار طلاق دے کر آزاد کرتا ہوں، میری وجہ سے آپ کو جو بھی تکالیف پہلو چی ہوں اس کے لئے معذرت چاہتے ہوئے خدا حافظ۔

اس تحریر کے بعد طلاق کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

المستفتی: وباچ الدین، مراد آباد

باسم سجادۃ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مذکورہ صورت میں یہوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے، آئندہ بغیر حلالہ دوبارہ نکاح بھی جائز نہیں ہو گا۔

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويذوق كل واحد منها عسيلة صاحبه. (سن الدارقطني، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية بيروت

(۳۹۳۲: ۲۱)، رقم: ۴/ ۲۱)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلثاً. (الأشباه والنظائر

قديم، ۲۱، جديده زكرياء (۳۷۶)

لو كرر لفظ الطلاق وقع الكل. (شامي، زكرياء / ۳۹۳، زكرياء / ۴، ۵۲۱)

هنديہ، زکریا قدیم ۱/۳۵۶، جدید ۱/۴۲۳) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

لعلم ۱۳۱۷ھ
۱۶ شعبان ۱۴۳۱ھ

(فتوى نمبر: اف۳۲/۲۹۸۹)

طلاق، طلاق، طلاق، کہہ کرز وجیت سے الگ کرنا

سوال [۶۶۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیاں شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری شادی ۱۴/۸/۲۰۲۱ء کو دہلی میں ہوئی تھی، ہم لوگوں کے باہمی تعلقات کافی دنوں سے خراب چل رہے تھے، بات بات پر مزاج نسل پانے کی وجہ سے کشیدگی بڑھتی گئی، ایک دن غصہ میں آکر میں نے اپنی بیوی کو تین بار طلاق، طلاق، طلاق، کہہ کراپنی زوجیت سے الگ کر دیا۔

کیامند رجہ بالاسوال کے مطابق میری بیوی پر طلاق پڑ گئی یا نہیں؟

المستخفی: رئیس احمد، محلہ: پیتاپاڑہ، چاندپور، بخوار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب آپ نے غصہ کی حالت میں اپنی بیوی کو زوجیت سے الگ کرنے کے ارادہ سے طلاق، طلاق، طلاق کہا، تو آپ کی بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں۔ اب بغیر حالہ شرعیہ کے میاں بیوی کی طرح رہنا جائز نہیں۔ (مستقاد: فتاویٰ محمود یہا بھیل ۱۲/۲۷۲)

لو قال لزوجته: أنت طلاق، طلاق، طلاق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۹، جدید زکریا ۳۷۶)

لو کر لفظ الطلاق وقع الكل۔ (شامی، کراچی ۳/۲۹۳، زکریا ۴/۵۲۱)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة..... لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره

نکاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هداية اشرفي دیوبند ۲/ ۳۹۹، مجمع الأنهر، دار الكتب العلمية بیروت ۲/ ۸۸) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۲۲ رب جمادی ۱۴۲۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۸/ ۶۷۱)

عورت کو چالیس دنوں کے لئے تین طلاق

سوال [۶۶۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید چالیس دن کے لئے جماعت میں گیا ہوا تھا، اسی دوران ایک روز جماعت کے کسی ساتھی نے زید سے مذاقاً کہا تو سوتا بہت ہے کیا تجھے بیوی یاد آتی ہے، ان الفاظ کے جواب میں زید نے کہا ”عورت (بیوی) کو چالیس دنوں کے لئے تین طلاق ہیں، تو کیا ان الفاظ سے زید کی بیوی پر تین طلاق واقع ہو گئیں یا نہیں؟

یہ بات یاد رہے کہ زید کا دماغ خالی الذہن تھا، طلاق کی نیت بھی نہیں تھی۔ نیز ”میری“ کا الفاظ استعمال نہیں کیا ہے اور مسئلہ سے واقف بھی نہیں ہے، طلاق کے بارے میں بالکل خالی الذہن تھا۔ امید ہے کہ جلد جواب دے کر ممنون فرمائیں گے۔

المستفتی: محمد قاسم ملا، گودھرا (گجرات)

بسم الله سبحانه وتعالى

الجواب وبالله التوفيق: شوہر کا یہ کہنا کہ بیوی کو چالیس دنوں کے لئے تین طلاق ہیں، تو اس کا حاصل یہ ہے کہ شوہر اپنی زوجہ کو اپنے اوپر تین طلاق کے ذریعہ سے حرام قرار دیتا ہے اور حرمت کو ہمیشہ کے لئے نہیں بلکہ چالیس دن کا چلہ کمکمل ہونے تک کے لئے مقید کیا ہے تو اس میں دو باتیں ہیں: ایک ہے طلاق سے حرمت۔ دوسری بات ہے، اس کی تحدید اور تینیں، تو پہلی بات کا اس کو اختیار ہے کہ اپنی بیوی کو تین طلاق سے حرام کر لے۔

اور دوسری بات یعنی چالیس دن تک کے لئے اس حرمت کو مقید کرنا، تو اس کو شرعاً اس حرمت کی تحدیداً اور تعین اپنی طرف سے کرنے کا حق نہیں ہے؛ کیونکہ اس کی تحدیداً اور تعین قرآن پاک نے کر دی ہے: وہ یہ ہے کہ تین طلاق سے جو حرمت ہوتی ہے وہ حلالہ تک رہتی ہے، بغیر حلالہ کے ختم نہیں ہوتی ہے؛ الہذا صورتِ مسئولہ میں طلاقِ مغلظہ واقع ہو گئی ہے اور چالیس دن کا چلہ مکمل کرنے سے ختم نہیں ہو گی؛ الہذا بغیر حلالہ کے پیوی اس کے لئے حال نہیں ہو سکتی۔ (مستقاد: فتاویٰ محمودیہ، مکتبۃ محمودیہ جدید میرٹھ، مسئلہ: ۲۸۳۵)

ولقوله تعالیٰ: الطلاق مرتان - إلی قوله - فإن طلقها فلاتحل له من

بعد حتى تنكح زوجاً غيره۔ [آلیۃ: ۲۳۰] [فَظْوَاللَّهِ سُجْنَةٌ وَّ تَعَالَى عَلَمُ

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان الدین عنہ الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۸ ارشاد المکرم ۱۴۳۳ھ

(فتاویٰ نمبر: الف ۱۰۱۷، ج ۹، ص ۱۴۳، ص ۱۸)

تین مواضع میں الگ الگ تین طلاق دینا

سوال [۲۶۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں فریحہ فاطمہ بنت انور صاحب ہوں، میرا نکاح تھی زکر یا سلطان بن محمد زکر یا صاحب کے ساتھ مورخہ: ۲۲ دسمبر ۲۰۱۱ء کو ہوا تھا، ہم دونوں میں ناتفاقی کی وجہ سے میرے شوہر تھی زکر یا سلطان نے مجھے بتاریخ: ۲۶ اگست ۲۰۱۲ء کو ایک طلاق دی، پھر ایک ماہ کے بعد ہی میرے شوہر نے رجوع کر لیا، اس کے دو ماہ سترہ دن بعد میرے شوہر نے مجھے بتاریخ: ۱۳ نومبر ۲۰۱۲ء کو دوسری طلاق دی، پھر چار دن بعد ۲۱ نومبر ۲۰۱۲ء کو تیسرا طلاق دی۔

مذکورہ صورت میں میرا رثیۃ نکاح باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ فتویٰ عنایت فرما کر مشکور فرمائیں۔

المستفییہ: فریحہ فاطمہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر سائلہ اپنے بیان میں لکھی ہے، تو سوال نامہ میں ذکر کردہ صورت حال کے مطابق شوہرنے اپنی بیوی کو تین مواضع میں الگ الگ تین طلاق دیں، جس سے بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر بیوی شوہر کے لئے قطعی طور پر حرام ہو گئی ہے؛ لہذا آئندہ بغیر حلالہ کے دونوں کے درمیان نکاح بھی درست نہیں ہو گا۔

الطلاق مرتان فاما ساک بمعرف، أو تسریح بیاحسان——فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجاً غيره۔ [البقرة: ۲۹۰ / ۲۹۰]

وإن كان الطلاق ثالثاً في الحرمة، وثبتين في الأمة لم تحل له حتى تنکح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها، ولا فرق في ذلك بين كون المطلقة مدخوللاً بها، أو غير مدخول بها.

(ہندیہ، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، ذکریا حدید ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احترم محمد سلمان منصور پوری غفران
۱۴۳۵ھ / ۱۰۰۱ء

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفاف اللہ عنہ
۱۴۳۵ھ / ۱۰۰۱ء
(فتوى نمبر: الف ۱۱۶۲/۳۱)

حالت نشہ میں تین مرتبہ تم کو چھوڑ دیا کہنا

سوال [۶۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی ہندہ سے نشہ کی حالت میں کہا کہ ”تورا چھوڑی دلو“ (یعنی تم کو چھوڑ دیا) پھر کہا کہ تم تینوں بیٹوں کو بھی تم کو چھوڑ دیا؟ زید کے لڑکے بکرا کہنا ہے کہ بانشہ کی حالت میں تھے پہلے کہا کہ تم تینوں بیٹیے میری کمائی کھار ہے ہو، پھر کہا کہ تورا چھوڑی دلو، یعنی تم کو چھوڑ دیا تین بار کہا۔ گواہ فیروز کا کہنا ہے کہ میرے سامنے زید جو کہ نشہ میں تھا کہ تورا

چھوڑی دلو (تمکو چھوڑ دیا) تین بار کہا، پھر کہا کہ تمہارے بیٹے سے فون پر بات کر لی ہے، فیروز کا کہنا ہیکہ یوں کو چھوڑا یا بیٹے کو چھوڑا، اس کی وضاحت زید نے میرے سامنے نہیں کی۔

نحوٗ: واضح رہے کہ دس سال قبل زید نے اپنی یوں ہندہ کی کسی بات پر ناراض ہو کر کہا تھا کہ آج رات تم گھر میں قدم نہیں رکھوگی، اگر گھر میں قدم رکھوگی تو جواب ہو جائے گا، اس رات تو ہندہ نے گھر میں قدم نہیں رکھا؛ لیکن دوسری رات زید کی اجازت سے گھر میں داخل ہوئی، پھر پانچ سال قبل کسی بات پر ناراض ہو کر زید نے اپنی یوں ہندہ سے کہا تھا، اب میں پریشان حال ہوں، ازدواجی زندگی گذارنا چاہتا ہوں؛ لہذا مذکورہ بالا صورت میں ازدواجی زندگی گذاری جاسکتی ہے یا نہیں؟

نحوٗ: واضح رہے کہ تو را چھوڑی دلو یا الفظ جواب کو ہمارے علاقے میں جہلہ عام طور پر طلاق کے استعمال کرتے ہیں، تو مذکورہ صورت میں کون سی طلاق ہوئی؟

المستفتی: محمد ظہیر الدین بن محمد خلیل الرحمن، ڈو مریا، پوسٹ: پیٹی ڈو مریا، ار ریہ (بہار)
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب زید نشہ کی حالت میں اپنی یوں سے ”تو را چھوڑی دلو یعنی تم کو چھوڑ دیا“، تین بار کہہ چکا ہے، تو یوں پر تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں؛ کیونکہ چھوڑ دیا عرف میں طلاق کے لئے مستعمل ہوتا ہے اور شرابی کی طلاق نشہ کی حالت میں بھی واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا بغیر حلالہ کے اس یوں سے دوبارہ نکاح کرنا بھی درست نہیں ہے، جب طلاق مغلظہ واقع ہو گئی ہے، تو پھر تجھ کو ایک جواب دیا گھر میں داخل ہونے سے جواب ہو جائے گا اس کی ضرورت نہیں ہے؛ کیونکہ اس پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔

فإن سرحتك كنایة لکنه في عرف الفرس غلب استعماله في
الصريح، فإذا قال رها كردم: أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله
كنایة أيضاً، وما ذلك إلا لأنه غلب في عرف الناس استعماله في الطلاق.
(شامي، کتاب الطلاق، باب الکنایات، زکریاء / ۵۳۰، کراچی ۳/۲۹۹)

طلاق السکران واقع إذا سکر من الخمر، أو النبيذ، وهو مذهب أصحابنا رحمة الله تعالى. (المحيط البرهانی، کتاب الطلاق، الفصل الثالث، المجلس العلمي بيروت ۴/۳۹۱، رقم: ۴۶۳۴، عالمگیری، زکریا قدیم ۱/۳۵۳، جدید ۱/۴۲۰، شامی، کراچی ۳/۳۴، زکریا ۴/۴۸، خلاصة الفتاوى ۲/۷۵)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة.....لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هدایۃ اشرفی دیوبند ۹/۳۹، تاتارخانیہ، زکریا ۵/۱۴۷، رقم: ۰۳/۷۵) فقط والدین بخاری و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۲ھ/۱۲۰

لکتبہ: شیر احمد قاسمی عفان الدین عنہ

۳۰ رب محرم الحرام ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۹۰۲/۳۶)

نشہ کی حالت میں حاملہ بیوی کو تین طلاق دینے کا شرعی حکم

سوال [۶۶۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ داش نے اپنی بیوی شماں کہ پروین کو شراب کے نشہ کی حالت میں تین طلاق دیدیں بیوی حمل سے ہے، طلاق کے وقت پھوپھی بھی موجود تھی، شرعاً طلاق ہو گئی یا نہیں؟ اگر ساتھر ہنا چاہیں تو کیا صورت ہو گی؟

المستفتی: محمد نیکیں، ٹھیکیدار ولی مسجد، اصلاح پورہ، مراد آباد

باسم سجادۃ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شراب کے نشہ کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، جب شوہر داش نے اپنی بیوی شماں کہ پروین کو حالت حمل میں نشہ کی حالت میں تین طلاقیں دیدی ہیں، تو اس سے بیوی کے اوپر طلاق مغلظہ واقع ہو کر بیوی شوہر کے اوپر قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے۔ اب آئندہ دونوں کا بغیر حلالہ کے نکاح کرنا بھی درست نہیں ہو گا، اگر دونوں ساتھر ہنا چاہیں تو شرعی حلالة لازم ہے،

اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ عدت گذرنے کے بعد شماکلہ دوسرے مرد سے نکاح کرے اور نکاح کے بعد شماکلہ دوسرے شوہر سے ہمستر ہو جائے، پھر وہ طلاق دیدے، تو اس کی عدت گذرنے کے بعد انس کے لئے اس سے نکاح کرنا جائز ہو سکتا ہے۔

عن سهل بن سعد^{رض} في هذا الخبر، قال: فطلقها ثلاثة تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(ابو داؤد شریف، کتاب الطلاق، باب فی اللعan، النسخة الہندیة / ۱ ۶۰، دارالسلام رقم: ۲۲۵۰)

عن عائشة، أَن رجلاً طلق امرأته ثلاثة، فتزوجت زوجاً، فطلقتها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أَ تحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيتها كما ذاق الأول. (نسائی شریف، کتاب الطلاق، باب احلال المطلقة ثلاثة، النسخة الہندیة / ۲ ۸۴، دارالسلام رقم: ۴۰)

أما السكران إذا طلق امرأته، فإن كان سكره بسبب محظوظ بأن شرب الخمر، أو النبيذ طوعاً، حتى سكر وزال عقله فطلاقه واقع عند عامنة العلماء وعامنة الصحابة. (بدائع الصنائع، زکریا ۳/۱۵۸، کراچی ۴/۳۴، ونحوه في الشامي، کراچی ۳/۲۴۱، زکریا ۴/۴۴۸)

وَأُولَاتُ الْأَخْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضْعُنَ حَمَلَهُنَّ . [الطلاق: ۴]

ولو قال لامرأته الحامل أنت طلاق لسنة تقع في الحال واحدة وبعد شهر أخرى. (تاتارخانیة، زکریا ۴/۳۹۴، رقم: ۶۵۰)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرث، وثنين في الأمة، لم تحل له حتى تنکح زوجاً غيره نکاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها، كذا في الہدایة. (عالیگیری، زکریا قدیم ۱/۷۳، جدید ۱/۵۳۵) فقط والله سبحانه وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله

۱۳۳۳/۱/۵

كتبه: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۳ محرم الحرام ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۰۹۱۹/۳۰)

جنوںی حالت میں کہنا ”میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی“

سوال [۶۶۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عتین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کل بروز اتوارِ موئنخہ: ۱۲ ستمبر ۱۹۹۳ء میاں بیوی میں تکرار ہوا جس کی مفاہمت کے لئے نواب جان عرف بنا اور لڑکے کی موجودگی میں اور لڑکے کی والدہ کی موجودگی میں گفت و شنید شروع ہوئی، نواب جان کی خواہش تھی کہ دونوں میں میل جوں ہو جائے، بات چیت بالکل درمیانہ ماحول میں چل رہی تھی، کسی قسم کی کوئی تیزی نہیں تھی، اسی درمیان شیم الدین نے کہا کہ آپ نے مجھ سے طلاق مانگی تھی، میں نے دی اس پر شبانہ نے کہا کہ میں نے آپ سے کوئی طلاق نہیں مانگی، آپ جھوٹ بولتے ہیں اگرچہ ہے تو آپ کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر کہدیں کہ میں نے طلاق مانگی تھی، اس پر انہوں نے جنوںی کیفیت میں یہ کہا کہ میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی۔

(۱) کیا یہ طلاق ہو گئی؟

(۲) اس کے بعد لڑکی کے لئے عدت جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ اس لڑکی کے والد اور کوئی بھائی نہیں ہے اور وہ گورنمنٹ سروس میں ہے، اگر وہ اتنی لمبی چھٹی یا رخصت لے گی تو اس کی ملازمت پر اثر ہوگا اور اگر وہ سروس چھوڑ دیتی ہے، تو اس کا معاش اور گذارہ کس طرح ہوگا؟

(۳) لڑکی کی مہر کی ادائے کی کسی طرح سے ہوگی؟

(۴) دونوں بچے کس کے پاس رہیں گے؟ ایک کی عمر پانچ سال ہے، دوسرا کی عمر تین سال ہے۔

المستفتی: محمد امام علیل صدیقی، مون بلڈنگ، کسرول، مراد آباد

با اسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) ایسی صورت میں بیوی پر تین طلاقیں واقع

ہو کر بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو جکی ہے۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم، ۲۱۹، جدید ذکریا (۳۷۶)

(۲) بیوی پر عدت گذارنا واجب ہے اور عدت کے دوران سروس کے لئے گھر سے نکل کر سرکاری دفاتر وغیرہ میں حاضری دینا جائز نہیں ہے، اگر باہر آنے جانے لگے گی تو گنہگار ہو گی۔

وقعتدان: أي معتمد طلاق، وموت في بيته وجبت فيه، ولا يخر جان منه.

(الدر المختار، کراچی ۳/۵۳۶، زکریا ۵/۲۲۵)

(۳) عدت کے زمانہ میں حصول معاش کے لئے باہر نکلنا جائز نہیں ہے اور اس زمانہ کے معاشی اخراجات شوہر پر لازم ہیں۔

وتوجب لمطلقة الرجعي، والبائن، والفرقۃ بلا معصية الخ .

(الدر المختار، کراچی ۳/۶۰۹، زکریا ۵/۳۳۳)

(۴) مہر کا ادا کرنا شوہر پر واجب ہے اور ادائے گی مہر کے لئے فریقین جو بھی مناسب طریقہ اختیار کریں گے شرعاً جائز ہو گا۔

(۵) دونوں بچوں کو ماں اپنے پاس رکھنے کا حق رکھتی ہے، مگر جب عمر سات سال پوری ہو جائے گی، تو باپ کو لیجانے کا حق ہو گا اور ماں کے پاس رہنے کے زمانہ کا خرچہ باپ پر لازم ہو گا۔

والحاضنة أما، أو غيرها أحق به: أي بالغلام حتى يستغنى عن النساء
وقدر بسبع وبه يفتني. (الدر المختار، کراچی ۳/۵۶۶، زکریا ۵/۲۶۷) **فقط اللہ سبحانو تعالیٰ عالم**

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله
۱۳۱۲/۳/۲۵

لکتبہ: شبیر احمد قادری عفوا اللہ عنہ

۲۵ ربیع الاول ۱۴۳۲ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۳۲/۸۲۹)

دماغی توازن کمزور ہونے کی بنا پر تین طلاق دینا

سوال [۶۶۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع تین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کو بحالت سخت بیماری جبکہ دماغی توازن کمزور تھا، تین طلاق دیں، پھر جب زید صحیح ہو گیا، تو لوٹانا چاہا چار پانچ مہینہ گذر چکے ہیں، تو مولانا صاحب نے کہا کہ اس بارے میں آپ فتویٰ لیجئے، تو زید نے کہا کہ میں نے مفتی صاحب سے کہا تو بولے یوئی نکاح کرلو کافی اصرار کے بعد مولوی صاحب نے نکاح دوبارہ پڑھادیا، جب لوگوں کو پتہ چلا تو کہنے لگے کہ مولوی صاحب کا نکاح ٹوٹ گیا؛ کیونکہ غلط نکاح پڑھایا ہے، تو اس صورت میں کون گنہگار ہو گا کیا کرنا پڑیگا؟

المستفتی: محمد عیاش الدین، اربیادی

بسم اللہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر زید کو خود تین طلاق دینا یاد ہے تو اسی صورت میں اس کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔

أنه في هذا الفرع عالم بأنه طلاق وهو قاصد له. (شامی، کتاب الطلاق،

مطلوب في طلاق المدهوش، ذكریاء / ۴۵۳، کراچی ۳/۲۴)

اور مولوی صاحب نے چونکہ مفتی صاحب کے مسئلہ بتانے پر نکاح پڑھایا ہے، اس وجہ سے ان پر گناہ نہ ہو گا؛ بلکہ جن لوگوں نے اصرار کیا ہے، وہ گنہگار ہوں گے۔

(مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱/۱۲۷) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان مصour پوری غفرلہ

۱۸/۵ ر/۱۳۱۴ھ

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴/ جمای الاولی ۱۳۱۷ھ

(فتوى نمبر: الف/۳۲/۳۸۳۳)

جنوں کیفیت میں تین طلاق دینا

سوال [۶۶۵۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیوی اور میرے درمیان نازیبیا بات پر تیز طرار گفتگو ہوئی، میں نے اپنی بیوی کو حکمی دی، اس پر بھی میری بیوی خاموش نہیں ہوئی، تب میں نے کہا آج میں نے تجھے ”طلاق دی، طلاق، طلاق“ طلاق اس وقت میری والدہ اور بہن موجود تھیں، میں نے اس بات کو اس طرح کہا کہ کسی کو بھی اپنی جگہ سے ہلنے کا موقع نہیں ملا، میں نے جنوں کیفیت میں یہ عمل کیا، میں چاہتا ہوں مجھ سے میری بیوی بہت انسیت رکھتی ہے یہ بھی یاد رہے کہ میں نے جس جنوں کیفیت میں یہ الفاظ ادا کئے ہیں مجھے خود کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔

المستفتی: طریق احمد، محلہ: داشمندان، امروہہ

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مسلکہ تمام جوابات دیکھ لیئے، دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارپور، دارالعلوم چلما مروہہ، شاہی چبورڑہ امروہہ کے جوابات صحیح اور درست ہیں اور مدرسہ شاہی سے ۲۰ / رشوال ۱۴۲۲ھ کو جاری کردہ جواب کے مطابق ہیں، زیر بحث واقعہ میں بیوی پر تینوں طلاقیں مغلظ واقع ہو گئیں ہیں، اب بیوی شوہر پر حرام ہو چکی، مدنی دارالافتاء بجور کا جواب جس میں صرف ایک طلاق رجعی کو کہا گیا ہے اس سے ہم کو اتفاق نہیں ہے، وہ جواب بلا دلیل ہے؛ بلکہ اب مذکورہ واقعہ میں بلا حالاً شرعیہ نکاح بھی درست نہ ہو گا۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طلاق، طلاق، طلقت ثلثاً. (الأشباه والنظائر)

قدیم ۲۱، جدید زکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى

تنکح زوجاً غیره نکاحاً صحیحاً ویدخل بها، ثم یطلقبها، أو یموت عنها.
(ہندیہ، زکریا قدیم ۱ / ۴۷۳، جدید ۱ / ۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۲۷ ربیوال المکرم ۱۴۲۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۸۱۶۶/۳۷)

فتویٰ نمبر: الف ۸۱۶۶/۳۷ سے متعلق مفتی عزیز الرحمن بجنوری کا جواب

الجواب مکرر: (۱) میں نے جو جواب لکھا ہے، وہ علامہ شامی کی کتاب سے ماخوذ ہے۔
کور لفظ الطلاق وقوع الكل، وإن نوى التاكيد دين الخ. (رد المختار ۱ / ۴۶۰)
شوہر کے سیاق کلام سے ڈرانا دھمکانہ واضح ہے۔
(۲) شوہر نے جنون کی حالت میں اگر کہا ہے، وہ قابل تسلیم نہیں ہے، اس وجہ سے
بھی طلاق نہ ہوگی؛ لیکن میرے نزدیک یہ محل نظر ہے، (۳) جس طرح سے مسلک غیر پر ضرورۃ
عمل جائز ہے جیسا کہ الحیلۃ الناجہ میں ہے، موجودہ زمانہ میں تین طلاق کو ایک تسلیم کرنے میں
بھی کوئی برائی نہیں، جیسا کہ سیاق کلام میں اس کی گنجائش ہے یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے۔ ملاحظہ ہو
مقدمہ نقہ سیمینار اور دوسری کتب۔

کتبہ: عزیز الرحمن
مد فی دارالافتاء، بجنور (یوپی)

مذکورہ طلاق سے متعلق مستفتی کا اقرار اور بیان

حضرت مفتی صاحب نے اس مسئلہ سے متعلق مستفتی سے پوچھا کہ تین مرتبہ سے
زیادہ طلاق کا لفظ کیوں کہا، تو مستفتی نے جواب دیا، طلاق ہی کے لئے کہا، سائل سے
اس پر دخخط بھی کرا لئے گئے ہیں۔

المستفتی: تاجدار علی

جواب منجانب: دارالافتاء مدرسہ شاہی مراد آباد

با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سائل سے معلوم کیا گیا کہ 'طلاق، طلاق، طلاق، تین مرتبہ کیوں کہا، تو مستفتقی نے جواب دیا کہ طلاق کے لئے کہا ہے، جب طلاق کے لئے تین مرتبہ طلاق کا الفاظ بیوی کے لئے استعمال کیا جائے، تو تاکید کے لئے نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی فقیہ تاکید کے لئے تسلیم کرتا ہے۔ نیز سائل نے سوال میں کہیں بھی تاکید کا دعویٰ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں تین طلاق کو تاکید کہہ کر ایک مسلمان کو حرام کاری اور زنا کاری کی دعوت دینا ہے۔ اور ان نوی التاکید دین کا بہاں سے کوئی تعلق نہیں، ایک عجیب بات یہ بھی سامنے آئی کہ تین طلاق کو ایک طلاق ماننے کے لئے مذہب غیر پر عمل کیا جائے، تو سوال یہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کونسا امام ایسا ہے، جو ایک مجلس کی تین طلاق کو ایک طلاق مانتا ہو؛ حالانکہ چاروں اماموں کے نزدیک ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں؛ اس لئے ایک مسلمان کو صحیح مسئلہ بتلا کر صحیح عمل کی دعوت دینا ضروری ہے؛ لہذا مذکورہ واقعہ میں چاروں اماموں کے نزدیک تین طلاق مغلظہ واقع ہو کر بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو گئی ہے، آئندہ بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی درست نہ ہو گا۔

قال لامرأته: أنت طلاق ثلاثة، فقال الشافعي، ومالك، وأبوحنيفة، وأحمد وجماعهير العلماء من السلف والخلف: يقع الثلاث الخ . (نووی، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث / ۱، ۴۷۸، مرقاة شرح مشکوہ، باب الخلع، الطلاق الثلاث بلفظ واحد، امدادیہ ملتان ۶/۲۹۳، بذل المجهود، شرح أبو داؤد، كتاب الطلاق، باب بقية نسخ المراجعة بعد التطليقات الثالث، مکتبہ یحییٰ سہارنپور ۲۷۶/۳، دارالبشاائر الإسلامية بیروت ۸/۹۵)

إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة في مجلس واحد، فقد بانت منه ولا تحل

لہ حتیٰ تنکح زوجاً غیرہ۔ (السنن البکری لیلیھقی، کتاب الحلع والطلاق قدیم ۷/۲۳۹، ۴۰/۲۴۰، جدید دارالفکر بیروت ۱۱/۲۲۸، رقم: ۵۳۶۵، رحیمية قدیم ۵/۳۶۵، ۰/۸ زکریا جدید)

والبدعی ثلاٹ مفترقة، او شتان بمرۃ، او مرتین۔ وتحته في الشامية: وذهب جمهور الصحابة، والتابعین ومن بعدهم من أئمۃ المسلمين إلى أنه يقع ثلاٹ. (شامی، کراچی ۳/۲۳۲، زکریا ۴/۴۳۴) فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم الجواب صحیح:

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
احقر محمد سلمان متصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳ھ/۱۱/۲

۱۴۲۴ھ/۰/۳۷ (فتوى نمبر: الف-۸۱۶۶)

غصہ میں تین طلاق دینا

سوال [۲۶۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کے بھائی بکر کو ساڑھے تین لاکھ روپے کاروبار میں شرکت کے لئے دیئے تھے اور اپنے بڑے بھائی کو ساتھ میں لگایا تھا، ایک سال تک نہ منافع ملا اور نہ ہی رقم ملی، تقاضہ کرنے پر سالے بہنوئی میں گرما گرنی ہو گئی، تنازع کے درمیان میں زید نے کہا، اگر آپ نے یہ معاملہ نہیں سلیحا یا تو میں آپ کی ہمشیرہ سے قطع تعلق کر لوں گا، محض ایک دھمکی تھی؛ جبکہ زید کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس پر بکرنے اپنے دوسرے بہنوئی کا واقعہ سنایا کہ ہمارے بہنوئی سے ایسا ہی کچھ معاملہ ہوا تھا، تو ہم نے اپنے بہنوئی کو چورا ہے پر لیجا کر پائی کر دی تھی اور پولیس سے بھی پتوایا تھا، زید کو یہ سن کر بہت روحانی تکلیف پہنچ گئی اور اس نے غصہ میں تین بار طلاق دیدی اور کہا کہ چلو تم مجھے کون سے چورا ہے پر لے جا کر مارو گے اور پھر زید نے دوبارہ تین بار طلاق دیدی۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ غصہ میں طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبداللہ، محلہ: بھٹی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: خوشی میں طلاق نہیں دی جاتی ہے؛ بلکہ غصہ کی حالت میں طلاق دی جاتی ہے اور مذکورہ صورت میں سالے بہنوئی کے تنازع کے درمیان شوہرنے بیوی کو صراحت کے ساتھ تین طلاق دیدی ہیں، اور تین تین طلاقوں دو مرتبہ دی ہیں، اس سے بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر شوہر کے اوپر وہ قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے۔ اب آئندہ بغیر حلالہ کے اس سے نکاح بھی درست نہیں ہوگا اور سائل غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کا فتویٰ بھی لایا تھا ان کا فتویٰ غلط اور شریعت کے خلاف ہے، اس فتویٰ کی رو سے عمل کریں گے، تو حرام کاری ہو گی۔ روایات ملاحظہ فرمائیں:

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تُنكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ۔ [البقرة: ۲۳۰]

عن سهل بن سعد^{رض}، في هذا الخبر قال: فطلاقها ثلاثة تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ابو داؤد شریف، کتاب الطلاق، باب فی اللعان، النسخة الہندیۃ / ۱، ۳۰۶، دارالسلام رقم: ۲۲۵۰، بخاری شریف، کتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث / ۷۹۱، رقم: ۵۰۶۰، ف: ۵۲۵۹، صحیح مسلم، کتاب اللعان، النسخة الہندیۃ / ۱، ۴۸۹، بیت الأفکار رقم: ۱۴۹۲، سنن النسائی، الطلاق، باب الرخصة في ذلك، النسخة الہندیۃ / ۸۳، دارالسلام رقم: ۳۴۳۱)

وقال الحسن: لو لا أني سمعت أبي يحدث عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلق امرأته ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لراجعتها. (السنن الكبرى للبيهقي جديد دار الفكر بيروت / ۱۱، رقم: ۱۴۸۵۵)

عن عائشة^{رض} أن رجلاً طلق امرأته ثلاثة، فتزوجت فطلاق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، أتحل للأول؟ قال: لا حتى ينوق عسيتها كما ذاق الأول. (بخاري شریف، کتاب الطلاق، باب من اجاز الطلاق الثلاث، النسخة الہندیۃ / ۷۹۱، رقم: ۵۰۶۲، ف: ۵۲۶۱)

عن عائشة، أن رجلاً طلق امرأته ثلاثة، فنزوحت زوجاً، فطلقتها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيتها كما ذاق الأول. (نسائي شریف، کتاب الطلاق، باب احلال المطلقة ثلاثة، النسخة الھندية / ۲۸۴، دار السلام رقم: ۴۰۳)

أتى برجل قد طلق امرأته ثلاثة في مجلس، أو جعه ضرباً وفرق بينهما. (مصنف ابن أبي شيبة، جديد مؤسسه علوم القرآن بيروت، ۹/۱۹، رقم: ۸۹۰۸۰)

عن واقع بن سحبان، قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثة في مجلس، قال: أثم بربه وحرمت عليه امرأته. (مصنف ابن أبي شيبة ۹/۱۹، رقم: ۸۷۰۸۱)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثة. (الأشباه والنظائر قدیم، ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. كذا في الھداية. (عالماگیری، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، تاتارخانیہ، زکریا ۵/۴۷، رقم: ۳۰۷۵، مجمع الأئمہ، دارالكتب العلمیہ بیروت ۲/۸۸) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

الجواب صحیح:
كتبه: شیبہ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۵ ربیع الاول ۱۴۳۲ھ
(فتوى نمبر: الف ۳۰۹۹۳)

غصہ کی حالت میں تین طلاق دینا

سوال [۲۶۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو غصہ کی حالت میں تین طلاق دیدی ہیں، تو طلاق ہو گئی یا نہیں؟ پانچ مہینہ کا چھوٹا بچہ بھی ہے، بیوی کو اگر ساتھ رکھنا چاہیں تو کیا حکم ہے؟

المستفتی: سبحان چھوٹی منڈی، مقبرہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: خوشی میں کوئی طلاق نہیں دیتا ہے؛ بلکہ غصہ ہی میں طلاق دی جاتی ہے؛ لہذا جب آپ نے اپنی بیوی کو تین طلاقوں دی ہیں، تو بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر آپ کے اوپر وہ قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے، آئندہ بغیر حلالہ کے اس کے ساتھ نکاح بھی درست نہیں ہے اور حلالہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عدت گذار کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، پھر اس مرد کے ساتھ ہمستری ہونے کے بعد وہ مرد طلاق دیدے اور پھر عدت بھی گذر جائے تو وہ بیوی آپ کے لئے حلال ہو سکتی ہے اور پھر آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ [البقرة: ۲۳۰]

عن عائشة أَن رجلاً طلق امرأته ثلاثة، فتزوجت فطلاق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، أتحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. (بخاري شريف، كتاب الطلاق، باب من اجاز الطلاق الثلاث، النسخة الهندية

۷۹۱/۲، رقم: ۵۰۶۲، ف: ۵۲۶۱)

عن عائشة، أَن رجلاً طلق امرأته ثلاثة، فتزوجت زوجاً، فطلاقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. (نسائي شريف، كتاب الطلاق، باب احلال المطلقة ثلاثة، النسخة الهندية ۲/۸۴، دار السلام رقم: ۴۰۴۳)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. كذا في الهدایة. (عالمگیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباء والنظائر قدیم ۹، جدید ذکریا ۳۷۶) **فَظْوَ اللَّهُ سَجَنَ وَتَعَالَى عِلْمُ**

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان مصour پوری غفرله
۱۴۳۳ھ / ۲۰۱۳ء

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴۳۳ھ / ۱۴ ربیع الاول ۱۴۳۳ھ

(فتیٰ نمبر: الف ۱۰۹۹۵ / ۳۰)

میں نے اور میرے خدا نے طلاق دی، تین مرتبہ کہنے سے طلاق کا حکم

سوال [۶۶۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر یہ الفاظ تین مرتبہ کہے کہ ”میں نے اور میرے خدا نے طلاق دی“، تو صورت مذکورہ میں کون سی طلاق پڑی؟ اور اگر میاں بیوی ساتھر ہنا چاہتے ہوں تو کیا صورت ہو سکتی ہے؟

المستفتی: محمد شعیب فتح پوری، متعلم مدرسہ شاہی، مراد آباد

با اسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مذکورہ میں بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو کر بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو چکی ہے۔ اور اگر ساتھر ہنا چاہیں تو بلا حلالة درست نہیں ہو گا اور حلالہ کی صورت یہ ہے کہ عدت گزار کر عورت کسی دوسرے کے ساتھ شرعی طور پر نکاح صحیح کر کے اس کے ساتھ ہمبستری ہو جائے، اس کے بعد شوہر ثانی طلاق دیدے یا اس کا انقال ہو جائے، تو پھر عدت گزار کر پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرے۔

وَإِنْ قَالَ بِأَمْرِهِ، أَوْ بِحُكْمِهِ، أَوْ بِقَضَائِهِ، أَوْ بِإِذْنِهِ، أَوْ بِعِلْمِهِ أَوْ بِقُدرَتِهِ يَقْعُ
فِي الْحَالِ، أَضِيفَ إِلَيْهِ تَعَالَى أَوْ إِلَى الْعَبْدِ إِذْ يَرَا دِيمَشْلَهُ التَّجْيِيزَ عَرْفًاً

(الدر المختار، کتاب الطلاق، باب التعليق، ذکریا دیوبند ۴ / ۶۳۳، کراچی ۳ / ۳۷۳)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباء والنظائر

قدیم ۹، جدید ذکریا ۳۷۶)

متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق. (عالِمگیری، ذکریا قدیم ۳۵۶/۱، ۴۲۳/۱)

إن كان الطلاق ثلاثة في الحرة، وثنين في الأمة لم تحل له، حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هداية اشرفي دیوبند ۳۹۹/۲، فتاوى عالِمگیری، ذکریا قدیم ۴۷۳/۱، ۵۳۵/۱، مجمع الأئمہ، دارالكتب العلمية بيروت ۸۸/۲، تاتارخانیة، ذکریا ۱۴۷/۵ رقم: ۷۵۰۳) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

رزوی الجبیر ۱۴۰۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۵/۵۷۱)

شدید غصے میں یہ کہنا ”خدا کو حاضروناظر کر کے تم کو تین طلاق دیتا ہوں“

سوال [۶۶۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی زوجہ کو ۱۹۸۸ء رجنوری کو بیجہ نزاع خانگی کے کہدیا کہ ”پہلے ایک میں نے تم کو طلاق دیدی“، اس کے بعد کہا ”میں خدا کو حاضروناظر کر کے تم کو تین طلاق دیتا ہوں“، یہ جملے انتہائی غصہ کی حالت میں کہے زید کو بالکل یاد نہیں ہے یہ جملے بیوی نے زید کو بتایا کہ تم نے کہا ہے کہ خدا کو حاضروناظر کر کے تم کو تین طلاق دیتا ہوں، تو عرض طلب یہ ہے کہ آیا طلاق ہوئی یا نہیں؟ اور کون سی پڑی؟ اور ایسی حالت میں زوجہ کا کہا ہوا کچھ معتبر ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ذرا تفصیل سے بروع شرع ملک تحریر فرمائیں نوازش ہوگی۔

المستفتی: فقیہ الدین، اندرانگر، ہدوائی، ضلع: نیٹ تال (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر سائل اپنے بیان میں سچا ہے، تو میں نے تم کو طلاق دیدی کے جملے سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی۔

صریح ما استعمل فيه خاصة ولا يحتاج إلى نية، وهو أنت طلاق، ومطلقة، وطلقتك وتفع بكل منهما واحدة رجعية. (مجمع الأنهر، دار الكتب العلمية بيروت ۱۱/۲)

تم کوتین طلاق دیتا ہوں کا جملہ اگر ایسی مددوٹی میں کہا ہے کہ جس میں کچھ پتہ نہیں ہے، تو دعا دل آدمی کے قول پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ اور تینیوں طلاقیں واقع ہونے کا حکم ہو گا ورنہ نہیں، بتلا بذی خود اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر فیصلہ کر لے کہ واقعہ کیا ہے؟

الذی يظہر لی اَن كَلَا مِن المَدْهُوشِ، وَالْغَضْبَانِ (إِلَى قَوْلِهِ) إِنْ كَانَ بِحِيثِ إِذَا غَضَبَ لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ وَسَعَهُ الْأَخْذُ بِشَهَادَتِهِمَا، وَإِلَّا لَا (وقوله) ثُمَّ رأَيْتَ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ الْجَوابُ، وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَالِالِجِيَةِ إِنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ غَضَبَ جَرِى عَلَى لِسَانِهِ مَا لَا يَحْفَظُهُ بَعْدَهُ جَازَ لَهُ الْاعْتِمَادُ عَلَى قَوْلِ الشَّاهِدِينَ. فَقَوْلُهُ لَا يَحْفَظُهُ صَرِيحٌ فِيمَا قَلَنَا إِلَّا (شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی طلاق المدهوش، مطبوعة کوئٹہ ۲۶۳/۲، ۴۶۳، کراچی ۳/۲۴۴، ۵۳/۴) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ
۱۳۰۸ھ / جمادی الثانیہ
(فونی نمبر: الف ۷۲۷/۳۳)

غصہ میں تیرے اور پر تین کہنے کا حکم

سوال [۶۶۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مตین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں محمد سلیم ولد محمد اصغر علی لوہاری سرائے نے اپنی بیوی فاطمہ حسن ولد فضل الرحمن میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ میرا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا قطعاً ارادہ نہ تھا اور نہ اس سے میرا جھگڑا اتھا، اچانک میرے والد کے نقج

کہاں نی کی وجہ سے مجھ پر مدھوٹی کا غصہ طاری تھا، اس نقچ میرے منھ سے یہ الفاظ ادا ہو گئے کہ تمہارے اوپر تین طلاق اور میں اسی وقت خود کو مارنے پر آمادہ تھا کہ اس دوران میری بیوی آگئی؛ لہذا ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں رہنا چاہتے اور نہ کبھی رہنا چاہتے تھے، لہذا آپ سے التجاء ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہنمائی کریں کہ ہم دونوں آپ میں سابقہ کی طرح رہ سکتے ہیں یا نہیں؟

یہ مضمون وہ ہے جو ان حضرات نے پہلی بار دیا تھا اور پھر دوسرا مضمون دیا ہے، وہ میں اب نیچے لکھا رہوں۔

میں محمد سلیم ولد محمد اصغر محلہ لوبہری سرائے نگینہ کا اپنی بیوی فاطمہ رحمٰن ولد فضل الرحمن کو خدا کو حاضر و ناظر جان کر حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ میرا طلاق دینے کا قطعاً ارادہ نہیں تھا اور نہ میرا اس کا کوئی جھگڑا تھا، اچانک میرے والد کے نقچ کہاں نی کی وجہ سے مجھ پر مدھوٹی کا غصہ طاری تھا اور اس وقت میں خود کو مارنے مرنے پر آمادہ تھا کہ بیوی آگئی، اس نے کہا کیوں رور ہے ہو، مجھے بتاؤں گا، اس نقچ میرے منھ سے یہ الفاظ نکلے کہ تمہارے اوپر تین، اتنے میں میرے والد نے میرا منھ کپڑا لیا آگے مجھے علم نہیں کہ میرے منھ سے کوئی اور الفاظ نکلے یا نہیں اور نہ تین سے آگے کے الفاظ وہاں پر موجود میرے والد اور میری بیوی نے سنے، تین سے آگے کی عدم ادائے کی کی تصدیق میرے والد اور میری بیوی بھی کر رہے ہیں اور کوئی گواہ بھی موجود نہیں۔

اور اب میں یعنی فاطمہ رحمٰن کے بھائی عباد الرحمن نے جب اس دن پوچھا، تو اس نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ تیرے اوپر تین طلاق اور میرے والد اور میری والدہ نے جب پوچھا تو اس نے یہی جواب دیا تھا، جو ابھی گذر رہا، یہی بات محمد سلیم نے مجھ سے اور میرے والد سے اور میری والدہ سے کئی بار کہی کہ میں نے اس کو یہ کہا کہ تمہارے اوپر تین طلاق؛ لیکن اب دونوں اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ تین سے آگے کچھ نہیں کہا اور نہ میں نے سنा۔

اب ہم یہ چاہتے کہ وہ سابقہ کی طرح رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر نہیں تو وہ یعنی فاطمہ رحمٰن وہاں سے آنا نہیں چاہتی، تو ہم لوگ اس سے تعلق ختم کر دیں یا نہیں؟
لہذا حضرات علماء کرام سے گذارش ہے کہ اس مسئلہ کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر کریں۔

نouث: دونوں تحریروں کی فوٹو کا پی ساتھ میں مسلک ہے۔

المستفتی: عباد الرحمن

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مذکورہ واقعہ میں شوہر محمد سلیم کا بیان بدلا ہوا ہے، ایک میں ”تیرے اوپر تین طلاق“ کے الفاظ ہیں اور دوسرے میں تیرے اوپر تین کے الفاظ ہیں پہلی صورت میں بہر حال تین طلاق ہو گئیں اور دوسری صورت تیرے اوپر تین کہتے وقت غصہ کا تعلق یہوی کے ساتھ ہو گیا تھا، تو یہوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں؛ اس لئے کہ حالت غصب اور غصہ میں تیرے اوپر تین کہنے سے تین طلاق ہو جاتی ہیں، بظاہر تیرے اوپر تین کہتے وقت غصہ کی توجہ یہوی کی طرف منتقل ہو گئی ہے؛ اس لئے تین طلاق واقع ہو گئیں ہیں، اب اگر آئندہ ساتھ رہنے کا ارادہ ہو، تو حلالہ کے بعد نکاح کر کے رہ سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنیے کہ طلاق غصہ ہی کی حالت میں دی جاتی ہے اور اتنا ہوش باقی رہنا کافی ہے کہ کیا کہا ہے اور خود اقرار کر رہا ہے تیرے اوپر تین کہنا یاد ہے۔

قال لامرأته ترايکر سه - الى قوله: إن كان في حال المذاكرة،
أو الغصب يقع وإلا لا يقع بلا نية. (بزاریہ، ذکریا ۱/۱۲۸، وعلی هامش
الهنديہ، ذکریا ۴/۱۹۷)

ولو قال لامرأته: توبسه في حال مذاكرة الطلاق والغصب طلقت ثلاثاً.

(قاضی خان، ذکریا ۱/۲۷۸، وعلی هامش الهنديہ ۱/۴۶۰)

إن کا فی حال مذاکرة الطلاق أوفی حال الغضب یقع الخ. (الفتاوى
اللتاتارخانية، زکریا ۴ / ۱۸، رقم: ۶۵۷۴) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

الجواب صحیح:
كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۹ھ / ۲۲۲
(فتوى نمبر: الف ۳۸) ۹۷۲ / ۳۸

دھمکانے کے لئے غصہ کی حالت میں تین طلاق دینے کا حکم

سوال [۷۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ۲۸ جولائی ۱۹۸۸ء بروز جمعرات صحیح ہی سے میری بیوی پر وین بانو اپنے ماں کے گھر جانے کی بضدھی، مجھے بھی کوئی خاص عذر نہ تھا، میرا کہنا یہ تھا کہ تم اپنی ساس یعنی میری ماں سے اجازت لے لو اور چل جاؤ، مگر وہ اس بات کے لئے تیار نہیں تھی اور برابر تقاضہ کئے جا رہی تھی کہ میں جا رہی ہوں اور جب تک تم مجھ کو لینے نہیں آؤ گے میں نہیں آؤں گی، حتیٰ کہ دو پھر کا کھانا بھی اس نے نہیں بنایا اور برابر خاموش لیٹی رہی تقریباً تین بجے بعد بات کچھ اور آگے بڑھی اور پر وین نے اپنے ساتھ اپنے دونوں بچوں کے کپڑے بھی کنڈی میں رکھ لئے، میں نے کہا کہ میں تم کو شام تک کی اجازت دے کر بھیج رہا ہوں، اس میں کپڑوں کی کیا ضرورت ہے، مگر جیسے اس نے مستقل جانے کی نیت کی تھی؛ اس کے اس فعل کو دیکھ کر مجھے غصہ آگیا اور میں نے اس کو پینگ پر گرا دیا اور ایک دو چھپڑ بھی مارے اور اس نے میرے منھ پر لاتیں ماری، میں نے کہا کہ مجھے تولا تین مار رہی ہے، اس نے جواب میں کہا کہ اگر تم مجھے مارو گے تو ایسے ہی ماروں گی، اس پر میں قابو میں نہ رہ سکا اور اسے دھمکانے کے لئے میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، میری آوازن کر ایک شخص نایاب وہ آگیا اور اس نے ہمارا پیچہ بچاؤ کرایا اور میں نیچے آ کر بیٹھ گیا اور پھر لوگوں کو علم ہو گیا،

اور لوگ آتے گئے اس طرح لڑکی کے والوں کو بھی اس جھگڑے کا علم ہو گیا لوگوں نے بھی ہماری صلح صفائی کرائی اور ہم دونوں نے اسی شام کو کھانا بھی ایک ہی ساتھ کھایا، کھانے کے بعد رات کو ہمیں میری ساس اور سر صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے ہم نے ایسا ایسا سنا ہے، آپ پروین کو ایک دو دن کے لئے گھر بچھ دو، غصہ ٹھنڈا ہو جائیگا تو بلا لینا، مگر ہمارے والدین نے ان سے گزارش کی کہ آپ اس جھگڑے میں نہ لے جائیں، ایک دو دن بعد لے جانا، وہ راضی ہو گئے اور چلے گئے، مگر اگلے روز وہ پھر آگئے اور کہا کہ پروین کو بچھ دواز کل شام کو کھانا کھا کر لے آنا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب میری بیوی پروین بانو نے کہا کہ تم مجھے یہاں بھجنے کی غرض سے مت لے جاؤ، ورنہ میں یہاں نہ آ کر کہیں اور چلی جاؤں گی، جس پر وہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے، مگر جمعہ کی رات کو وہ نوبجے پھر آئے اور کہنے لگے اس کو طلاق ہوئی ہے۔ اب ہم اس کو لے جاتے ہیں اور وہ پروین کو لے گئے۔ اب میں پریشان ہوں، آپ شرعی حکم سے آگاہ فرمائیں۔ یہ تمام بیان میں نے حلفیہ دیئے اور آپ میری مد فرمائیں میں تمام شرعی احکام ہر وقت مانے کے لئے تیار ہوں۔

المستفتى: ظہیر الدین ولد شریف احمد، پکاباغ، امر وہ (بیوی پی)

باسم سجادہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ میں درج شدہ حالات میں بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو گئیں، غصہ کی حالت میں بلانیت طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔
ويقع الطلاق من غصب. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی طلاق المدهوش، کراجی ۴/۲۴، زکریاء ۴/۵۲)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۹، ۲۱، جدید زکریاء (۳۷۶)

متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق .

(ہندیہ، زکریاء قدیم ۱/۳۵۶، جدید ۱/۴۲۳)

إن الصريح لا يحتاج إلى البينة. (شامی، زکریا ۴/۴۶۱، کراچی ۳/۲۵۰)
فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان الدین عنہ
۹ محرم الحرام ۱۴۰۹ھ
(فتاویٰ نمبر: الف ۲۲، ج ۱۰۵)

حالت غصہ میں دی گئی تین طلاق کا حکم

سوال [۲۶۵۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عمر نے رحیمه کو تین طلاق دے دیں، یعنی پہلے جھگڑے ہوا، پھر جھگڑے میں عمر بہت گرم ہو گیا اور رحیمه نے بھی ساتھ ساتھ گرمی کو اور بڑھادیا یعنی رحیمه نے خود طلاق مانگنا شروع کیا، تو عمر نے بھی گستاخی کے ساتھ رحیمه کو ۳۲۱ رکر کے تین طلاق دیدیں، ایسے میں رحیمه کہہ رہی ہے کہ ایسے طلاق کیوں دے رہے ہو، جیسے نکاح کیا ہے مجھے ویسے طلاق دیو، پھر عمر نے ویسے ہی فلاں کی بیٹی فلاں کو ۳۲۱ رکر کے طلاق دے دی، کئی دن کے بعد پھر صلح کرانے کے لئے ادھرا دھر دوڑ رہے ہیں، ایک عالم کو لائے وہ عمر سے سوال کر رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا کہا، عمر کہہ رہے ہیں کہ جھگڑے میں وہ خود مجھ سے طلاق مانگتی رہی، میں نے اس کو منع کیا، پھر بھی تکرار سے طلاق مانگتی رہی، تو مجھے زیادہ غصہ آگیا اور کچھ معلوم نہ رہا، تو میں نے اس کو اسی حالت میں طلاق دیدی، مجھے بلڈ کی بیماری ہے، عالم نے پھر سوال کیا کہ تم جو خون کی بیماری کہہ رہے ہو اس کا پورا ذمہ تم لے سکو گے، تو عمر نے کہا ہاں ضرور لے سکوں گا، تو عالم نے فیصلہ کر دیا کہ ہمارے امام کے نزدیک غصب کی حالت میں جو ہوتا ہے، اس کو صحیح قرآنیں دیا جاتا، اس حساب سے بالکل طلاق صحیح نہیں؛ لیکن بہت بڑا گناہ کیا؟ اس لئے تم دونوں کو توبہ واستغفار لازم ہے اور دوسرے امام صاحب کے نزدیک دو دفعہ میں دو طلاق ہوئی، اس میں بھی رجعت جائز ہے، تو دونوں کو توبہ

و استغفار کرایا۔ اور ایسا نہ کرنے کے لئے وعدہ کرایا، اس معاملہ میں مفتی صاحب سے مشورہ ہے کہ شرعاً کیا حکم ہے؟ اگر یہ حالت ہے، تو رجعت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ معاملہ عبدالغفار، رابعہ عبدالخالق کا ہے، ابھی تک دونوں کی ملن نہیں ہوئی الگ ہیں؛ کیوں کہ وہ اس وقت پکڑا گیا، ابھی بگلہ دلیش ہے اور وہ حج میں آنے والا ہے، بہت جلدی کریں جواب میں کیوں کہ جواب کا منتظر ہوں۔

المستفتي: عبدالرحمن، عقیقیہ مکتبۃ المکرّمہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق غصہ ہی کی حالت میں دی جاتی ہے؛ البتہ غضب کے مختلف درجات ہیں، اگر اس درجہ کا مرض اور غضب ہو کہ شوہر کو طلاق دینا یاد ہے، تو یہ مدھوش اور بے ہوشی کی حالت نہیں ہے؛ اس لئے مذکورہ صورت میں بیوی پر تین طلاق واقع ہو سکتی ہیں اور آئندہ اگر زنا چاہی کرنا چاہیں تو بلا حل والزم کا حبھی درست نہ ہوگا۔
الغضب بحیث لا یتغیر عقله و یعلم ما یقول و یقصده وهذا لا اشکال فيه.

(شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی طلاق المدھوش، زکریا / ۴، ۴۵۲، کراچی ۳/۴۴)
وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.
(عالیٰ مکری، زکریا قدیم ۱/۷۶، ۵۳۵، جدید ۱/۴۷۶، هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، تاتارخانیہ، زکریا ۱۴۷/۵، رقم: ۷۵۰۳، مجمع الأئمہ، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۸۸)
ایسی صورت میں ایک مجلس کی تین طلاقیں حضرت امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالکؐ، امام احمد بن حنبلؐ سب کے نزدیک تین ہی ہو جاتی ہیں؛ البتہ غیر مقلدین جو انہمہ اربعہ واہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، ان کے نزدیک ایک طلاق ہوتی ہے، شاید مذکورہ عالم صاحب کو مغالطہ ہو گیا ہوگا۔ (مستفاد: کفایت المفتی قدیم ۲/۳۲۱، جدید، زکریا، کراچی ۳۷۲۸)

وذهب جمهور الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من أئمة المسلمين

إلى أنه يقع ثلاث الخ. (شامي، كراجي ۴/۲۳۲، ذكرى ۴/۴۳۴) ففظ والله سبحانه وتعالى علم

الجواب صحیح:

احضر محمد سلمان منصور پوری غفرله
۱۹۷۵/۱۱/۲۶ھ

كتبه: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴۱۵ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۱/۲۲۳۰)

حالت غصب میں بیک وقت تین طلاق دے کر عدول عن المذہب کرنا

سوال [۶۶۵۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شوہرنے حالت عصب میں بیوی سے کہا تم کو طلاق، تم کو طلاق، تم کو طلاق، اس کے کہتے وقت دل کے اندر طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا، بیوی دو ماہ کے حمل سے ہے، اس صورت میں طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟ اگر ہو گئی تو کتنی؟ اگر حنفی مذہب میں واقع ہو اور مثلاً شافعی میں واقع نہ ہو، تو حنفی کوشافعی مذہب پر اس صورت خاص میں عمل کرنے کی رخصت دی جائے گی یا نہیں؟ جیسا کہ زوج مقود کی صورت میں امام مالک کے مذہب پر عمل کیا جاتا ہے اور تین طلاق دے کر خاوند رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟ حدیث صحیح ہے۔

كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر و سنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن خطاب ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه ابناء، فلو أمضيناهم فأمضاه عليهم.

(صحیح مسلم، ۱/۴۷۷)

یہ حدیث دوسری حدیث کے مقابلہ میں زیادہ قوی ہے، اگر اس حدیث کی وجہ سے تین کو ایک قرار دیا جائے، تو کیا قباحت ہے؛ بلکہ سماجی بہت سی خرابیاں دور ہو جائیں گی اور معصوم بچے اور بچیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر تین کو تین قرار دیا جائے، تو سماجی بہت ساری خرابیاں موجود ہیں اور آئندہ چل کر اور خرابیاں وجود میں آئیں گی۔ اور مولانا عبدالحی مرحوم نے مجموعہ فتاویٰ میں فتویٰ دیا ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں ایک شمارکی جائے گی،

ان کے علاوہ دیگر علماء کے اقوال موجود ہیں، جو مسئلہ کا حنفی تھے، مگر فتویٰ اس پر دیا ہے، ہمارے علماء کرام کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور انصاف سے کام لینے کی ضرورت ہے۔
 (۲) شوہر کا کہنا ہے کہ میں نے دو طلاق دیں، بیوی کہتی ہے کہ تین طلاقیں دیں، بیوی کے ساتھ گواہ ہیں، ان دونوں میں کس کے قول کا اعتبار ہوگا؟

(۳) حضرت عمرؓ کا تین کوتین قرار دینا، ایک سیاسی مسئلہ تھا نہ کہ شرعی؛ کیونکہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ایسا حکم لگایا گیا تھا نہ کہ ہنسیہ اس پر قائم رہنے کے لئے۔
 (۴) طلاق شوہر دیتا ہے اور سزا عورت اور بچے کو ملتی ہے، شرعی نقطہ نظر سے تین کو ایک قرار دینے میں ہی عورت سزا سے بچ سکتی ہے۔ بیوی بالحق والصواب و تو جروا بیوم الحساب۔
 المسئٹنی: محمد ارسلان فیل، وآدم الہی منزل پنجاب پھلیہ، جونا گذھ
 باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق غصہ کی حالت میں دی جاتی ہے، راضی اور خوشی کی حالت میں کوئی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا؛ اس لئے غصہ کی قید سے حکم طلاق میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور آنحضرت کا یہ فرمانا کہ زوج مفقود وغیرہ میں مالکی مسلک کو اختیار کیا جاتا ہے؛ اس لئے طلاق کے مسئلہ میں شافعی مسلک پر عمل کیا جائے، تو اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ اس پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں ایک نہیں ہوتی۔ اب آنحضرت سے گزارش ہے کہ سوال نامہ میں بیوی اور بچوں کے جو اعذار پیش کئے ہیں، ان اعذار کی بناء پر ہم کس کے مذہب کی طرف عدول کریں، ظاہرات ہے کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ مستقل مسلک کے ساتھ کوئی پانچواں امام دنیا میں موجود نہیں ہے، جس کے مسلک میں ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہوگی؛ اس لئے ایک مجلس کی تین طلاقوں کو تین قرار دینے سے بچنے کے لئے عدول کر کے کسی دوسرے مستقل امام کے مسلک کو اختیار کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے؛ اس لئے ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہوں گی، اس مسئلہ میں غیر مقلدین کی طرف سے طرح طرح سے رخنه اندازی سے متاثر نہیں ہونا چاہئے۔

عن ابن عباس^{رض} قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بكر^{رض}، وسنتين من خلافة عمر^{رض}، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر^{رض}: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه إماءٌ فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وذهب جمهور الصحابة، والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث ولم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث. (شامي، كراچی ۴/۳۴، زکریا ۲۳۳/۳)

وقد إختلف العلماء فيمن قال لأمراته أنت طلاق ثلاثة. فقال الشافعی^{رض}، ومالك^{رض}، وأبو حنیفة^{رض}، وأحمد^{رض} وجمahir العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث. (حاشية نووي على مسلم، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث ۱/۴۷۸، مرقاة شرح مشكوة، باب الخلع، الطلاق الثلاث بلفظ واحد، امدادية ملتان ۶/۲۹۳، بذل المجهود شرح أبي داؤد، الطلاق، باب بقية نسخ المراجعة بعد التطlications الثلاث، مكتبه يحيى سهارنپور ۳/۲۷۶، درالبیشائر الإسلامية بیروت ۸/۹۵، تحت رقم الحديث: ۰۰۲۰۰، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة دار الفكر بیروت ۴/۳۴۱) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

کے رینج الاول ۱۳۲۶ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۷/۲۸۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۳۲۶/۳/۷

حالتِ حمل میں تین طلاق کا وقوع

سوال [۶۶۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی اور لڑکے کی شادی قریب چھ ماہ قبل ہوئی تھی اور دونوں آپس میں خوب راضی اور خوش تھے اور ایک دوسرے سے کافی محبت تھی، آج سے تین روز قبل کسی بات پر بھگڑا ہو گیا اور آپس میں کافی تکرار ہوا، اس لڑکی کی ماں قریب ہی میں رہتی ہے، دونوں کی

آوازن کر آگئی اور اپنی لڑکی کی حمایت کرنے لگی اور اس کے شوہر سے کہنے لگی کہ تو میری لڑکی کو ابھی طلاق دے، اور لڑکے کو بیہودہ الفاظ بھی کہنے لگی، لڑکے نے اس کی ماں کے کہنے پر غصہ کی حالت میں اس طرح بالکل کہدیا کہ طلاق دی، طلاق دی؛ جبکہ لڑکی ۲۵ مہینہ کی حاملہ بھی ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟

المستفتی: رئیس احمد، تحصیل اسکول، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مذکورہ میں یہی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے اور شوہر کے لئے قطعاً حرام ہو گئی ہے، وضع حمل کے بعد عورت دوسرے مرد سے نکاح کرے گی اور اس کے ساتھ ہمیسری بھی ہو گی، پھر شوہر اپنی مرضی سے طلاق دیدے، تو دوبارہ عدت گزارنے کے بعد شوہر اول کے لئے اس سے نکاح حلال ہو گا۔
(مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۶/۳۰۰)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قديم ۲۱، جديد زكرياء ۳۷۶)

لو كرر لفظ الطلاق وقع الكل. (شامي، كتاب الطلاق، باب طلاق غير

المدخول بها، كراچي ۴/۳، زكرياء ۹۳/۵۲۱)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثبتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها. (هندية، زكرياء قديم

۱/۷۳، جديد ۱/۵۳۵)

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضْعُنَ حَمْلَهُنَّ. [الطلاق: ۴]

عدة الحبل فهي مدة الحمل والأصل فيه قوله تعالى: وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن أي انقضاء أجلهن أن يضعن حملهن، وإذا كان انقضاء أجلهن بوضع حملهن كان أجلهن؛ لأن أجلهن مدة

حملہن۔ (بدائع الصنائع، زکریا ۴/۳۰) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۱۲ جمادی الثانیہ ۱۴۱۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۳۵۹، ۵۳۵۹)

ایام حیض میں تین مرتبہ طلاق دینا

سوال [۶۶۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک ہی مرتبہ میں تین مرتبہ طلاق کہنے سے طلاق ہو جائے گی؟ اور کیا ماہواری کے دنوں میں طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ فتویٰ صادر کیا جائے۔

المستفتی: محمد عظمت اللہ آسامی

باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دینے سے تینوں واقع ہو جاتی ہیں اور عورت ہمیشہ ہمیشہ کلیخ شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ (مستقاد: احسن الفتاویٰ ۵/۱۲۹، جدید زکریا ۲۷۶)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم، ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶)

اور اسی طرح حالت حیض میں بھی طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی؛ لیکن شوہر گنہگار ہوگا۔

عبد الله بن عمر^{رض}، أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين آخرتين عند القرئين، فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر، فيطلق لكل قروءٍ، قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم،

فراجعتها، ثم قال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك، أو أمسك، فقلت: يا رسول الله!رأيت لو أني طلقتها ثلاثة، كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك و تكون معصية. (سنن دارقطني، قديم ۴۲۸/۲، دارالكتب العلمية بيروت ۴/۲۰، رقم: ۳۹۲۹) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان الدین عنہ
۱۴۳۱ھ / ۱۲۲ مہ مباری الاولی
(فتویٰ نمبر: الف ۳۷۲۷/۲۹)

حالت حیض میں تین طلاق

سوال [۶۶۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ میں یہ کہتے ہوئے طلاق دی کہ ”میں نے تجھے تین طلاق دیں“ اور عورت اس وقت ناپاکی کی حالت میں تھی، تو ایسی صورت میں یہ طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: عبدالوکیل، دولت باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: حیض کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا مسؤولہ صورت میں جب شوہرنے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں تین طلاق دیدی ہیں، تو ایسی صورت میں طلاق مغلظ واقع ہو کر بیوی شوہر کے لئے قطعی طور پر حرام ہو گئی ہے اور حلالہ شرعیہ کے بغیر دو بارہ نکاح بھی درست نہ ہو گا اور جس حیض میں شوہرنے طلاق دی ہے، وہ عدت میں شمار نہ ہو گا؛ بلکہ اس کے بعد والے حیض سے عدت شمار ہو گی۔ (مستقاد: محمودیہ ابھیل ۱۸۵/۱۲)

رجل قال لا مرأة: ترا سه طلاق، يقع الثالث. (تاتارخانیة ۴/۵، رقم: ۶۵۳۴)

و طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثة بكلمة واحدة، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق، وكان عاصيًّا . (هداية، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، اشرفی دیوبند ۲۵۵/۳۵۵) والبدعی من حیض الوقت أن يطلق المدخول بها، وهي من ذات الأقراء في حالة الحیض و كان الطلاق واقعًا . (هنديہ، کتاب الطلاق، الباب الأول في تفسیره ورکنه، زکریا قدیم ۱/۳۴۹، جدید ۱/۴۱۶) وإذا طلق امرأته في حالة الحیض كان عليها الاعتداد بثلاث حیض کوامل ولا تحسب هذه الحیضة من العدة . (هنديہ، باب العدة، زکریا قدیم ۱/۵۲۷، جدید ۱/۵۸۰) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

الجواب صحیح:
لکتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
احقر محمد سلمان متصور پوری غفرانہ
۲۹ رب جادی الاولی ۱۴۳۳ھ
(فتوى نمبر: الف ۱۰۷۰۵/۳۹)

”لے لے تو طلاق“ تین مرتبہ کہنا

سوال [۲۶۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، اسی درمیان شوہرنے بیوی سے کہا ”لے لے تو طلاق“ اور یہ جملہ تین مرتبہ کہا، تو اس سے طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اور اس میں شوہرنے تنجیز نہیں کی ہے؛ بلکہ بیوی کو طلاق لینے کا حکم دیا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: عبد اللہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جھگڑے کے دوران جو شوہرنے بیوی سے تین مرتبہ یہ جملہ کہا کہ ”لے لے تو طلاق“ اور بیوی نے اسی مجلس میں اپنے اوپر کوئی طلاق واقع نہیں کی، تو شرعی طور پر بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی؛ کیونکہ شوہر کا قول ”لے لے

تو طلاق، تفویض طلاق مختص ب مجلس کے قبل سے ہے، ہاں البتہ یوں اگر اسی مجلس میں اپنے اوپر کوئی طلاق واقع کر لیتی تو طلاق واقع ہو جاتی۔

إذا قال لها: طلقي نفسك سواء قال لها: إن شئت أولاً فلها أن تطلق نفسها في ذلك المجلس خاصة. (هندية، کتاب الطلاق، الباب الثالث في

تفویض الطلاق، الفصل الثالث في المشیة، ذکریا قدیم ۱ / ۴۰۲، جدید ۱ / ۴۷۱)

إذا قال لأمرأته: أنت طالق إن شئت، فذلك إلیها مادامت في مجلسها، فإن شاءت في مجلسها وقع الطلاق، وكذلك إذا قال لها: طلقي نفسك إن شئت، أو لم يقل إن شئت فذلك إلیها في مجلسها إلا أن هاهنا لا تطلق مالم تطلق نفسها. (الفتاوى الناتارخانية، ذکریا ۴ / ۵۱۲، رقم: ۶۷۹۳) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان الدین عنہ

۱۲ رجبی قدرہ ۱۴۳۵ھ

(فتاویٰ نمبر: الف ۲۸۱ / ۱۷۰)

شوہرنے تین طلاق دیں اور بیوی نے نہیں سناتو

سوال [۶۶۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں رئیس خان ولد دولہ خاں، محلہ نالہ پار، رام پور، مورخہ: ۲۰۰۲/۸/۱۰ء عرض یہ ہے کہ میرے گھر میں اختلاف ہونے کی وجہ سے میں نے غصہ میں آکر لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کو تین طلاق دی ہیں، مگر بیوی کا کہنا ہے کہ میں نے سنا ہی نہیں، میرے تین چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کا کوئی حل بتائیں کہمیرے لئے بیوی کو گھر لانے کی کیاشکل ہو سکتی ہے؟ بیوی گھر آنا چاہتی ہے۔

المستفتی: رئیس خاں، نالہ پارہ، رام پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب رئیس خاں نے لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں، تو اس کی بیوی پر تین طلاق واقع ہو گئیں اور بیوی رئیس خاں پر بالکل حرام ہو گئی۔ اب بغیر حالہ کے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح بھی درست نہیں ہے۔

وَإِنْ كَانَ الطَّلاقُ ثَلَاثَةً فِي الْحُرْةِ، وَشَتَّىٰ فِي الْأُمَّةِ لَمْ تَحُلْ لَهُ حَتَّىٰ
تَنكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ نَكَاحًا صَحِيحًا، وَيَدْخُلُ بَهَا، ثُمَّ يَطْلُقُهَا، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا.
(العلمگیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹،
مجمع الانہر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۸۸، تاتارخانیہ، ذکریا ۵/۱۴۷،
رقم: ۳۰۰۷۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعی احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ
اہمدادی الشافیی ۱۹۳۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۶۲/۲۶۲)

کیا بیوی کے سنبھال شوہر کے اقرار سے طلاق واقع ہو جائے گی؟

سوال [۶۶۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ رخصانہ بیگم ولد شمس الدین یہ کہتی ہے کہ میں قرآن شریف پڑھ رہی تھی، میں نے لوٹے میں پانی بھر کر کھدیا، ان کا منہ دھونے کے لئے، انہوں نے لوٹے کا پانی پھینک کر مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں اور گھر سے باہر نکل کر تین بار طلاق کا لفظ استعمال کیا، محلہ کے بھورے بھائی نے سنارخصانہ بیگم کہتی ہیں کہ مجھے آواز نہیں آئی کہ انہوں نے طلاق دی یا نہیں؟ لہن خاں ولد بن خاں یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے گھر سے باہر گلی میں تین بار طلاق کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن و حدیث سے جواب مطلوب ہے۔

المستفتی: چاند میاں، کشار شہید، گنگ میڈیکل، والی گلی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شوہر لذن خال خود تین بار طلاق کا اقرار کرہا ہے؛ لہذا لذن کی بیوی پر طلاق مختار واقع ہو گئی ہے اور طلاق واقع ہونے کے لئے بیوی کا سننا لازم نہیں ہے۔ اب بغیر حلالہ شرعی کے دوبارہ نکاح بھی جائز نہیں ہو گا۔
لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلثاً۔ (الأشباه والنظائر)

قدیم ۲۱۹، جدید زکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.
(ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۲، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/۳۹۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان متصور پوری غفرلہ
اہری قعدہ ۱۴۲۶ھ
(فتاویٰ نمبر: الف ۸۹۵ / ۳۸)

بیوی کی عدم موجودگی میں تین طلاق

سوال [۶۶۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں عبدالغنی بن عبد اللہ بن عباس استار، عمر ۲۶ رسال گھر یہ معمالات میں بچوں کے ساتھ نزاعی بحث و تکرار میں میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیں؟ حالانکہ میری بیوی اس وقت موجود بھی نہیں تھی، میں نے یوں کہا ”میں تمہاری ماں کو طلاق دیتا ہوں، طلاق، طلاق، طلاق“، دریافت طلب امر یہ ہے کہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: عبدالغنی ولد عبد اللہ استار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق کے لئے بیوی کا سامنے موجود ہونا ضروری نہیں، اگر بیوی کی عدم موجودگی میں بھی طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے؛

لہذا مسؤولہ صورت میں آپ کی بیوی پر تین طلاق واقع ہو چکی ہیں۔ اب بلا حلالہ شرعیہ و نکاح جدید کے ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ (مستقاد: فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۲۲۶۹)

وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرْمَةِ، وَثَنَتِينَ فِي الْأُمَّةِ لَمْ تَحْلِ لَهُ حَتَّى
تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نَكَاحًا صَحِيحًا، وَيَدْخُلُ بَهَا، ثُمَّ يَطْلُقُهَا، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا.

(ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، تاتارخانیہ، زکریا ۵/۱۴۷، رقم: ۷۵۰۳)

مجمع الأئمہ، دارالكتب العلمية بیروت ۲/۸۸) فقط والسبحان وتعالیٰ اعلم

لکتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۳۲۲ھ / ۱۷/۸/۱۳۲۲ھ

۱۳۲۲ھ / ۱۷/۸/۱۳۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف-۳۶۲/۳۶۲)

بیوی اور گواہوں کی عدم موجودگی میں تین طلاق

سوال [۶۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میری شادی تقریباً اس سال پہلے ہوئی تھی، میرا نام محمد راحت ہے، پہلی شادی شمع پر وین سے ہوئی تھی، کچھ آپسی جھگڑے کے سبب میں نے انہیں تین بار ”طلاق، طلاق، طلاق“ کہہ دیا تھا، اس وقت دو فردا اور میں تھا، جن میں ایک عورت ایک مرد تھا؛ لیکن اب ہم دونوں پھر سے اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ آپ ہمیں بتائیں اب ہمیں کیا کرنا چاہئے؟

المسئلہ: محمد راحت، مراد آباد

بسم اللہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق واقع ہونے کے لئے بیوی یا گواہوں کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا سوال نامہ میں درج شدہ شکل میں بیوی پر تینوں طلاقوں واقع ہو چکی ہیں۔ اب بیوی شوہر پر قطعی طور پر حرام

ہو چکی ہے؛ لہذا اب آئندہ اگر دونوں میاں بیوی بن کر ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو حلالہ شرعیہ کے بغیر ساتھ رہنے کی کوئی شکل نہیں ہے اور حلالہ شرعیہ کی شکل یہ ہے کہ تین ماہواری سے بیوی کی عدت پوری ہو جانے کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کر کے ہمستری ہو جائے اور پھر وہ شوہ طلاق دیدے اور دوبارہ عدت گذر جانے کے بعد شوہ اول نکاح کر لے۔
لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً۔ (الأشیاء والناظائر

قدیم ۹، جدید زکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثالثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

مرجع: ۱۳۳۹

(نومی نمبر: الف ۱۰۱۲۲۳۹)

بیوی کا نام لئے بغیر ”طلاق، طلاق، طلاق“ کہنا

سوال [۶۶۶۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں حبیب احمد ولد فدا حسین محلہ لا الہ اغ کا ہوں، میاں بیوی میں تکرار ہوا، میں نے وجہ سے جنون میں آ کر اپنی بیوی رئیس فاطمہ کو طلاق، طلاق، طلاق، تین مرتبہ کہدیا؛ لیکن نام کسی کا نہیں لیا، اس کی گواہ رو برو میری سماں نفیس فاطمہ موجود تھی اور میرے چچا جید ولد محمد حسن نے لفظ طلاق کا سنا ایک مرتبہ لیکن نام نہیں سنा۔

المستفتی: حبیب احمد ولد فدا حسین، لا الہ اغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق واقع ہونے کے لئے عورت کا سامنے موجود ہونا یا عورت کا نام لینا یا طلاق کے الفاظ کا سننا یا شوہر کے اقرار کرتے ہوئے گواہوں کا

ہونا شرط نہیں ہے۔ نیز طلاق صریح میں وقوع طلاق کے لئے نیت لازم نہیں ہے، غصہ اور بیوی سے جھکڑے کا موقع ہے بھی قرینہ اور دلالت حال وقوع طلاق کے لئے کافی ہے، طلاق کے لئے نسبت یا اضافت طلاق صراحتہ ہونا شرط نہیں ہے؛ لہذا اس سوال ناممکنی درج شدہ حالت میں حبیب احمد ولد فارح حسین کی بیوی پر تین طلاق واقع ہو کر وہ مغلظہ ہو گئی ہے۔ اب بلا حلالہ کے دوبارہ نکاح کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ (مسنون: امداد الفتاویٰ ۲/۴۳۹، دارالعلوم ۷، کفایت المفتی ۲/۳۷)

ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه (إلى قوله) لأن العادة أن من له امرأة، إنما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها. (شامی، کراچی ۳/۲۴۸، زکریا ۵/۴۵۸، زکریا ۳/۲۵۳، زکریا ۳/۴۴۲)

ولا يحتاج إلى نية؛ لأن الصريح موضوع للطلاق شرعاً، فكان حقيقة فيه فاستغنى عن النية. (مجمع الأئمہ، شرح ملتقی الأبحر، قدیم ۱/۳۸۶، جدید دارالكتب العلمیہ بیروت ۲/۱۱، شامی، کراچی ۳/۲۵۱، زکریا ۴/۶۱، الجوهرۃ النیرۃ، امدادیۃ ملتان ۲/۱۰، دارالکتاب دیوبند ۲/۹۹، دارالرائق ۳/۲۵۱، زکریا ۳/۷۴۳۷)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر قدیم ۹/۲۱، جدید زکریا ۳/۷۶)

متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق. (عالِمُكَيْرِي، زکریا قدیم ۱/۳۵۶، جدید ۱/۴۲۳)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (عالِمُكَيْرِي، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هداۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹)

فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم

کتبہ: شیعیر احمد قادری عفنا اللہ عنہ

۵ ربیع الاول ۱۴۰۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۲/۱۴۳۶)

بیوی کا نام لے کر تین مرتبہ طلاق دینا

سوال [۶۶۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مตین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کی بیجا و بے انتہا نافرمانیوں کی وجہ سے محلہ کے کچھ معززین کے سامنے اپنی بیوی کا نام لے کر کہا، میں نے رخسانہ پروین کو طلاق دی، یہ جملہ زید نے تین مرتبہ دہرا�ا۔ اب دریافت یہ ہے کہ رخسانہ پروین کو طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟ اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: مہدی حسن ولد محمد فیض، صالت پورہ، مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب زید نے اپنی بیوی کو تین مرتبہ طلاق دے دی ہے، تو بیوی پر طلاق مخالفہ واقع ہو چکی ہے، اب بغیر حلال دوبارہ نکاح بھی جائز نہ ہو گا۔
لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلثاً۔ (الأشباه والنظائر

(قدیم ۲۱، جدید زکریا ۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.
(هنديہ، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۳۵، هدایۃ اشرفی دیوبند ۹۹/۲، تاتارخانیہ، ذکریا ۵/۱۴۷، رقم: ۳۰۵: ۷۵۰) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:
كتبه: شیبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
اختر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۸/۱۱/۲۲
۱۴۳۸/۱۱/۲۲
(فتویٰ نمبر: الف ۳۳) (۵۵۲۱)

بیوی کی طرف اشارہ کر کے تین طلاق دینا

سوال [۶۶۷۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ میں نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح وحقیقی بھائیوں سے اب سے تقریباً ۱۵ ماہ پہلے دوتائی صلح: غازی آباد میں کیا تھا، چھوٹی بیٹی فرحا خاتون اور اس کا شوہر منقاد احمد الحمد اللہ صبح طریقہ سے ازدواجی زندگی گذار رہے ہیں؛ لیکن بڑی بیٹی عائشہ خاتون اور اس کے شوہر شاہ محمد میں شروع سے ہی ان سی رہتی ہے، شوہر کی لائن ڈرائیوری کی ہے، بہت پریشان کرتا ہے بے جا طریقہ سے مارتا رہتا ہے بار بار یہ الفاظ کہتا ہے کہ اپنے باپ کو بلا لے اور اپنا سامان بھر کے لیجا، مجھے تیری ضرورت نہیں کہہ دینا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، یہ عادت رہی۔ ۲۰ اپریل ۲۰۱۱ء رات میں میری بڑی بیٹی سے پیسے مانگنے لگا، بڑی بیٹی نے کہا میں کہاں سے پیسے دوں، اس پر دونوں میں رات ۱۱ بجے بحث چلتی رہی، پھر باہر سے اندر مکان میں مارنے کے لئے لیجانے لگا، اسی کھینچاتانی میں چھوٹی بیٹی کی آنکھ کھل گئی، اس نے اس منظر کو دیکھا تو اس نے اپنے بڑے بہنوئی جیڑھ سے کہا تم مار کے دھاؤ کیسے مارو گے؟ میں ابھی ابا کوفون کرتی ہوں، تو وہ چھوٹی بیٹی کو لپٹ گیا اور مارنے کی کوشش کی، تو بڑی بیٹی یعنی اس کی بیوی نے دونوں کو الگ کر دیا، اس پر غصہ میں اس نے اپنی بیوی میری بڑی بیٹی کو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ یہ الفاظ غصہ میں اپنی زبان سے کہے ”طلاق، طلاق، طلاق“، جبھی میری چھوٹی بیٹی نے رات ۱۲ بجے مجھے فون پرساری باتیں تفصیل سے بتلائیں، رات بھر پریشانی میں گذری صبح میں دوتائی پہنچا، محلہ کے سب لوگ جمع ہو گئے، ایک مولانا کو بلا یا وہ آئے سارا قصہ سن کر انہوں نے لڑکے سے قسم دے کر معلوم کیا، کیا تم نے یہ الفاظ کہے ہیں، تو اس نے صاف انکار کر دیا اور دونوں بیٹیاں قسم کھا کر یہ کہہ رہی ہیں کہ طلاق، طلاق، طلاق، غصہ میں ہاتھ سے ایسے اشارہ کرتے ہوئے جیسے ہاتھ سے کوئی چیز دیتے ہیں تین مرتبہ کہا ہے، سب کے مشورہ سے میں اپنی لڑکی کو اپنے گھر لے آیا ہوں۔ اب لڑکا اور دوسرے لوگ لے جانے کے لئے بار بار فون کر رہے ہیں، شرعاً بتلایا جائے کہ یہ طلاق ہوئی یا نہیں؟ اس حالت میں لڑکی کو بھیجننا اور لڑکی

کا جانا شرعاً صحیح ہے یا نہیں؟ آپ کے شرعی جواب پر اگلے حالات موقوف رہیں گے،
شدت سے جواب کا منتظر لڑکی کا باپ محمد صلاح الدین پسر چودھری امام الدین صاحب۔
المستفتی: محمد صلاح الدین، قصبہ: ڈھکسہ، تخلیل: حسن پور، جے پی نگر (یوپی)
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب طلاق دیتے وقت بیوی وہاں موجود تھی
اور بیوی کی طرف اشارہ کے ساتھ تین مرتبہ طلاق، طلاق، طلاق کہا اور بیوی نے خود سنایا ہے
اور اپنے سنتے پر پورا یقین ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لئے شوہر کے یہاں بغیر حلالہ کے
جانا قطعاً جائز نہیں ہے، اگر شوہر انکار کر رہا ہے، تو خلع وغیرہ کے ذریعہ سے اس سے جدا ہے کی
حاصل کر لے اور اگر وہ خلع پر تیار نہیں ہے، تب بھی بیوی کو اپنے یقین کی وجہ سے شوہر کے
پاس جانا جائز نہیں۔ (مستفاد: الیضاح الموارد ۱۰۲)

والمرأة كالقاضي إذا سمعته، أو أحبرها عدل لا يحل لها تمكينه،
والفتوى على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها؛ بل تفدي نفسها بمال،
أو تهرب. (شامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، زکریاء / ۴۶۳، کراچی ۳/۲۵)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۹، ۲۱، جدید زکریاء (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(ہندیہ، زکریاء قدیم ۱/ ۴۷۳، جدید ۱/ ۵۳۵) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

الجواب صحیح:

كتبه: شمسير احمد قاسمي عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۵/ جمادی الثانی ۱۴۳۲ھ

۱۴۳۲/۲/۵

(فتوى نمبر: الف ۳۹، ۱۰۲۷/۳۹)

بیوی کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے تین طلاق دینا

سوال [۲۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمدنواب شیری نے اپنی بیوی شاہدہ خاتون کو چوری کی ہوئی چیز برآمد ہونے پر، جبکہ اس کا بھائی بھی عین موقع پر موجود تھا، اس طرح کہا کہ یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے، میں نے یہ اشارہ کر کے انگلی سے کہا طلاق دی، میں نے اسے طلاق دی، میں نے اسے طلاق دی، ایسی حالت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب عنایت فرمائیں اگر طلاق واقع ہوئی ہے، تو دوبارہ نکاح کی کیا صورت ہوگی؟

المستفی: ڈاکٹر محمد اسلام شیری گرام، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مذکورہ میں بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے، اب میاں بیوی کا ساتھر ہنا حرام کاری ہوگی اور اگر ساتھر ہنا چا ہیں، تو شرعی طور پر حلالہ کرنا لازم ہوگا اور حلالہ کی صورت یہ ہے کہ عدت گذرنے کے بعد بیوی دوسرے مرد سے شرعی نکاح کر کے اس کے ساتھ ہمبستری کرے، پھر اس کے بعد شوہر ثانی اپنی مرضی سے طلاق دیدے، یا اس کا انتقال ہو جائے، اس کے بعد عدت پوری ہونے پر شوہر اول محمدنواب شیری کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔

لو قال لزوجته: أنت طلاق، طلاق، طلاق، طلاقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قديم ۲۱۹، جديٰ زکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(عالِمِ گیری، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۳۵، هداية اشرفی دیوبند ۳۹۹/۲، تاتارخانیہ،

زکریا ۱۴۷/۵، رقم: ۳۷۵۰)

ولاتحل الحرة بعد الطلقات الثلاث لمطلقها. لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له. [البقرة: ۲۳۰]

من بعد الآية..... إلا بعد وطء زوج آخر..... بنكاح صحيح..... ومضي عدته أي عدة النكاح الصحيح بعد زواله بالطلاق في الزوج الثاني. (مجمع الأئمہ، دار الكتب العلمية بيروت ۲/۸۸) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

كتبه: شیعیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۰ رب جمادی الثاني ۱۴۱۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۲۵۸/۲۶)

شوہر کا تین مرتبہ طلاق دینا اور بیوی کا نہ لینا

سوال [۶۶۷۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عتیں مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہمارے میاں بیوی کے جھگڑے کے دوران پہلی مرتبہ میں نے کہا تھے طلاق دی، پھر دوبارہ کہا، طلاق دی، طلاق دی۔ بیوی نے کہا میں نے نہیں لی، میں نے نہیں لی، تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ نیز غصہ کی وجہ سے میراد ماغی تو ازن ٹھیک نہیں رہا، مگر طلاق دینا سب یاد ہے۔

المستفتی: محمد شیخ پاکبازہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب تین مرتبہ طلاق دینا یاد ہے، تو مذکورہ صورت میں بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔ اب دوبارہ بلا حل والنكاح بھی درست نہ ہو گا۔ لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلاقت ثلثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۲۱۹، جدید ذکر یا ۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۳۵۰، هداۃ اشرفی دیوبند ۲/۹۹، تاتارخانیہ، زکریا ۱۴۷/۵، رقم: ۷۵۰۳:) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۱۴۳۱ھ ارشوال المکرم

(نومی نمبر: الف ۳۱/۳۱۷۳)

میں نے تجھے طلاق دی، تین مرتبہ کہنا اور بیوی کا ہر مرتبہ انکار کرنا

سوال [۲۶۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی سے تین مرتبہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، اور بیوی ہر مرتبہ انکار کرتی رہی اور چلانے لگی، ان کے سامنے کئی عورتیں بھی تھیں۔ نیز میں نے طلاق غصہ کی حالت میں دی تھی، جس کا مجھے بعد میں افسوس ہوا۔

المستفتی: محمد اقبال، محلہ: بی اے سی پاس فقیر آباد، مراد آباد (بیوی)

با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مذکورہ میں آپ کی بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو کر مغایظہ ہو گئی ہے۔

متى کرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق۔ (عالیٰ مکری، زکریا قدیم ۱/۳۵۶، جدید ۱/۴۲۳)

لو کرر لفظ الطلاق وقع الكل۔ (شامی، کراچی ۳/۹۳، زکریا ۴/۵۲۱)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً۔ (الأشباه والناظائر

قدیم ۹/۱۵۱، جدید زکریا ۳۷۶، فتاویٰ دارالعلوم ۹/۱۵۱)

لہذا بحالہ شرعی کے دوبارہ آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا، حالہ کی صورت یہ ہے کہ تین حیض گذرنے کے بعد عورت کسی دوسرے سے شرعی نکاح کر لے اور اس کے ساتھ

ہمبستری بھی ہو جائے، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دیدے، تو پھر عدت گذرنے کے بعد شوہر اول کے ساتھ نکاح کر لے۔

وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحَرَةِ (إِلَى قَوْلِهِ) لَمْ تَحْلِ لَهُ حَتَّى تَنكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ نَكَاحًا صَحِيحًا، وَيَدْخُلُ بِهَا، ثُمَّ يَطْلُقُهَا، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا. (فتاویٰ عالمگیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ الشرفی دبو بند ۲/۳۹۹، تاتارخانیہ، ذکریا ۱۴۷/۵، رقم: ۷۵۰۳)

ولَا تَحْلِ الْحَرَةُ بَعْدَ الطَّلَاقَاتِ الْثَلَاثَ لِمَطْلُقَهَا. لَقَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحْلِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ تَنكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ [البقرہ: ۰۲۳]

مِنْ بَعْدِ الْآيَةِ..... إِلَّا بَعْدِ وَطَئِ زَوْجٍ آخَرَ..... بِنَكَاحٍ صَحِيحٍ..... وَمَضِي عَدْتِهِ أَيْ عَدْدَ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ بَعْدِ زَوْالِهِ بِالْطَّلَاقِ فِي الزَّوْجِ الثَّانِي. (مجموع الأنہر، دار الكتب العلمية بیروت ۲/۸۸)

اور یوں کا انکار کرنا اور نہیں کہنا طلاق کے واقع ہونے میں مانع نہیں ہے۔

نَفْظُ وَاللَّهِ سَجَانُهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفان الدین عنہ
۱۲ رب جمادی الاولی ۱۴۰۸ھ
(فتویٰ نمبر: الف: ۲۸۲/۲۳)

بیوی صرف ایک طلاق کا اقرار کرے تو کیا حکم ہے؟

سوال [۶۶۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانہ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، وہاں موجود عورتوں نے کہا کہ زید نے اپنی زوجہ کو تین طلاقیں دی ہیں، زوجہ کا کہنا ہے کہ میں نے ایک طلاق سنی ہے، دریں اشائزید نے باہر آ کر ۲۰۰۰ میلوں سے کہا کہ میں نے اپنی زوجہ کو طلاق دیدی ہے، شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: عبدالستار بیگ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: لفظ طلاق بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے، لہذا جب زید نے اپنی بیوی کوتین طلاق دیدیں اور اس پر شرعی گواہ بھی موجود ہیں، تو بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو کر زید پر حرام ہو گئی۔ اب بغیر حلال الشرعیہ کے زید کے لئے وہ بیوی حلال نہ ہو گی۔ لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلثاً۔ (الأشباء والناظائر

قدیم، ۲۱۹، جدید ذکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرة—لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره
نكاحاً صحيحاً۔ (فتاویٰ عالمگیری، ذکریا قدیم ۱/ ۴۷۳، جدید ۱/ ۳۵۵، هدایۃ الشرفی
دیوبند ۹/ ۳۹، تاتارخانیہ، ذکریا ۵/ ۱۴۷، رقم: ۳۰۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۳/۸/۱۶

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۵ رجب عاشر ۱۴۲۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۷۸۰/۳۶)

فون پر نشہ کی حالت میں تین طلاق دینا

سوال [۲۶۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کریم نے کویت سے فون پر اپنی بیوی عائشہ بیگم کو یہ کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق، طلاق، طلاق، آج سے تجھے شادی کے رشتہ سے آزاد کرتا ہوں، اس کے بعد اس نے فون رکھ دیا، کچھ دنوں بعد جب دوسرا مرتبہ کریم کا فون آیا، تو اس نے اپنے سالے مناسے بات کی، جس میں اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ مجھ سے ایک یہی غلطی ہو گئی کہ میں نے طلاق دیدی، اس کے علاوہ میری کوئی دوسری غلطی نہیں ہے، کریم کے اس اقرار کو جو اس نے فون پر کیا کئی آدمیوں نے اور بھی سنा، جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کریم نے طلاق دیتے کا اقرار کر لیا ہے، ان تمام باتوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عائشہ بیگم کو تین

طلاق واقع ہو گئی ہیں۔ اب وہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے، اب وہ تمہارے گھر نہیں جائے گی، تو کریم کہتا ہے کہ طلاق نہیں واقع ہوئی ہے؛ اس لئے کہ میرے طلاق دینے پر کوئی گواہ نہیں ہے۔ اور میں نے شراب پی کرنے کی حالت میں طلاق دی ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جس طرح شادی گواہوں کی موجودگی میں ہوتی ہے، طلاق بھی گواہوں کی موجودگی میں ہو گی، تو طلاق کا اعتبار ہو گا، ورنہ نہیں ہو گا۔ نیز وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے کویت کے عالموں سے معلوم کیا ہے، تو وہاں کے عالموں نے کہا ہے کہ طلاق نہیں واقع ہوئی ہے؛ اس لئے میری بیوی میرے نکاح میں موجود ہے، میری بیوی کو تم لوگ میرے گھر بھیج دو۔

حالانکہ دوسری طرف عائشہ بیگم طلاق کا لفظ اپنے کانوں سے سن لینے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لئے بالکل تیار نہیں ہے، وہ گناہ میں بنتا ہونا نہیں چاہتی ہے؛ لہذا آپ حضرات شریعت مطہرہ کی روشنی میں واضح فرمائیں کہ عائشہ بیگم پر طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟ کیا طلاق کے لئے گواہ کا ہونا ضروری ہے یا بیوی اور شوہر کا اقرار ہی کافی ہے؟ کیا شراب پی کر طلاق واقع نہیں ہوتی ہے؟ عائشہ بیگم اپنے شوہر کے لئے حلال ہے؟ کیا وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایسی حالت میں زندگی گذار سکتی ہے؟ کویت کے عالموں کا کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ ان تمام باتوں کا الگ الگ تفصیل سے جواب دے کر ہم تمام لوگوں کی صحیح رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم لوگ صحیح طریقہ پر چل سکیں اور حلال طریقہ پر زندگی گذار سکیں اور حرام سے بچ سکیں۔

المستفیعی: انوار خان، یہمنی سری کالا ہستی، چوتھا (۱۴ پی)

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: فون پر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور شراب پینے کے بعد نہشہ کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، جب شوہر نے خود طلاق دینے کا اقرار کیا ہے، تو اس سے طلاق واقع ہو گئی ہے، اب تاویلات اور حیله بازی سے عورت اس کے لئے حلال نہ ہو گی؛ لہذا جس وقت طلاق دی ہے، اس وقت سے تین ماہواری گذرا جانے کے بعد عدت پوری ہو جائے گی اور عدت پوری کرنے کے بعد اڑکی اپنی مرضی سے جہاں چاہے

جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے اور مذکورہ واقعہ میں عائشہؓ بیگم کریم کی بیوی نہیں رہی اور کویت کے عالموں کے حوالہ سے طلاق واقع نہ ہونے کی جوبات کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے۔

**ويقع الطلاق كل زوج عاقل بالغ..... ولو هازلاً، أو سكران، ولو
نبيذ، أو أفيون، أو بنج زجرأ به يفتى الخ.** (تنوير الأ بصار مع الدر المختار،
کراچی ۳/۲۳۵ تا ۴۰، ذکریاء ۴۴۳۸ تا ۶۴)

ولو أقر بالطلاق كاذباً، أو هازلاً وقع قضاءً لا ديانة. (شامی،
کراچی ۳/۲۳۶، ذکریاء ۴۴۰)

قال اللہ تعالیٰ: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ قُرُوءٍ۔ [البقرہ: ۲۲۸]
عن عائشہ قالت: أمرت ببریرة أن تعتمد بثلاث حیض. (سنن ابن
ماجہ، الطلاق، باب خیار الأمة إذا اعتقادت، النسخة الهندية ۱۵۰، دارالسلام
رقم: ۲۰۷۷) واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
لتبیہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
اختر محمد سلام منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۹ھ / ۲۰۲۶
(فتوى نمبر: الف ۹۵۸۳/۸۳)

فون پر تین طلاق دیدیں

سوال [۶۷۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، پانچ چھ مرتبہ کہا، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بیوی نے فون کاٹ دیا، تو اس عورت پر طلاق واقع ہو گی یا نہیں؟

المستفتی: محمد احمد رنجمن

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جس شخص نے اپنی بیوی کو چار یا پانچ مرتبہ فون

پر طلاق طلاق کہا، تو اس کی بیوی پر تین طلاق مغلظہ واقع ہو گئیں۔ اب بغیر حلالہ وہ عورت اپنے شوہر کے لئے حلال نہ ہو گی۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ میرٹھ ۲/۱۸۷، ۳/۷۷، کفایت الحقیقت جدید، زکریا ۲/۳۱، جدید ادارۃ الفاروق، کراچی ۸۲۸، آپ کے مسائل ان کا حل جدید زکریا ۲/۰۷)

كرر لفظ الطلاق وقع الكل. (شامی، زکریا ۴/۵۲۱، کراچی ۳/۳۹۳)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والناظائر

قدیم ۹، ۲۱، جدید زکریا ۳/۷۶)

متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغیر حرف الواو يتعدد الطلاق. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۵۶، جدید ۱/۴۲۳)

وفي الظهيرية: متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغیر حرف الواو يتعدد الطلاق. (الفتاویٰ تاتارخانیہ، زکریا ۴/۴۲۷، رقم: ۶۵۹۰)

فقط والد سجانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شییر احمد قاسمی عطا اللہ عنہ
۱۶ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف. ۳۰۸۵/۱۱۳۸)

فون پر تین طلاق دینا

سوال [۷۶۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں یا سینمین عالم بنت خورشید عالم، ساکن مراد آباد، میری شادی مہتاب خان عرف خرم ولد اسلام بخش مرحوم کے ساتھ ۲۸ جنوری ۲۰۰۱ء کو ہوئی تھی، شوہر کی طرف سے مستقل ظلم و ستم ہوتا رہتا ہے، شراب پی کر گھر آ کر مجھ سے لڑتے اور مجھے مار توڑ کرتے رہتے ہیں اور بابا ایسا ہو چکا ہے، جب زیادہ مار دھاڑ اور لڑائی کرتے ہیں، تو میں اپنے والدین کے بیہاں مراد آباد آ کر بیٹھ جاتی ہوں، پھر وہ بلا تے ہیں اور میرے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ اب لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، تو میرے ماں باپ بیچج دیا کرتے تھے، ایسے میں چھ سال گذر گئے،

اس درمیان میرا ایک بیٹا بھی ۲۰۰۵ء کو ہوا تھا اور اب ادھر آ کر جھگڑا زیادہ ہونے لگا۔ ۱۸ ارجمندی ۲۰۰۸ء کو سخت لڑائی ہوئی اور مجھے انہوں نے بہت زیادہ مار دھاڑ کی، جس کے نتیجے میں میں ۱۹ ارجمندی کی صحیح کو مراد آباد اپنے والدین کے یہاں آگئی اور رفروری کی رات کو گیارہ نج کر ۲۰ رمنٹ پرانہوں نے مجھ سے فون پر گفتگو کی اور سخت جھگڑا کیا، اور گالی گلوچ کی اور مجھے اور میرے بیٹے کو جان سے مارنے کی دھمکی دی اور اسی دوران تین مرتبہ طلاق دی اور اس طریقہ سے کہا کہ ”تجھے طلاق، طلاق، طلاق“ تین مرتبہ کہا اور میں نے خود یہ الفاظ اپنے کان سے سنے، تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟

المستفتیہ: یاسمین عالم بنت خورشید عالم، پکباغ، مراد آباد
با اسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شوہرنے جو فون پر بیوی کو تین مرتبہ طلاق دیدی ہے، اور بیوی نے اپنے کان سے طلاق کے الفاظ سنے ہیں اور شوہر فون پر طلاق دینے کا اقرار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں اور بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو گئی، آئندہ بغیر حلالہ کے نکاح بھی جائز نہ ہوگا۔ (مستفاد: جدید فقہی مسائل ۱۵۰)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها، كذا في الهدایة. (هنديہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، ۱/۵۳۵، هدایۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹)

ولو أقر بالطلاق كاذباً، أو هازلاً وقع قضاء لا ديانة. (شامی،
ذكریاء / ۴۰، کراچی ۳/۲۳۶) فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احترم مسلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۲۹/۳/۱۳

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۱۴۲۹ھ / اول ربیع
(فتوى نمبر: الف ۳۸ / ۹۵۰)

دو طلاق کے بعد پھر فون پر تیسرا طلاق

سوال [۶۶۷۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عتین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو دوسال پہلے دو طلاق دی تھیں، حضرت مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کر کے رجوع کر کے ساتھ رہنے لگا اور اب چار ماہ پہلے فون پر ایک طلاق دی ہے، اور اس آخری طلاق کے بارے میں میری بیوی کا دعویٰ ہے کہ میں نے طلاق نہیں سنی؛ جبکہ میں نے طلاق دیدی ہے، ہمارے اور اس کے درمیان اس آخری طلاق سے جدا گی ہے، اس سلسلے میں میری بیوی کے گھر والوں نے ڈاکٹر ڈاکر نائک سے انٹرنیٹ کے ذریعہ سے معلوم کیا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، اس بیوی سے میرا ایک لڑکا ہے، جس کی عمر دوسال ایک مہینہ ہے، اگر طلاق واقع ہو گئی ہے، تو کتنی مدت تک رہے گا، اس کے پاس رہے گا یا میرے پاس اور اگر ماں کے پاس رہتا ہے، تو کتنی مدت تک رہے گا، اس وقت میرا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ اپنی نانی کے گھر ہے، اگر طلاق واقع ہو گئی ہے، تو کیا جب تک بچہ اپنی ماں کے پاس رہے گا، اس عرصہ کا خرچ مجھے دینا ہو گا یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں و مشکور فرمائیں۔

المستفی: محفوظ عالم مختار: مقبرہ، درگاہ، متصل بڑی مسجد مراد آباد (بیوی پی)

با سمسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شریعت نے شوہر کو زندگی میں تین طلاق دینے کا اختیار دیا ہے، جن کو وہ ضرورت پڑنے پر دے سکتا ہے؛ لہذا جب شوہر نے دوسال پہلے دو طلاق دے کر رجعت کر لی تھی، اس کے بعد تیسرا طلاق دے دی، تو اس سے بیوی شوہر کے لئے قطعی طور پر حرام ہو گئی ہے؛ لہذا اس کو بغیر حلالہ شرعیہ کے اپنے پاس زوجہ بنا کر رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ اور سات سال سے کم عمر لڑکے کی پروردش کا حق ماں کو حاصل ہوتا ہے اور اس دوران بچہ کا مناسب خرچ باب کے ذمہ لازم ہے اور سات سال کے بعد ماں کو حق

پرورش باقی نہیں رہتا ہے؛ اس لئے سات سال کے بعد باپ کو کو اپنے پاس رکھنا چاہے تو اس کا اختیار ہے۔ (متقاد: فتاویٰ محمود یڈ ابھیل (۵۶۸/۱۳)

عن ابن عمر رض قال : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَطْلُقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةً، فَيَنْزُو جَهَا الرَّجُلُ، فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيَرْخِي السُّتُّرَ، ثُمَّ يَطْلُقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَهَا، قَالَ: لَا تَحْلُّ لِلأُولَاءِ حَتَّى يَجَامِعُهَا الْآخِرُونَ. (نسائی شریف، النسخة الهندية ۲/۸۴، دارالسلام رقم: ۳۴۴)

وَإِنْ كَانَ الطَّلاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرْمَةِ، وَثَنَتِينِ فِي الْأُمَّةِ لَمْ تَحْلِ لَهُ حَتَّى تَنكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ، نَكَاحًا صَحِيحًا، وَيَدْخُلُ بَهَا، ثُمَّ يَطْلُقُهَا، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا. (هندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، مجمع الأنہر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۸۸، هداۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر قدیم ۹/۲۱، جدید زکریا ۳۷۶)

والحاضنة أما أو غيرها أحق به: أي بالغلام حتى يستغنى عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى. (الدر المختار مع الشامي، زکریا ۲/۶۷، کراچی ۳/۵۶) ويجب الأب على أخذ الولد بعد استغنائه عن الأم؛ لأن نفقته وصيانته عليه بالإجماع. (شامي، زکریا ۵/۲۶۸، کراچی ۳/۵۶، ملتقى الأبحر مع مجمع الأنہر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۱۶۹، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۵۴۲، جدید ۱/۵۹۲) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احترم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۲/۱/۲۹

كتبه: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۱۴۳۲/۹
(فتاویٰ نمبر: الف ۱/۱۸۵۳/۳۱)

فون پر تین طلاق دینے کا اقرار کرنا

سوال [۶۶۷۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متن مسئلہ ذیل کے

بارے میں : کہ نصیر کا نکاح رشیدہ سے ہوا، سامان جیز اور نقدرو پیز زیادہ نہ ملنے کی وجہ سے رشیدہ کو گالی گلوچ اور مار پیٹ کرنا شروع کر دیا اور طلاق کی دھمکی دی جانے لگی، حتیٰ کہ موبائل فون پر اپنی بیوی کو نصیر نے طلاق دیدی۔ رشیدہ نے جب اپنے والدین اور رشتہ داروں سے تذکرہ کیا، تو اس نے انکار کیا، پھر جب لوگوں نے دباوڈا تو اقرار کیا کہ ہم نے دو طلاق دی تھیں اور دس دن بعد رجعت کر لی، مفتیان کرام نے اس بات کو مان کر دو طلاق رجعی کا فتویٰ دیا اور دونوں میں زوجیت قائم رہی؛ لیکن مطالبہ نقدی کو لے کر ناجاہی باقی رہی، پنجوں نے لڑکے کی بدسلوکی اور ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے، اگر یمنٹ (بودھ) بنو کر خستی کر دیں، اگر یمنٹ بننے کے بعد بھی ناز بیسا لوک ظلم و ستم باقی رہا، حتیٰ کہ ۲۹ رمضان المبارک کے دن مارتے مارتے لڑکی کو بے ہوش کر دیا، بعدہ اس نے موبائل پر چند دنوں بعد پھر کہا کہ دو طلاق پہلے دیدی تھیں اور ایک طلاق باقی تھی، وہ بھی ہم نے دیدی، تم کو رکھ کر ہم کیا کریں گے، تم کو سزادے کر ختم کر دینا ہے، لڑکی نے مزید دریافت کیا کہ اب ہمارا آپ کا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں رہا، جواب ملا کہ نہیں، تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں، لڑکی رونے لگی اور اپنے رشتہ داروں کو خبر کر دی۔

لڑکا پھر اپنے باپ سے بات کر رہا تھا، باپ نے پوچھا کہ تم نے کیا کہا، تمہاری بیوی روئی ہے اور کہتی ہے کہ طلاق دیدی ہے، تو کیا ہوا ہم کہیں گئے نہیں دی تو طلاق نہیں ہوگی، ان الفاظ کو دہراتے ہوئے ایک عورت نے کہا کہ خوب ہے، طلاق بھی دیدی اور کہتا ہے کہ ہم انکار کر دیں گے، تو طلاق نہیں ہوگی اس تمام گفتگو کو سننے والی چار عورتیں اور ایک سولہ سال کا لڑکا بھی ہے، اس کے بعد گاؤں میں پنجاہیت ہوئی اور پنجوں نے طرفین کے بیانات دگواہوں کے بیانات سن کر لڑکے سے مزید دریافت کیا کہ اب کیا کرو گے، تم طلاق دے کر انکار بھی کرتے ہو، تو انہوں نے پنجوں سے کہا کہ آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے، بھنے کی کوئی صورت نہیں ہے، پنجوں کا فیصلہ ہوا کہ مہر دین و سبھی لیں دین دے کر دوں فریق آزاد ہو جائیں۔

دونوں فریق نے فیصلہ کو مان کر لڑکے نے چالیس ہزار روپے پنچوں کے حوالہ کر دیئے اور باقی روپے کے لئے ایک مہینہ کی مہلت لی، ایک مہینہ کے بعد جب پنچوں نے مزید روپیوں کا مطالبہ کیا تو لڑکے کی طرف کے دیگر لوگوں نے مداخلت کر کے رکوادیا اور کہا جاتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی۔ دریں صورت موبائل پر کہنا کہ ہم نے دیدی ہے، تو کیا ہو گا ہم کہیں گے نہیں دی، تو نہیں ہو گی اور پنچوں کے فیصلہ کو مانتے ہوئے روپے مجموع کر دینا اقرار طلاق ہے یا نہیں؟

مزید یہ کہ رشیدہ دینی علوم سے واقفیت رکھتی ہے اس کا کہنا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتی ہوں کہ میرے شوہرنے موبائل پر مجھے طلاق دیدی ہے، تینوں طلاق کے بعذاب میں شوہر مذکورہ کے پاس کسی حال میں نہیں رہ سکتی؛ چونکہ اب مزید رہنا حرام کاری ہے، آدمی چاہے جو کہے لیکن خدا تو دل کا حال بھی جانتا ہے، مرنے کے بعد میں خدا کو یا جواب دوں گی، گود میں ۹ مہینہ کی بچی بھی ہے۔

المستفتی: راشق الہدی، سمیٰ پور، لادھکیسیا، سلمازبرگ
با سمه سجائنا تعلیٰ

الجواب وبالله التوفيق: حسب تحریر سوال مسئولہ صورت میں جب شوہرنے فون پر طلاق دینے کا اقرار کیا ہے اور اس پر گواہ بھی موجود ہیں اور پھر اس نے پنچوں کو اپنے معاملہ کا مختار بنایا اور پنچوں نے بھی دونوں کے درمیان آزادی اور تفریق کا فیصلہ کر دیا، تو اب حکم شرعی یہ ہے کہ رشیدہ پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔ اب بدون حل والہ شرعیہ ان کے درمیان نکاح درست نہیں ہے اور بوقت نکاح جو مہر مقرر ہوا تھا شوہر کے ذمہ اس کا ادا کرنا لازم ہے۔

أقل ما يجوز في حقوق الناس فيما بينهم من الطلاق
والعتاق شهادة رجلين، أو رجل، وأمرأتين. (المحيط البرهانی،

المجلس العلمی، بیروت ۱۴۶/۱۳، ۱۴۸۷۴، رقم: ۱، مجمع الأنهر، دارالكتب
العلمیہ بیروت ۲۶۱/۳

وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثةً، وجحد الزوج،
والمرأة ذلك فرق بينهما. (تاتارخانیہ، ذکریا/۱۱۶، رقم: ۱۳/۷۴)

حکماً رجلاً معلوماً فحكم بينهما ببينة، أو إقرار، أو نكول ورضي
بحکمه صح. (تغیر الابصار مع الدر المختار، کراچی ۵/۴۲۸، ذکریا/۸/۱۲۷)

وإن كان الطلاق ثلاثةً في الحرمة—لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره
نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هدایۃ اشرفی
دیوبند ۲/۳۹۹، هندیہ، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵) فقط والله سبحانه وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۲۷ ربی احری ۱۴۳۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۹/۱۰۲۲۲)

شوہر کا میں نے تم کو آزاد کیا تین بار کہنا

سوال [۲۶۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ ایک شخص شام کو کام سے فراغت پا کر گھر واپس آیا، یہوی سے کسی
بات پر ناجاہتی ہو گئی، بات یہاں تک بڑھ گئی کہ یہوی نے شوہر کو غلط ناشائستہ الفاظ بول
دیئے۔ اب ظاہر ہے کہ شوہر کا غصہ مزید تیزی پکڑ گیا، تو شوہر نے اسی نازک حالت
غضب میں کہا کہ میں نے آزاد کیا، میں نے آزاد کیا، میں نے آزاد کیا، تین مرتبہ یہ
الفاظ بولے، اب وہ شخص کہتا ہے کہ جس وقت یہوی نے غلط اور ناشائستہ الفاظ بولے،
تو اس وقت حالت غضب کی انتہا نہ رہی ایک دم چکر آیا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ زبر
دستی مجھ سے کوئی کھلوار ہا ہے نیت نہیں تھی، اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ مذکورہ الفاظ

سے مذکورہ حالت میں طلاق ہوئی یا نہیں؟ اگر طلاق واقع ہو گئی، تو کوئی صورت ایسی نکل سکتی ہے کہ دو بارہ نکاح جڑ جائے؟

المستفتی: اچھن خال، نزوی، چندوی، مراد آباد (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: آزاد کیا کے الفاظ ہمارے عرف میں بیوی کے حق میں طلاق صریح کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں، جب شوہرن "میں نے آزاد کیا کا لفظ تین بار استعمال کیا ہے، تو اس سے بیوی پر تین طلاق واقع ہو کروہ مغلظ ہو چکی ہے۔ اب بغیر حلالہ کے دو بارہ نکاح بھی درست نہ ہوگا، دو بارہ نکاح کی صرف یہی ایک شکل ہے کہ عدت گزارنے کے بعد دوسرے مرد سے شادی کرے اور شوہر کی اس کے ساتھ ہمبستری ہو جائے، پھر شوہر ثانی ہمبستری کے بعد طلاق دیدے یا مر جائے تو اس کے بعد دو بارہ عدت گذر نے کے بعد یہی شوہر اول اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ (ستفادہ: امداد الاحکام ۱۲/۳، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۲/۲۷، جدید ۱۲/۳۵۸، امداد الفتاویٰ ۳/۵۲۵)

سرحتک وهو رها كر دم؛ لأنه صار صريحاً في العرف (إلى قوله)
فإن سرحتك كنایة؛ لكنه في عرف الفرس غالب استعماله في الصریح،
فإذا قال رها كردم: أي سرحتك يقع به الرجعي مع أن أصله كنایة
أيضاً، وما ذلك إلا؛ لأنه غالب في عرف الناس استعماله في الطلاق،
وقد مر أن الصریح مالم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت.
(شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات، کراجی ۳/۹۹، زکریاء / ۳۰)

وإن كان الطلاق ثلاثةً في المحرّة، وثنين في الأمة لم تحل له
حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها،
أو يموت عنها، كما في الهدایة. (عالماگیری، زکریا قدیم ۱/ ۷۳، زکریا

جديد ۱ / ۳۵، هداية اشرفی دیوبند ۲ / ۹۹ (فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم)

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان الدین

۱۴۲۴ھ
رذی تعدد

(نحوی نمبر: الف ۳۹۸، ب ۳۹۸)

”آزاد کرتا ہوں“ تین مرتبہ کہنے سے طلاق مغلظہ

سوال [۶۸۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میں عبدالرؤف نے اپنی بیوی کو اس کی بذریبائی پر یہ کہہ دیا کہ میں تھے آزاد کرتا ہوں، میں نے تین بار کہہ دیا، اس وقت وہاں اور کوئی نہیں تھا، میری بیوی باہر گئی اور قریب کے ایک مرد ناپینا اور ایک عورت کو بلا کر لے آئی، جب انہوں نے معلومات کی اور میری بیوی کی ضد برابر جاری تھی، تو اس کی ضد اور بحث پر میں نے ایک بار اور کہہ دیا، پھر ایک فتویٰ لیا، جس میں یہی احوال لکھے گئے، تو پھر مفتی صاحب نے جواب دیا کہ ایک طلاق باشہ ہوتی ہے اور عدت میں نکاح کر لے پھر لڑکی ایک معزز شخص کے ساتھ میرے پاس آئی اور گاؤں والوں نے یہ دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور فتویٰ میں بھی گنجائش ہے، میرا اس سے نکاح کر دیا، پھر کچھ مخالف لوگوں نے اپنا مضمون لکھ کر فتویٰ منگایا جس کا یہ جواب تھا کہ حلالہ کرنا چاہئے، اب جواب کو سنتے ہی مخالف لوگوں نے میرے اوپر اذان دیئے تکمیر کہنے سے روک لگادی۔ اب دریافت یہ کرنا ہے کہ اذان دینا میرے لئے صحیح ہے یا نہیں؟ تکمیر کہنا کیسا ہے اور حلالہ کرنا ہو گایا نہیں؟

المستفتی: عبدالرؤف، مغلپورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب لفظ آزاد کرتا ہوں تین مرتبہ کہہ دیا ہے، اس سے طلاق مغلظہ واقع ہو گئی؛ اس لئے کہ ہمارے عرف میں لفظ آزاد کر دینا طلاق کے لئے بولا جاتا ہے۔

سرحتک و هو رہا کر دم؛ لأنہ صار صریحًا فی العرف (وقوله) رہا کردم؛ أي سرحتک یقع به الرجعی الخ. (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات، زکریاء / ۴۲۵، کراچی ۳/۲۹۹، امداد الفتاوی ۲/۵۳۰)

لہذا بلا حلالہ بیوی کو رکھنا جائز نہ ہوگا؛ لیکن جب آپ نے کسی عالم کے فتویٰ کے مطابق بلا حلالہ نکار کر لیا ہے، گواں فتویٰ میں لکھنے والے سے غلطی ہوگئی ہے، شریعت کے مطابق آپ فاسق نہیں ہیں، آپ کے مسجد میں جانے کی وجہ سے مسجد ناپاک نہیں ہوئی، اور آپ کے لئے اذان دینا تکبیر کہنا سب شرعی طور پر جائز ہے، مس شرط یہ ہے کہ بیوی کو حلالہ سے قبل نہ کھلیں اور ماضی سے تو بے کر لیں۔ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

لکتبہ: شیخ احمد قاسمی عفان الدین عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۱ ربیع الثانی ۱۴۱۵ھ

۱۴۱۵/۰۲/۲۱

(فتویٰ نمبر: الف ۳۹۷۶/۳۱)

بیوی کے مطالبه پر شوہر کا تین طلاق دینا

سوال [۶۶۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شوہرنے بیوی کے مطالبه پر وکیل کے سامنے کہا ”میں نے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، تیسری مرتبہ لفظ طلاق کہنے کے بعد غم اور رنج کی وجہ سے آواز بند ہو گئی تھی۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ اس صورت میں بیوی پر کتنی طلاق واقع ہوئیں اور دوبارہ ازدواجی زندگی کی کیا شکل ہے۔

المسئٹی: احمد حسن صدیقی، ملکیان، سیوہارا، بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہر کے دو مرتبہ طلاق کہنے کے بعد تیسری مرتبہ طلاق دی کے الفاظ کہہ چکنے کے بعد آواز بند ہوئی، تو اب ایسی صورت میں طلاق مخالفہ

واقع ہو جکی ہے؛ لہذا حلالہ شرعیہ اور نکاح جدید کے بغیر میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً
غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، ۵۳۵/۱، جدید ۱/۳۹۹، هدایۃ اشرفی دیوبند ۲/۶)

تاتار خانیہ، زکریا ۵/۱۴۷، رقم: ۷۵۰۳

لو قال لزوجته : أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلثاً . (الأشباه والنظائر
قدیم ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۱۵ مرجب المرجب ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۱۷، ۳۶)

بیوی کے مطالبہ پر ”جا میں نے تجھے طلاق دی“، تین مرتبہ کہنا

سوال [۲۶۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میں محمد عاقل اور میری بیوی کے درمیان کچھ باتیں غصہ اور ناراضگی کی ہو گئیں، اسی درمیان بیوی نے مجھ سے طلاق مانگی، اس پر میں نے تین بار یا چار بار یہ کہہ دیا کہ ”جا میں نے تجھے طلاق دی“، اب اس صورت میں بعد میں ہم دونوں پچھتار ہے ہیں اور دوبارہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس کے لئے شریعت میں کوئی شکل ہوتا ہم کو بتایا جائے۔

المستفتی: محمد عاقل، مغلوبہ اول، مراد آباد

بسمہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: آپس کے تکرار کے دوران جب عاقل نے اپنی بیوی کو اس کے طلاق مانگنے پر تین بار چار بار طلاق دی کے الفاظ کہدیئے ہیں، اس سے بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو گئی ہے، اب آپس میں دونوں ایک دوسرے پر بالکل حرام ہو گئے ہیں۔

اب اگر دونوں دوبارہ ساتھ رہنا چاہیں تو صرف حلالہ کا طریقہ ہو سکتا ہے اور اس کی شکل یہ ہے کہ جس دن طلاق کا واقعہ پیش آیا ہے، اس دن کے بعد سے تین ماہواری گذرنے تک عدت گذارنا بیوی پر لازم ہے، اس کے بعد بیوی کا نکاح کسی دوسرے مرد کے ساتھ ہو جائے، پھر اس کے ساتھ ہمستری بھی لازم ہے، اس کے بعد وہ دوسرا شوہر طلاق دیدے اور اس کی طلاق کے بعد بھی تین ماہواری کے ساتھ عدت گذارنا لازم ہے، اس کے بعد محمد عاقل کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔

قالت لزوجها: من باتونمي باشم، فقال الزوج: مباش، فقالت: طلاق
بدست تو است مرا طلاق کن، فقال الزوج: طلاق مي کنم، طلاق مي کنم،
وكرر ثلثاً طلقت ثلثاً. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۸۴، جدید ۱/۴۵۲)

لوکرر لفظ الطلاق وقع الكل. (شامی، کتاب الطلاق، باب طلاق غیر

المدخول بها، کراچی ۴/۳۹۳، زکریا ۴/۵۲۱)

قال الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنِ بَأْنُفُسِهِنَّ ثَلَاثَةٌ فُرُوعٌ . [سورة

البقرہ ۲۲۸]

عن عائشة قالت: أمرت ببريرة أن تعتد بثلاث حيض. (ابن ماجة،
الطلاق، باب خيار الأمة إذا اعتقت، النسخة الھندیہ ۱۵۰، دارالسلام رقم: ۷۷۰)
وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرثة، وثنين في الأمة لم تحل له
حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها،
أو يموت عنها. كما في الھداية. (عالـمـگیری، زکریا قدیم ۱/۴۷۲، زکریا
جدید ۱/۵۳۵) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان الدین

۲۸ رب جمادی

(فتویٰ نمبر: الف ۳۸/۲۷)

بیوی کے اصرار پر شوہر کا تین طلاق دینا

سوال [۲۶۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ۱۷ اگست ۲۰۲۰ء کو کافی دنوں کے تکرار کے بعد اپنی اہلیہ ہما کوئی مرتبہ کے اصرار پر ان کے دو بھائیوں کی موجودگی میں تین مرتبہ طلاق دیدی، وہ اسی وقت اپنے دو بھائیوں کے ساتھ اپنی والدہ کے پاس نجیب آباد چلی گئی، جب اس سلسلہ میں دھامپور کے مفتی صاحب (جو کہ شہر امام بھی ہیں) سے رابطہ قائم کیا گی، تو انہوں نے تحریری طور پر طلاق کا فتویٰ دیا، ہما کے گھر والوں نے یہ بات تسلیم نہیں کی، ان کا کہنا تھا کہ طلاق نہیں ہوئی ہے۔ بہر حال انہوں نے لڑکے محمد و سیم کو کسی طرح راضی کیا کہ وہ بنا کسی عدت حلالہ کے لڑکی کو سر برپھول کے ساتھ الگ مکان میں رکھے، اس میں محمد و سیم کی والدہ، بھائیوں، بھائیوں کی بھی رضا شامل نہیں ہے، اب ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہئے؟ و سیم یا ان کی اہلیہ سے تعلق رکھیں یا نہیں؟ اور ان کے گھر آنا جانا رکھیں یا نہیں؟

المستفی: شاہ نواز، پیر غیب، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب بیوی کے اصرار پر شوہر محمد و سیم نے تین طلاقیں دیدی ہیں، تو اس سے بیوی پر طلاق مظلہ واقع ہو کر بیوی شوہر پر قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے، اس کے بعد دونوں کا بغیر حلالہ کے رہنا بدکاری اور زنا کاری ہے، اس کی نحوس سے ادب آسکتے ہیں، حدیث پاک میں اس کو علامات قیامت سے میں ایک خطرناک علامت بتایا گیا ہے، لہذا متعلقین و رشتہ داروں پر لازم ہے کہ فوری طور پر دونوں کو الگ کر دیں۔

ولو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلثاً. (الأشباه والناظائر

عن ابن عمر^{رض}، أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال: المطلقة ثلاثة لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره، ويختلطها وتذوق من عسيتها. (المعجم الكبير للطبراني، دار أحياء التراث العربي بيروت ۲۹۵/۱، رقم: ۳۴۲۹، مجمع الزوائد، دار الكتب العلمية، بيروت ۴/۳۴)

وفي رواية قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: العسيلة الجماع.
(مجمع الزوائد ۴/۳۴)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة..... لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هنديہ، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳)

قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم:..... يابن مسعود إن من أعلام الساعة وأشراطها: أن يكثر أولاد الزنا، قلت: أبا عبد الرحمن وهم مسلمون؟ قال: نعم! قلت: أبا عبد الرحمن والقرآن بين ظهرانيهم؟ قال: نعم! قلت: أبا عبد الرحمن وأنى ذلك؟ قال يأتي على الناس زمان يطلق الرجل المرأة، ثم يجدد طلاقها، فيقيم على فرجها فهما زانيان ما أقام. (المعجم الكبير، دار أحياء التراث العربي بيروت ۱۰/۲۳، رقم: ۵۵۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

لکتبہ: شیر احمد قاسمی عفان الدین عن
الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۰۹ھ / ۱۱/۱۶
(فتوى نمبر: الف ۳۹) ۱۴۳۱ھ / ۱۱/۱۲

مطلوبہ پر طلاق ثلاثة دینے کی صورت میں عدت، مهر اور جہیز کا حکم

سوال [۲۶۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) میں نے اپنی بیوی ششم پر دین کو تین طلاق اس کے مطالبہ پر دیدی ہیں،

اس سے پہلے بھی طلاق کا مطالبہ کرتی رہتی تھی، اس وقت بھی طلاق مانگ رہی تھی، میں نے غصہ میں طلاق دیدی ہے۔

(۲) اب میرے ہی گھر پر عدت گزار رہی ہے ۲۴ فروری کو طلاق ہوئی تھی کتنے دن عدت ہو گی اور عدت کے بعد کہاں رہے؟ میرے ہی گھر میں رہے یا میکہ جائے گی؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟

(۳) مہرا اور جیز کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

المسئلہ: محمد نوید خان، آزاد گیر، سنبھل روڈ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) طلاق خوشی میں نہیں دی جاتی ہے، غصہ ہی میں دی جاتی ہے، جب آپ نے اپنی بیوی کو اس کے کہنے پر تین طلاقیں دیدی ہیں، تو اس سے بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر آپ پر قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم، ۲۱۹، جدید ذکریا (۳۷۶)

والبدعی ثلاٹ متفرقة، وكذا بكلمة واحدة بالأولیٰ. (شامی مع الدر، ذکریا ۴/۴۳۴، کراچی ۳/۲۳۲، ۲۳۲)

(۲) آپ کے گھر پر عدت گزار سکتی ہے، اگر فتنہ کا اندر یہ نہ ہو؛ لیکن جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی آپ سے سخت پرده لازم ہے اور ۲۴ فروری کے بعد سے تین ماہواری گذر نے پر اس کی عدت پوری ہو جائے گی اور عدت پوری ہوتے ہی اس پر لازم ہے کہ اپنے میکہ چلی جائے؛ اس لئے کوہ آپ کے لئے مثل اجنبیہ؛ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ پر حرام ہو چکی ہے؛ کیونکہ بغیر حالہ کے اس کے ساتھ آپ کا نکاح بھی درست نہیں ہے۔

ولهمما أن يسكننا بعد الشلاٹ في بيت واحد إذا لم يلقيا التقاء الأزواج، ولم يكن فيه خوف فتنة. (شامی، ذکریا ۵/۲۲۷، کراچی ۳/۵۳۸)

و هي في حق حرمة..... تحريم لطلاق..... بعد الدخول (إلى قوله) ثلاث حيض كواهل. (رد المختار مع الدر المختار ۱۸۲-۱۸۱، كراچی ۳/۵۰۵-۵۰۴) (۳) مطلق بيوي کے مہر کی رقم اگر آپ پر باقی ہے، تو وہ اور جہیز کا سامان اس کو واپس کرنا آپ پر لازم ہے۔

بل کل أحد یعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلقها تأخذه كلها، وإذا ماتت يورث عنها. (شامي، کراچی ۳/۱۵۸، زکریاء ۴/۳۱)

ويتأكد المهر عند وطء، أو خلوة صحت.....، أو موت أحدهما. (شامي، کراچی ۳/۲۰، زکریاء ۴/۲۳۳) فقط والله سبحانه وتعالى عالم

کتبہ: شیعیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۱۴۳۳ھ ربيع الثانی ۲۲

(نومی نمبر: الف ۳۰/۶۰۶۵)

طلاق کے مسلسل مطالبات پر شوہر کا ”دی“ کہنا

سوال [۲۶۸۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مجھیل احمد ویسین بیگم کے درمیان اپنے سر صاحب جناب تصور حسین کے میرے بھائی کے رشتہ کے سلسلہ میں ناجائز برائی کرنے کی بنا پر جھگڑا ہو گیا اور میرے کہنے کے باوجود بیوی نے بھی یقین نہیں کیا کہ جناب تصور حسین صاحب نے برائی کی ہے، اس بات کو لے کر کافی کہا سنی ہو گئی اور میری بیوی نے طلاق کی مانگ کی اور کہا کہ مجھ کو الگ کر دو، یہ وردمیری بیوی نے صحیح سات بجے سے دس بجے تک رکھا، تب میں نے کہدیا کہ دی، دی، دی اور کہا کہ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ اور اس کے باوجود جب وہ جانے لگی تو روکا، جس کے درمیان بر قع بھی پھٹا، جس کا ایک ٹکڑا میرے پاس ہے، میرے بعد دیگر لوگوں کے روکنے پر بھی وہ نہیں رکی۔

المستفتی: مجیل احمد ایڈوکیٹ، امروہہ، مراد آباد

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب یوں صحیح لے رجے سے اربعے تک مسلسل طلاق مانگتی رہی ہے اور اس مانگ اور مطالبہ پر آپ نے چار مرتبہ "دی" کہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی یوں پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے، اب دونوں کا ساتھر ہنا حرام کاری ہو گی۔
ولو قالت: مرا طلاق کن، مرا طلاق کن، مرا طلاق کن، فقال:
کردم کردم کردم تطلق ثلاثا۔ (عالیٰ مگیری، زکریا قدیم ۳۸۳/۱، جدید زکریا ۴۵۱/۱) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیخ احمد قادری عفان الدین عنہ
۱۹ ارجمندی الاولی ۱۴۱۳ھ
(فتاویٰ نمبر: الف/۲۸، گلشن المکمل ۳۱۸۷)

”میں نے تجھے طلاق دی“، تین مرتبہ کہنے سے طلاق

سوال [۶۶۸۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا شوہر محمد ارشاد مجھے آئے دن شراب پی کر مارتا پیٹتا تھا اور اکثر آئے دن طلاق دیئے کو کہتا رہتا تھا، ایک دن آٹھ جون ۲۰۰۲ء کو مجھے بہت مارا اور تین بار کہا ”میں نے تجھے طلاق دی“ اور تو میرے گھر سے فوراً چلی جا میں اپنے بھائیوں کے گھر چلی آئی اور میرے شوہر محمد ارشاد مجھے چھوڑ کر دہلی چلے گئے اور اب تک کوئی خیر خبر نہیں لی اور اب دوسال ہو چکے ہیں، اب تک تین لڑکیوں کو لے کر اپنے بھائیوں کے گھر زندگی گزار رہی ہوں۔ مہربانی کر کے بتایئے کہ مجھ پر طلاق ہو گئی یا نہیں؟

المستفتيۃ: زینب جہاں، ملا قاسم مجدد فیل خانہ، مراد آباد

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر سائلہ اپنے بیان میں پچی ہے کہ اس کے

شہر نے اس کو دو سال قبل تین بار طلاق دی ہے، تو سائلہ پر تین طلاق اسی وقت ہو چکی تھیں۔ اب اس درمیان اس کی عدت بھی پوری ہو چکی ہے، اب کسی دوسرا جگہ نکاح کر کے باعصمت زندگی گزار سکتی ہے، اب اگر پہلا شوہر آ کر ساتھ رکھنا چاہے، تو اس کے ساتھ نکاح بھی درست نہ ہوگا۔

قالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةُ قُرُونٍ . [البقرة: ۲۲۸]

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلثاً . (الأشباه والنظائر

قدیم ۲۱۹، جدید زکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وشتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها . (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/۳۹۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

مررجب المرجب ۱۳۲۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۸۷، مئہ ۹۰۶)

لفظ ایک دو تین سے طلاق کا حکم

سوال [۲۶۸۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا نام عائشہ ہے، میری شادی عارف کے ساتھ تقریباً چھ ماہ قبل ہوئی تھی، میں اپنے شوہر کے یہاں چار سے پانچ بارگئی ہوں، ایک دن وہ مجھے میرے گھر چھوڑنے کے لئے میرے ساتھ آئے اور میرے گھر کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھ کر یہ الفاظ کہے کہ آج سے میرے درمیان کوئی تعلق نہیں، ایک، دو، تین، وہ یہ الفاظ بول کر چلے گئے، جب ان سے دوبارہ براۓ تحقیق پوچھا گیا، تو وہ انکار کرنے لگے اور قسم بھی کھالی؛ حالانکہ یہ الفاظ میرے روبرو بولے گئے ہیں اور میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں

اور اس پر میں بھی قسم کھارہی ہوں اور مجھے اللہ کا خوف ہے اور میں اپنی زندگی بر باد کرنا نہیں چاہتی، ایسی صورت حال میں جب شوہر طلاق کا انکار کرے اور قسم بھی کھالے، تو میرے لئے شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور میرے شوہر کے لئے کیا حکم ہے؟ ہمارے عرف میں ایک، دو، تین، طلاق کے الفاظ کے بغیر بھی طلاق کے لئے مانے جاتے ہیں۔ (مسنون: فتاویٰ رحیمیہ ۳۹۱/۸)

المستفیٰ: عائشہ بنتی، گودھر (گجرات)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب آپ کے یہاں عرف میں ایک، دو، تین، طلاق ہی کے لئے بولا جاتا ہے اور شوہرنے بیوی کے شانہ پر ہاتھ رکھ کر یہ الفاظ کہے ہیں اور ساتھ میں یہ بات بھی کہی ہے کہ میرے اور تیرے درمیان کوئی تعلق نہیں، اس سے تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں ہیں۔ آئندہ بلا حلالة دونوں میں نکاح بھی جائز نہیں۔

قال لامرأته: أنت مني ثلاثا، طلقت إن نوى، أو كان في مذكرة

الطلاق. (شامی، کراچی ۲۷۵/۳، زکریا ۴/۴۹۷)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة..... لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هدایۃ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، زکریا جدید ۱/۵۳۵، الفتاوی التاتارخانیة، زکریا ۵/۱۴۷، رقم: ۳/۷۵۰)

لیکن جب بعد میں شوہر انکار کر رہا ہے اور بیوی کو یقین سے معلوم ہے اور بیوی نے خود سن رکھا ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کو ایسا کرنے کی گنجائش ہے کہ مہر معاف کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کر لے اور اگر اس کے لئے بھی وہ تیار نہ ہو، تو عورت کو اس سے علیحدگی اور راہ فرار اختیار کرنے کے لئے کوئی بھی شکل اختیار کرنے کا حقت ہے۔ (مسنون: ایضاح الانوار ۲/۱۰۲)

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طلاق بآلف درهم، فقبلت طلقت وعليها ألف درهم. (الفتاویٰ التاتارخانیة، زکریا ۴/۶۰۰، رقم: ۷۰۳۷)

والمرأة كالقاضي إذا سمعته، أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه، والفتوى على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها؛ بل تفدي نفسها بمال، أو تهرب. (شامی، کراچی ۲۵۱/۳، زکریا ۶۳/۴، البحر الرائق، کوٹھ ۳/۲۵۷، زکریا ۳/۴۸) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان متصور پوری غفران
۱۴۲۹/۸/۲

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۲ ربیعان المغطیم ۱۴۲۹ھ

(فتوى نمبر: الف ۹۶۹۲/۳۸)

بیوی کو مخاطب کر کے تین مرتبہ طلاق دینا

سوال [۶۶۸۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متن مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ باپ اور بیٹے میں کچھ گرم مزاجی کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، اسی دوران لڑکے نے طلاق، طلاق، طلاق، ایک ہی سالس میں تین مرتبہ کہا نہ تو اس نے بیوی کا نام لیا اور نہ ہی اس کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی تھی، اس کے تقریباً ایک منٹ بعد اس نے بیوی سے کہا کہ میں نے آج تیری چھٹی ہی کر دی، یہ کہتے ہوئے شوہر کی ماں اور اس کی ہمسیرہ نے بھی سنا، اتنا کہنے کے بعد وہ پریشان ہونا شروع ہو گیا۔ اور اس کی یہ حالت تھی کہ بھی مکان میں اندر جاتا اور کبھی باہر آتا اور یہ کہتا کہ آج میں نے کتنی بڑی غلطی کر لی، اپنا گھر بر باد کر لیا اور اس کے دونپیچے بھی ہیں، ایک لڑکی اور ایک لڑکا اور تیسرا حمل ہے، جس کا وقت ساڑھے سات ماہ ہے، لڑکی کے گھروالے اور لڑکے کے گھروالے بھی موجود تھے اور دونوں کے رشتہ دار موجود تھے، ان کے درمیان دونوں نے ایک ساتھ ایک ایک جگہ زندگی گزارنے کی رضامندی ظاہر کی ہے؛ لہذا آپ بتائیں اس مسئلہ میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ طلاق پڑی یا نہیں؟ اگر طلاق پڑی ہے تو کون سی پڑی؟

المستفتی: عبدالکریم، مخلّه: جامع مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شوہر نے چونکہ اپنی بیوی کو مخاطب کر کے اور بیوی ہی کو مراد لے کر غصہ کی حالت میں طلاق، طلاق، طلاق، کے الفاظ کہے ہیں، تو اس کی بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں اب بغیر حالاً شرعیہ کے میان بیوی کی طرح رہنا درست نہیں۔ (مستقلاً: فتاویٰ محمدیہ ۲۷/۱۲)

ولایلزם کون الإضافة صريحة في كلامه-إلى- لأن العادة أن من له امرأة، إنما يحل بطلاقها لا بطلاق غيرها۔ (شامی، ۲۴۸/۳، زکریا ۴/۴۵۸)
لو قال لزوجته: أنت طلاق، طلاق، طلاق، طلقت ثلاثاً۔ (الأشباه والنظائر قدیم ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، أو يموت عنها۔ (هدایۃ، اشرفی دیوبند ۳۹۹/۲، هندیۃ، زکریا قدیم ۱/۷۳، ۴/۵۳۵، تاتارخانیۃ، زکریا ۱۴۷/۱، رقم: ۷۵۰۳) فقط والله سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۲۲۹ مرجب المرجب ۱۳۲۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۸/۳۶۷)

بیوی کو زبانی تین طلاق دینا

سوال [۶۶۹۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ احرقر فعل الرحمن لاجپت نگر کرو لہ مراد آباد نے اپنے پڑوی محدثین محمد عتیق الرحمن بجنوری میعلام مدرسہ شاہی اور اپنے ملازم امام الدین، نیز میری اہلیہ کے ماموں محمد دین کی موجودگی میں اپنی اہلیہ کو تین طلاق دیدی ہیں اور تحریر کے ذریعہ بھی مزید

تین طلاقیں دیدں تو یہ واقع ہوئیں یا نہیں؟

المستفتی: فضل الرحمن، کرولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب آپ اپنی بیوی کو ۳ طلاقیں زبانی طور پر دے چکے ہیں، تو آپ کی بیوی پر طلاق مخلظہ پڑھکی ہے اور وہ آپ کے لئے اب بالکل حرام ہو چکی ہے؛ لہذا آپ کے لئے اس بیوی کے ساتھ میاں بیوی کی طرح رہنا قطعی طور پر حرام ہے اور آئندہ آپس میں بغیر حلالہ کے نکاح بھی جائز نہیں ہے، طلاق مخلظہ واقع ہونے کے بعد اب تحریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. كذا في الهدایة. (هنديہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، تاتارخانیہ، زکریا ۵/۰۴، رقم: ۷۵۰۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احترم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۱/۲۶

كتبه: شمسير احمد قاسمي عفوا اللہ عنہ
رربع الثاني ۱۴۳۱ھ
(فتوى نمبر: الف ۳۸) ۹۹۹۳/۳۸

”میں نے اس کو طلاق دی“، تین مرتبہ کہنا

سوال [۶۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اپنے گھر میں خانگی امور سے متعلق اپنی بیوی کو زدکوب کر کے (یہ کہتا ہوا کہ جا یہاں سے نکل جا) پڑوس میں فوراً پہنچا اور محو گفتگو ہوا، پڑوس کے اس سوال پر کہ تمہارا چہرہ اداس کیوں ہے، شخص مذکور نے جواب میں کہا کہ میں نے اس کو طلاق دی، یہ لفظ تین مرتبہ کہا، کچھ تو قف کر کے پھر کہا کہ میں نے اس کو طلاق دی، یہ لفظ دو مرتبہ کہا، پڑوس کی

اس گفتگو میں کوئی مرد یا باغ اڑکا نہیں تھا صرف تین عورتیں موجود تھیں، جن میں سے ایک نے تین مرتبہ اور دوسری نے پانچویں مرتبہ یہ لفظ سنایا اس صورت میں زید کی بیوی کو طلاق ہو گئی یا کوئی گنجائش باقی ہے؛ جبکہ گواہاں میں صرف عورتیں ہی تھیں، جنہوں نے دو دن کے بعد زید کی بیوی سے یہ گفتگو نقل کی ہے۔

المستفتی: محمد عمر غازی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ میں مذکورہ صورت میں زید کی بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں ہیں اور طلاق مغلظہ واقع ہونے کی وجہ سے بغیر حالہ شرعیہ کے آپس میں نکاح بھی درست نہیں ہے۔

وفي الأشباء: لو قال لزوجته: أنت طلاق، طلاق، طلاق، طلقت ثلاثاً.

(الأشباء والنظام قديم ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶)

وفي الهندية: وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً. (عالِمِ الْمُغَيْرَيْ، زکریا قديم ۱/۴۷۳، ۲/۳۹۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۱/شعبان المعظم ۱۴۲۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۸، جلد ۱/۵۳۵، هدایہ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹)

جب آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو میں تینوں طلاق دے رہا ہوں کہنے کا حکم

سوال [۶۶۹۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید سراں سے اپنے گھر کسی حاجت کے لئے آیا، بیوی نے ناشتہ کھانے کے لئے زید کو بلایا، ناشتہ کے سلسلہ میں میاں بیوی میں بھگڑا ہوا، بیوی نے شوہر کو برا بھلا کہا،

اور شوہر نے بیوی کو مارا پیٹا، اتنے میں بیوی کا چھپیرا چچا آ کر کہنے لگا، اگر ایک باپ کی اولاد ہو تو مار کر دیکھو، مارنہیں سکتے ہو، اس کے بعد زید نے چھپیرے سر سے کہا کہ اگر حقیقت میں یہ آپ کی لڑکی ہے تو تینیوں طلاق، بیوی روپے جمع کرنے بینک جاری ہی تھی، زید نے بیوی سے کہا کہ جو روپے بینک میں جمع کرو گی وہ روپے نہیں ملیں گے؛ اس لئے جمع مت کرو، اس کے بعد بیوی کا چھپیرا چچا اور اس کے والد اور دو چار آدمی آ کر کہنے لگے کہ تم اس سے بول نہیں سکتے اور روک نہیں سکتے ہو؛ کیونکہ تم نے اس کو طلاق دیدی ہے اور یہ لوگ زبردستی کہہ رہے تھے کہ تم طلاق دے چکے ہو اور زید جواب میں یہی کہتا رہا کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، چار پانچ مرتبہ یہی کہا، لوگوں نے کہا کہ تم طلاق دے چکے ہو اور زید وہی جواب دیتا رہا کہ طلاق نہیں دی ہے، اس کے بعد زید کے سر نے مارنا چاہا تو زید نے ڈر کے مارے کہا کہ ”جب آپ لوگ کہہ رہے ہیں“ تو میں تین طلاق دے رہا ہوں اور شرط یہ ہے کہ میں لڑکی کو واپس لاوں گا، اس کے بعد لڑکی والے زید کے گھر سے سامان وغیرہ لے کر چلے گئے، پھر اس کے بعد میاں بیوی آپس میں کہنے لگے کہ ہم آپس ہی میں شادی کریں گے، اگر شادی نہیں ہوئی، تو ہم جان دیں گے، تو اب اس صورت کے اندر کیا مسئلہ ہوگا؟ اور کیا کرنا چاہئے؟

المستفتی: شیخ الرحمن، بھاگپوری (بہار)

باسم سجنانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: پہلے جب زید نے بیوی کے چھپیرے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ”اگر حقیقت میں یہ آپ کی لڑکی ہے، تو تینیوں طلاق“، تو اس سے بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی؛ اس لئے کہ بیوی حقیقت میں اس کی بیٹی نہیں ہے؛ لیکن جب بعد کے واقعہ میں زید کو سرکی طرف سے مارنے کی دھمکی دی گئی، اس وقت زید نے یہ جملہ استعمال کیا کہ ”جب آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو میں تین طلاق دے رہا ہوں“، اس لفظ سے اسی وقت تین طلاقوں واقع ہو گئیں اور اس کے ساتھ لڑکی کو

و اپس لانے کی شرط لگانے سے وقوع طلاق میں کوئی اثر نہ ہو گا۔

و طلاق البدعة أن يطلقها ثلاثة بكلمة واحدة..... فإذا فعل ذلك وقع الطلاق. (هداية، کتاب الطلاق، باب طلاق السنّة، اشرفی دیوبند ۲/۳۵۵)

نقطہ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۷/۸/۳

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۳ رشعبان المعظم ۱۴۲۷ھ
(فتاویٰ نمبر: الف ۹۰۸۳/۳۸)

بھا بھی کی موجودگی میں تین طلاق

سوال [۶۶۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی ہیں اور طلاق دیتے وقت صرف بیوی کی بھا بھی موجود تھی اور طلاق کی صورت یہ ہے کہ میں تھے آزاد کرنے کے لئے آیا ہوں، پھر اس کے بعد تین مرتبہ طلاق طلاق کہدیا، تو کیا ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی؟

المستفتی: ریاست حسین، گھیر کھانا، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مذکورہ صورت میں بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔ اب بلا حلالة و بارہ نکاح بھی درست نہ ہو گا۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والناظائر

قدیم ۹، جدید زکریا ۳۷۶)

لو كرر لفظ الطلاق وقع الكل. (شامی، کتاب الطلاق، باب طلاق غیر المدخول بها، کراچی ۳/۲۹۳، زکریا ۴/۵۲۱)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى

تنکح زوجاً غیره نکاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هنديہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، زکریا جدید ۱/۵۲۵، هداۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹،

تاتارخانیہ، زکریا ۱/۴۷، رقم: ۳۰۷۵) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعہ احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۱۵ روزی قدرہ ۱۳۲۱ھ

(نوتیٰ نمبر: الف ۳۵/۶۶۵۱)

دو گواہوں کے رو برو تین طلاق دینا

سوال [۲۶۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں محمد شریف ولد محمد ابراہیم محلہ عید گاہ مراد آباد کی شادی ۱/۸۱، کو نفس جہاں بنت قمر الدین محلہ کسرول مراد آباد سے ہوئی تھی، میری بیوی شادی سے ۱/۸۲ سال ۳ ماہ میرے ساتھ رہی اس کے بعد مجھ سے جھگڑا کر کے میرے گھر سے چلی گئی اور اس کے بعد اپنے والد کے گھر پر رہنے لگی اور مقدمہ چلا اور آپس میں طے ہونے کے بعد ۱۰۰ رروپئے ماہوار دیتا رہا اور اس کے دوران میں نے کئی بار بلانے کی کوشش کی پر وہ آنے کے لئے تیار نہیں ہوئی، جب میں بلانے کے لئے گیا، اپنی طرف کے دوآدمی کو لے کر گیا تھا اور میں نے اس سے اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہا، تو اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ۱/۹۸ را کوتب میں نے ان دونوں کے سامنے تین بار طلاق دیدی تھی، میں نے کئی بار اسے اپنا مہر لینے کے لئے گواہ بھیجا تاکہ وہ اپنے گھر کا کوئی آدمی بھیج دے اور اپنے مہر کی رقم وصول کرے، اس پر اس نے کوئی عمل نہیں کیا، پھر اس کے بعد میں نے مجبور ہو کر اسے ایک طلاق کا نوٹس وکیل کے ذریعہ لکھ کر ۱/۹۹ را راجسٹری کے ذریعہ بھیج دیا تھا، اور اسے وہ ۱/۹۹ کو مل گیا تھا اور یہ مقدمہ عدالت میں زیر غور ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق نہیں

ہوئی ہے، جب میں نے اس کو زبانی طلاق دی تھی، تو کیا اس کو طلاق ہو گئی، جب کہ میں اقراری ہوں اور میں نے اس کو عدالت کے اندر نجح صاحب کے سامنے کہہ کر اقرار کر لیا ہے کہ میں نے اس کو طلاق دیدی ہے، میرے نکاح میں ۲۳ راشرفی اور ۲۴ ہزار روپے بند ہیں، اور وہ موجل ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟

المستفتی: محمد شریف، محلہ عبیدگاہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مذکورہ واقعہ اگر صحیح ہے، تو بیوی نفسیں جہاں پر تین طلاق واقع ہو گئیں؛ کیونکہ شوہرنے جب دو گواہوں کے رو برو بیوی کو تین طلاق دیں، اس کے بعد بذریعہ وکیل ایک طلاق کا نوٹس ہیجوا یا اور اب بھی طلاق کا مترس ہے، تو اب عورت کا انکار مقبول نہ ہوگا؛ بلکہ بیوی مطلقہ مغلاظہ ہو کر شوہر محمد شریف کی زوجیت سے خارج ہو گئی اور چونکہ یہ واقعہ کئی سال پرانا ہو چکا ہے؛ اس لئے عدت بھی گزرنگی، اب عورت نفسیں جہاں فی الغور اپنا نکاح دوسرا جگہ کر سکتی ہے۔

وتطلق ثلاثة عملاً ياقتراه احتياطاً۔ (شامي، کتاب الطلاق، قبل باب الایاء،

کراچی ۳/۲۱، ذکریاہ / ۵۷)

اور مہر کے سلسلہ میں حکم شرعی یہ ہے کہ یا تو مقررہ شیٰ یعنی چار اشرفی اور چار ہزار روپے دیدے اور اگر اشرفی کی قیمت دینی ہے، تو پھر یوم الاداء کی قیمت کا اعتبار ہوگا، نکاح کے وقت کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا۔

ولا يجوز دفع غيره من غير رضاها، فكان مستقراً مهراً بنفسه في ذمته، فتعتبر قيمته يوم الاستقرار، وهو يوم العقد فأما الشوب وإن وصف فلم يتقرر مهراً في الذمة بنفسه؛ بل الزوج مخير في تسليمه وتسليم قيمته في إحدى الروايتين على ما نذكر إن شاء الله وإنما يتقرر مهراً بالتسليم، فتعتبر قيمته يوم التسليم. (بدائع الصنائع، ذکریاہ / ۲، ۵۶۳، ۵۶۴)

مہر موجل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادائے گی فی الغور لازم نہیں ہے؛ بلکہ اس کی ادائے گی کے لئے کوئی مهلت اور وقت مقرر کر دیا جائے۔ (کفایت المفتی قدیم ۱۲۵/۵، جدید ادارۃ الفاروق، کراچی ۷/۳۹۱)

اجل اشیٰ مدت مقرر کرنا مهلت دینا۔ (مصطفیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم

کتبہ: شیعیر احمد تقیٰ عفان اللہ عنہ

۲۷ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ

(نوتیٰ نمبر: الف ۸۶۵۸/۳۷)

دو گواہوں کی موجودگی میں تین طلاق دینا

سوال [۶۶۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے بھانجے محمد نعیم نے ۲۲ اگست ۹۹ء کو بعد نماز عشاء اپنی مرضی سے تبسم خاتون سے نکاح کر لیا اور اس نکاح میں لڑکے اور لڑکی کے ولی کوئی موجود نہیں تھے اور نکاح بھی کسی دوسرے کے مکان پر پڑھا گیا تھا، جس کے گواہ اور وکیل بھی امر وہہ کے رہنے والے ہیں اور سارا واقعہ امر وہہ کا ہے۔ ۵ ستمبر ۹۹ء کو محمد نعیم کی بیوی تبسم جہاں اپنی مرضی سے باپ کے گھر چلی گئی؛ جبکہ نعیم احمد نے اپنی بیوی کو وہاں جانے کے لئے منع کیا تھا، پھر بھی وہ چلی گئی۔ ۱۲ ستمبر ۹۹ء کو نعیم احمد نے وہ حضرات کی موجودگی میں تبسم خاتون اپنی بیوی کو تین بار طلاق نام لے کر دیدی، اس وقت اس کی بیوی موجود نہیں تھی، پھرے ۱۳ ستمبر ۹۹ء کو جب میں نے اور جناب الحاج محمد یوسف صاحب نے معلوم کیا کہ تم نے کیا کہا تھا، تو اس نے تین بار کہا کہ میں نے اپنی بیوی تبسم خاتون کو طلاق دی۔

(۱) کیا اس حالت میں طلاق ہو گئی؟

(۲) مہر فاطمی دینا ہوگا، جو نکاح میں لکھا گیا تھا؟

- (۳) کیا عدت گذاری ہو گی؟
 (۴) کیا عدت کا خرچ لڑکے کو دینا ہو گا؟
 (۵) ان دونوں کا نکاح پھر ہو سکتا ہے اور کس طرح؟
 (۶) لڑکے کا کچھ روپیہ لڑکی کے باپ کے پاس ہے، کیا وہ روپیہ بھی لڑکا مہر میں شامل کر سکتا ہے یا نہیں؟

برائے کرم فتویٰ دینے کی زحمت گوارہ فرمائیں تاکہ آگے کے حالات طے کئے جائیں۔

المسنون: محمد یا سین سفی، کاشی پور، ادھم شکنگ (یو کے)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) جب نعم احمد نے دو حضرات کی موجودگی میں تین بار طلاق نام لے گردیدی اور بعد میں اس کا اقرار بھی کر لیا، تو تبسم خاتون پر تین طلاق مغلظہ پڑ گئیں۔

و طلاق البدعة أَن يطلّقها ثلثاً بكلمة واحدة، أو ثلثاً في طهر واحد، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق. (هداية، کتاب الطلاق، باب طلاق السنۃ، اشرفی

دیوبند/۲۵۵)

(۲) نکاح کے وقت جو مہر فاطمی لکھا گیا تھا، ہی دینا لازم ہو گا۔
 ومن سُمِيَ مهراً عَشْرَةً، فَمَا زادَ فِعْلَيْهِ الْمُسِيَّ إِنْ دَخَلَ بَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا.

(هداية، اشرفی دیوبند/۳۲۴)

(۳) تین ماہواری کے ساتھ عدت گذاری ہو گی، اس کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: وَالْمُطَّلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. [البقرہ: ۲۲۸]
 بعد الدخول أو بعد خلوة الصحيحه كان عليها العدة. (عالمنگری،

زکریا قدیم ۱/۵۲۶، جدید ۱/۵۷۹)

(۲) نعیم احمد کے منع کرنے کے باوجود جب یوں اپنے باپ کے یہاں چلی گئی تو وہ ناشزہ ہو گئی اور ناشزہ کے لئے عدت کا نفقہ واجب نہیں۔

ولَا نفقة لأحد عشر ومنها خارجة من بيته بغير حق۔ (شامی،

زکریا/ ۴۲۸، ۲۸۵، ۲۸۶، ۵۷۶، کراچی/ ۳، بدائع الصنائع/ ۳)

(۵) تین طلاق دینے کے بعد دو بارہ اس سے نکاح کرنے کی صورت یہ ہے کہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی مرد سے نکاح کر لے اور وہ آدمی اس سے صحبت کرنے کے بعد طلاق دیدے اور پھر دو بارہ عدت گزارنے کے بعد اس عورت سے شوہر اول کا نکاح کرنا جائز ہوگا اور بغیر حلالہ کئے ہوئے اس سے نکاح کرنا جائز نہ ہوگا۔

وَإِنْ كَانَ الطَّلاقُ ثَلَاثَةً فِي الْحُرْمَةِ، وَثَنَتِينِ فِي الْأَمَّةِ لَمْ تَحْلِ لَهُ حَتَّى تُنْكِحَ زوجًا غَيْرَهُ نَكَاحًا صَحِيحًا، وَيُدْخَلَ بَهَا، ثُمَّ يُطْلَقُهَا، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا.

(هدایۃ الشرفی دیوبند/ ۲۹۹، تاتارخانیہ، زکریا/ ۵، رقم: ۱۴۷، ۷۵۰۳)

(۶) اگر لڑکی اس کو مہر میں منها کرنے کے لئے تیار ہو، تو وہ اس کو مہر میں شمار کر سکتا ہے، ورنہ وہ قرضہ الگ سے وصول کیا جائے گا۔

وَتَصْحَّحُ الْحَوَالَةُ بِرِضَا الْمُحِيلِ، وَالْمُحْتَالِ، وَالْمُحْتَالِ عَلَيْهِ، قَالَ فِي الْعُنَيْدِيَّةِ: شَرْطُ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ رِضَا الْمُحْتَالِ؛ لِأَنَّ الدِّينَ حَقٌّ وَهُوَ أَيُّ الدِّينِ يَنْتَقِلُ بِالْحَوَالَةِ وَالَّذِي مُتَفَاقُونَ عَلَيْهِ، فَلَا بُدُّ مِنْ رِضَاهُ۔ (عنایۃ علی الفتح، زکریا دیوبند/ ۷، ۲۲۲، کوئٹہ/ ۶/ ۳۴۶) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان الدین عنہ

۱۳/ جمادی الثانیہ ۱۴۲۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف/ ۲۳۰/ ۲۲۰)

شوہر کا گواہوں کے سامنے تین بار تم کو طلاق دی کہنا

سوال [۲۶۹۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متن مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ موئرخہ: ۹ اپریل ۲۰۰۰ء بروز اتوار شاہد حسین ایوبی نے مجھ مہربانو سے کہا تم میرا کہنا نہیں مانتی ہو اور میری مرضی کے بغیر گھونمنے چلی جاتی ہو، میں تمہیں اپنی زوجیت میں رکھنا نہیں چاہتا، بعدہ شاہد حسین ایوبی نے مجھ سے تین بار کہا میں نے مہربانو کو طلاق دی، یہ فقرے روبرو گواہان ادا کئے گئے ہیں، اس کے بعد پھر مختلف اوقات میں کئی بار یہی جملہ مجھ سے مخاطب ہو کر شاہد حسین ایوبی کہہ چکا ہے؛ لہذا فتویٰ بتائیے۔

- (۱) شاہد حسین ایوبی کے ایک وقت میں تین بار مجھ مہربانو کو طلاق دینے پر طلاق شرعی ہوئی یا نہیں؟ بعدہ مختلف اوقات میں یہ فقرے ادا کرنے کے بعد ہی طلاق مکمل طور پر ہو گئی ہے؟
- (۲) کیا تین بار طلاق دینے کے بعد کسی طرح پر بھی بحیثیت زوجیت کوئی تعلق شاہد حسین سے رکھکرتی ہوں یا نہیں؟
- (۳) کیا شاہد حسین ایوبی کے تین بار طلاق دینے کے بعد میں ان کی زوجیت سے آزاد ہوں؟

المستخفیہ: مہربانو، ناول ہاں، زنانہ ہسپتال، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱/۲۳) جب شوہرنے تین بار طلاق کا لفظ کہا، تو اس سے طلاق مغلظہ واقع ہو چکی اور نکاح بالکل یہ ختم ہو گیا، اب بغیر حالہ شرعیہ کے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح بھی صحیح نہیں ہے۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۲۱، جدید ذکر یا ۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تسکح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هداية اشرفی دیوبند ۲/۹۹، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۷۴، جدید ۱/۵۳۵، البح الرائق، زکریا ۴/۹۴، کوئٹہ ۶/۵۶) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح: اختر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۱ھ / ۲۷	كتبہ: شیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ ۱۴۲۲ھ / ۲۷ رجماںیہ (فتویٰ نمبر: الف ۲۷۳۹/۳۵)
---	--

چار آدمیوں کے سامنے تین طلاق دینا

سوال [۶۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں لیق ابن عبدالعزیز محلہ پیر غیب نے اپنی بیوی رضیہ پروین کو کل صبح چار لوگوں کے سامنے تین طلاق دیدی ہیں؛ لہذا طلاق ہوئی یا نہیں؟

المسفتی: لیق احمد بن عبدالعزیز، پیر غیب مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: لیق احمد نے اپنی بیوی کو چار آدمی کے سامنے تین طلاقوں دے دی ہیں، تو بیوی رضیہ پروین پر تینوں طلاق واقع ہو کر مغلظہ ہو گئی ہے اور اب بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو چکی ہے، دونوں کا ساتھ رہنا قطعاً جائز نہیں ہے۔

وإذا قال لامرأته: أنت طالق، طالق، طالق ولم يعلقه بالشرط، إن كانت مدخولة طلقت ثلاثاً. (عالمنگیری، کتاب الطلاق، الباب الثاني إيقاع الطلاق، زکریا قدیم ۱/۳۵۵، جدید ۱/۴۲۳)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر قدیم ۱۹، جدید زکریا ۳۷۶) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح: اختر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۸ھ / ۲۷	كتبہ: شیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ ۱۴۲۸ھ / ۲۷ ارجب المجب (فتویٰ نمبر: الف ۹۳۷/۳۸)
---	--

۱۰۔ ار ر آدمیوں کے سامنے تین طلاق دینا

سوال [۶۶۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں شہاب الدین نے تقریباً ۱۲ ر آدمیوں کے سامنے پنجاہیت میں اپنی اہلیہ تو نویر جہاں کو تین طلاق کے الفاظ کہے، وہ الفاظ یہ ہیں ”میں نے تو نویر کو طلاق دی“، کیا حقیقت میں طلاق ہوگئی؟

المستفتی: شہاب الدین، پیرزادہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب آپ نے اپنی بیوی کو تین مرتبہ طلاق دیدی، تو آپ کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کروہ آپ کے لئے طبعی طور پر حرام ہوگئی۔ اب بغیر حلالہ کے آپ دونوں کامیابیوں کی طرح رہنا جائز اور حرام ہے۔

عن نافع کان ابن عمر رضی اللہ عنہ اسے سئل عمن طلق ثلاثاً، قال: لوطلقت مرة، أو مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرني بهذا، فإن طلقها ثلاثة حرمت حتى تنكح زوجاً غيره۔ (بخاری شریف، کتاب الطلاق، باب من

حاجز طلاق الشلاط، النسخة الہندیۃ / ۷۹۲ / ۲، رقم: ۵۰۶۶، ف: ۵۲۶۴)

لو قال لزوجته: أنت طلاق، طلاق، طلاق، طلقت ثلاثة۔ (الأشباه والنظائر

قدیم ۹، جدید زکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وشتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها۔ (ہندیۃ، زکریا قدیم ۱ / ۴۷۳، جدید ۱ / ۵۳۵، هدایۃ اشرفی دیوبند ۲ / ۳۹۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم

کتبہ: شیعہ احمد قاسمی عفان الدین عنہ

۱۵/ جمادی الاولی ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/ ۳۹، ۱۰۶۹۷/ ۳۹)

مجمع عام میں تین طلاق دینا

سوال [۶۶۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسماۃ رخسانہ پر دین کو اس کے شوہر ذاکر حسین نے اب سے قریب تین ماہ قبل اس کے میکہ میں والدین اور بھائیوں اور باہر کے کچھ آدمی جو کہ فیصلہ میں آئے ہوئے تھے کے سامنے رخسانہ کا نام لے کر اور اس سے مخاطب ہو کرتیں مرتبہ طلاق دیدی اور چلا گیا، بعد میں رخسانہ سے پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر میں بھی کئی مرتبہ طلاق دے چکا ہے، طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: ہدایت حسین، کرولہ آزادگر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہرنے اپنی بیوی کو تین مرتبہ طلاق دیدی ہے، تو بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر شوہر پر بالکل حرام ہو چکی ہے، اب بلا حلہ نکاح بھی صحیح نہیں ہوگا۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۲۱۹، جدید زکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وشتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(عالِم‌گیری، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۳۵، هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، تاتارخانیہ، زکریا ۵/۴۷، رقم: ۳۵۰) فقط و اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۱۴۲۱ھ تعداد ۱۳۱۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۱/۱۳۲)

تین جھگڑوں میں میں نے تمہیں طلاق دیدی کہنے سے طلاق

سوال [۶۷۰۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عتیق مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے شوہر غصہ میں آکر یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں طلاق دیدی، بچوں کو لے کر گھر سے نکل جاؤ، دو تین لاٹائیوں میں تین بار یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے تمہیں طلاق دیدی۔ تو دریافت یہ کرنا ہے کہ طلاق ہو گئی یا نہیں؟

المستفییہ: رُسْک، پیر غیب، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر تین بار یا اس سے زائد تمہیں طلاق دیدی کے الفاظ کہہ چکا ہے، تو طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے، آپ اپنے شوہر پر بالکل حرام ہو چکی ہیں، بغیر حلالہ کے اس شوہر کے پاس رہنا جائز نہ ہوگا۔

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثبتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(ہندیہ، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، تاتارخانیہ،

زکریا ۵/۱۴۷، رقم: ۳۷۵۰) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

لکتبہ: شیعہ احمد قاسمی عغا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳ روزی قعدہ ۱۴۲۰ھ

۱۴۲۰/۱۱/۳

(فتاویٰ نمبر: الف ۲۳۵۲/۳۳)

جھگڑے کے دوران تین مرتبہ طلاق دینا

سوال [۶۷۰۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عتیق مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں محمد شاہد نے بیوی سے جھگڑے کے دوران تین مرتبہ یہ کہہ یا کہ طلاق،

طلاق، طلاق۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ اس طرح بیوی سے بھگڑے کے دوران کہنے سے طلاق ہوئی یا نہیں اور شرعاً اب کیا حکم ہے؟ تین بچے بھی ہیں، بیوی کو رکھنا چاہیں تو کیا کریں؟

المستفتی: محمد شاہد، محلہ چودیوسراۓ سنبلہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جی ہاں مذکورہ صورت میں بیوی پر طلاق مخالفہ واقع ہو گئی ہے، اب بلا حلہ زناح بھی جائز نہ ہو گا۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۲۱۹، جدید زکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هدایة اشرفی دیوبند ۳۹۹/۲، هندیہ، زکریا قدیم ۴۷۳/۱، جدید ۱/۵۳۵) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۱۴۲۰ھ رجب المجب

(فتویٰ نمبر: الف-۳۲/۲۲۳۳)

کیا تیری ماں میری ماں ہے، طلاق، طلاق، طلاق

سوال [۶۰۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عبدالرزاق نے اپنی بیٹی جس کی عمر ۲۰ رہا ہے اس سے سوال کیا کہ تمہاری ماں کدھر ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ سورہی ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، عبدالرزاق نے اپنی بیٹی کوثر سے کہا، کیا تیری ماں میری ماں ہے؟ ”طلاق، طلاق، طلاق“، اس اتنے الفاظ کے ہیں، طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا فرماتے ہیں علماء حق؟

المستفتی: مولانا کمال چودھری، ممبئی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مسئولہ صورت میں عبد الرزاق کی بیوی پر تین طلاقوں مغلظہ واقع ہوگئی ہیں۔ اب حلالہ شرعیہ کے بغیر بیوی حلال نہیں ہوگی۔

کرر لفظ الطلاق وقع الكل۔ (شامی، کتاب الطلاق، باب غیر المدحول بها،

زکریا ۴/۲۱، کراچی ۳/۳۹۳)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هدایہ، کتاب الطقا، فصل فيما تحل به المطلقة اشرفتی دیوبند ۲/۳۹۹، هندیہ، زکریا

قدیم ۱/۷۳، جدید ۱/۵۳۵) فظوظ والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۵ رب جمادی ۱۴۱۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۵۸۵۷/۳۲)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفران
۱۴۱۹/۱۷

بلانیت تین طلاق دینا

سوال [۲۷۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع تین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے جو تلگو زبان بولتا ہے، اپنی زبان میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تین بار کہا؛ لیکن دل میں بیوی کو الگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ بیوی اس سے بالکل خارج ہو جائے گی۔ بہر حال زید کو مسئلہ بتایا گیا کہ طلاق مغلظہ واقع ہوگئی؛ لیکن بہشتی زیور کی اس عبارت سے زید کوشک پیدا ہو رہا ہے کہ اگر تین مرتبہ مضبوطی کے لئے کہا اور ارادہ ایک طلاق کا ہے، تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔

بہشتی زیور کی عبارت یہ ہے مسئلہ نمبر ۱۳۲۰ رکسی نے تین دفعہ کہا تجوہ کو طلاق، طلاق، طلاق، تو تینوں طلاقوں پڑکسیں یا گول الفاظ میں تین مرتبہ کہا، تب بھی تین پڑکسیں؛ لیکن اگر

نیت ہی ایک طلاق کی ہے فقط مضبوطی کے لئے تین دفعہ کہا تھا کہ بات خوب پکی ہو جائے، تو ایک ہی طلاق ہوئی؛ لیکن عورت کو اس کے دل کا حال تو معلوم نہیں؛ اس لئے یہ سمجھی کہ تین طلاقیں مل گئیں۔ (ستفادہ: اصلی بہشتی زیور ۲۷/۲)

مذکورہ بالاعبارت حال کیا ہے اور زید کی بیوی پر کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟

المستفتی: محمد عسیر غازی آبادی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: بہشتی زیور کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کی نیت ہے، مگر صرف ایک طلاق کی نیت اور سوال مذکور میں ایک طلاق کی نیت نہیں ہے؛ بلکہ نیت طلاق دینے کی ہے، تو ایسی صورت میں تین طلاق واقع ہو جاتی ہیں؛ لہذا مذکورہ واقع میں بیوی پر تین طلاق واقع ہو کر شوہر کے نکاح سے بیوی خارج ہو چکی ہے۔

کرر لفظ الطلاق وقع الكل، وإن نوى التأكيد دين. وتحته في الشامية: وقع الكل قضاء، وكذا إذا طلق بأن لم ينوا استثنافاً ولا تأكيداً؛ لأن الأصل عدم التأكيد. (شامی، کتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، کراچی

۳۲/۴، زکریا ۵۲۱، ۲۹۳/۳) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۱۸ جمادی الجلد ۱۳۱۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۱۵۳)

نیت کئے بغیر تین مرتبہ طلاق دینا

سوال [۶۰۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے بیوی کی بذبانبی پر پہلے روکا کئی مرتبہ یہ کہہ کر ڈرایا کہ کھدوں گا، کھدوں گا، اس پر بھی اس کی زبان برا برچلتی رہی، غصہ میں آ کر ایک مرتبہ لفظ طلاق کہدیا،

اس پر بھی وہ نہ مانی، پھر لفظ طلاق استعمال کیا، پھر میں نے تیسری مرتبہ لفظ بھی کہہ دیا میں نے یہ لفظ اپنی زبان سے ادا کرنے کی قسم کھائی تھی، میری نیت طلاق کی بالکل نہیں تھی۔

المستفتی: سید سدار حسین، محلہ پیر غیرب، ابراہیم باوس، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ میں درج شدہ صورت میں شوہرنے اولاً ”کہدوں گا“ کا لفظ استعمال کر کے بیوی کو تعبیر کرنے کی کوشش کی آخر نہ مانے پر اس نے یک بعد مگرے بیوی کو تین بار لفظ طلاق کہہ دیا ہے، جس سے وقوع طلاق میں کوئی چیز مانع نہیں ہے؛ لہذا تینوں طلاقیں واقع ہو کر بیوی شوہر پر حرام ہو چکی ہے۔

و لا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه لما في البحر: لو قال طالق فقيل له من عننت، فقال: امرأتي طلقت امرأته (إلى قوله) لأن العادة أن من له امرأة إنما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها الخ. (شامی، كتاب الطلاق، باب

الصريح، زکریاء / ۴۵۸، کراچی ۳/۲۴۸)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلثاً. (الأشباه والنظائر

قديم، ۲۱۹، جدید زکریاء ۳۷۶)

متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق. (هندية، زکریاء قديم ۱/۳۵۶، جدید ۱/۴۲۳) فخط واللہ سبحانہ تعالیٰ علم

كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴۰۹ھ ذی الحجه ۲۹

(فتویٰ نمبر: الف ۱۵۸۸/۲۵)

جائیں نے تجھے تین طلاق دیں

سوال [۶۰۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ محفوظ نے درمیان تنازع اپنی زوجہ کو ایک ہی لفظ سے تین طلاقیں دیں، محفوظ کے الفاظ یہ تھے کہ جامیں نے تجھے تین طلاق دیں، جس کو اس کے چجاز اد بھائی نے خود سناء، اب صورت یہ ہے کہ وہ اب تک ایک ساتھ ازدواجی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اب ان کی تین اولادیں بھی ہیں، جن کی ولادت بعد الطلاق ہوئی، تو اب طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ حلالہ کی ضرورت ہے یا صرف تجدید نکاح سے کام ہو جائے گا اور ان کے محلہ والوں اور رشتہ داروں کے لئے کیا شرعی حکم ہے، ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہئے؟ مذکورہ صورتوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب سے نوازیں۔

المستفتی: محمود سیم، بہراچی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال مذکور کے اندر جوبات بیان کی گئی ہے، اگر وہ صحیح ہے، تو محفوظ کی بیوی پر طلاق مغالظہ واقع ہو چکی ہے اور بیوی محفوظ پر قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے؛ لہذا بغیر حلالہ کے دوبارہ آپس میں نکاح بھی جائز نہ ہو گا، محلہ والوں اور رشتہ داروں کو چاہئے کہ وہ میاں بیوی کو سمجھائیں اور انہیں علیحدہ رہنے کی تلقین کریں اور ان کو اللہ سے ڈرائیں۔

وَأَمَا الْبَدْعِيُّ أَن يُطْلَقُهَا ثَلَاثًا فِي طَهْرٍ وَاحِدٍ بِكَلْمَةٍ وَاحِدَةٍ،
أَو بِكَلْمَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَانَ عَاصِيًّا.

(الفتاوى التاتارخانية، ذکریاء / ۳۸۱، رقم: ۶۴۷۶)

وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرْمَةِ، وَثَنَتِينِ فِي الْأَمْمَةِ لَمْ تَحْلِ لَهُ حَتَّى
تُنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نَكَاحًا صَحِيحًا، وَيَدْخُلُ بِهَا، ثُمَّ يُطْلَقُهَا، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا.

(هدایۃ اشرفی دیوبندی / ۳۹۹)

عن طارق بن شہاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل
الصلوة مروان -إلى- من رأى منكم منكراً، فليغیره بيده، فإن لم يستطع

فبلىسانه، فإن لم يستطع فقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث (مسلم شريف، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، النسخة الهندية ۱/۵۱، بيت الأفker رقم: ۴۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفنا اللہ عنہ

۱۴۳۲ھ / ۲۶ ربیعی

(فتویٰ نمبر: الف ۳۹، ۱۰۵۸۰)

”تمہیں تین دفعہ طلاق دیدی“ سے طلاق مغلظہ

سوال [۶۷۰۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کسی نے کہا میں نے تین دفعہ تمہیں طلاق دیدی، تو طلاق ہوگی یا نہیں؟
المستفتی: عالم بیٹھ واپس، شاہ درہ، دہلی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب تین دفعہ طلاق دیدی ہے، تو اس سے بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو جکی ہے، اب بلا حلالہ نکاح بھی درست نہ ہوگا۔
وأما البدعي.....أن يطلقها ثلاثة في ظهر واحد بكلمة واحدة، أو بكلمات متفرقة.....إذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا. (تاتارخانیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵) رقم: ۶۴۷۶

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (عالِمِ گیری، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفنا اللہ عنہ

۱۴۳۲ھ / ۲۶ ربیع الاول

(فتویٰ نمبر: الف ۳۲، ۲۳۹۶)

”طلاق دیتا ہوں“، تین مرتبہ کہنے سے طلاق کا حکم

سوال [۶۰۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مตین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آپ کی شادی میرے ساتھ حسب رواج شریعت اسلامی ہوئی تھی، میں نے آپ کے طور طریقے سے ناخوش ہو کر آپ کو مورخ: ۱۹۷۵ء کو حسب طریقت اسلامی طلاق دیدی تھی اور آپ کو اپنی زوجیت سے آزاد کر دیا تھا؛ لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کوئی طلاق نہیں دی جو مجھے تسلیم نہیں ہے، پھر بھی میں آپ کےطمینان اور قانون کے نشاء کو پورا کرنے کے لئے آپ کو حسب رواج، حسب ہدایت شریعت اسلامی تین طلاق دیتا ہوں۔

المستفی: نوشہ ولد حاجی روشن علی، نواس: جگرک ملک سول لائیں، مراد آباد

باسم سجادۃ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب ۱۹۷۵ء کو شوہرنے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنی زوجیت سے خارج کر دیا ہے، تو عدت تین حیض کے ساتھ گذر جانے پر بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو گئی ہے، اور میاں بیوی کے درمیان زوجیت کا تعلق شریعت اسلامی کی رو سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔

اب بعد میں جو تین طلاق تقریباً ۱۵ ارسال کے بعد دے رہا ہے وہ شرعاً واقع نہ ہوں گی؛ کیونکہ اکبری دختر رمضان نوشہ کی بیوی نہیں رہی ہے؛ بلکہ عام عورتوں کی طرح ابتدیہ ہو گئی ہے اور ابتدیہ عورت پر طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلثاً. (الأشباه والنظائر)

قدیم ۲۱، جدید زکریا (۳۷۶)

قال لامرأته: أنت طالق واحدة، ثم قال: إن كنت امرأة لي فأنت طالق ثالثاً، إن كان الطلاق الأول بائناً لا يقع الثاني الخ. (فتاویٰ شامی، زکریا ۴/۴۷، کراچی ۳/۱۱)

ومحله المنکوحة، وأهلة زوج عاقل الخ. (الدر المختار، کراچی
۲۳۰/۴۳۱، زکریاء) **فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم**

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۳ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۵۹۷/۲۵)

طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے

سوال [۲۷۰۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید سے کہا کہ تم طلاق دیدو، تو زید نے کہا کہ طلاق ہے، طلاق ہے، زید کے وکیل صاحب نے ہندہ کے اسٹامپ پر ہندہ کا نشان لگوایا اور زید کے اسٹامپ پر زید کے دستخط کر کے زید کے وکیل صاحب نے دونوں اسٹامپ تکمیل کر کے اپنے پاس رکھے، اور کہا کہ تاریخ آنے پر عدالت میں داخل کر دوں گا، تو کیا اس صورت میں طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتیۃ: زیدہ بن گنم، ثانیہ بادی

باسم سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: زید کے الفاظ ”طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے“ سے یہوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔ اب دونوں میں میاں یہوی کا تعلق باقی نہیں۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلثاً. (الأشباه والنظائر قدیم، جدید زکریاء ۳۷۶) **فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم**

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۸ ربیعہ ۱۴۲۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۷۱۸/۳)

میں تجھے تین بار طلاق طلاق دیدوں

سوال [۶۰۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متن مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بیوی اپنے میکہ گئی ہوئی تھی؛ جبکہ زید کام کے سلسلہ میں باہر گیا ہوا تھا، وہاں سے اس نے اپنی بیوی کو فون کیا، پہلے کچھ گھر لیو بات ہوئی اور اس کے بعد زید نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تو اپنے گھر جاتی ہے، تو وہیں کی بولی بولتی ہے اور کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں تجھے تین بار طلاق طلاق دے دوں، یہ میں نے کہا۔ بیوی کا بیان یہ ہے کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر جوبات کہہ رہی ہوں وہ بات صحیح ہے، ان کا فون آیا پہلے انہوں نے طلاق دینے کو کہا اور فون رکھ دیا، بعد میں دوبارہ فون کیا اور کہا میں تجھے طلاق طلاق طلاق دوں گا، طلاق طلاق کہا اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، میں ہی گواہ ہوں مہربانی فرمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب سے مطلع فرمائیں عین نوازش ہوگی۔

المستفتی: محمد سیمہ ولدار شاد حسین، محلہ: سراء کشن لال، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: میں تجھے تین بار طلاق طلاق طلاق دیدوں، یہ الفاظ تین طلاق دینے کے لئے وعدہ کے ہیں؛ اس لئے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی اور بیوی کے بیان میں بھی استقبال ہی کا پہلو غالب ہے کہ طلاق طلاق طلاق دوں گا، طلاق طلاق طلاق ایک جملہ میں کہا ہے اور مستقبل میں طلاق کا وعدہ کرنے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی؛ لہذا بیوی کے قول کے مطابق بھی طلاق واقع نہ ہوگی۔ (مسنون: فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۹/۲۲۵)

ولو قال بالعربية: أطلق لا يكون طلاقاً. (ہندیہ، کتاب الطلاق، الباب

السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسية، ذكرها قدیم ۱/۳۸۴، جدید ۱/۴۵۲)

ولو قال: أطلقك لم يقع. (الدر المنقى شرح ملتقى الأبحرقديم ۱/۳۸۷)

جديد دارالكتب العلمية بيروت (۲/۱۴)

بخلاف قوله: طلاقی نفسک، فقالت: أنا طالق، أو أنا أطلق نفسي لا يقع؛ لأنّه وعد. (در مختار، کراچی ۳۱۹/۳، زکریا ۵۵۹) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۵/ شعبان المعظم ۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۱۶۲۲)

طلاق دی، دی، دی، دی، دی سے طلاق

سوال [۲۷۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بکر نے نماز فجر پڑھ کر اپنے بچے سے کہا کہ مسکٹ لے آؤ بچے نے انکار کر دیا، تو بکر نے بچے کی پیٹائی کی تو بیوی نے غصہ میں کہا کہ بچوں کا معاملہ نہ ہوتا، تو میں ابھی گھر میں آگ لگا کر چلی جاتی، تو بکر نے کہا کہ اس معاملہ میں تو نہ بول، تو بیوی نے کہا کہ طلاق ہی تدووگے، تو بکر نے کہا کہ ”طلاق دی، دی، دی، دی، دی“ اس طرح لفظ دی ۵ یا ۶ بار کہا اور لفظ طلاق ایک بار کہا۔

المستفتی: حافظ انہر علی، تحصیل: فتح پور، بارہ بنکی

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شوہر کے قول میں چوں کہ کوئی صراحت نہیں ہے؛ اس لئے حضرات فقہاء نے تکرار طلاق کو تاسیس پر محمول کیا ہے، تکرار پر نہیں، مسؤولہ صورت میں بکر کی بیوی پر تین طلاقيں واقع ہو جائیں گی۔ اب حالہ شرعیہ اور نکاح جدید کے بغیر میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ (فتاویٰ دارالعلوم ۳۱۶۹)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم، ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶)

إذا قال لامرأته: أنت طالق، طالق، طالق، ولم يعلقه بالشرط، إن كانت

مدخولة طلقت ثلاثاً. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۵۵، جدید ۱/۴۲۳)

وإن كان الطلاق ثالثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.
(هدایة اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان الدین عنہ

۲۱ رجبادی الاولی ۱۴۲۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۹۶۱۲/۳۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۱ محرم ۱۴۲۹ھ

طلاق دی، طلاق، طلاق، پھر طلاق دی جا طلاق دی

سوال [۱۱۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شاہنواز نے اپنی بیوی کوفون پر اس طرح طلاق دی ”طلاق، طلاق، پھر طلاق دی جا طلاق دی“ ان الفاظ کے ادا کرنے کے بعد فون کاٹ دیا بیوی نے اپنے کانوں سے ان الفاظ کو سننا۔

(۱) دریافت یہ کرنا ہے کہ طلاق ہو گئی یا نہیں؟

(۲) اگر طلاق ہو گئی تو شوہر پر مہر کی ادائے گی لازم ہے یا نہیں؟ اسی طرح جہیز وغیرہ کی واپسی ضروری ہے یا نہیں؟

(۳) ایک پچی بھی تقریباً سو ماہ کی ہے، اس کا صرفہ پروش کس پر لازم ہے؟ شرعی حکم تحریر فرمادیں۔

المستفتی: محمد قبائل، محلہ مقبرہ درگاہ تی آبادی، مراد آباد
با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) فون پر کھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، بشرطیکہ اس فون کے بارے میں شوہر اقرار کرتا ہو کہ اسی کافون تھا؛ لہذا جب شوہر نے فون پر طلاق، طلاق، پھر طلاق دیدی، جا طلاق دیدی“ یہ چار مرتبہ کہا ہے کہ اس سے بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو گئی ہے؛ جبکہ شوہر نے اس کا اقرار کر لیا ہو۔

لو قال لزوجته: أنت طلاق، طلاق، طلاق، طلقت ثلاثاً. (الأشباء والنظائر

قديم ۲۱، جدید زکریا ۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هنديہ، زکریا قدیم ۱ / ۴۷۳، جدید ۱ / ۵۳۵)

(۲) **جب شوہر نے طلاق دیدی ہے تو پورے مہر کی ادائے کی شوہر پر لازم ہے، اسی طرح جہیز کا سامان جس حالت میں بھی ہے، اسی حالت میں واپسی لازم ہے۔**

في الدر: ويتأكد عند وطء أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدهما. (در مختار مع الشامي زکریا ۴ / ۲۳۳، کراچی ۳ / ۱۰۲)

فالمهر يتتأكد بأحد معان ثلاثة الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين سواء كان السمي أو مهر المثل. (بدائع الصنائع زکریا دیوبند ۲ / ۵۸۴)

(۳) **بھی کا خرچ باپ پر لازم ہوتا ہے، مگر یہ خرچ باپ کے اختیار کے دائرہ میں رہے گا، ماں جتنا چاہے خرچ نہیں مانگ سکتی، باپ اپنے معیار زندگی کے اعتبار سے اپنی ایک بھی کا خرچ پورا کرے گا۔**

نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشار كه فيها أحد. (هنديہ، زکریا

قديم ۱ / ۵۶۰، جدید ۱ / ۶۰۷)

وبعد الفطام يفرض القاضي نفقة الصغار على قدر طاقة الأب، وتدفع إلى الأم حتى تنفق على الأولاد. (هنديہ، زکریا قدیم ۱ / ۵۶۱، زکریا جدید دیوبند ۱ / ۶۰۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم

الجواب صحیح:

احترم محمد سلمان منصور پوری غفرله
۱۴۲۹/۵/۲۱

كتبہ: شیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۱۴۲۹/۱۱/۲۱

(فتوى نمبر: الف ۳۸ / ۱۱۷)

طلاق دی، طلاق، طلاق سے قضاء تین طلاق

سوال [۶۷۱۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عبدالحمید ساکن محلہ پیرزادہ اور اس کی بیوی میں گھر میں کچھ کہا سنی ہوئی، اس وقت موجود گھر میں ان کے پاس دعورتیں آس پاس موجود تھیں، کہا سنی کے دوران عبدالحمید نے کہا کہ طلاق دی، ایک باراً اور دو بار کہا طلاق طلاق، اس کے بعد کچھ نہیں کہا اور نہ کوئی بات ہوئی یہ پوری تفصیل ہے، موجودہ عورتوں کی منہ بیانی حلف کی رو سے بیان کی گئی ہے، اس کے بعد عبدالجہانی اور چھوٹے بھائی نے معلوم کیا کہ عبدالحمید بھائی آپ کی نیت میں کیا تھا، تو عبد الحمید نے کہا میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی صرف آگاہ کرنا تھا۔

المستفتی: عبدالحمید، شرافت حسین، عبدالچھوٹے، اسلم، پیرزادہ، مراد آباد

با اسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ”طلاق دی، طلاق، طلاق“ سے قضاء تین طلاق مغلظہ پڑ گئیں، اگرچہ طلاق دینے والے کی نیت آگاہ کرنے کی ہو؛ اس لئے کہ یہ الفاظ صریح ہیں اور الفاظ صریح سے نیت کے بغیر بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔

متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق، وإن عني بالثانى الأول لم يصدق في القضاء. (هندية، زکریا قدیم

(۳۵۶/۱)، زکریا جدید (۴۲۳/۱)

وفي الهدایة: ولا يفتقر إلى النية؛ لأنه صريح فيه لغبة الاستعمال.

(هدایة، اشرفي دیوبند ۳۵۹/۲) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۳۲۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۱۰۸/۳۲)

”تجھے طلاق، طلاق، طلاق“ سے طلاق مغلظہ

سوال [۶۷۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اور بکر کے درمیان گھر میں عورتوں کے معاملات میں جھگڑا ہوا، زید نے کہا بکر کی بیوی غلطی پر ہے، بکر نے کہا زید کی بیوی کی غلطی ہے، زید نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، بکر نے کہا کہ میں ہی اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہوں، بکر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ”تجھے طلاق، طلاق، طلاق“ ایک دفعہ تجھے طلاق کہا، اور دو دفعہ خالی طلاق کہا ہے، پہلے سے کوئی طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا، اتفاقاً یہ فعل سرزد ہوا۔

المستفسی: خلیل احمد انصاری، تانیان، قصبه نزولی، مراد آباد

باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مذکورہ صورت میں بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ اب دونوں کا بلا حلالہ ساتھ رہنا حرام کاری ہو گی۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم ۲۸۲/۱) لو قال لزوجته: أنت طلاق، طلاق، طلاق، طلقت ثلاثاً۔ (الأشباه والنظائر

قديم ۲۱۹، جدید ذکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها۔ (هدایۃ اشرفی دیوبند ۲/۹۹، هندیہ، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، ۱/۵۳۵) فقط واللهم سجانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان متصور پوری غفرله
۱۳۱۳/۳/۱۳

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۳ اربیع الاول ۱۴۱۳ھ

(فتاویٰ نمبر: الف ۳۳۵۹/۲۹)

میں تمہیں طلاق، طلاق، طلاق دیتا ہوں

سوال [۶۷۱۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شمیمہ نیگم بعد سلام کے معلوم ہو کہ میرے تمہارے درمیان جو سرجنگ چل رہی ہے، اس سے پہلے کہ اس جنگ کا کوئی خطرناک نتیجہ نکلے میں اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہوں، آج سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں یعنی ”میں تمہیں طلاق، طلاق، طلاق دیتا ہوں“، آج سے تم میرے نکاح میں نہیں رہیں، میرے بچوں کو کسی کے ہاتھ پھیج دو اور اپنا سامان مانگو والو۔ السلام فرید احمد۔

یہ پرچہ بیوی کے ہاتھ میں نہیں پہنچا، لیکن اس تحریر کے لکھنے کے ایک مہینہ بعد میں نے اپنی بیوی سے حسب ذیل الفاظ کہے ہیں، تم میرے بچوں کی ماں بن کر رہ سکتی ہو، میری بیوی بن کر نہیں، اس سے میری نیت یہ تھی کہ میرے نکاح سے وہ خارج ہے اور بچوں کی دیکھ بھال کے لئے رکھنا منظور تھا اور منظور ہے، پرچہ کی تحریر سے اب تک مردوں کے پوشیدہ تعلقات میں نے قائم نہیں کئے، یعنی قول ایسا عملًا میں نے رجوع نہیں کیا۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ رجوع کا حق مجھے باقی ہے یا ختم ہو گیا؟

المستفتی: فرید احمد، پیلاتالاب، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسؤولہ میں آپ کی بیوی پر طلاق مغایظہ واقع ہو جگی ہے۔ اب بغیر حلالة نکاح بھی درست نہ ہوگا، رجوع کی بات تو بہت دور ہے۔
لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقـت ثلثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۹، ۲۱، جدید زکریا (۳۷۶)

إذا قال لامرأته: أنت طالق، طالق، طالق، ولم يعلقه بالشرط، إن كانت مدخلولة طلقـت ثلثاً. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۵۵، جدید ۱/۴۲۳)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(عالمگیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احترم مسلمان منصور پوری غفرله

۱۴۳۳/۲/۲۰

كتبه: شبير احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۲۰ رصفر ۱۴۳۳ھ

(فتوى نمبر: الف ۲۸/۳۰۲)

شوہر کا ”طلاق، طلاق، طلاق“ کہنا

سوال [۶۱۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اور اس کی بیوی ہندہ کے درمیان کسی بات پر طنزیہ لفتگو ہوئی اور زید نے ہندہ کے سامنے غصہ کی حالت میں تین مرتبہ یا الفاظ کہے، ”طلاق، طلاق، طلاق“ ہندہ یا الفاظ سن کر گھر سے باہر جانے لگی، تو زید نے ہندہ کے اس قول (اب میں نہیں رہو گی، اب میں جا رہی ہوں) پر کہا کہ جا چو لھے میں آگ جل رہی ہے، جل کر مر جا، زید کا حلفیہ بیان ہے کہ مذکورہ تینوں الفاظ سے میری طلاق کی نیت نہیں تھی اور نہ ”جا چو لھے میں جل کر مر جا“ سے طلاق کی نیت کی تھی؛ بلکہ زید سمجھا کہ مذکورہ بالا تینوں الفاظ سے طلاق ہوئی ہو گی؛ لہذا اس کو جانے کے لئے کہا۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ زید کے مذکورہ الفاظ سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ جو حکم شرعی ہو بیان فرمائے جائے اس کو مجاز ہو۔

المستخفی: میر صاحب یوسپور، ننی ہاتال، (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق الفاظ صریح میں سے ہے اور صریح الفاظ سے طلاق واقع ہونے کے لئے نیت کرنا شرط نہیں ہے؛ اس لئے مذکورہ الفاظ سے بغیر نیت کے طلاق مغالظہ واقع ہو چکی ہے؛ لہذا اب بیوی شوہر پر بالکل حرماً ہو چکی ہے۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباء والنظائر

قدیم ۲۱۹، جدید زکریا (۳۷۶)

متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۵۶، جدید ۱/۴۲۳) فقط واللہ سجائناه و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

مر ربیع الثانی ۱۴۱۳ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۲۸/۲۸)

”تجھے طلاق دوں گا“ کے بعد ”دی، دی، دی“ کہنے سے طلاق مغلظہ

سوال [۶۷۱۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نشہ کی حالت میں اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ ”میں تجھے رکھوں گا نہیں، میں تجھے طلاق دوں گا“ پھر زید نے کہا ”دی، دی، دی“ تو کیا صورت مسؤولہ میں زید کی بیوی زید کے نکاح سے نکل جاتی ہے یا نہیں؟ پھر زوجین بن کر رہنے کی کوئی صورت ہے؟

المستفتی: محمد عثمان، سس پور، مراد آباد

باسمہ سجائناہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مذکورہ میں بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے؛ کیونکہ مذاکرہ طلاق میں ”دی، دی، دی“ کے الفاظ طلاق ہی کے لئے ہیں اور حالات نشہ میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

طلاق السکران واقع الخ. (سامی، کراچی ۳/۲۴۱، زکریا ۴/۴۸، بدائع الصنائع، زکریابند دیوبند ۳/۱۵۸، کراچی ۳/۹۹، الدر المتنقی قدیم ۱/۳۸۴) فقط واللہ سجائناہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴۱۳ھ بحدادی الثانی

(فتوى نمبر: الف ۳۲۸/۳۲)

طلاق دی، دی، دی، کہنے کا حکم

سوال [۶۷۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زیداً پنی سرال میں عرصہ ایک دو ماہ سے اپنی منکوحہ کے ساتھ رہتا رہا اور اپنے اخراجات خود ہی اٹھاتا رہا، مگر زید سے اپنی خوشدا من اور ہم زلف سے تکرار ہوتا رہا، جس سے تنگ آ کر خوشدا من نے زید سے کہا کہ اپنا سامان لے کر کہیں اور مکان لے لو؛ چنانچہ زیداً پنے سامان کو لے کر اپنی منکوحہ اور چار بچوں کے ساتھ سرال کے قریب دوسرے مکان میں کرایہ پر چلا گیا، عرصہ دو ماہ بعد پھر کسی بات پر خوشدا من اور ہم زلف سے تکرار ہو گیا اور تکرار کی نوبت کچھ زیادہ ہی ہو گئی، زید نے خوشدا من کو تنبیہ کرنے کی غرض سے اپنی منکوحہ سے کہا کہ ”میں نے تجھے طلاق دی، دی، دی“، اس طرح لفظ طلاق تو زبان سے ایک بار کہا اور مزید دی دی دوبار ادا کیا، تو اس صورت میں زیداً پنی منکوحہ سے رجوع کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یاد رہے کہ زید کا اپنی منکوحہ سے کوئی تنازع نہیں؛ بلکہ خوشگوار ازدواجی زندگی گذار رہا تھا۔

المستفتی: ایں، ایم، جمیل الدین صدقی، صدیقی گلی، دانشمندان، ا مردہہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب زید نے اپنی منکوحہ کو ”طلاق دی، دی، دی“ کہدیا تو اس سے منکوحہ پر تین طلاق واقع ہو گئیں اور وہ عورت زید پر بالکل حرام ہو گئی۔

(مستفاد: امداد الفتاوی ۲/۳۳۰، فتاویٰ دارالعلوم ۹/۳۱۵)

وَإِنْ نُوِيَ التَّأْكِيدُ دِينٌ؛ أَيْ وَقْعُ الْكُلِّ قَضَاءً. (شامی، کراچی

(۵۲۱/۴، ۲۹۳/۳)

اور وہ عورت شرعی حلال کے بغیر زید کے لئے حلال نہیں ہو گی؛ لہذا زید اس سے رجوع و نکاح نہیں کر سکتا۔

وفي الهدایة: وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وشتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هدایة اشرفي دیوبند ۲/۳۹۹) فقط والله سبحانه وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴رمضان ۱۴۲۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۲۵/۲۲۲۵)

”تجھے طلاق دی، دی، دی“ سے طلاق مغلظہ

سوال [۶۷۱۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیاں شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زوج سے زوج نے یہ کہا کہ میں نے ”تجھے طلاق دی، دی، دی“ کا تکرار لفظ طلاق کی تاکید شمار کیا جائے گا یا نہیں؟ یا یہ لفظ ”دی، دی، دی“ الگ ایک ایک طلاق کی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں؟ تحقیق کرنے پر گھر کے وہ افراد جن کی موجودگی میں یہ سانحہ پیش آیا وہ انہیں الفاظ کی تائید کرتے ہیں؟

المستفتی: مسعود احسن، بجنور

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ”تجھے طلاق دی، دی، دی“ کے الفاظ میں شوہر نے اگر کوئی بھی نیت نہیں کی تھی یا طلاق کی نیت کی تھی، تو دونوں صورتوں میں یہ الفاظ تاکید کے لئے نہیں ہوں گے؛ بلکہ تکرار طلاق ہے اور اگر شوہرنے طلاق دی کہنے کے بعد اس لفظ کی اطلاع دینے کے لئے اور تاکیدی اطلاع کے لئے ”دی، دی، دی“ کے الفاظ کہے ہیں، تو تاکید کے لئے ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھئے کہ لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ ایسے وقت میں ہوش نہیں رہتا ہے، اس کا خیال خود بکھجئے، لوگوں کے حالات کی وجہ سے ہم اس کو تکرار ہی سمجھتے ہیں اور تکرار کی صورت میں طلاق مغلظہ واقع ہوتی ہے اور تاکید کی صورت میں ایک طلاق ہوتی ہے، اس کا فیصلہ شوہر خود کر لے کہ اس نے کیا نیت کی تھی اور حرام کاری سے ڈرے۔

کسر لفظ الطلاق وقع الكل، وإن نوى التأكيد دين. وتحته في الشامية:
وَكَذَا إِذَا طلق بَأْنَ لَمْ يَنُو اسْتِئْنَافًا وَلَا تَأْكِيدًا؛ لأنَّ الْأَصْلُ عَدْمُ التَّأْكِيدِ.
(در مختار مع الشامي، دیوبند زکریا ۴/۲۱، کراچی ۳/۹۳۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۶ ربیع الاول ۱۴۱۹ھ

(فونی نمبر: الف ۳۲۸/۵۶۷)

”طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی“ سے طلاق مغلظہ

سوال [۶۷۱۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مجاهد چائے دروازے میں پی رہے تھے، پھر اس کے والد شاہد علی نے کہا کہ تجھ میں کوئی بندی نہیں آئی، چائے گھر میں آ کر بیوی بچوں میں پی لو، اس نے باہر سے آ کر کہا کہ ابو کیوں گرم پڑ رہے ہیں، کیا کوئی دوست آیا تھا، بہن نے کہا کہ نہیں کوئی دوست نہیں آیا تمہیں سمجھانے کو کہا ہے، اس نے پی سی او کی چابی پھینک کر کہا کہ تمہیں پی سی او پر بیٹھنا ہے میں جا رہا ہوں، باپ نے کہا کہ تیرے بیوی بچوں کا کیا ہو گا، مجاهد علی نے کہا کہ قرآن کی قسم میں نے نسرین فاطمہ کو ”طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی“ اور تین مرتبہ طلاق دی اور گھر سے چلا گیا، وہاں پر گواہوں کے سامنے طلاق دی ہے، اپنے باپ کی خاطر طلاق دی ہے، اس کو اس کے گھر بیٹھ ج دو، اس کے سامان کے ساتھ، اس پر باپ نے کہا میں اسے بیٹی بنا کر رکھوں گا، تو اس کا جواب اس نے یہ دیا میں گھر میں حرام کاری نہیں ہونے دوں گا، اسے فوراً اس کے گھر پہنچا وہ اور وہ گھر سے چلا گیا۔

المستفتيه: نسرین فاطمہ، بلا ری سرائے سنہجل، مراد آباد

با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مجاهد نے جبکہ صراحةً تین طلاق دیدیں، تو یہ طلاقیں مغلظہ ہو گئیں اور اس کی بیوی نسرین فاطمہ اس پر حرام ہو گئی۔

إذا قال لامرأته: أنت طالق، طالق، طالق، ولم يعلقه بالشرط، إن كانت مدخولة طلقت ثلاثاً. (هندية، ذكرى قديم ۱/۳۵۵، جديد ۴۲۳)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر قديم ۲۱۹، جديد ذكرى ۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها، والأصل فيه قوله تعالى: فإن طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. (هدایة اشرفي دیوبند ۲/۳۹۹) فقط والله سبحانه وتعالیٰ علّم

الجواب صحیح:

كتبه: شیعہ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۰ھ

۱۴۲۳/۵/۲۳

(فتوى نمبر: الف ۳۲) (۱۴۲۶/۳۲)

میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی میں نے طلاق، تواب کیا کہتی ہے

سوال [۶۷۲۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اقبال حسین کی تقریباً ۶ سال ہوئے شادی ہوئی؛ لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس نے یہ سوچ کر کہ شاید کسی دوسری عوت سے اولاد ہو جائے ایک شادی اور کر لی۔ اب دو بیویاں ہیں کچھ دن گذرنے کے بعد پہلی بیوی سے جھگڑا ہونے لگا اور وہ یہ مطالبه کرنے لگی کہ اس دوسری کو نکال دو۔ اقبال کی ہمیشہ کے گھر جہاں ہمیشہ اقبال اور اقبال کی والدہ اور اقبال کے بھانجے مسمی خالد ضیاء موجود تھے، اقبال اور پہلی بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا اور کافی شدت پیدا ہو گئی، اسی دوران اقبال نے یہ الفاظ کہے کہ ”میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی“ اور اب تو بتا کیا کہتی ہے، میں نے اپنا شوق ختم کیا۔ اب پھر دونوں بیویاں گھر پر موجود ہیں۔

برائے کرم آگاہ فرمائیں کہ طلاق کے الفاظ کس پر لاگو ہوں گے؟ جبکہ ان الفاظ کے ساتھ نہ دونوں بیویوں میں سے کسی کا نام لیا اور نہ ہی اشارہ کیا۔

المسنونی: الطاف حسین، دول پوری ملک روشن پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: خط کشیدہ عبارات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مخاطب بڑی بیوی ہے، جس کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا؛ لہذا مذکورہ صورت میں بڑی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو گئیں۔

متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد

الطلاق . (عالمگیری، ذکریا قدیم ۱/۳۵۶، جدید ۱/۴۲۳)

إذا قال لأمرأته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً . (الأشباه والنظائر

قدیم ۱۹/۲، جدید ذکریا ۳۷۶)

اب دوبارہ نکاح بھی بغیر حلالة کے درست نہیں ہو سکتا۔

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة..... لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره
نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هدایۃ اشرفی
دیوبند ۲/۳۹۹، هندیہ، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، ۱/۵۳۵، تاتارخانیہ، ذکریا ۱/۵/۴۷،
رقم: ۰۳/۷۵، مجمع الأئمہ، دارالكتب العلمیة بیروت ۲/۸۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۲۵ ربیع الاول ۱۴۰۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف-۵۹۲/۳۳)

لو بھائی طلاق، طلاق، طلاق

سوال [۶۷۲۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بیوی اور اس کے دیور میں بحث ہو رہی تھی کہ تمہاری ماں نے تمہارے

باپ کو گھر سے نکلوادیا تھا، تم مجھے نکلوادو گے، اس کے درمیان میں بولنے لگا کہ کیا بات ہے، اس پر ہماری بیوی بولی کہ میں نہیں کہا ہے، بچہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو مجھے بیوی کی بات پر یقین آگیا کہ میری بیوی سچی ہے، میں نے کلام پاک ہاتھ میں لے لیا اور بھائی سے کہا تو کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر کہدے ہیں میں تیرا یقین کرلوں گا، بھائی بولا اگر میں کہدوں، تو تم بیوی کا کیا کرو گے، میں نے کہا کہ میں چھوڑ دوں گا، بھائی نے فوراً ہاتھ رکھ کر کہدیا، میں نے بھی فوراً اسی وقت فوراً کہدیا کہ لو بھائی طلاق طلاق۔

اس مسئلہ میں شرعی حکم بیان فرمائیں کہ میرے دوچھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔

المستفتی: ریاست حییں، قانون گویناں، ہری مسجد، امر وہہ
با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: عورت اور اس کے دیور کے درمیان آپس میں گفتگو کے الٹ پھیر اور تکرار کے بعد کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر کہنے کی شرط پر بیوی کو چھوڑنے کے لئے شوہرنے آمادگی کا اظہار کر لیا، پھر اسی وقت شوہر کا یہ کہدید یا ”طلاق طلاق“ تو ایسی صورت میں بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر بیوی شوہر کے نکاح سے باہر ہو گئی ہے۔ اب آئندہ بغیر حلالہ کے نکاح بھی درست نہ ہوگا۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم، ۲۱۹، جدید زکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هنديہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، زکریا جدید ۱/۳۵، تاتارخانیہ، زکریا ۱/۴۷، رقم: ۳۰۰) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احترم محمد سلمان منصور پوری غفرانہ
۱۴۳۳/۷/۲۶

كتبه: شیعراحمد قاسمی عفنا اللہ عنہ
۱۴۳۳ھ
(فتاویٰ نمبر: الف/۳۹، ۱۰۷۸/۳۹)

ایک طلاق دو طلاق بائن

سوال [۶۷۲۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عمر نے اپنی بیوی کا ایک طلاق دو طلاق بائن کہا ہے، تو ایسی صورت میں عمر کی بیوی پر کتنی طلاق واقع ہوں گی؟ بغیر حلالہ کے رکھنا درست ہو گا یا نہیں؟

المستفی: احمد علی قاسمی، مدرسہ حیات العلوم، گیادوہ، مدنا پور
باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ میں درج شدہ صورت میں عمر و کی بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو کر وہ مغلظہ ہو گئی ہے۔ بلا حلہ و بارہ نکاح بھی درست نہیں ہو گا۔ متى قرن الطلاق بالعدد كان الوقوع بالعدد. (شامی، کتاب الطلاق، باب الطلاق غير المدخول بها، کراچی ۲۸۷/۳، زکریا ۴/۱۳، مصری ۲/۶۲۷، کوئٹہ ۴۹۴/۲)

متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق. (عالماًگیری، زکریا قدیم ۱/۳۵۶، جدید ۱/۴۲۳، فتاویٰ دارالعلوم ۹/۴۱) وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هدایۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، تاتارخانیہ، زکریا ۵/۴۷، رقم: ۳۷۵، مجمع الانہر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۸۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعہ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۱۴۰۸ھ
۲۸ ربماوی الاولی
(فتوى نمبر: الف ۲۲)

دو طلاق کے بعد کہا ”میں نے تیرا حساب چکتا کر دیا“

سوال [۶۷۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عتیقین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عرصہ تین سال پہلے میری شادی ذاکر حسین سے ہوئی، ڈبیٹھ سال پہلے انہوں نے مجھے مار پیٹ کر نکال دیا، جب سے میں اپنے میکہ میں ہوں، صورت حال یہ تھی کہ شادی کے فوری بعد سے ناتفاقیوں اور جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جن میں میرے شوہر نے چند ایسے کلمات زبان سے ادا کئے ہیں، جن کا شرعی حکم معلوم کرنا چاہتی ہوں، ایک مرتبہ ناتفاقی کے درمیان میرے شوہرنے کہا ”میں نے تجھے طلاق دی“ اور دوسرا مرتبہ بھی کچھ کہنا چاہتے تھے؛ لیکن ان کی دادی نے ان کے منح پر ہاتھ رکھ دیا اور بر اجھلا کہہ کر باہر چلتا کر دیا، کچھ دنوں بعد پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور انہوں نے کہا ”میں نے تجھے طلاق دی“ اور پھر ان کی عادت ہو گئی، جب بھی کبھی ناتفاقی ہوتی تو وہ کہتے کہ میں نے تجھے طلاق دی اور تقریباً انہوں نے ایسے جملے ”میں نے تجھے طلاق دی“ چھ سات مرتبہ کہے، گھر کے لوگ سمجھاتے رہے کہ ایسی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، میں خاموش رہی۔ اخیر میں ایک مرتبہ میرے شوہرنے کہا کہ میں تجھے دوبار طلاق دے چکا ہوں ایک بار اور کہتا ہوں ”میں نے تیرا حساب چکتا کر دیا“ میں تجھ کو مہر دیدوں گا، تو میرے لائق نہیں ہے، ان تمام واقعات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا میں اب بھی اپنے شوہر کے لئے حلal رہی؟ مفصل تحریر فرمائیں۔

المستحبۃ: نسیمہ نسرین، رحمت اللہ علیہ، مراد آباد

بسم اللہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر سوال نامہ کا درج شدہ واقعہ سچا ہے اور شوہر نے طلاق کے مذکورہ الفاظ تین دفعہ سے زائد استعمال کئے ہیں، تو شوہر پر بیوی بالکل حرام ہو گئی ہے اور اس پر تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباء والنظائر قدیم ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶)

متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق. (عالمنگیری، زکریا قدیم ۱/۳۵۶، جدید ۴۲۳) فقط والله سبحانه وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعی احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

کرذی تعداد ۱۴۰۹ھ
(فتوى نمبر: الف/۲۵، ۱۳۸۱ھ/۲۵)

طلاق، طلاق، طلاق دیتا ہوں اور اپنی زوجیت سے آزاد کرتا ہوں

سوال [۶۷۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں شفیق احمد ولد عبدالرشید ساکن او جہاری تحصیل حسن پور، ضلع: مراد آباد کا ہوں مجھ احقر کا نکاح ہمراہ مسماۃ القریشہ خاتون بنت عبد الشکور قوم شیخ او جہاری مراد آباد سے ۳ رجبون ۱۹۷۷ء میں ہوا، مگر آپسی تعلقات ناخوشگوار ہو گئے ہیں اور تمام کوششوں کے باوجود تعلقات خوشگوار نہیں ہوئے اور نہ آئندہ ہونے کی امید ہے؛ لہذا خوب سوچ سمجھ کر مسماۃ القریشہ خاتون کو بروئے دو گواہاں طلاق طلاق طلاق دیتا ہوں اور اپنی زوجیت سے آزاد کرتا ہوں؛ لہذا یہ طلاق نامہ لکھ دیا کہ سندر ہے اور کام آئے اس کا کیا حکم ہے۔

المستخفی: شفیق احمد ولد عبدالرشید، حسن پور، مراد آباد
با سمه سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مذکورہ میں قریشہ خاتون پر تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں۔

متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق. (عالمنگیری، زکریا قدیم ۱/۳۵۶، جدید ۴۲۳)

لہذا ب بلا حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی درست نہیں ہوگا
 عن عائشہ ^{رض} قالت: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إذا طلق
 الرجل امرأته ثلثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدوّق كل واحد
 منه ما عسيلة صاحبه. (سنن الدارقطني، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية
 بيروت ٤/ ٢١، رقم: ٣٩٢٢) فقط والسبحانة وتعالى اعلم

کتبہ: شیبیر احمد قادری عفان الدین عن
 ربيع الاول ۱۴۰۸ھ
 (نومبر: ۵۹۶/۲۳)

دو مرتبہ آزادا اور ایک مرتبہ لفظ طلاق کہنا

سوال [۲۷۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل
 کے بارے میں: کہ ہندہ نے زید کو تنگ کیا کہ تو مجھے آزاد کر دے، زید نے دو مرتبہ یہ الفاظ
 کہے کہ میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے آزاد کیا، ہندہ نے کہا کہ آزادی اس طرح نہیں
 ہوئی اور ہندہ نے زید کا گریبان پکڑ رکھا تھا، ہندہ نے کہا کہ یوں کہہ کہ میں نے تجھے طلاق
 دی، زید نے یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، میرے خدا نے دی، بحوالہ جواب عنايت
 فرمائیں عین نوازش ہوگی۔

المستفتی: حافظ رمضان الدین، تخلیص رام نگر، نینی تال
 باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: آزاد کیا کا لفظ یہاں کے عرف میں طلاق کے
 لئے استعمال ہے، اس سے طلاق صریح واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا دو مرتبہ کہنے سے دو طلاق
 ہو جاتی ہیں، بعد میں میں نے تجھے طلاق دی کے لفظ سے ایک طلاق کل ملا کرتیں طلاقیں
 واقع ہو گئیں ہیں؛ لہذا ب آئندہ بلا حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی صحیح نہیں ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ
 محمودیہ قدیم ۱۶/۲، جدید ڈاہیل ۳۵۹/۱۲، امداد الفتاوی ۲۳۲/۲-۲۳۳/۲)

قوله سرحتک یقع بہ الرجعی مع ان اصلہ کنایہ۔ (شامی، کتاب الطلاق، باب الکمایات، کوئٹہ ۲/۵۰۳، کراچی ۳/۲۹۹، زکریا ۴/۵۳۰)

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدوّق كل واحد منهمما عسيلة صاحبه. (سنن الدارقطني، کتاب الطلاق، دارالكتب العلمية بیروت ۴/۲۱، رقم: ۳۹۳۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱/ جمادی الثانیہ ۱۴۰۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۵/۲۲)

دومرتباً ”میں نے تجھے طلاق دی“ اور تیسری مرتبہ صرف ”طلاق دی“ کہنا

سوال [۶۷۲۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے یوں کہا کہ نور جہاں میں نے تجھے طلاق دی، نور جہاں میں نے تجھے طلاق دی، تیسری مرتبہ صرف یہ جملہ کہا طلاق دی، تو اس صورت میں میری بیوی پر کون سی طلاق واقع ہوئی؟

المستفتی: سلطان الہی، صالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مذکورہ صورت میں آپ کی بیوی پر طلاق مغاظہ واقع ہو کر بیوی آپ پر بالکل حرام ہو چکی ہے۔ اب بلا حلالة دوبارہ نکاح بھی درست نہیں ہو گا۔ لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلثاً۔ (الأشباه والنظائر

قدیم ۹/۲۱، جدید زکریا ۳۷۶)

متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق. (عالِمِ گیری، زکریا قدیم ۱/۳۵۶، جدید ۱/۴۲۳)

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويذوق كل واحد منه ما عسيلته صاحبه. (سنن الدارقطني، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية)
بیروت ۴/ ۲۱، رقم: ۳۹۳۲)

وإن كان الطلاق ثالثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.
(هداية اشرفي دیوبند ۲/ ۳۹۹) فقط والبسجناه وتعالیٰ علم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان الدین
ر صفر امظفر ۱۴۱۰ھ
(فتاویٰ نمبر: الف ۲۵ / ۷۲۷)

”طلاق، طلاق، تجھے طلاق،“ اگر لکھوانی ہو تو لکھوا بھی لو

سوال [۶۷۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متبین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کچھ خانگی معاملات پر میرا جھگڑا امیرے شوہر کے ساتھ ہوا، انہوں نے مجھے یہ الفاظ کہے ”طلاق، طلاق، تجھے طلاق،“ اگر لکھوانی ہو تو لکھوا بھی لو، تو اس سے شرعی طور پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوئی تو کونسی طلاق واقع ہوئی؟ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ مตگوایا وہاں سے تین طلاق واقع ہونے کا جواب آیا؛ لیکن وقف جامع مسجد دارالعلوم دیوبند سے اس کے خلاف جواب آیا ہے اور وہاں سوال یوں لکھا تھا کہ آپس میں تنازع ہو گیا تھا کئی سال ہو گئے، اس اثناء میرے شوہرنے کہا ”طلاق، طلاق تجھے طلاق،“ اگر لکھوانی ہو تو لکھوا بھی لو، تو وہاں سے جواب آیا کہ پہلے دونوں لفظ اعرافاً تنبیہ کے لئے ہیں اور تجھے طلاق کے لفظ سے ایک طلاق رجعی اس کی بیوی پر ہو گئی تھی، تواب شریعت کی روشنی میں دونوں فتاویٰ پر غور کر کے فیصلہ فرمائیں کہ کونسا فتویٰ صحیح ہے؟ کیا میں اپنے شوہر کے

ساتھ رہ سکتی ہوں؟ مدلل جواب عنایت فرمائیں۔

المستفینیہ: لیقہ خاتون رضوی بنت سید احمد حسینی، موادہ، میرٹھ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مذکورہ میں یہوی پر تین طلاق واقع ہو کر وہ شوہر پر بالکل حرام ہو چکی ہے اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ درست اور صحیح ہے اور وقف جامع مسجد دارالعلوم دیوبند کے جواب میں پہلے دونوں لفظ کو تنبیہ کے لئے قرار دینا دعویٰ بلا دلیل ہے اور وقوع طلاق کے لئے خطاب اور اضافت کا صراحت سے ہونا لازم نہیں ہے؛ بلکہ قرآن اور معنوی اضافت بھی کافی ہوتی ہے اور مذکورہ واقعہ میں آپسی جھگڑا اور بعد میں شوہر کا جملہ اگر لکھوائی ہو تو لکھوا بھی لو۔ نیز آخری لفظ کے ساتھ (تحت) کا الفاظ قرآن و اضافت کے لئے پہلے دونوں لفظ کے حق میں کافی ہے، اس لئے تین طلاق واقع ہونے میں کوئی تردید نہیں ہونا چاہئے۔ ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه (إلى قوله) لأن العادة أن من له امرأة إنما يحل بطلاقها لا بطلاق غيرها۔ (الدر المختار، کتاب الطلاق، باب الصريح، زکریا ۴۵۸/۴، کراجی ۳/۲۴۸)

لوکرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق. (عالمنگری، زکریا قدیم ۱/۳۵۶، زکریا جدید ۱/۴۲۳)

لو قال : أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۱/۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

كتبه: شمسير احمد قاسمي عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۵ مریعہ الثانی ۱۴۳۱ھ

۱۴۳۱/۰۲/۲۵

(فونی نمبر: الف ۲۹۹۲۲)

دو طلاق دینا یاد ہے لیکن تیسری کا دھیان نہیں

سوال [۶۷۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ سلیم نے اپنی بیوی کو دو طلاق قیس دیدیں اور تیسری مرتبہ کہنے کا دھیان نہیں ہے؛ لیکن انشاء اللہ کا دل میں خیال ہے، منھ سے نہیں نکلا تھا، حضرت تحریر فرمائیں کہ کوئی طلاق واقع ہوئی؟

المستفتی: محمد سلیم، بیڑا کملپور، سینتا پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر تیسری مرتبہ کہنے کا دھیان نہیں ہے، تو دو طلاق واقع ہوئی ہیں، رجعت کر کے رکھنے کی اجازت ہے اور لفظ انشاء اللہ کا محض دل میں خیال کر لینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

ولو شک أطلق واحدة، أو أكثـر بنـي عـلـى الأقلـ الخ. (الدر المختار،
كتاب الطلاق، قبيل باب طلاق غير المدخول بها، زکریا ۴/۵۰۸، کراچی ۳/۲۸۳)
الاشباء والنظامـ قديـم مطبـوعـه دـيوـبـند (۱۰۸)

عن محمد رحمـه اللهـ تعالـى: إـذا شـكـ فيـ أنه طـلقـ وـاحـدـةـ، أوـ ثـلـاثـاـ
فـهـيـ وـاحـدـةـ حتـىـ يـسـتـيقـنـ، أوـ يـكـونـ أـكـبـرـ ظـنـهـ عـلـىـ خـلـافـهـ۔ (ہندیـہـ، زـکـرـیـاـ قـدـیـمـ)

عن عبد الله و عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فذكر التفسير إلى قوله: الطلاق مرتان. قال: وهو الميفات الذي يكون
عليها فيه الرجعة، فإذا طلق واحدة، أو ثنتين، فإنما أن يمسك ويراجع
بمـعـرـوفـ وأـمـاـ يـسـكـتـ عنـهاـ حتـىـ تـنـقـضـيـ عـدـتهاـ۔ (سنـنـ كـبـرىـ للـبـیـهـقـیـ،
كتاب الرجـعـةـ، دارـالـفـکـرـ بيـرـوتـ ۱۱/۲۸۲ـ، رقمـ ۵۸۷ـ، رقمـ ۶۰۰ـ، رقمـ ۴/۴۳۰ـ، جـدـيـدـ ۱/۲۶۳ـ، الفـتاـوىـ الشـاتـارـخـانـیـةـ، زـکـرـیـاـ ۴/۵۸۷ـ، رقمـ ۷۰۰ـ)

إـذا طـلقـ الرـجـلـ اـمـرـأـتـهـ تـطـليـقـةـ رـجـعـيـةـ، أوـ تـطـليـقـتـيـنـ فـلـهـ أـنـ يـرـاجـعـهاـ
فيـ عـدـتهاـ۔ (ہـدـایـہـ، اـشـرـفـیـ دـیـوـبـندـ ۲/۴۳۹ـ) فقطـ والـلـهـ سـجـانـهـ وـتـعـالـیـ اـعـلـمـ

كتبه: شبير احمد قادری عقا اللہ عنہ

۱۸/ جمادی الاولی ۱۴۱۰ھ

(فتوى نمبر: الف/۲۵، ۲۵/۱۷۹)

تین طلاق دینے کے بعد شوہر کے والدین کا طلاق نہ مانا

سوال [۶۷۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متن مسئلہ ذیل کے بارے میں: میں نے اپنی بیوی قمر جہاں بنت کلوپر دھان کو نومبر ۱۹۹۸ء کو پورے ہوش و حواس کے ساتھ سارے گھر کے سامنے تین بار طلاق دی تھی، اس کے بعد کبھی میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، میرے ماں باپ حاجی ہیں پھر بھی وہ اس طلاق کو نہیں مانتے، میں نے اپنا دوسرا نکاح مسمی میں بغیر کسی کوتباۓ ہوئے کر لیا ہے اور وہ بیوی میرے ساتھ ہے؛ لیکن میرے ماں باپ اس بات کی ضد پکڑے ہوئے ہیں کہ تو اسے بھی رکھ، میں کہتا ہوں کہ میں اسے طلاق دے چکا ہوں اور آج بھی تاریخ ۱۹۹۹ء کو بروز جمعہ کو پنے پورے ہوش و حواس میں قمر جہاں کو پورے گھر کے سامنے اور اس کی ماں کے سامنے بھی طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں؛ لیکن تاریخ: ۱۹۹۹ء بروز ہفتہ میرے ماں باپ نے پھر یہ ضد پکڑی کہ ہم یہ طلاق نہیں مانتے، میں نے پھر پورے گھر کے سامنے قمر جہاں اور اس کی ماں کے سامنے میرے دوسرے سرال والے اور دوسرے گاؤں کے لوگوں کی موجودگی میں تین بار طلاق دے کر اور اپنی دوسری بیوی کو لے کر گھر سے نکل گیا، میں اردو، عربی پڑھا کر ہانہ نہیں ہوں، میں پھر بھی شریعت کے خلاف نہیں جانا چاہتا۔ مہربانی کر کے یہ بتائیے کہ طلاق ہوئی کہیں؟

المستفتی: محمد یعقوب ولد محمد یوسف، گرام بنی جوزی، اودھم سنگھ نگر (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: بیوی کو جب تین طلاق صراحتہ دیدی گئیں تو شرعاً واقع ہو گئیں اور وہ بیوی حرام ہو گئی والدین کا اس طلاق کو نہ مانا درست نہیں اور نہ والدین کو یہ اختیار ہے، طلاق بہرحال واقع ہو چکی ہے اور وہ عورت قطعاً آپ کے لئے حرام ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ رہنا زنا کاری ہو گی۔

عن سهل بن سعد^{رض}، في هذا الخبر، قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، فأنفذه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. (أبوداؤد شریف، کتاب الطلاق، باب فی الطلاق، النسخة الہندیة ۱/ ۳۰۶، دارالسلام رقم: ۲۲۵۰، ۰۶-۵۰-۵۰۵۹-۰۲۹۱، رقم: ۷۹۱) صحیح البخاری، باب من اجاز الطلاق الثلاث، النسخة الہندیة ۲/ ۷۹۱، رقم: ۵۰۶۰) وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرة، أو شتین في الأمة لم تحل له حتى تنکح زوجاً غيره نکاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. والأصل فيه قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجاً غيره. (هدایۃ اشرفی دیوبند ۳۹۹/ ۲) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان الدین

۲۹ جمادی الاولی ۱۴۲۰ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۲/ ۲۹۰۵/ ۱۴۲۰ھ)

ساس کی وجہ سے بیوی کو تین طلاق دینا

سوال [۶۷۳۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں اپنی ساس سے لڑائی کر رہا تھا، بیوی ہمارے موافق ہے، ساس نے کوئی ایسی غصے کی بات بولی، جس کی بنا پر میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدیں۔ اب ایسی حالت میں کون سی طلاق واقع ہوئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں تقریباً ۵ رسال سے ہمارہوں چنان، پھرنا بھی مشکل ہوتا ہے، بیوی ہماری فرماں بردار ہے، میں نے ساس کی وجہ سے طلاق دی ہے؛ اس لئے حضور والا سے درخواست ہے کہ رجوع کرنے کی کیا صورت ہو گی تحریر مائیں؟

المستفني: حلیم الدین، پیر غنیم، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: تین طلاق دینے کے بعد طلاق مغلظہ پڑگئی اور عورت مرد کے لئے حرام ہوئی؛ لہذا دونوں کے درمیان جدا گئی لازم ہے۔ اب دوبارہ

نکاح میں لانے کی شکل یہی ہے کہ عدت گذرنے کے بعد دوسرے سے نکاح کرے اور ہم بستری ہونے کے بعد جب شوہر ثانی طلاق دیدے، پھر عدت بھی گذر جائے تواب شوہر اول کا اس سے نکاح کرنا جائز ہو گا۔

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدوق كل واحد منها عسيلة صاحبه. (سنن الدارقطني، کتاب الطلاق، دارالكتب العلمية بيروت ۴/ ۲۱، رقم: ۳۹۳۲) وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، أو شتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحًا، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هدایۃ اشرفی دیوبند ۲/ ۳۹۹، هندیۃ، زکریا قدیم ۱/ ۴۷۳، جدید ۱/ ۵۳۵، تاتار خانیۃ، زکریا ۱/ ۴۷، رقم: ۷۵۰۳)

و لا تحل الحرمة بعد الطلاقات الثلاث لمطلقها لقوله تعالى: فان طلقها فلا تحل له. [سورة البقرة: ۲۳۰]

من بعد الآية إلا بعد وطء زوج آخر بنكاح صحيح ومضى عدته أي عدة النكاح الصحيح بعد زواله بالطلاق في الزوج الثاني. (مجمع الأئمہ، دارالكتب العلمية بيروت ۲/ ۸۸) فقط والله سبحانه وتعالیٰ أعلم

كتبه: شیعیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۲۷ رجب الاول ۱۴۲۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۳۲، ۶۰۸۹)

ٹیش میں آ کر "اس کو طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی" کہنا

سوال [۶۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص یعنی زید کی اپنی بیوی کے بارے میں اپنی ماں سے تکرار ہو رہی تھی، زید اپنی ماں کو مناہہ تھا، جب اس کی والدہ نہیں مانی تو زید نے ٹیش میں آ کر اپنی والدہ کی وجہ

سے اپنی بیوی کے بارے میں کہا، اگر تو یہی چاہتی ہے تو لے ”میں نے اس کو طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی“، اس کے بعد معلوم کرنے پر بھی لڑکے نے یہی کہا کہ میں نے اس کو اپنی ماں کے اوپر ہی طلاق دی ہے، لفظ طلاق لڑکے کے منہ سے کئی بار نکلا، بڑی اسوقت وہاں پر موجود نہیں تھی اور ابھی تک اس کو اس کے بارے میں بتایا بھی نہیں تھا، زید کی والدہ کہنے ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی، میں اپنی باتوں کے اوپر اپنے لڑکے سے لڑکی تھی، اس میں اس کی بیوی کی کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے تو اپنے ہی لڑکے سے شکایت ہے، تو دریافت طلب امریہ ہے کہ آیا زید کی بیوی کو طلاق ہو گئی یا نہیں؟ اگر واقع ہوئی ہے تو کوئی طلاق واقع ہوئی ہے۔
بالتفصیل جواب سے نوازیں۔ بینوا و تو جروا۔

المستفتی: نذیر میرخی، دارالعلوم دیوبند

جواب منجانب: دارالعلوم دیوبند

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شخص مذکور زید سے معلوم کیا جائے کہ اس نے طلاق کو ماں کی منشا اور چاہنے پر معلق کیا ہے یا طیش میں آ کر طلاق دی ہے ماں کے چاہنے پر معلق نہیں کیا ہے، اس کے بعد جواب لکھا جائے گا۔ نقطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم

كتبه: مفتی طفیر الدین غفرلہ	تنتقیح صحیح ہے
کفیل الرحمن نشاط	العبد: نظام الدین
ناہب مفتی دارالعلوم دیوبند	۲۲ ربیعہ ۱۴۳۰ھ

جواب منجانب: دارالافتاء مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: معزز و محترم مفتی دارالعلوم دیوبند اامت برکاتہم کی مذکورہ تحریر سے خاکسار کو اتفاق نہیں ہے، کیونکہ خط کشیدہ الفاظ واضح طور پر ناطق ہیں کہ

زید نے اپنی والدہ سے لڑتے ہوئے طیش میں آکر انہی بیوی کو طلاق دی ہے؛ الہماذ کوہ عبارت برائے تعلیق نہیں ہے؛ بلکہ، برائے تجیر ہے اور سوال نامہ کی درج شدہ صورت میں زید کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔ اور شوہر کا جملہ اگر تو یہی چاہتی ہے، تو لے میں نے اس کو طلاق دی، یہ تعلیق بالحال ہے، جس میں حکم تجیر کا ہوتا ہے۔

إن التعليق بكائن تجيز تحت قول التوير وإن قالت شئت إن كان الأمر قد مضى طلقت؛ لأنها تجيز الخ. (شامي، كتاب الطلاق، باب الأمر باليد،

فصل في المشية، كراچی ۳/۳۳۵، زکریا ۴/۵۸۱)

كتبه: شییر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۳۱۰ / شعبان ۱۴۳۰ھ
(فتاویٰ نمبر: الف / ۲۶، ۱۹۳۷ھ)

تیز بخار کی غفلت میں تین طلاق دینا

سوال [۶۷۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے تیز بخار کی غفلت میں اپنی بیمار بیوی سے کسی بات پر تین بار طلاق، طلاق، طلاق کہہ دیا الفاظ یہی تھے، نہ اپنی بیوی کا نام لیا، نہ یہ کہا طلاق دی، میرا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، مگر بخار کی گرمی وغیرہ کی پریشانی میں صرف لفظ طلاق کہدیا۔ اب طلاق ہوئی یا نہیں؟ اور دونوں ایک ہی ساتھر ہنا چاہتے ہیں کیا شکل ہو؟

المستفتى : ساجد علی، ادھو پورہ

بِسْمِهِ سَبْحَانَهُ تَعَالَى

الجواب وبالله التوفيق: جب بیوی کو مخاطب کر کے لفظ طلاق تین مرتبہ

کہدیا ہے، تو اس سے بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو گئی ہے۔ اب اگر دونوں ساتھر ہنا چاہیں تو حالہ کرنا لازم ہوگا، اس کی صورت یہ ہے کہ عدت گذرنے کے بعد بیوی کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے اس کے ساتھ ہمستر ہو جائے اس کے بعد وہ مرد طلاق دیگا، تو پھر عدت گذار کر پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵)

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدنوق كل واحد منها ع رسيله صاحبه. (سنن الدارقطني، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية
بیروت ۴/۲۱، رقم: ۳۹۳۲) نقطه والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان الدین عنہ

۱۴۱۵ھ ریاض الاول

(الف ۳۹۳/۳۱) نومی نمبر:

بہری بیوی کوتین طلاق دینا

سوال [۶۷۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مตین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی شنوپر وین جو کہ پیدائشی منہ سے نہیں بولتی گوگی ہے اور کافیوں سے بھی نہیں سنتی ہے بہری ہے، اس کا شوہر بھی کچھ بے وقوف قسم کا ہے، اپنی زبان سے کسی کو بھی الٹا سیدھا کہدیتا ہے، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کا بالکل مادہ نہیں ہے؛ اس لئے اپنی بیوی شنوپر وین کو ۱۲۸۷ء سینچر کورات سائز ہے آٹھ بجے کچھ لوٹ پھیر ہو جانے پر باہر دالان میں کھڑے ہو کرتیں مرتبہ طلاق دے دی، لڑکی کمرے کے اندر رہتی، اگر لڑکی کے

پچھے کتا شور مچائے یا چلائے تو اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، اس حالت میں ہمیں فوراً جواب دیں کہ طلاق ہوئی یا نہیں؟

المسنون: محمد ایسمین، عیدگاہ، نجی بستی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق واقع ہونے کے لئے بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے، بیوی کے بلا سنبھلی طلاق واقع ہو جاتی ہے، جب شوہر نے تین مرتبہ طلاق دے دی ہے، تو بیوی پر تینوں طلاقین واقع ہو گئی ہیں؛ لہذا آئندہ بلا حلالہ دوبارہ نکاح بھی درست نہیں ہوگا۔

ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه الخ. (شامي، كتاب الطلاق، باب الصرائح، كراجي ۴/۳، زكرياء ۴۵۸، البحر الرائق، كوششہ ۳/۲۵۳، زكرياء ۳/۴۴۲)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قديم ۹، جديد زكرياء ۳۷۶)

متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق. (عالمنگيري، زكرياء قديم ۱/۳۵۶، جديد ۱/۴۲۳)

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويذوق كل واحد منها عسيلة صاحبه. (سنن الدارقطني، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية بيروت ۴/۲۱، رقم: ۳۹۳۲)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرة..... لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هنديہ، زكرياء قديم ۱/۴۷۳، زكرياء جديد ۱/۵۳۵، هداية اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹)

تاتار خانیہ، زکریا ۱۴۷/۵، رقم: ۳۰۵۷۵) نقطہ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۹ رب جادی الاولی ۱۲۰۹ھ

(نومی نمبر: الف-۲۲/۱۲۲۶)

کالی کو تین طلاق کہنے سے دو بیویوں میں سے کس پر طلاق واقع ہوگی؟

سوال [۲۷۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی دو بیویاں ہیں: (۱) ہندہ (۲) خالدہ، ہندہ پہلے نکاح سے ہے، زید کی پہلی بیوی پڑھی ہوئی نہیں ہے؛ البتہ دوسری پڑھی لکھی اور دیندار بھی ہے، نکاح کے بعد وہ میری پہلی بیوی کو طلاق دلانا چاہتی ہے؛ لیکن میں طلاق دینا نہیں چاہتا؛ کیونکہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، ایک دن دوسری بیوی نے کہا مجھ سے (پہلی بیوی کے بارے میں) کہ کالی کو طلاق کہو، میں نے یونہی کہہ دیا طلاق، اس نے کہا تین کہو میں نے بھی یونہی کہہ دیا تین، اس نے کہا کالی کو میں نے بھی کہہ دیا کالی کو میرے دل میں اس کو طلاق دینے کی بات نہیں تھی اور کوئی زبردستی کسی بھی طرح کی نہیں تھی، صرف وہ دوسری بیوی ہی اپنے حسن پر نازکی بنا پر کالی کہتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کو کالی نہیں کہتا، اس عبارت کے تحت کیا ہندہ جوزید کی پہلی بیوی ہے، اس کو طلاق واقع ہوگئی یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب تحریر فرمادیں۔

المستفتی: علیم الدین، قاسمی، امام مسجد شیخان، سیوطہ رہ، بجنور
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب یہ بات متعین ہے کہ دوسری بیوی پہلی بیوی کو کالی کہتی ہے اور شوہر بھی سمجھتا ہے کہ کالی سے پہلی بیوی مراد ہے اور دوسری بیوی نے کالی کو طلاق دینے کا مطالبہ کیا ہے اور اس پر شوہر نے کالی کو تین طلاق دی ہیں، تو ایسی صورت میں پہلی بیوی

پر طلاق مغلظہ واقع ہو گئی؛ اس لئے کہ شوہر سمجھتا ہے کہ دوسرا بیوی پہلی بیوی کو کا لی کہتی ہے اور اس طرح مطالبة طلاق کے موقع پر مطالبہ کی تکمیل میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا پہلی بیوی پر تین طلاق واقع ہو گئی ہیں، آئندہ بغیر حلالہ کے اس کے ساتھ نکاح بھی جائز نہ ہو گا۔

قالت: لزوجها: طلقني، فقال: فعلت طلقت فإن قالت زدني، فقال:

فعلت طلقت أخرى بقرينة الطلب. (شامی، کراچی ۳/۲۹۴، زکریا ۵۲۳-۵۲۴) وفي الخانية:: قالت له طلقني ثلاثةً، فقال: فعلت، أو قال طلقت

و قعن. (شامی، زکریا ۳/۴۲۵، کراچی ۴/۲۹۴) وإن كان الطلاق ثلاثةً في الحرمة، وثننتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، تاتارخانیہ، زکریا ۵/۴۷، رقم: ۷۵۰۳، مجمع الأنہر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۸۸) فقط والسبحانہ و تعالیٰ علّم

لکتبہ: شیعہ احمد قاسمی عفی اللہ عنہ

الاربعین الثاني ۱۴۲۵ھ

(فتوى نمبر: الف-۲/۳۲۵) (۸۳۱۳/۳۲۵)

ایک ساتھ دو بیویوں کو طلاق دینے کا حکم

سوال [۶۷۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی دو بیویاں تھیں، دونوں بیویوں میں جھگڑا بہت ہوتا تھا، زید نے ایک دن دیکھا کہ دونوں بیویاں بہت جھگڑا کر رہی تھیں، زید نے غصہ میں اپنی دونوں بیویوں کو ایک ساتھ تین مرتبہ طلاق دیدی، حضرت کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں عنایت فرمائیں۔

المستفتی: خمیر احمد، انوان پور، مراد آباد (بیوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مسؤولہ صورت میں دونوں بیویوں پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے، اب بدون حلالہ شرعیہ کے ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح درست نہیں اور ایک مجلس میں تین طلاق دینے سے تینوں طلاقیں چاروں اماموں کے نزدیک واقع ہو جاتی ہیں، اسی طرح دونوں بیویوں کو ایک ساتھ طلاق دینے سے دونوں پر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

عن سهل بن سعد، فی هذا الخبر قال: فطلقها ثلاثة تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (سنن ابو داؤد شریف، کتاب الطلاق، باب في اللعان، النسخة الہندیۃ ۳۰۶، دارالسلام رقم: ۲۲۵۰، صحيح بخاری، کتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث، النسخة الہندیۃ ۷۹۱/۲، رقم: ۵۰۶۰، ف: ۵۲۵۹، صحيح مسلم، کتاب اللعان، النسخة الہندیۃ ۴۸۹/۱، بیت الأفکار، رقم: ۱۴۹۲، سنن النسائی، کتاب الطلاق، باب الرخصة في ذلك، النسخة الہندیۃ ۸۳/۲، رقم: ۳۴۳۱)

وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثة، فقال الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف: يقع، وقال طاؤس وبعض أهل الظاهر لا يقع بذلك إلا واحدة. (شرح المسلم للنووي، کتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث ۱/۴۷۸، مرقاة شرح مشکوہ، باب الخلع، الطلاق الثالث بلفظ واحد، امدادیہ ملتان ۶/۲۹۳، بذل المجهود، شرح أبو داؤد، کتاب الطلاق، باب بقية نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، مکتبہ یحییٰ سہارنپور ۳/۲۷۶، دارالبشایر الإسلامية بیروت ۸/۹۵، تحت الرقم: ۲۲۰۰)

کر لفظ الطلاق وقع الكل. (شامی، کتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، کراچی ۳/۲۹۳، زکریاء/۵۲۱)

فإن قال امرأته طالق: وله امرأتان كلتا هما معروفةتان يصرف

الطلاق إلی أیتهما شاء۔ (فتاویٰ تاتارخانیہ، زکریا ۴ / ۴۲۱، رقم: ۶۵۷۹)
فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم

الجواب صحیح:
كتبه: شیبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
احقر محمد سلمان مصوّر پوری غفرلہ
۱۹ محرم الحرام ۱۴۳۲ھ
(فتوى نمبر: الف ۱۰۲۶۲، ۳۹)
۱۴۳۲/۱/۲۰

زبانی طلاق مغلظہ دینے کے بعد تحریری طلاق دینا

سوال [۶۷۳۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متبین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ آفتاب خاں ولد اسحاق خاں نے اپنی بیوی کو بعض وجہ کی بنا پر زبانی تین طلاق دیدیں اور کچھ دنوں بعد اسٹامپ پیپر پر دو گواہوں کے سامنے تحریری طلاق بھی دیدی، ان دونوں کے درمیان طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اور بعد عدت کوئی حق رہے گا یا نہیں؟

المستفتی: نعمان (ایم پی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مسؤولہ صورت میں جب شوہر آفتاب خاں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں، تو اس کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر بیوی اپنے شوہر کے لئے حرام ہو گئی اور عدت گذرنے کے بعد بیوی پر شوہر کا کوئی حق نہیں رہے گا؛ البتہ اگر دونوں ساتھ رہنا چاہیں، تو عدت کے بعد حلالہ شرعیہ کے بعد پھر عدت گذار کراز سر نو زنا کر کے میاں بیوی جیسی زندگی گذار سکتے ہیں۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباء والنظائر

قدیم ۱/۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(عالیگیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، ۵/۳۵، جدید ۱/۲۹۹، هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، تاتارخانیہ، ذکریا ۱۴۷/۵، رقم: ۷۵۰-۳)

فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۲۸ / جمادی الثانیہ ۱۴۳۳ھ

(فتاویٰ نمبر: الف ۱۰۱۱۲/۳۹)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۱/۷/۲

بدکار عورت کو تین طلاق دینا

سوال [۶۷۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مตین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بیوی کے شادی سے پہلے ایک غیر مسلم سے ناجائز تعلقات تھے؛ لیکن اس کے ماں باپ نے سمجھایا کہ نادانی میں یہ سب کچھ ہوا ہے اب نہیں ہوگا۔ اور شادی کردی گئی؛ لیکن شادی کے ایک سال بعد پھر یہ حرکت شروع کردی اور قریب ایک سال تک شوہر کے دو بھانجوں سے تعلق رہا، جب دونوں لڑکوں میں آپس میں لڑائی ہوئی، تو راز کھلا اور بات بہت آگے پنچایت تک پہنچ گئی، پنچایت نے ایک موقع اور دیابات رفع دفع ہو گئی، ایک سال بعد تیسری مرتبہ پھر ایک غیر مسلم برادر سے اس کا تعلق ہو گیا، اس مرتبہ شوہر نے اس کو تین طلاق دیدیں، تو کیا شوہر کا یہ اقدام درست ہے؟ جلد از جلد جواب دینے کی زحمت کریں کرم ہوگا۔

نوٹ: لڑکی والے کہتے ہیں کہ طلاق آمنے سامنے ہوتی ہے، تو کیا لڑکی کا طلاق کے وقت سامنے موجود ہونا ضروری ہے یا مذکورہ طلاق ہو گئی؟ شریعت کا حکم تحریر فرمادیں شوہر تین طلاق دینے کا خود اقرار کر رہا ہے۔

المستفتی: احمد علی، ساکن: رام گر

بسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: ایسی فاسقهہ فاجرہ اور بدکار عورت کو طلاق دینے

سے شوہر پر کوئی گناہ نہیں ہے اور طلاق کے صحیح ہونے کے لئے بیوی کا آمنے سامنے موجود ہونا لازم نہیں ہے۔ غائبانہ طلاق دینے سے بھی طلاق صحیح اور معتبر ہو جاتی ہے، لڑکی والوں کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ طلاق آمنے سامنے ہوتی ہے اور تین طلاق کے ثبوت کے لئے صرف اتنا کافی ہے کہ شوہر تین طلاق دینے کا خود اقرار کر لے، شوہر کے اقرار کے بعد اس عورت کا شوہر کے پاس جانا اور جانے کا ارادہ کرنا جائز نہیں۔ وہ عورت شوہر پر قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے۔ اب اگر شوہر پر دباؤ ڈال کر دوبارہ اس کے پاس رہے گی تو حرام کاری اور زنا کاری ہو گی اور اس گناہ میں وہ لوگ بھی شریک ہوں گے، جو اس حالت میں عورت کو زید کے پاس بھیجنے میں تعاون کریں گے۔

و عند الحاجة إلية مباح غير مكروه و عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل الصلوة و نحوها، أن تكون غير عفيفة، أو خارجة إلى المخالعة والشقاق مندوب إليه. (اعلاء السنن، كتاب الطلاق، قبيل

باب طلاق السنة، دار الكتب العلمية، بيروت ۱۶۲۱، کراچی ۱۴۳/۱۱)

ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه لما في البحر لو قال: طالق، فقيل له من عنiet، فقال امرأتي طلقت امرأته الخ. (شامي، كتاب الطلاق، باب الصریح، کراچی ۳/۲۴۸، زکریا ۴/۴۵۸)

وإذا أقرَّ الْحُرْ العَاقِلُ البَالِغُ بِحَقِّ لِزْمِهِ إِقْرَارَهُ مجْهُولًا كَانَ مَا أَقْرَبَهُ، أو معلومًا. (هداية الشرفی دیوبند ۳/۲۳۱) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

اجمادی الاولی ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۷/۸۰۳۱)

بیوی کی بد تیزی کی وجہ سے شوہر کا تین طلاق دینا

سوال [۶۷۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ مجھے مسماۃ کمل پر وین سے شادی کئے ہوئے دس سال کا عرصہ ہو گیا، اس دس سال کے عرصہ میں اس کی بد اخلاقی بد تیزی نیز فجش گالیاں دینی حد سے بڑھ کی ہیں، اس وجہ سے کمل پر وین کو الگ رکھنا پڑا۔ اور ایک مرتبہ تین طلاق دی، تین طلاق دی کہہ کر نکال دیا وہ پھر آگئی، کیا ایسی عورت کو رکھنا جائز ہے اور خدا رسول کی شان میں گستاخانہ کلمے ادا کرنا یہ مسلم منشوں کا مذہب ہے، یہ تو عورتیں کرنے کا مذہب ہے، اس سے ہندو مذہب اچھا ہے، اس کی نظر میں شوہر کی کوئی وقعت و عزت و توقیر بالکل نہیں ہے اور شرعی طور پر کس سزا کی مستحق ہے؟

المستفتی: سالم حسین، کسریول، دیوان خانہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شوہر کے ساتھ سخت الفاظ اور بے تیزی سے پیش آن عورت کے لئے جائز نہیں ہے۔

ویکروه ان یدعو الرجل أباه وأن تدعوا المرأة زوجها باسمه الخ.

(در مختار، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، زکریا ۹/۹، کراچی ۶/۴۱۸)

اور مذہب کی خفارت اور استہزاًء موجب توبہ ہے اور جب آپ نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی ہیں، تو بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے، آپ کا اب اس بیوی کے ساتھ رہنا حرام کاری اور زنا کاری ہوگی؛ اس لئے اس کو اب اپنے یہاں آنے دینا ہرگز جائز نہ ہو گا۔ اب بغیر حالہ کے اس کے ساتھ کاح بھی درست نہ ہو گا۔

عن واقع بن سحبان^{رض}، قال: سئل عمران بن حصین عن رجل طلق امرأته ثلاثة في مجلس، قال: أثم بربه وحرمت عليه امرأته. (مصنف ابن أبي

شبیہ، مؤسسہ علوم القرآن بیروت ۹/۱۹، رقم: ۸۷/۸۰)

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه. (سنن الدارقطني، کتاب الطلاق، دارالكتب العلمية بیروت ۴/۲۱، رقم: ۳۹۳۲)

وإن كان الطلاق ثلثاً في المحرّة، وثنتين في الأُمّة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطليقها، أو يموت عنها. (العامّگیری، ذکریا قدیم ۱ / ۴۷۳، جدید ۱ / ۵۳۵، هداية اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹)

فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

كتبه: شیبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۵ ر ربیع الاول ۱۴۱۳ھ

۱۴۱۳/۳/۲۵

(فتویٰ نمبر: الف/۲۸)

دباو میں آ کر تین طلاق دینا

سوال [۶۷۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں عبد الجید ولد عبد الحکیم آپ سے شریعت کے مطابق کچھ معلومات کرنا چاہتا ہوں، میری شادی ہوئے دس سال ہو گئے ہیں، میری بیوی نسیمہ بانو میری اجازت کے بغیر پیہر چلی جایا کرتی تھی، جس سے ہماری گھریلو زندگی ناخوشگوار حالت میں چلنے لگی اور اسی بات پر میری بیوی اپنے پیہر میں رک گئی، آخر کار میری سسرال والوں نے مجھ پر پولیس کا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، میری بیوی نے میری موجودگی میں میرے خلاف پولیس تھانے میں بیان دیئے مجبورأ میں ڈنی طور پر پریشان ہو گیا، آخر میں نے غصے میں آ کر پولیس تھانے میں تین بار طلاق کھدیا اور یہ دباو آج ۹۲/۱۳ء تک بنا ہوا ہے، میں ڈنی طور پر بے حد پریشان ہوں، آپ یہ بتانے کی مہربانی کریں کہ کیا قرآن و شریعت کے حساب سے طلاق ہو گئی یا نہیں؟ اس کا کوئی چشم دیدگواہ بھی نہیں ہے۔

المستفتی: عبد الجید ولد عبد الحکیم

بسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: دباو میں آ کر جو طلاق دی جاتی ہے، اس سے بھی

شرعاً طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا جب آپ نے تین بار طلاق کہہ دیا ہے، تو اس سے آپ کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے اور طلاق واقع ہونے کے لئے چشم دیدگواہ شرط نہیں ہے۔

عن ابن عمر، قال: طلاق المكره جائز. (مصنف عبد الرزاق، کتاب الطلاق،

باب طلاق المكره، المجلس العلمي بيروت ۶ / ۴۱، رقم: ۱۱۴۲۱)

وإن أكره على طلاق امرأته، أو عتق عبده، فعل ذلك وقع ما أكره عليه. (جوهر، کتاب الاکراه، امدادیہ ملٹان ۲ / ۳۵۵، دارالکتاب دیوبند ۲ / ۳۳۷)

وطلاق المكره، والسكران، وخلعهما، وإعتاقهما واقع. (تاتارخانیہ، زکریاء / ۳۹۵، رقم: ۶۵۱۲)

فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۶ رمضان المبارک ۱۴۱۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۸۱۲)

وکیل کے دباؤ پر تین مرتبہ طلاق دینا

سوال [۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بیوی کو ہمیشہ استحصالہ شروع رہتا تھا، دو اکر نے پر ہی رکتا تھا چند روز کے لئے اس بنا پر زید دوسرا نکاح کرنا چاہتا تھا، تو زید کی سرال والوں نے اپنی بیٹی کی طلاق مانگی، مجلس قائم ہوئی ایک کورٹ کے وکیل بھی تھے، مولوی صاحب بھی تھے کاغذ کے لکھتے وقت وکیل صاحب نے کہا میاں زید تین مرتبہ طلاق دو، مولوی صاحب نے کہا نہیں صرف ایک مرتبہ تو وکیل صاحب نے زبردستی زید سے تین مرتبہ طلاق کہلوائی زید نے اپنی بیوی کو تین مرتبہ طلاق دی، زید اس وقت طلاق کے مسائل سے ناواقف تھا، زید کی بیوی بہت پریشان ہے، زید طلاق دینے کو تیار نہ تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ وکیل نے زبردستی طلاق کہلوائی ایک ہی مجلس میں تین طلاق آپ مہربانی فرمائے جواب دیں۔

المستفتی: اشرف مسلمین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق جس طرح رضامندی یا از خود غصہ کی حالت میں دینے سے واقع ہو جاتی ہے، اسی طرح کسی کے زبردستی کرنے اور دباوڈلانے کی بنا پر دینے سے بھی واقع ہو جاتی ہے، جب وکیل کے اصرار پر تین طلاقيں دیدی گئیں، تو تینوں طلاقيں واقع ہو گئیں، مولوی صاحب کی نہیں بانی وکیل صاحب کی ماننے کا حشریہ ہوا کہ اب بغیر حلالہ کے نکاح بھی درست نہیں ہو گا، ایک مجلس کی تین طلاقيں بھی تین ہی واقع ہوتی ہیں؛ اس لئے اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔

عن ابن عمر^{رض}، قال: طلاق الکرہ جائز. (مصنف عبد الرزاق، کتاب الطلاق، باب طلاق الکرہ جائز، المجلس العلمي بيروت ۶/۱۰، رقم: ۱۱۴۲۱) و طلاق المکرہ، والسكران، وخلعهما، وإعتاقهما واقع. (تاتارخانیة، ذکریا ۴/۳۹۵، رقم: ۶۵۱۲) و طلاق المکرہ واقع. (هداية اشرفی دیوبند ۲/۳۵۸)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلثاً. (الأشباه والنظائر قدیم ۹، جدید ذکریا ۳۷۶) وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(فتاویٰ عالمگیری، ذکریا قدیم ۱/۷۳، جدید ۱/۵۳۵) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان متصور پوری غفرلہ
۱۳۲۳/۱۱/۱۳

كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۳۲۳/۱۱/۱۳
(فتوى نمبر: الف ۳۷۸) (۸۱۸۲/۳۷۸)

بیوی طلاق کا دعویٰ کرے اور شوہر خاموش رہے تو کیا حکم ہے؟

سوال [۶۷۳]: کیا فرماتے ہیں علماء دین وفقیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ایک شوہر اپنی بیوی پر بے انتہا ظلم و تشدد کرتا رہتا ہے، شوہر شرابی کلبی ہے، شوہر کی اس بے جا حرکت سے عورت منع کرتی ہے، جب جب منع کرتی ہے تو شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تو مجھ کو منع نہیں کر سکتی، ایک مرتبہ اس عورت کی والدہ بھی شوہر کے یہاں موجود تھیں، اس کے سامنے شوہرنے اپنی بیوی کو طلاق دی اور کئی دفعہ طلاق کا لفظ استعمال کیا اور اس طلاق کے بعد سے ان دونوں میں تہائی پائے ہوئے دو سال آٹھ ماہ بیت گئے ہیں، تو وہ عورت اپنی دوسری شادی کسی اور سے کر سکتی ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ لڑکی بلقیس قسم کھا کر کہتی ہے کہ میرے شوہرنے مجھ کو تین مرتبہ سے زیادہ بیوی کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی۔

نبوت: ایک پنچاہیت میں بھی شوہر سے بیان لیا گیا، تو اس نے خاموشی اختیار کی، جب ساس نے کہا کہ تو نے طلاق دیدی ہے، اب لڑکی کو کیسے بھیجا جائے، تو شوہرنے کہا میری غلطی ہے، اس بیان سے بھی واضح ہوتا ہے کہ شوہرنے طلاق دیدی ہے۔

گواہ: حافظ محمد ابراہیم، گڑھواوالا بجزور۔

المستفتی: بلقیس، گڑھواوالا، فضل گڑھ، بجزور (یو پی)

با سمسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب بیوی نے قسم کھا کر یہ دعویٰ کیا کہ اس کے شوہرنے تین مرتبہ سے زائد یہ الفاظ کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، اور شوہر اس دعویٰ کا انکار نہیں کر رہا ہے خاموشی اختیار کی ہے اور یہ کہا ہے کہ میری غلطی ہے، تو بیوی کا دعویٰ معتبر ہوگا اور بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں۔ اب بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو گئی، آئندہ بغیر حلالہ کے اس کے ساتھ نکاح بھی درست نہیں ہوگا۔

ولو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلثاً。 (الأشباه والناظائر

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.
(فتاویٰ عالمگیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/۳۹۹)

تاتارخانیہ، ذکریا ۵/۱، رقم: ۷۵۰۳) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۲ھ/۱۱۰۳

رذی قعدہ ۱۴۲۲ھ
(فتوقی نمبر: الف ۸۱۸۱/۳۷)

غیر ارادی طور پر تین طلاق منہ سے نکلنے پر وقوع طلاق

سوال [۶۷۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زیداً اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شادی کی تقریب میں شرکت کے لئے گیا ہوا تھا، بچوں کو لے کر کسی بات پر اپنی بیوی سے کہا سنی ہوگئی، میری بیوی اپنے میکہ چلی گئی، اس پر ان کے عزیز واقارب مجھ سے بدتمیزی کرنے لگے اور مارپیٹ پر اتر آئے اور گالی گلوچ کرنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہ بتا تیرافیصلہ کیا ہے؟ یہ سن کر غصہ کی حالت میں غیر ارادی طور پر میری زبان سے تین بار طلاق کا لفظ انکل چکا ہے، اس وقت میری بیوی وہاں پر موجود نہیں تھی، مگر وہاں پر لگ بھگ ۲۵ یا ۲۰ لوگ موجود تھے، ان کی موجودگی میں مجھ سے یہ الفاظ ادا ہوئے، اس مسئلہ کا حل مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں۔

المستفتی: محمد عبداللہ نمبر ۳/ہلدوانی، آزاد گمن، نیقی تال

بسمہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: غصہ کی حالت میں بیوی کے خاندان والوں کی طرف سے طلاق کے مطالیب کی صورت میں غیر ارادی طور پر زبان سے طلاق دی جائے تو وہ طلاق پڑ جاتی ہے اور موقع پر بیوی کا موجود ہونا بھی ضروری نہیں؛ اس لئے جب تین طلاقوں

دی ہیں، تو اس سے طلاق مغلظہ واقع ہو کر یہوی قطعی طور پر حرام ہو گئی ہے۔ آئندہ بغیر حلالہ کے اس سے نکاح بھی درست نہیں ہو گا۔

أولم ينبو شيئاً و تتحته في الشامية: لما مر أن الصريح لا يحتاج إلى اليبة.

(شامی، کتاب الطلاق، باب الصريح، کراچی ۲۵/۰، زکریا ۴/۶۱)

ويقع طلاق من غصب. (شامی، زکریا ۴/۵۲، کراچی ۳/۲۴۴)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۲۱، جدید زکریا ۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثبتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هنديہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، تاتارخانیہ،

زکریا ۵/۱۴۷، رقم: ۳۵۰، ۷۵۰) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

الجواب صحیح:

كتبه: شیبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان متصور پوری غفرله

۹ ربمّار الحرام ۱۴۳۵ھ

۱۴۳۵/۱۹

(فتوى نمبر: الف ۲۰/۷۷۱)

تین طلاق کے بہانے سے سالے کو گھر پر بلانا

سوال [۶۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متبین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے فون پر اپنے سالے سے کہا کہ اپنی بہن کو لے جاؤ میں نے اسے طلاق دیدی ہے، سالے کے معلوم کرنے پر تم نے کتنی بار طلاق دی ہے، انہوں نے کہا کہ تین بار اس کے بعد وہ لوگ وہاں پہنچے اور تحقیق کی، تحقیق کرنے پر لڑکی اور پڑوسی خاندان والوں نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے؛ البتہ جب ان دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو لڑکے نے یہ بات ضرور کہی تھی کہ آج تم اپنے گھر والوں کو بلاو، میں تمہیں طلاق دوں گا، اس کے علاوہ ہمیں کسی بات کا علم نہیں اور نہ ہی ہمیں یہ علم

ہے کہ اس نے آپ کو فون کیا ہے، اس کے بعد رُڑ کے سے معلوم کیا گیا، تو اس نے یہ جواب دیا کہ میں نے کوئی طلاق نہیں دی ہے، میں نے فون پر طلاق کے بہانے آپ کو بلا یا تھا تاکہ تم یہاں حالات دیکھ لواہر ہمارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اس صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اور اگر واقع ہوتی ہے تو کوئی؟

المستفتی: عبدالجبار، بھاگوالا، بجنور

بسم اللہ تعالیٰ
بسما بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب وبالله التوفيق: مذاقاً اور کسی کو بلا نے کے بہانہ طلاق کا لفظ استعمال کرنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ اس لئے جب مذکورہ شخص نے اپنے سالے کو بلا نے کے لئے طلاق کا لفظ کہا ہے اور سالے کے پوچھنے پر کہ لکھنی بار طلاق کہا ہے، اس کے جواب میں تین بار طلاق دینے کا اقرار کر لیا ہے، تو مذکورہ شخص کی بیوی پر تین طلاق واقع ہو گئیں، اس کے بعد طلاق کے انکار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور بلا حلال شرعیہ دوبارہ نکاح درست نہیں ہوگا۔

ولو أقر بالطلاق كاذباً، أو هاز لاً وقع قضاءً. (شامی، کتاب الطلاق، قبیل

مطلوب في المسائل التي تصح مع الاكراه، کراچی ۲۳۶/۳، زکریا ۴۰/۴۴)

إِذَا قَالَ لِمَرْأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، طَالِقٌ، طَالِقٌ، وَلَمْ يَعْلَمْهُ بِالشُّرُوطِ

إِنْ كَانَتْ مَدْخُولَةً طَلَقْتَ ثَلَاثًا. (عالِمِ الْكِيْرَى، زکریا قدیم ۱/۳۵۵، جدید ۱/۴۲۳)

كَرَرَ لِفَظَ الطَّلاقِ وَقَعَ الْكُلُّ. (در مختار، کراچی ۳۹۳/۳، زکریا ۴/۵۲۱)

وَإِنْ كَانَ الطَّلاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرَّةِ..... لَمْ تَحْلِ لَهُ حَتَّى تَنكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ نَكَاحًا صَحِيحًا، وَيَدْخُلُ بَهَا، ثُمَّ يَطْلُقُهَا، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا. (هدایۃ

اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، تاتارخانیہ، زکریا ۵/۱، رقم: ۳۰۵/۷۰) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه: شمسير احمد قادری عفان الدین

۱۴۲۶ / جمادی الاولی

(فتاویٰ نمبر: الف ۸۰۵/۲۳۷)

غیر مدخول بہا کو ”تین طلاق دی یادیتا ہوں“ کہنے کا حکم

سوال [۲۷۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی غیر مدخول بہا زوجہ کو ”تین طلاق دی یادیتا ہوں“ کہا تو اس جملہ سے کتنی طلاق پڑیں گی اور اس سے دوبارہ شادی کرنے کے لئے کیا راستہ اختیار کرنا پڑیگا؟

المسنون: محمد فاروق، سیلوانی، مہاراشٹری

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: غیر مدخول بہا زوجہ کو تین طلاق دی یادیتا ہوں کہے تو تین طلاق واقع ہو گئیں، اب بلا حللاہ دوبارہ اس سے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔

إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة قبل الدخول بها و قعن عليها.....ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. كذا في الذخيرة. (عالماً مكثراً، زكرياء قدّيم، ٤٧٣/١)

جديد / ٤٤١ - ٤٤٠)

إذا قال لامرأته: قبل الدخول بها أنت طالق ثلاثة.....وقد ذكر ذلك عند عامة العلماء. (بدائع الصنائع، كراچي ١٣٧/٣، زكرياء ٢١٦/٣)

طلاق غير المدخول بها ثلاثة و قعن سواء قال أو قعت عليك ثلاثة تطليقات، أو أنت طالق ثلاثة. (البحر الرائق، كوعنه ٣/٢٩١، زكرياء ٣/٥٠٧)

لو قال لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق ثلاثة و قعن. (تمويه الأ بصار مع الدر المختار، كراچی ٣/٢٨٤، ٤/٢٨٥، ٩/٥، ١٠/٥) فقط واللهم سبحانة وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله
۱۴۳۷/۱۲/۱

كتبه: شییر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

اربع الثاني ۱۴۳۷ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۲/۲۷۸)

قبل الخلوة تین طلاق دینے کے احکام

سوال [۲۷۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی جس کی لڑکے سے شادی ہوئی وہ جب والدین سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر گئی اور جب اس کا شوہر اس سے پہلی رات میں رجوع ہونا چاہا، تو لڑکی نے اپنی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کیا اور اس کو رجوع ہونے سے روک دیا کہ میں اس وقت حیض میں ہوں (یعنی مجھ کو حیض آ رہا ہے) لڑکا اس کے اصرار پر مان گیا اور لڑکا حق زوجیت ادا نہ کر سکا۔ دوسرے دن، ہی لڑکی اپنے میکہ چلی گئی، پھر دوبارہ اپنے شوہر کے گھر جانے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی، لڑکے کے والدین نے لڑکی کو بہت کچھ سمجھایا، مگر اس نے انکار ہی کیا اور طلاق لینے کی مانگ کی، لڑکے کے والدین نے لڑکے سے طلاق دلادی، یہ طلاق اہل پیش حضرات کے اصرار پر دی گئی، لڑکا طلاق دینے پر راضی نہ تھا، مگر لڑکے نے تین مرتبہ لفظ طلاق ادا کیا، تو اس سلسلہ میں دریافت طلب امور یہ ہیں۔

- (۱) کیا حق زوجیت ادا نہ ہونے پر بھی طلاق ہو سکتی ہے یا نہیں؟
- (۲) اگر طلاق ہو سکتی ہے تو کیا ایسی صورت میں بھی لڑکی مہر کی حقدار ہے؟
- (۳) اور یہ کہ لڑکی کو عدالت کرنا ضروری ہے؟
- (۴) لڑکی دوبارہ اپنے شوہر کے گھر آنا چاہتی ہے، جس کو طلاق ہوئے ۳۱ اگست ۱۹۹۰ء کو ایک ماہ یوم کا عرصہ گذر رچکا ہے؟
- (۵) کیا نکاح ثانی کی گنجائش ہے یا وہ لڑکی اپنے شوہر کے نکاح سے خارج ہو گئی؟
- (۶) یا وہی نکاح کافی ہے؟

المستشقی: محمد بنی، نجاشہ: مقبرہ دوئم، خطیرہ والی مسجد، مراد آباد
با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) جی ہاں حق زوجیت ادا نہ کرنے کی

صورت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

قال لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق ثلاثةً وقعن. (تغیر الأ بصار مع الدر المختار، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخل بها، كراچی ۳/۲۸۴، ۲۸۵، ۲۹۱، زکریا ۷/۵۰، ۵۱۰، البحرينائق، کوئٹہ ۳/۲۹۱، زکریا ۳/۵۰، بداع الصنائع، کراچی ۳/۱۳۷، زکریا ۳/۲۱۶)

(۳/۲) اگر واقعی حالت حیض میں تھی تو خلوت صحیح ثابت نہیں ہوئی؛ اس لئے نصف

مہر واجب ہوگا اور لڑکی پر عدت گذارنا لازم ہوگا۔

والخلوة بلا مانع حسي وتحته في الشامية: وبالحيض، أو النفاس مع أن الأولى منهي شرعاً. (شامي، کراچی ۳/۱۱۴، زکریا دیوبند ۴/۲۴۹) و تجب العدة: أي كل أنواع الخلوة ولو فاسدة الخ (الدر المختار، کراچی ۳/۱۲۲، زکریا ۴/۲۶۱)

(۲/۵/۳) تین طلاق دینے کی وجہ سے لڑکی شوہر کے لئے بالکل حرام ہو چکی ہے۔ اب دوبارہ نکاح بھی بغیر حلالہ کے درست نہیں ہو سکتا اور شرعی طور پر حلالہ کے بعد دوبارہ نکاح درست ہو سکتا ہے اور اگر تین طلاق تین جملوں میں الگ الگ دی ہے، تو صرف ایک طلاق باسی واقع ہو گئی اور اب عدت کے اندر اور عدت گذرنے کے بعد کسی بھی وقت دوبارہ نکاح کر کے ازدواجی زندگی گذار سکتے ہیں۔

وإن كان الطلاق ثلاثةً في الحرمة، وثبتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هنديہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۱۲ محرم الحرام ۱۴۳۱ھ

(نحوی نمبر: الف ۲۰۹۹/۲۶)

غیر مدخول بہا کو تین طلاق کے بعد بلا حلالہ نکاح کا عدم جواز

سوال [۲۷۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو قبل الدخول طلاق (ایک جملہ میں تین طلاق) دیدی، پھر وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو کیا بغیر حلالہ کے اس کے ساتھ نکاح درست ہے؟

المسئقی: محمد جاوید چاند پوری، شیع: بجزور (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صح قول کے مطابق اس شخص کا بغیر حلالہ کے اس غیر مدخول بہا کے ساتھ نکاح جائز نہیں؛ بلکہ اس کو اپنی زوجیت میں لانے کے لئے حلالہ ضروری ہے۔ (مستفاد: محمودیہ دا بھیل ۱/۱۳، ۳۹۷/۱۳، میرٹھ ۱/۱۹)

وفي المشكلات: من طلاق امرأته الغير المدخول بها ثلاثة، فله أن يتزوجها بلا تحليل..... وقد بالغ المحقق ابن الهمام في رده حيث قال: لا فرق في ذلك أي في اشتراط المحل بين كون المطلقة مدخولاً بها أو لا، لصريح إطلاق النص وقد وقع في بعض الكتب أن غير المدخول بها تحل بلا زوج وهو زلة عظيمة ومصادمة للنص والإجماع.

(شامي، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، کراچی ۲۸۵/۳، زکریا ۴/۱۱، کذا في فتح القدیر، کوئٹہ ۳/۱، زکریادیوبند ۴/۱۵۸، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۱۷۳، جدید ۱/۵۳۵) نقطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۳/رجماڈ الاولی ۱۴۳۵ھ

(فتوى نمبر: الف خاص ۱۵۲/۳۰)

غیر کفو میں نکاح کے بعد تین طلاق دی، بلا حلالہ دوبارہ نکاح کا عدم جواز

سوال [۶۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ اگر لڑکی نے غیر کفو میں اولیاء کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر لیا ہے اور نکاح کے بعد دخول بھی ہو گیا ہے، جس کے بعد تین طلاق دی گئی ہے، پھر تین طلاقوں کے بعد اولیاء راضی ہو جائیں اور اس لڑکے سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو بغیر حلالہ کے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟

المسنون: مفتی اشرف علی، مفتی مدرسہ حسین بخش، دہلی
باسم سجادۃ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اس مسئلہ میں حضرات حفییہ کے تین اقوال ہیں:

(۱) حضرت امام ابوحنیفہ کی ظاہر الروایہ کے مطابق نکاح مطلقاً منعقد ہو جاتا ہے، بس

صرف خلاف استحباب ہے اور یہی آیت قرآنی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنُاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحْلُوُنَّ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُنْكِحُوهُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ . [الممتحنة: ۱۰]

کے مطابق ہے اس لئے کہ اس آیت کریمہ کے اندر مومن کا مومنہ کے ساتھ نکاح کرنے میں کفو وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے، صرف ایمان کی قید ہے؛ البتہ اولیاء کو اس نکاح کے فسخ کرنے کا حق اس وقت تک رہتا ہے، جب تک بچہ کا پیٹ میں آ کر حمل واضح نہ ہو جائے؛ لہذا امام ابوحنیفہ کے قول کے مطابق اگر دخول ہو جائے تو وہ زنا کے مراد ف نہیں ہو گا اور دخول کے بعد جب تین طلاقوں دی جائیں گی، تو وہ طلاقوں معتبر ہو جائیں گی اور آئندہ بغیر حلالہ کے دونوں کے درمیان میں نکاح منعقد نہیں ہو گا، جو حسب ذیل جزئیات سے واضح ہوتا ہے۔

عن أبي حنيفة تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقاً إلا أنه خلاف المستحب وهو ظاهر المذهب. (فتح القدیر، کتاب النکاح، باب الأولياء والأکفاء، کوئٹہ ۳/۵۷، زکریا ۲۴۶/۱)

نفذ نکاح حرة مکلفة بلا ولی وله الاعتراض في غير الكفو. وتحته في المجمع: هذا إذا لم تلد منه. (مجمع الأئمہ، دارالكتب العلمية بيروت ۱/۴۸۹)

حتى تلد منه لثلا يضيع الولد وينبغي إلحاچ الحبل الظاهر به. (شامی، کراچی ۳/۵۶، زکریا ۴/۱۵۶)

ثم المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفو صح النکاح في ظاهر الروایة عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف آخرأ، وهو قول محمد آخرأ أيضاً حتى أن قبل التفریق يثبت فيه حکم الطلاق، والظهور، والإیلاء، والتوارث، وغير ذلك؛ ولكن للأولياء حق الاعتراض. وفي الكافی : مالم تلد منه. (الفتاوى الشاتارخانیة، زکریا ۴/۱۳۹، ۱۴۰، رقم: ۵۶۵۹، مثله في الهندیة زکریا قدیم ۱/۲۹۲، جدید زکریا ۱/۳۵۸، فتاوى قاضی خان، زکریا جدید ۱/۴۰، على هامش الهندیة، زکریا ۱/۳۳۵، هداية، اشرفي دیوبند ۲/۳۱۳، تبیین الحقائق، امدادیة ملتان ۲/۱۲۸، زکریا دیوبند ۲/۱۷۵)

(۲) حضرت امام محمدؐ کے نزدیک اولیاء کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے؛ بلکہ اولیاء کی اجازت پر یہ نکاح موقوف رہتا ہے؛ لہذا اگر اولیاء کی اجازت سے پہلے ہمستری ہو جائے تو یہ ہمستری حرام ہوگی؛ چنانچہ ہمستری کے بعد جو طلاق دی گئی ہے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی بریں بناء دوبارہ آپس میں اولیاء کی اجازت سے نکاح کرنا چاہیں تو حالله کی ضرورت نہیں بغیر حالله کے نکاح منعقد ہو جائے گا اور پہلا نکاح جو موقوف تھا وہ اولیاء کی اجازت سے منعقد ہو جائے گا؛ لیکن اولیاء کی اجازت سے پہلے تین طلاق دینے کی صورت میں تینوں طلاقوں واقع نہیں ہوں گی اور ظہار و میراث بھی ثابت نہیں ہوگی؛ بلکہ یہ متناکت کے حکم

میں ہو جائے گا؛ اس لئے کہ دوسری جگہ نکاح کرنے کے لئے مترکت یا تضاد قاضی امام محمدؐ کے قول کے مطابق لازم ہے، جو حسب ذیل جزیات سے واضح ہوتا ہے۔

وفي قول محمدؐ في ظاهر الرواية العقد موقوف على إجازة الولي،
فإن أجازه حاز. (الفتاوى التاتار خانية، زکریاء / ۱۴۰، رقم: ۵۷۶۱، هداية مکتبہ

بشری / ۲۷، اشرفی دیوبند / ۲۴ / ۳۱)

وعن محمد ينعقد موقوفاً ولو من كفو على إجازة الولي، فالوطء بلا
إذن حرام ولا فيه طلاق، وظهار، وميراث وعنه إنه باطل فلا ينعقد بعباراتها
أصلاً. (الدر المستقى، دار الكتب العلمية بيروت / ۱۴۹، قاضی حان، زکریاء / ۲۰۴ / ۱)
وعلى هامش الهندية، زکریاء / ۳۲۵)

وفي الفتاوى الصغرى: لو زوجت نفسها بغير ولی فطلاقها ثلاثة عند
محمدؐ يصير مثاركة حتى لو أجاز الولي لا ينفذ عنده؛ لكن لا يحرم المحل،
ويكره له أن يتزوجها بعد الثلاث قبل التزوج بزوج آخر. (خلاصة الفتاوى / ۲ / ۱۶)
وعند محمد ينعقد موقوفاً على إجازة الولي، ولو من كفو ومعنى
كونه موقوفاً إنه لا يجوز وطؤها قبل الإجازة ولا يقع الطلاق، ولا يتوارث
أحدهما من الآخر. (مجمع الأئمہ، دار الكتب العلمية بيروت / ۱ / ۴۹۰)

أكثر کتب فقہ ہدایہ، فتح القدری، البحر الرائق، تبیین الحقائق، فتاوى تاتار خانية وغیرہ
میں امام محمدؐ کا اپنے قول سے امام ابوحنیفہؓ کی ظاہر راویۃ کے مطابق رجوع کرنا ثابت ہے،
مگر صاحب مجمع الانہر نے اس رجوع پر شبہ ظاہر کیا ہے۔

ويروي رجوعه إلى قوله الإمام: ولهذا قال بعض الفضلاء، والأولى
أن يقول وعن محمدؐ، لكن في الغایة قال رجا ابن أبي رجا: سألت محمدؐ
عن النكاح بغير ولی، فقال لا يجوز قلت فإن لم يكن لها ولی قال ترفع
أمرها إلى القاضي ليزوجها، قلت فإن كان في موضع لا حاكم فيه، قال:

ي فعل ماقال سفيان قلت وما قال سفيان قال تولي أمرها رجلاً لبيزوجها
انتهي فيفهم منه عدم رجوعه؛ فلهذا قال: وعند محمدٌ تدبـر . (مجمع الأنهر،
دار الكتب العلمية بيروت ۱/ ۴۹۰)

هذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وصاحبـهـ إلىـ وماروي عنـهماـ
بخلافـهـ فقدـ صـحـ رـجـوعـهـماـ إـلـيـهـ . (الـبـحـرـ الرـائـقـ،ـ كـوـئـيـهـ /ـ ۳ـ،ـ زـكـرـيـاـ /ـ ۱۹۳ـ ـ ۱۹۴ـ)
ثمـ المـرـأـةـ إـذـاـ زـوـجـتـ نـفـسـهـاـ مـنـ غـيـرـ كـفـوـ صـحـ النـكـاحـ فـيـ ظـاهـرـ
الـرـوـاـيـةـ عـنـ أـبـيـ حـنـيـفـةـ،ـ وـهـ قـوـلـ أـبـيـ يـوـسـفـ آخـرـاـ،ـ وـهـ قـوـلـ مـحـمـدـ آخـرـاـ
أـيـضـاـ . (تـاتـارـخـانـيـةـ،ـ زـكـرـيـاـ /ـ ۴ـ،ـ رقمـ /ـ ۱۳۹ـ)ـ (۵۷۵ـ ۹ـ)

فتـحـ الـثـابـتـ الـآنـ هـوـ اـتـفـاقـ الـثـلـاثـةـ عـلـىـ الـجـواـزـ مـطـلـقاـ
منـ الـكـفـوـ وـغـيـرـهـ . (فـتـحـ الـقـدـيرـ،ـ كـوـئـيـهـ /ـ ۳ـ،ـ زـكـرـيـاـ /ـ ۳۶ـ ـ ۱۵۷ـ)

وـيـرـوـيـ رـجـوعـ مـحـمـدـ إـلـيـ قـولـهـماـ . (هـدـاـيـةـ الـبـشـرـىـ /ـ ۲ـ،ـ اـشـرـفـيـ دـيـوبـنـدـ /ـ ۴ـ ـ ۳۱ـ)
(۳) حـضـرـتـ اـمـامـ اـبـوـ حـنـيـفـهـ سـےـ حـسـنـ بـنـ زـيـادـ کـيـ روـاـيـتـ ہـےـ،ـ اـسـ روـاـيـتـ کـےـ مـطـابـقـ
وـهـ نـكـاحـ سـرـےـ سـےـ منـعـقـدـ ہـيـںـ ہـوتـاـ ہـےـ؛ـ لـهـذاـ اـسـ نـكـاحـ کـےـ بـعـدـ اـگـرـ ہـمـبـسـتـرـ ہـوـ جـاءـ،ـ توـہـ
بـدـکـارـیـ کـےـ مـرـادـ ہـوـگـیـ اـوـ اـگـرـ بـعـدـ مـیـںـ اـولـیـاءـ اـجـازـتـ دـیدـیـںـ تـبـ بـھـیـ منـعـقـدـ ہـيـںـ ہـوـگـاـ؛ـ بـلـکـہـ اـزـ
سـرـنـوـ اـیـجـابـ وـقـوـلـ کـےـ سـاتـھـ نـكـاحـ کـرـنـاـ پـڑـےـ گـاـ؛ـ لـهـذاـ اـسـ قـوـلـ کـےـ مـطـابـقـ یـہـ نـكـاحـ باـطـلـ ہـےـ؛ـ
اـسـ لـئـےـ اـسـ نـكـاحـ کـےـ بـعـدـ بـلـنـ الدـخـولـ یـاـ بـعـدـ الدـخـولـ جـوـ طـلاقـ دـیـ جـاءـ گـیـ،ـ اـسـ کـاـ کـوـئـیـ اعتـبارـ
نـہـیـںـ ہـوـگـاـ اـوـ اـولـیـاءـ کـیـ آـپـسـیـ رـضـاـمـنـدـیـ سـےـ دـوـ بـارـهـ نـكـاحـ کـاـ اـرـادـہـ ہـوـتـوـ بـغـیرـ حـلـالـہـ کـےـ نـكـاحـ
درـسـتـ ہـوـجـاءـ گـاـ اـوـ مـتـاـخـرـینـ نـےـ فـسـادـ زـمـانـہـ کـیـ وجـہـ سـےـ حـسـنـ بـنـ زـيـادـ کـےـ قـوـلـ کـوـ مـفـتـیـ بـرـادـیـاـ
ہـےـ،ـ جـوـ حـسـبـ ذـیـلـ عـبـارـاتـ سـےـ وـاـضـعـ ہـےـ۔ـ

ورـوـيـ الـحـسـنـ عـنـ الـإـمـامـ عـدـمـ جـواـزـ أـصـلـاـ وـ عـلـيـهـ فـتـوـيـ قـاضـيـخـانـ
وـهـوـ الـمـخـتـارـ فـلـاـ تـحلـ مـطـلـقـةـ ثـلـاثـاـ تـزـوـجـتـ بـغـيرـ كـفـوـ بـلـاـ رـضـاـ الـولـيـ وـهـذـاـ
مـمـاـيـجـبـ حـفـظـهـ . (الـدـرـ المـتـقـنـ،ـ دـارـ الـكـبـرـ الـعـلـمـيـةـ بـيـرـوـتـ ۱ـ /ـ ۴۹ـ ۰ـ)

و عن أبي حنيفة، وأبي يوسف أنه لا يجوز في غير الكفو؛ لأن كثيرة من الأشياء لا يمكن دفعه بعد الواقع واختار بعض المتأخرین الفتوی' بهذه الروایة لفساد الزمان (تبیین) "قوله وعن أبي حنيفة" وهذه روایة الحسن . (چلپی امدادیہ ملتان ۲/۱۱۷، ذکریا دیوبند ۴/۴۹، مثلہ فی مجمع الأنہر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۱/۹۰، الفتاویٰ التاتارخانیہ، ذکریا ۰/۱۴۰، رقم: ۵۷۶، هندیہ، ذکریا قدیم ۱/۴۰۲، جدید ۱/۳۵۸، قاضیخان، ذکریا جدید ۱/۴۰۲، وعلی هامش الہندیہ، ذکریا ۱/۳۳۵، فتح القدیر، کوشہ ۳/۱۵۷، ذکریا ۶/۲۴)

اس پوری تفصیل کے بعد وضاحت کی جاتی ہے کہ ہم نے ایک زمانہ تک حسن بن زیاد کے قول پر فتویٰ لکھا ہے، لیکن بعد میں، بہت سے ایسے مسلمانوں کی طرف سے سوالات آئے ہیں، جو اپنے آپ کو انسور کہنے کی کوشش کرتے ہیں اور عام مسلمانوں اور بعض علماء کی طرف سے بھی استفسارات آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں مومن کا نکاح مونہ کے ساتھ ہونے میں کسی قسم کی برا دری یا کفو وغیرہ کی قید نہیں لگائی اور فقهاء وغیرہ نے جو کفو وغیرہ کی تیودات لگائی ہیں وہ محض اجتنادی اور ظنی مسائل ہیں اور ظنی کے ذریعہ سے قطعی حلال چیز کو حرام نہیں کہا جا سکتا ہے، چنانچہ کتب فقہ میں اس کی صراحت موجود ہے کہ حسن بن زیاد کے قول کا مارکنیم و انتظام اور زجر و توبخ کے قبل سے ہے، حلت و حرمت اور حلال و حرام سے متعلق نہیں ہے، بریں بنا مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ نے بھی اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ یہ حلت و حرمت سے متعلق نہیں ہے؛ بلکہ نظم و انتظام اور زجر و توبخ سے متعلق ہے؛ اس لئے اگرچہ متاخرین فقہاء نے اس قول کو مفتی بہ قرار دیا ہے؛ لیکن اس قول کو حقیقی نہیں کہا جا سکتا ہے؛ لہذا مفتی کفایت اللہ صاحبؒ کی جو رائے حضرات امام اعظمؒ کی ظاہر الروایہ کے مطابق ہے وہی زیادہ صحیح اور قوی ہے اور اس پر عمل کرنے کی صورت میں مخالفین کو اعتراض کا موقع نہیں ملتا ہے اور نہ ہی اخبار میں سرخیاں بنانے کا موقع ملے گا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ حدیث شریف میں جو وارد ہے۔

أيّمَا امرأة نَكْحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنَكَاحُهَا باطلٌ ثلَاثْ مَوَاتٍ۔ (أبو داؤد شریف، کتاب النکاح، باب فی الولی، النسخة الھندیة ۲/۲۸۴، ۲۰۸۳: رقم دارالسلام)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن بن زیاد کا قول منصوص ہے اجتہادی اور ظنی نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث شریف خبر واحد ہے اور خبر واحد ظنی ہوتی ہے اور خود اس حدیث شریف کے مقابلے میں دوسری صحیح حدیث شریف موجود ہے۔

الأَيْمَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا وَالْبَكْرُ تَسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنَهَا صَمَاتِهَا۔ (مسلم، کتاب النکاح، باب استئذان الشیب فی النکاح، النسخة الھندیة ۱/۴۵۵، ۲۱۴، یت الأفکار رقم: ۱۰۲، ترمذی، کتاب النکاح، باب ماجاء فی استیمار البکر والشیب، النسخة الھندیة ۱/۱۰۲، رقم: ۱۰۸)

لہذا اس کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے؛ لہذا مذکورہ نص پر اور اسی کے پیش نظر حسن بن زیاد کی روایت پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، حضور اکرم ﷺ نے اس روایت میں جوار شادر فرمایا ہے، وہ نظام و ارتظام اور زجر و توبیخ سے متعلق ہے، حلت و حرمت سے متعلق نہیں ہے اور قرآن مقدس کی سورہ متحنہ کی آیت میں حلت و حرمت سے متعلق حکم بیان کیا گیا ہے اور متاخرین فقهاء نے فساد زمانہ کی وجہ سے مصلحت حسن بن زیاد کے قول کو اختیار کیا ہے؛ لیکن دلائل کی روشنی میں ظاہر الروایہ ہی زیادہ صحیح اور قوی ہے؛ اس لئے ہم اب مفتی کفایت اللہ صاحبؒ کی رائے کے مطابق ظاہر الروایہ کو ہی ترجیح دے کر اس پر فتویٰ لکھتے ہیں؛ اس لئے مذکورہ مسئلہ میں تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں اور دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہے تو بغیر حالہ کے نکاح منعقد نہیں ہو گا اور اس نکاح کے بعد جو اولاد ہو گی وہ اولاد ثابت النسب ہو گی اور ان میں وراثت بھی جاری ہو جائے گی۔ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان متصور پوری غفرله

۱۴۳۵/۲/۲۲

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۲۰ رب جمادی الثانی ۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۵۷۳/۳۱)

بیوی تین کا دعویٰ کرتی ہے، شوہر انکار کرتا ہے

سوال [۶۷۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بیوی کہتی ہے کہ شوہر نے تین طلاق دی ہیں اور شوہر کہتا ہے کہ میں نے صرف ایک ہی طلاق دی ہے یا شوہر طلاق کا انکار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں حکم شرعی کیا ہے؟

المستفتی: محمد مفتی جاوید قادری چاند پوری، ضلع: بجور (یوپی)
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: بر تقدیر صحبت واقع جب بیوی یہ کہتی ہے کہ شوہر نے مجھے تین طلاق دی ہیں اور شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے صرف ایک طلاق دی ہے یا وہ طلاق کا انکار کرتا ہے، تو چوں کہ بیوی کے پاس دو شرعی گواہ موجود نہیں ہیں؛ اس لئے مسئولہ صورت میں قضاء شوہر کی بات مانی جائے گی اور طلاق کے وقوع کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا؛ لیکن اگر بیوی نے خود اپنے کانوں سے طلاق کے الفاظ سنے ہیں اور اسے تین طلاق کا پورا یقین ہے، تو اس پر دیانتہ تین طلاق پڑ گئیں۔ اب بیوی پر لازم ہے کہ حتی الامکان شوہر کو اپنے قریب نہ آنے دے اور جس طرح بھی ممکن ہو اس سے تفہیق حاصل کر لے، پھر بھی اگر اس کو مجبور کیا جائے، تو وہ گنہگار نہ ہوگی؛ بلکہ سارا او بال شوہر پر ہوگا۔

(مستفاد: ایضاً حکایت النوادر ۱۰۲، کفایت المفتی جدید زکریا ۸۹/۶، جدید ادارۃ الفاروق، کراچی ۱۲۳/۸، عثمانی ۵/۲، محمود یہودا بھیل ۲۹۸/۱۲، میرٹھ ۱۹/۲۳۷)

المرأة كالقاضي إذا سمعته، أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه: والفتوى على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها؛ بل تفدي نفسها بمال، أو تهرب، فإن حلف ولا بينة لها فالإثم عليه. (شامي، ذكرى ۴/۴۶۳، كراچي ۳/۲۵۱، تبیین الحقائق، امدادیہ ملکان ۲/۳۱۸، ذکریا ۳/۸۲، هندیہ، ذکریا

قدیم ۱/۴۵، زکریا جدید دوبند ۱/۴۲۲) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۸ صفر المظفر ۱۴۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف خاص ۳۰/۱۴۲۲)

لفظ طلاق کی مرتبہ بول کرتا کید مراد لینا

سوال [۶۷۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیاں شرع متن مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی ہندہ کو میکہ سے بچے کی ولادت کے بعد بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے آجائے کی وجہ سے طیش میں آ کر لفظ "طلاق دی" کی مرتبہ کہا اور قسم کھا کر زید کہتا ہے کہ لفظ طلاق کی مرتبہ کہنے کے وقت میری نیت لفظ طلاق کے تکرار کی تھی، یہی ہمارے یہاں کا عرف بھی ہے اور بصورت تاکید کی مرتبہ کہہ کر ایک ہی مانتے ہیں، میں نے اس لفظ کو بار بار کہا ہے، میری نیت مستقل طور سے طلاق واقع کرنے کی نہیں تھی، اس بات پر خود میری بیوی اور میر اسلامہ اور اہل خانہ گواہ ہیں، اس طرح طلاق کا لفظ مجھ سے کیا بار کہا گیا، بخدا میرا مقصود اس کو ڈرانا دھمکا نہیں تھا، طلاق تو ایک بھی واقع کرنا نہیں تھا تاکہ یہ آئندہ میکہ سے بغیر اجازت نہ آئے، تو ایسی صورت میں میری بیوی پر کون سی طلاق واقع ہوگی؟

المستفتی: محمد زید، حافظ آباد، مالیر کوٹلہ، سگرور (پنجاب)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب آپ کا ارادہ ایک بھی طلاق واقع کرنے کا نہیں تھا، مگر پھر بھی آپ نے لفظ طلاق زبان سے نکال دیا، تو ایسی صورت میں آپ کا ارادہ کام نہیں کرے گا، طلاق ضرور واقع ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طلاق بھی واقع نہ ہو اور جب آپ نے اس لفظ کو تین مرتبہ سے زیادہ کہا ہے، تو طلاق مغلظ واقع ہوگئی، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا رادہ تین طلاق واقع کرنے کا نہیں تھا، تو آپ کی اگلی بات کہ ایک کا بھی

ارادہ نہیں تھا، اس کے معارض ہے؛ اس لئے آپ کی اس معارض بات کا اعتبار نہ ہوگا، طلاق مغلظہ واقع ہو گئی۔ اب بغیر حالہ کے نکاح بھی درست نہ ہوگا۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً۔ (الأشباه والنظائر

قدیم ۹، جدید زکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وشتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره۔ (ہندیہ، زکریا قدیم ۱ / ۴۷۳، جدید ۱ / ۵۲۵) فقط والله سبحانه وتعالى علم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲ھ / ۲۰۲۲ء

كتبه: شمسير احمد قاسمي عفنا اللہ عنہ

۲۰ صفر المظفر ۱۴۲۲ھ

(فتوى نمبر: الف ۸۷۲۳ / ۳۷۲)

تین طلاق دے کر یہ کہنا کہ ہمیں تم سے محبت ہے ہزار مرتبہ طلاق دوں تب بھی واقع نہ ہوگی

سوال [۶۷۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کو نشہ اور غصہ کی حالت میں طلاق کا لفظ بیک وقت تین مرتبہ کہا اور شوہر کا یعنی زید کا کہنا کہ ہمارے دل میں تمہاری بہت محبت ہے چاہے ہزار مرتبہ تم کو طلاق دوں، مگر پھر بھی طلاق نہیں ہو گی، تو کیا طلاق ہو گئی یا نہیں؟

المستفتی: مفتی محمد جاوید قادری چاند پوری، ضلع: بجور (یوپی)

با اسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب طلاق کا لفظ تین بار زبان سے بیوی کے حق میں استعمال کر چکا ہے، تو اس سے بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے، چاہے بیک وقت تینوں طلاقیں دی ہوں یا بیوی سے پوری طرح سے محبت ہو، ہر حال میں طلاق واقع ہو گئی ہے۔ اب بلاحالہ شرعی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہ ہوگا۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً۔ (الأشباه والنظائر

قدیم ۹، جدید زکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثالثاً في الحرج، وشتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هنديہ، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/۳۹۹) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعیر احمد فاسنی عفان اللہ عنہ

۲۷ ربیع الاول ۱۴۲۳ھ

(فتوى نمبر: الف ۸۸۸/۳۶)

تین چار سال میں کئی مرتبہ طلاق دینا

سوال [۲۷۵۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عرفان خان نے اپنی بیوی کوئی مرتبہ میں تین سے زیادہ مرتبہ طلاق دیدی ہے، سب سے پہلے دو مرتبہ طلاق دی تھی، پھر ڈیڑھ ماہ بعد دو طلاق، پھر ڈھانی سال کے بعد تین طلاق دی، پھر اس کے ایک مہینہ کے بعد تین طلاق دی، ہر طلاق کے بعد رو تے ہیں اور معافی تلافی کرتے ہیں اور بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، اس وقت سعودیہ عربیہ میں ہیں، فون پر بھی طلاق دیتے رہتے ہیں اور جب یہاں تھے، تو یہاں بھی تین سے زیادہ مرتبہ طلاق دیدی ہے۔

اب دریافت یہ کرنا ہے کہ بیوی کا ان کے ساتھ رہنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ میرے ساتھ رہنے کا اصرار کریں تو میرے لئے کیا حکم ہے؟

المستفیۃ: سازہ خاتون، لاچپت گنگر، مراد آباد (بیوی)

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مسؤولہ صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب شوہر نے آپ کو تین چار سال میں کئی مرتبہ تین سے زیادہ طلاق دیدی ہیں اور اب سعودیہ سے فون پر بھی تین سے زیادہ مرتبہ طلاق دیتے رہتے ہیں، تو آپ کے اوپر طلاق مغلظہ واقع ہو کر آپ

شہر کے لئے قطعی طور پر حرام ہو چکی ہیں اور آپ کا ان کے ساتھ رہنا اور اپنے اوپر قابو دینا حرام کاری اور زنا کاری ہوگی۔

قال اللہ تعالیٰ: الطلاق مرتان: فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى تَنكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ [البقرہ: ۲۳]

عن سهل بن سعد، قال: فطلقتها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (بخاري، كتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث ۷۹۱/۲، رقم: ۵۰۶۰، ف: ۵۲۵۹، صحيح مسلم، كتاب اللعن، النسخة الهندية ۱/۴۸۹، بيت الأفكار، رقم: ۱۴۹۲، أبو داؤد شریف، كتاب الطلاق، باب في اللعن، النسخة الهندية ۱/۳۰۶، دار السلام رقم: ۲۲۵)

وقال الليث عن نافع كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثة، قال: لو طلقت مرة، أو مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرني بهذا فان طلقها ثلاثة حرمت حتى تنكح زوجاً غيره۔ (بخاري شریف، كتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث، النسخة الهندية ۲/۷۹۲، رقم: ۵۰۶۵، ف: ۵۲۶۴، صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض، النسخة الهندية ۱/۴۷۶، بيت الأفكار رقم: ۱۴۷۱)

عن واقع بن سحبان، قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته ثلاثة في مجلس، قال: أثم بربه وحرمت عليه امرأته. (مصنف ابن أبي شيبة، جديد مؤسسه علوم القرآن بيروت ۹/۵۱، رقم: ۱۸۰۸۷)

مالك أنه بلغه أن رجلاً قال لابن عباس: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة، فماذا ترى على؟ فقال ابن عباس: طلقت منك بثلاث وسبعين وتسعون اتخذت بها آيات الله هزواً۔ (مؤطراً امام مالك، كتاب الطلاق، باب ما جاء في البتة، النسخة الهندية ۹۹، بيروت، رقم: ۱۱۲۱)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة..... لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره

نکاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هندية، زکریا قدیم)

(۴۷۳/۱، زکریا جدید/۵۳۵)

عن عائشة، أن رجلاً طلق امرأته ثلاثة، فتزوجت، فطلقتها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيتها كما ذاق الأول. (بخاري شریف، کتاب الطلاق، باب من احاز الطلاق الثلاث، النسخة الهندية ۲/۷۹۱، دارالسلام رقم: ۵۲۶۱، ف: ۵۰۶۲)

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۳۳۵ھ/۱۳۳۵ء/۲۰

۱۳۳۵/۲/۳

(فتوى نمبر: الف ۱۵۵۳/۲۰)

فون پر کئی مرتبہ طلاق دینے کا حکم

سوال [۲۷۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع تین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ انوار عالم بن محمد حسین نے اپنی بیوی عالم آراء کو فون پر بات چیت کرتے وقت حق زوجیت ادا نہ کرنے کی وجہ سے کئی مرتبہ طلاق دیدی، بروز بدھ ۱۳۷۰ھ کو جبکہ ان کی بیوی کا کہنا ہے کہ میں نے طلاق کو صرف دو مرتبہ سنا ہے اور لڑکے کا کہنا ہے کہ تین مرتبہ سے بھی زائد کہا ہے۔ یاد رہے کہ ان کی بیوی حاملہ ہے، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ ان کی بیوی پر طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل و مفصل جواب مرحمت فرمائیں۔

المستفتی: انوار عالم بن محمد حسین، رائے پور، اودھم سٹائلگر (اتراکھنڈ)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب تین مرتبہ سے زائد طلاق دینے کا شوہر خود اقرار کر رہا ہے، تو اس کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر شوہر پر قطعی طور پر حرام ہوگئی۔ اب آئندہ بغیر حلالة کے دونوں کے درمیان نکاح بھی درست نہیں ہے

اور طلاق واقع ہونے کے لئے بیوی کا سنتا لازم نہیں ہے صرف شوہر کا اقرار کافی ہے اور حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۲۱۹، جدید زکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هنديہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹)

طلاق الحامل يجوز عقیب الجماع. (هدایۃ، اشرفی دیوبند ۲/۳۵۶) فقط والله سبحانه وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شییر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

برشوال المکرم ۱۴۳۳ھ

(نوقیٰ نمبر: الف ۲۵۶/۳۰)

بار بار ”طلاق دی“، کہنا

سوال [۶۷۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بڑی شاہ بانو عمر تقریباً ۱۹ سال جس کی رخصتی کو تقریباً دو سال گذر چکے ہیں۔ اب میری بڑی شاہ بانو کو طلاق دیدی گئی ہے، ۲۲ رج菊 جمعہ کو بڑی کی ساس اور دیور اور بڑی کا شوہر آیا، ان لوگوں نے پہلے شاہ بانو کے باپ سے تکرار شروع کیا پھر فوراً طلاق دیدی اور یہ لفظ بار بار کہا کہ ”طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی“، پھر کہا میں نے طلاق دی، پھر زینہ پرجا کر اسی کو دھرا یا، اب مجھ کو کیا کرنا چاہتے، اب زیور سامان جہیز اور عدت کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟

المسئلہ: حاجی خورشید الہبی، شیدی سرانے، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ کی درج شدہ صورت میں لڑکی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم، ۲۱۹، جدید زکریا (۳۷۶)

جیز کا سامان مہر وغیرہ جو لڑکی کی ملکیت ہے، وہ سب لڑکی کا حق ہے، اس کا حق اس کو واپس کرنا لازم ہے۔

أَنَّ الْجَهَازَ لِلْمَرْأَةِ إِذَا طَلَقَهَا تَأْخِذُهُ كَلَهُ.

(شامی، زکریا ۴/۳۱۱، کراچی ۳)

اور عدت کا خرچہ شوہر پر اس وقت لازم ہوتا ہے، جب بیوی وہاں پر عدت گزارتی ہے جہاں شوہر کی مرضی ہو رہے حاجب نہیں۔

وَ لَا نَفْقَةَ لِأَحَدٍ عَشْرَةَ وَ خَارِجَةٌ مِّنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ حَقِّ.

(در مختار مع الشامی، کراچی ۳/۵۷۵-۵۷۶، زکریا ۵/۲۸۵-۲۸۶، بدائع الصنائع، زکریا ۳/۴۲۸) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعیر احمد تقائی عفان اللہ عنہ

۱۴۳۱ھ محرم الحرام

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸۲۶)

شوہر کا بیوی کو متعدد بار طلاق دینا

سوال [۲۷۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد زید نے اپنی زوجہ سلمی کو ایک ہی مجلس میں متعدد بار طلاق دی واضح رہے کہ شوہر و بیوی کے درمیان نہ تو کوئی جھگڑا تھا، نہ کوئی رنجش، بلکہ یہ طلاق گھر کے دوسرے افراد کے سامنے روز بروز کی لڑائی اور تکرار کی وجہ سے دی؛ جبکہ کھر والے بھی میاں بیوی

دونوں کو تنگ کر رہے تھے، نیز دونوں میاں بیوی اب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے پر راضی ہیں؛ جبکہ طلاق دیئے ہوئے سواتین ماہ کی مدت گذر چکی ہے۔

المستفتی: محمد عبدالشیخان حنائی، سہیپور، بہنور (یوپی)

بسم اللہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ میں ”متعدد بار“ کا لفظ ہے، اگر لفظ متعدد بار سے تین یا اس سے زائد طلاق مراد ہے، تو سلمی پر تین طلاق واقع ہو گئی ہیں، اب بغیر حلالہ شرعی کے سلمی کا زید کے ساتھ رہنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے کر انکار کر دے گا، پھر اس عورت سے صحبت کرتا رہے گا اور جب تک یہ دونوں اپنے حال پر رہیں گے زانی کھلائیں گے۔

یأتي على الناس زمان يطلق الرجل المرأة، ثم يجدد طلاقها، فيقيم على فرجها فهما زانيان ما أقاما. (طبراني كبرى، دار أحياء التراث العربي

بیروت ۱/۲۳۰، رقم: ۱۰۵۶)

عن عائشة، أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، أتحل للأول؟ قال: لا حتى ينوق عسيلتها كما ذاق الأول. (بخاري شریف، کتاب الطلاق، باب من اجاز الطلاق الثلاث، النسخة

الهنديّة ۲/۷۹۱، رقم: ۵۰۶۲، ف: ۵۲۶۱)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(عالمنگیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵) **نقطو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم**

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله
۱۴۲۷/۷/۱۲

كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴۲۶/۱۲/۱۶
(فتوى نمبر: الف/۳۸، ۸۸۹/۷)

ہوش و حواس میں تین مرتبہ سے زائد طلاق دینا

سوال [۶۷۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عتین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کو کسی مرض کا کئی کئی دن تک دورہ پڑتا ہے، دورہ کے ختم ہونے کے بعد چوتیں گھنٹہ تک بے ہوش رہتا ہے، جس میں فرش گالیاں بکتا ہے، یہاں تک کہ ماں کو بھی گندی گالیاں بکتا ہے، اس کے بعد پندرہ ہیں دن تک دماغ میں گرمی رہتی ہے اور ہوش و حواس باختہ رہتے ہیں، اس کے بعد والی حالت میں زید نے اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت میں کہا ”نسرین میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق، طلاق، طلاق“، شوہر کا بیان یہ ہے کہ مجھے یہ بات یاد ہے کہ نسرین میں تجھے طلاق دے رہا ہوں ”طلاق، طلاق، طلاق، طلاق“، چار مرتبہ طلاق دینا یاد ہے۔

دریافت طلب بات یہ ہے کہ اس صورت میں زید کی بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں؟
اگر ہوئی تو کونی ہوئی اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: محمد زاہد عرف شانو، دولہاپور، مراد آباد (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق دیتے وقت شوہر کو اتنا ہوش و حواس باقی رہا ہے کہ اس نے کیا جملہ استعمال کیا تھا، اس کا خود کا بیان ہیکہ یہ جملہ اسے یاد ہے کہ ”نسرین میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق“، چار مرتبہ سے طلاق دینا یاد ہے، تو جس قدر ہوش و حواس کا ذکر اس نے اپنے بیان میں کیا ہے، طلاق کے واقع ہونے کے لئے اتنا ہوش و حواس باقی رہنا کافی ہے؛ اس لئے نسرین کے اوپر تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں اور طلاق مغلظہ واقع ہونے کی وجہ سے شوہر پر بالکل حرام ہو گئی ہے۔ اب بغیر حلالہ کے دونوں کے درمیان نکاح بھی درست نہ ہو گا۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباء والنظائر قدیم ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثالثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (عالملگیری، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵)

لو طلق فشهد عنده إثنان أنك استثنيت وهو غير ذاكر…… إلا أن يحاب بأن المراد بكونه لا يدرى ما يقول أنه لقوة غضبه قد ينسى ما يقول ولا يتذكره بعد. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی طلاق المدهوش، کراچی ۳/۴۵۳، زکریا ۴/۲۴۴)

فقظ والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:
كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
احترم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۵/رمادی الاولی ۱۴۲۹ھ
۱۴۲۹/۵/۵
(فتویٰ نمبر: الف ۹۵۹۷/۳۸)

تین سے زائد مرتبہ طلاق دینا

سوال [۶۷۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ تفضل حسین نے اپنی بیوی کو ۳ سے زیادہ مرتبہ طلاق دیدی ہے اور جب لوگ اس سے طلاق کے سلسلہ میں بات کرنے گئے، تو ان سے بھی اس نے کہا کہ میں نے اسے رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑ دی، اپنا سامان اب لے جاؤ، چاہے بعد میں لے جانا، تو دریافت یہ کہ طلاق ہو گئی یا نہیں؟ اور جیز و مہر دینا لازم ہے بھی یا نہیں؟

المستفتی: حافظ حسین احمد، عمری کالا، مراد آباد

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب وبالله التوفيق: جب تفضل حسین نے اپنی بیوی کو تین سے زیادہ

مرتبہ طلاق دیدی ہے، تو اس کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو گئی ہے، اب بغیر حلالہ کے اس کے ساتھ زناح بھی نہیں کر سکتا اور مہر و جہیز کا سامان بڑکی کا حق ہے، اس میں شوہر کا کوئی حق نہیں۔

وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرْمَةِ، وَثَنَتِينَ فِي الْأُمَّةِ لَمْ تَحْلِ لَهُ حَتَّى تَنكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ نَكَا حَاجًا صَحِيحًا، وَيَدْخُلُ بَهَا، ثُمَّ يَطْلُقُهَا، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا.

(ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۹/۲۱، جدید زکریا ۳/۳۷۶)

المختار للفتوی أن يحكم بكون الجهاز ملکاً لا عارية؛ لأنَّه الظاهر
الغالب. (شامی، زکریا ۴/۹۰، کراچی ۳/۱۵۷)

أنَّ الجهازَ لِلمرأةِ إِذَا طَلَقَهَا تَأْخِذُهُ كُلَّهُ. (شامی، زکریا ۴/۱۱۳)

کراچی ۳/۱۵۸)

وإنما يتأكد لزومه بالوطء ونحوه..... وإذا تأكد المهر لما ذكر
لا يسقط بعد ذلك. (شامی، زکریا ۴/۲۳۳، کراچی ۳/۱۰۲)

والمهر يتتأكد بأحد معان ثلاثة..... حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك
إلا بالإبراء. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۰۳، جدید ۱/۳۷۰)

كتبه: شیعیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۱۴۳۲ھ قدری

(فتویٰ نمبر: الف ۳۹/۱۰۵۲۲)

تین مرتبہ سے زائد چھوڑ دیا کہنا

سوال [۶۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ شوہر فراست ولد باقر بیوی سنجیدہ بنت مقصود دونوں میاں بیوی بخوشی
مقصود کے گھر گئے، کچھ دیر بعد شوہر فراست نے اپنی بیوی سنجیدہ سے کہا، گھر چلو اور ابھی

لے کر جاؤں گا، بیوی نے کہا کہ میں والد سے پوچھئے بغیر نہیں جاؤں گی، اس کے بعد بیوی کے والد مقصود صاحب نے کہا کہ شام کو کھانا کھا کر چلے جانا، مگر شوہر فوراً چلنے پر اصرار کرتا رہا کہ ابھی لے کر جاؤں گا، ادھر بیوی کے گھر والے شام کو جانے کے لئے کہتے رہے، اسی وقت فراست نے مکان سے باہر آتے ہوئے جو دوسرے مکان کا راستہ ہے کہا ”میں نے مقصود کی لڑکی کو چھوڑ دیا“، فوراً اور لوگوں نے اس کے منھ پر ہاتھ رکھ دیا اور ڈانٹا، مارا پیٹا، پھر دوبارہ یہی جملہ دہرا�ا کہ ”میں نے چھوڑ دیا، میں نے چھوڑ دیا“، پھر جب اپنے گھر واپس آیا تو گھروالوں نے کہا کہ ایسی بات زبان سے کیوں نکالی اور مارا پیٹا پھر اس نے یہ جملہ کہا کہ ”میں نے چھوڑ دیا، چھوڑ دیا“

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ مذکورہ فراست کی بیوی پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر واقع ہوئی تو کون سی طلاق واقع ہوئی؟ شرع کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

نحوٗ: فراست کے مذکورہ جملوں کو نہ بیوی نے سنانہ بیوی کی ماں نے سننا اور نہ ہی والد نے سننا، دوسرے کے مکان سے جو راستہ نکلتا ہے وہاں یہ جملہ دہرا�ا۔

المستفتی: رفاقت حسین، عمری کلاں، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ سے واضح ہوتا ہے کہ شوہرنے چھوڑ دیا کا لفظ تین مرتبہ سے زائد استعمال کیا ہے اور لفظ چھوڑ دیا عرف میں طلاق ہی کے لئے مستعمل ہے، اس سے طلاق صریح واقع ہوا کرتی ہے اور جب تین مرتبہ کہے تو تین طلاق واقع ہو جاتی ہیں؛ اس لئے مذکورہ صورت میں فراست کی بیوی سنجیدہ پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔ اب بلا حلالة نکاح بھی درست نہ ہوگا۔

قوله سرحتک وهو ”رها كردم“؛ لأنَّه صار صريحاً في العرف (إلى قوله) إنَّ الصرِّيحَ مالِمُ يستعملُ إِلَّا في الطلاقِ مِنْ أَيِّ لُغَةٍ كَانَتِ الْخَ.
(شامي، کتاب الطلاق، باب الکنایات، ذکریا / ۴، ۵۳۰، کراچی ۳/۲۹۹)

متى کر لفظ الطلاق بحرف الواو أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق .

(عالِمگیری، زکریا قدیم ۳۵۶/۱، جدید زکریا ۴۲۳/۱) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۰/ جمادی الثانی ۱۴۲۰ھ

(نومی نمبر: الف ۲۲۵۹/۲۶)

”میں نے تجھے طلاق دی“ چار مرتبہ کہنا

سوال [۲۷۵۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نعم نے جھانی کے پیچھے طلاق دیدی، جھانی سے میل کھارہ تھا، آٹھ مہینہ کا لڑکا ہے گود میں اور دو مہینہ کا حمل ہے اور دس بجے چار پانچ بار طلاق دی، تین چار بار یہ کہا کہ ”میں نے تجھے طلاق دی“ اس وقت دو لڑکی روما، گڑیا گھر میں تھیں اور اس کی جھانی بھی تھی، جس کا نام تو قیر ہے، لڑکی کی ماں ہے وہ نوکری کرتی ہے۔ اب آپ اس کا فیصلہ دے دیں کہ طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتيہ: سائلہ انو، شیخہ، مراد آباد

بسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسئولہ میں نعم کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہوگئی۔ اب بغیر حالہ شرعیہ کے وہ اس کے نکاح میں نہیں آسکتی، حالانکہ صورت یہ ہے کہ وہ عدت گذارنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے، وہ ہمستری کے بعد اگر طلاق دیدے، تو بعد افقضاء عدت نعم کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہوگا۔

قال سبحانہ تعالیٰ: فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنكِحْ زَوْجًا

غیرہ۔ [البقرہ: ۲۳۰]

در منار میں ہے۔ لا ينكح مطلقة من نكاح صحيح نافذ بها أي بالثلث

حتى يطأها غيره۔ (در منخار کراچی ۴۰/۳، زکریا ۵/۴۰ تا ۴۳)

اسی میں آگے ہے و تمضی عدته ای الشانی الخ. (در المختار، زکریا ۵/۴۰)

تاریخ: ۱۲ تا ۴۰۹، کراچی ۳/۴۰۹

طلاق حمل کی حالت میں بھی واقع ہو جاتی ہے۔ در المختار جلد ثانی ۲۵۳/۲۵۳ میں ہے۔

و حل طلاق ہن ای الآئسہ والصغریۃ والحاصل۔ (الدر المختار، کراچی ۳/۲۳۲، ۴/۴۳، زکریا ۴/۲۳۲) جواب مذکور سوال کے مطابق صحیح ہے۔ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

خادم الافتاء جامعہ نیمیہ مراد آباد

۱۳۱۸/۵/۲۳

کتبہ: ممتاز احمد نعیمی غفرلہ

۱۳۱۸/۱۰/۱

(فتاویٰ نمبر: الف ۳۳، ۵۳۱۰/۰۳)

یکبارگی تین چار بار طلاق دینا

سوال [۶۷۵۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شوہرنے اپنی بیوی کو ایک وقت میں تین چار بار طلاق دی، شوہر کے الفاظ یہ ہیں ”میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی“، بیوی اس وقت حاملہ ہے، اب دونوں ایک ساتھ رہنے کو رضامند ہیں اس واقعہ کو تقریباً ۲۲ روز کا عرصہ گذر گیا، کیا طلاق ہو گئی؟ حاملہ ہونے سے طلاق پر کوئی اثر تو نہیں پڑا اور بارہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کے لئے کیا صورت ہو گئی؟ لتنی مدت اور کیا کیا شرطیں درکار ہیں؟

المستفتی: جیسم احمد، محلہ لاگکا سوار، راپور

بسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: اگر تین بار سے زائد طلاق دی جائے تو طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا مذکورہ صورت میں طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے، اب آئندہ بلا حلالہ دوبارہ نکاح بھی جائز نہ ہوگا اور حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، حلالہ کی صورت یہ ہے کہ وضع حمل کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کر کے ہمبستری ہو جائے،

اس کے بعد وہ شخص طلاق دیدے، اس کے بعد دو بارہ تین ماہواری گزارے اس کے بعد نکاح پہلے شہر کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

(قدیم ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶)

و طلاق العامل يجوز. (هداية، اشرفي دیوبند ۲/۳۵۶)

وإنْ كَانَ الطَّلاقُ ثَلَاثَةً فِي الْحُرْمَةِ، وَثَنَتِينِ فِي الْأَمْمَةِ لَمْ تَحْلِ لَهُ حَتَّى تَنكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ نَكَاحًا صَحِيحًا، وَيَدْخُلُ بَهَا، ثُمَّ يَطْلُقُهَا، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا.

(هنديہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵)

ولاتحل الحرة بعد الطلقات الثلاث لمطلقها، لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحْلُلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. [البقرة: ۲۳۰]

من بعد الآية..... إلا بعد وطع زوج آخر بنكاح صحيح ومضي عدته أي عدة النكاح الصحيح بعد زواله بالطلاق في الزوج الثاني. (مجمع الأئمہ، دارالكتب العلمية بيروت ۲/۸۸) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

كتبه: شیبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احترم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۷۲ رجب الثانی ۱۴۳۸ھ

۱۴۳۸/۰۲/۲۷

(فتویٰ نمبر: الف ۵۲۶۳/۳۳)

”میں نے تجھے چھوڑ دی“، تین چار بار کہنے سے طلاق مغلظہ

سوال [۶۷۲۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کو بیک وقت ایک سالس میں تین بار یا چار بار لفظ چھوڑنا کہہ دیا، یعنی یوں کہہ دیا کہ ”میں نے تجھے چھوڑ دی، چھوڑ دی، چھوڑ دی“، کیا یہ طلاق رجیع ہے یا طلاق مغلظہ ہے؟ آپ وضاحت کے ساتھ براۓ مہربانی جواب دیں یہ واقعی الحال کا ہے۔

المستفتی: محمد یوسف بن محمد حسین، درہ صیال، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: لفظ چھوڑ دیا عرف میں بیوی کے لئے طلاق کے لئے مستعمل ہے؛ اس لئے اس سے طلاق صریح واقع ہو جاتی ہے اور جب تین بار کہہ دیا تو ہر بار ایک طلاق کل تین طلاق ہو کر طلاق مغلظہ واقع ہو گئی۔ اب بالکل حرام ہو چکی ہے، بغیر حلال دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو گا۔

قولہ سرحتک وهو ”رها كردم“ لأنه صار صريحاً في العرف (إلى قوله) **أن الصريح مالم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت الخ.** (شامی،

کتاب الطلاق، باب الکنایا، زکریا / ۴، ۵۳۰، کراچی ۲۹۹/۳)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة..... لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هدایۃ اشرفی دیوبند ۳۹۹/۲)

کتبہ: شیر احمد قادری عفان اللہ عنہ
۱۳۱۰ھ محرم الحرام
(فتویٰ نمبر: الف ۲۵/۱۶۰۵)

طلاق، طلاق، طلاق سے طلاق کا حکم

سوال [۶۷-۶۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے بحالت غصب اپنی بیوی سے کہا: جب وہ دونوں غصہ کے موڈ میں تھے یہ کہا، چپ جا طلاق دیدوں گا، پھر کچھ سوچ کر کہا ”طلاق، طلاق، طلاق، طلاق دیدی“، مراد لے ہار ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ طلاق پڑ گئی یا نہیں؟ اگر پڑ گئی تو مغلظہ پڑی یا کوئی دوسری (مثلاً رجعی وغیرہ) نیز یہ بھی بتلاد تھے کہ اگر مغلظہ ہے، تو کیا اس میں حلال شرط ہے؟ اور کیا حلال بغیر صحبت کے ہو جائے گا مثلاً خلوت صحیح کے ذریعہ نیز آخر میں انہوں نے کہا چل

بھاگ۔ اور عدت طلاق کہاں گزاری جائے، میکہ میں یا سرال میں؟

المستفتی: دشاد حسین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: پہلی مرتبہ شوہر کے یہ کہنے کہ ”چپ جاطلاق دیدوں گا“ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی؛ کیونکہ یہ وعدہ طلاق ہے اور وعدہ طلاق سے طلاق نہیں پڑتی، پھر اس کے بعد راسوچ کر جب شوہر نے تین مرتبہ طلاق طلاق طلاق کے الفاظ زبان سے نکالے اور طلاق دینے کا ارادہ کیا، تو اس کی بیوی پر طلاق مغایظہ واقع ہو گئی۔ اب بغیر حلالہ شرعیہ کے دونوں کامیابی کی طرح رہنا ناجائز اور حرام ہے اور حلالہ کا طریقہ یہ ہے کہ عدت گذر جانے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح ہو جائے اور اس کے ساتھ ہمیستری بھی ہو جائے، پھر وہ اس کو طلاق دیدے اور اس کی عدت گذر جائے تو اب پہلے شوہر کے لئے اس سے نکاح کرنا درست ہو سکتا ہے اور اگر شوہر اس گھر میں رہائش چھوڑ دے اور کوئی فتنہ نہ ہو تو شوہر کے گھر میں عدت گزاری گی اور اگر شوہر سے آمنا سامنا ہو یا فتنہ کا خطرہ ہو، تو وہاں عدت نہیں گزارے گی؛ بلکہ میکہ میں عدت گزارے گی۔

بخلاف قوله ”کنم“ لأنه استقبال فلم يكن تحقيقاً بالتشكيك.

(ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۸۴، جدید ۱/۴۵۲)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۹، جدید زکریا ۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵)

**ولهمما أن يسكننا بعد الثلاث في بيت واحد إذا لم يلتقينا النساء
الأزواج ولم يكن فيه خوف فتنة.** (در مختار، کراچی ۳/۵۳۸، زکریا ۲۲۷)

وإن تعذر فلتخرج هي۔ (شامی، کراچی ۳/۵۳۸، ذکریا ۵/۲۲۷) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان مصور پوری غفرلہ
۱۴۳۳ھ/۵/۳

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۱۴۳۳ھ/۱/۱۳۳۳
(فتویٰ نمبر: الف/۳۹/۱۰۶۷۳)

دو طلاق دینے کے بعد پھر ۲ ماہ بعد دو طلاق دینا

سوال [۶۷۶۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو دو طلاق دیدی، پھر ساتھ ہی رہنے لگے، اب تقریباً پچھ ماہ کے بعد پھر دو طلاق دیدی ہے، تو شرعاً کتنی طلاق ہوئی اور اب ساتھ رہنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟

(۲) اگر میاں بیوی اسی گھر میں رہیں تو شرعاً کیا کیا احتیاط کرنی پڑے گی؟

المسنونتی: ملکہ ثریا، لاکڑی والاں، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) برقرار صحیح واقعہ مسؤولہ صورت میں اولاً دو طلاق دینے کے بعد جب دونوں ساتھ رہنے لگے، تو رجعت صحیح ہوگئی؛ لیکن بعد میں جب دو طلاقیں دی گئیں، تو تیری طلاق بھی واقع ہوگئی اور بیوی مغلظہ قرار پائی؛ لہذا بحالہ شریعت کے بغیر دونوں میں ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔

الصریح یلحق الصریح کما لو قال لها أنت طالق، ثم قال: أنت طالق، او طلقها على مال وقع الثاني۔ (شامی، کتاب الطلاق، باب الکنایات، کراچی

۱/۴۵، جدید، ذکریا قدیم ۱/۳۷۷، ۰۴، هندیہ، ذکریا ۴/۳۰۶)

(۲) اگر عدت شوہر کے گھر گزاری جائے، تو دونوں میں سختی سے پردہ کرنا لازم ہے،

بے تکلف بات چیت اور تنہائی میں ساتھ رہنا ہرگز جائز نہیں۔ طلاق مغلظہ کے بعد وہ عورت بالکل احتجابیہ کے درجے میں ہو گئی ہے۔

ولابد من سترة بينهما في البائن إلى ماقال وسئل شيخ الإسلام عن زوجين افترقا ولكل منهما ستون سنة وبينهما أولاً دتعذر عليهما مفارقتهم، فيسكنان في بيتهما ولا يجتمعان في فراش ولا يلتقيان النساء الأزواج هل لهم ذلک؟ قال نعم! وأقره المصنف. (در مختار، مع الشامي،

کراچی ۵۳۷/۳، ۵۳۸، زکریا ۲۲۶-۲۷) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:

لکتبہ: شیر احمد قاسی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۲ھ/۱۳۲۲ء

۱۴۲۲ھ/۱۳۲۲ء

(فتوى نمبر: الف ۳۷/۸۰۹۶)

دومرتباً دو، دو کر کے چار طلاق دینا

سوال [۶۷۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بچی صدیقہ ظفر کی شادی سید انیس امان سے ۵ رسال قبل کی تھی، شادی کے بعد جب اس کی حالت متغیر بکھی تو مستثنی نفسیہ لے گئے، ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ دماغی مریض ہے، دوائی تجویز کی، مگر انیس امان دوا کھانے سے انکار کرتا ہے کہ یہ دوائی دماغ خراب کرتی ہے، ایسی متغیر حالت میں بھی دوائی کی پہچان رہی اور ہم سب کو بھی پہچانتا رہا، ڈاکٹر کے مشورے سے دوائی جوس میں ملا کر یا صفوں میں ملا کر دیتے رہے، دماغی کیفیت گھٹتی بڑھتی تھی، دوائی کے بغیر خاموش بیٹھا رہتا تھا، دوائی سے کنٹرول رہتا تھا، ان پانچ سالوں میں مختلف جگہوں پر دو سال مازمت کی میئنے میں ایک دومرتباً ناغ بھی کرتا تھا اور اکثر یہ کہتا رہتا تھا کہ میرے قبضہ میں جن ہیں یا میں ان کو اپنے قبضے میں کروں گا، اکثر کھانا بھی چھوڑتا تھا کہ میں وظیفہ کر رہا ہوں صرف جوس پیوں گا اور جب چاہا کھانا شروع کر دیتا تھا۔

اکثر بچی سے لڑائی جھگڑا کرتا رہتا تھا، یہ سب اپنے ہوش و حواس میں کرتا رہتا تھا، جب لڑائی جھگڑا بہت بڑھ گیا تو میں نے بچی کو اپنے کمرے میں سلانا شروع کر دیا۔ ایک دن ناشتہ دینے گئی، تو کہنے لگا تم مجھ پر جادو کرتی ہو، تم نے چائے میں ضرور بچھ ملایا ہے، تم مجھ سے تال کھیل رہی ہو، بچی روٹی ہوئی غصہ میں کمرے سے باہر آگئی اور یہ کہتے ہوئے جب تال کھیلنا بند کر دوں گی تب ہی آؤں گی۔ اتنے میں امانت نے دو طلاقیں دیدیں بچی نے زور سے کھا دو اور ایک پہلے دی تھی۔ اب میں تمہارے لئے بالکل حرام ہو گئی ہوں۔ امانت کہنے لگا کہ پہلے کی بچھے یاد نہیں شاید دی ہو، نہیں نہیں میں نے نہیں دی، پہلی طلاق کا منکر ہو گیا۔ بہر حال بغیر کسی دباؤ کے سیدا نہیں امانت نے اپنے علم و اختیار سے طلاقیں دیں اور ہوش و حواس قائم تھے؛ بلکہ طلاق کے الفاظ کو بخوبی سمجھتا تھا، ان پر کیا نتیجہ مرتب ہوگا؟ بیوی اور غیر بیوی کا ہمیشہ اور بوقت طلاق امتیاز رہا اور دماغی مریض کے علاوہ جلال اور غصہ خوب ہے اور طلاقیں بھی غصہ میں ہی دی ہیں۔ بہر حال سیدا نہیں امانت ہندوستان چلا گیا اور چار طلاقوں کا اقرار بمع تحریر، اس طرح کیا کہ میں نے اپنی بیوی صدیقہ ظفر کو ایک مرتبہ دوبار طلاق وقفہ وقفہ سے اور اب ہندوستان آنے سے قبل میں نے اپنی بیوی صدیقہ ظفر کو دو مرتبہ ایک ساتھ طلاق دی۔

سیدا نہیں امانت کی والدہ سے معلوم ہوا کہ کانج کے زمانہ سے ہی یہ کیفیت ہے، اسی کیفیت میں اور بہکی بہکی بتیں کرنے کے باوجود انجینئر کی ڈگری حاصل کی۔ اس طلاق کو ایک سال ہو گیا ہے اور اپنی بات یعنی طلاق پر قائم ہے، ہندوستان سے ہفتہ دو ہفتہ میں ان کا فون آتارہتا ہے کہ بیٹی جویری یہ سے بات کرادو، ایسے شخص کے بارے میں شریعت کیا فتویٰ دیتی ہے؟

المستفتی: محمد ارشد، سہارپوری، المدینۃ المنورۃ، سعودی عرب

با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ میں جو حالات لکھے گئے ہیں ان کے ہر گوشے پر غور کیا گیا، حاصل یہ نکلا کہ سیدا نہیں امانت اپنی زوجہ کو دو مرتبہ دو، دو طلاق

دینے کا خود اقرار کر رہا ہے، اور پہلی مرتبہ جب دو طلاق دی تھی، اس وقت مزید ایک طلاق دینے کا بیوی دعویٰ کر رہی ہے، مگر شوہر انکار کر رہا ہے؛ لہذا شوہر دو طلاق کا خود اقراری ہے؛ اس لئے اس سے دو طلاق رجعی واقع ہو گئی تھیں؛ لیکن بعد کے واقعہ میں دو مرتبہ اور طلاق دینے کا خود شوہر اقرار کر رہا ہے، تو مجموعی طور پر ۲۴ رطائق کا اقرار ہوا اور ۳۶ رطائقوں سے تین طلاقيں واقع ہوتی ہے؛ اس لئے بعد کی دو طلاقوں کے واقع ہونے کی وجہ سے انہیں امان کی بیوی پر طلاق مخلظہ واقع ہو کر شوہر کے لئے بالکل حرام ہو گئی۔ اب بغیر حالہ شرعیہ کے دونوں کے مابین نکاح بھی درست نہ ہوگا اور اس کے دماغی حالات اور غصہ کے بارے میں جو حالات لکھے گئے ہیں، ان سے بھی بات واضح ہے کہ ایسی دماغی خرابی نہیں ہے، جس کی وجہ سے حق زوجیت اور نکاح و طلاق کو نہ پہچانا تا ہو؛ بلکہ ہوش و حواس سب درست ہیں اور اسی حالت میں اس نے انچینیر گنگ کی ڈگری بھی حاصل کی ہے؛ لہذا ایسی حالت میں مسئلہ نکاح و طلاق میں آدمی کو معدود نہیں سمجھا جائے گا۔

وقعتاً رجعيتين لو مدخلابها كقوله أنت طالق. (در مختار،

كتاب الطلاق، باب الصریح، زکریاء / ۴۶۳، کراچی ۳/۲۵۲)

**وإن كان الطلاق ثالثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.**

(عالیم گیری، زکریاء قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۳۵، هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/۳۹۹)
**أن رجلاً قال لعبد الله بن عباسٌ: إني طلقت منك بثلاث وسبعين وتسعون
فماذا ترى على؟ فقال ابن عباسٌ: طلقت منك بثلاث وسبعين وتسعون
اتخذت بها آيات الله هزواً. (مؤطراً مالک، کتاب الطلاق، باب ما جاء في البة،**

النسخة الہندیة ۱۹۹، بیروت رقم: ۱۱۲۱، مشکوٰۃ شریف ۴/۲۸)

**في طلاق الغضبان قال فيها إنه على ثلاثة أقسام: أحدها أن يحصل له
مبادي الغضب بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول ويقصده وهذا إشكال**

فیہ۔ (شامی، کراچی ۴/۳، ۲۴۴، زکریا ۴/۴۵۲) ولے اقر بالطلاق کاذبًا، اوہا زلاً وقع قضاۓ۔ (شامی، کراچی ۳/۲۳۶، زکریا ۴/۴۰، البحر الرائق، زکریا ۳/۲۸، کوئٹہ ۳/۴۶) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم

الجواب صحیح:

احضر محمد سلمان مصوّر پوری غفرلہ

۱۳۲۶/۳/۹

لتبیہ: شیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۹ ربیع الاول ۱۴۲۶ھ

(فونی نمبر: الف ۳۷۲۳/۸۷۳۳)

چار طلاق کی شرعی حیثیت

سوال [۶۲۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مตین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری اپنی بیوی سے گرما گرمی ہو گئی، میں نے اور میرے گھر والوں نے بیوی کو بہت سمجھایا، مگر وہ نہیں مانی وہ بدسلوکی اور بد تمیزی کرتی رہی، میرا غصہ بڑھتا رہا، جب وہ نہیں مانی تو میں نے غصہ میں آ کر اسے قریب دس فٹ کی دوری سے چار مرتبہ صرف طلاق کا لفظ کہا، اس صورت میں طلاق ہو گئی یا نہیں؟ اگر طلاق ہو گئی تو پھر دوبارہ اس کے ساتھ رہنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا؟

المستخفی: محمد نیس، گلزاریاب غناج ناگ پچنی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر شوہر نے بیوی کو چار مرتبہ طلاق دی ہے، تو تین طلاقوں کے ذریعہ بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی اور ایک طلاق لغو ہو گی، آئندہ بغیر حلالہ کے آپس میں نکاح بھی درست نہیں ہے اور اگر دوبارہ دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو حلالہ کا جو طریقہ ہے، اس کو اختیار کرنا لازم ہو گا۔

مالك أنه بلغه أن رجلاً قال لابن عباس إنني طلقت امرأتي مائة
تطليقة، فماذا ترى عليًّا؟ فقال له ابن عباس طلقت منك بثلاث و سبع

وتسعون اتخدت بها آیات اللہ هزوًا۔ (المؤطا، کتاب الطلاق، باب ما جاء في البتة،

لإمام مالك ۱۹۹، رقم: ۱۱۲۱)

عن محمد بن أياس أن ابن عباس رضي الله عنهمَا، وأبا هريرة،
وعبد الله بن عمر وبن العاص، سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثة،
فكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره۔ (أبوداؤ دشريف، کتاب الطلاق،
باب بقية نسخ المراجعة بعد التطليقات الثالث، النسخة الهندية ۱/۲۹۹، رقم: ۲۱۹۸)
لو قال أنت طلاق مراراً، أو ألوفاً تحته، فيقع به الثلاث ويلغوا الزائد.

(در مختار مع الشامي، کراچی ۳/۲۸۰، زکریا ۴/۵۰)

عن عائشة، أن رجلاً طلق امرأته ثلاثة، فتزوجت، فطلق، فسئل
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، أتحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها
كمذاق الأول۔ (بخاری شریف، کتاب الطلاق، باب من اجاز الطلاق الثلاث،
النسخة الهندية ۲/۷۹۱، رقم: ۵۰۶۲، ف: ۵۲۶۱)

وأما الطلقات الثلاث فحكمها الأصلي هو زوال الملك وزوال
حل محلية أيضاً حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر.
لقوله عز وجل: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحُلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ۔
(بدائع الصنائع، فصل في حكم الطلاق البائن، زکریا ۳/۲۹۵، در الكتب العلمية
بیروت ۴/۴۰۳) فقط والله سبحانه وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان الدین عنہ

۱۳۳۵ھ محرم الحرام

(فونی نمبر: الف ۲۰۳/۱۳۷)

چار بار طلاق دے کر آپس میں معافی مانگنا

سوال [۲۷۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و منتظرین شرع متنین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ میاں بیوی کا آپسی بھگڑا تھا، جب ماں کے سامنے بھگڑے کی بات کھلی تو شوہر نے بیوی کو ہوش و حواس کی حالت میں چار بار طلاق دیدی اور کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، بیوی حاملہ ہے، تو طلاق ہو گئی یا نہیں؟ میاں بیوی نے آپس میں معافی مانگ لی۔

المستفتی: محمد ایب الرحمن، قانون گوینان، مراد آباد

با سمسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مذکورہ میں عورت پر تین طلاق مغلظہ واقع ہو گئیں، اب شوہر کے لئے حلالہ کئے بغیر اس عورت سے نکاح درست نہیں ہو سکتا، حلالہ کی صورت یہ ہے کہ وہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی مرد سے نکاح کر لے اور وہ مرد اس کے ساتھ ہمستری کر لے، پھر طلاق دیدے یا مر جائے، اس کے بعد پھر عورت عدت گزارے، پھر اس کے بعد پہلا شوہر نکاح کر کے اپنی بیوی بنائیں گے۔

وفي الهندية: إن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هندية، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۲۵، هداۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹)

تاتارخانیہ، ذکریا قدیم ۱/۴۷۵، رقم: ۳۰۵/۷۵ فقہ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان الدین عنہ

۱۴۲۳ھ رشوان المکرم

(فتویٰ نمبر: الف/۳۶/۸۳۲)

بیوی کے مطالبہ پر چار مرتبہ طلاق دینا

سوال [۲۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ رشیدہ بیگم بنت وحید الدین نے اپنے شوہر کفیل احمد ولد رئیس احمد سے طلاق کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہمیں طلاق دیدو، پھر اس کے جواب

میں لڑکے نے اپنے باپ رئیس احمد، لڑکی کے باپ وحید الدین، لڑکی کے چچا نجم الدین اور سلیم کی موجودگی میں کہا ”میں نے طلاق دی، طلاق، طلاق، طلاق“ اب سوال یہ ہے کہ لڑکی کو طلاق پڑھنے کی یا نہیں اور وہ جدا ہو گئی یا نہیں؟

المستفتی: رئیس احمد، پرانی بانس منڈی، سیتا پور، لکھنؤ
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر سوال نامہ میں تحریر کردہ بیان صحیح اور درست ہے، تو لڑکی کے مطابق پر لڑکے نے جو طلاق کا لفظ چار مرتبہ استعمال کیا ہے، اس سے اس کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو گئی۔ اب بلاحالہ شرعیہ کے دونوں کے درمیان آئندہ نکاح بھی درست نہ ہو گا۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۲۱۹، جدید زکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثبتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.
(عالملگیری، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، تاتارخانیہ، زکریا ۵/۴۷، رقم: ۷۵۰۳) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

کتبہ: شیعیر احمد قادری عفان الدین عن
۳۰ ربیع الثانی ۱۴۲۵ھ
(فتوى نمبر: الف ۸۳۲۲/۳۷)

چار مرتبہ طلاق دینا

سوال [۶۷۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متبین مسئلہ ذیل کے بارے میں: زید مجع عالم میں اس بات کا اقراری ہے کہ میں نے اپنی بیوی ہندہ کو لڑائی

جھگڑے کے دوران کہا کہ دیکھ میرا کہا مان لے ورنہ برا ہو جائے گا، پھر صاف یہ کہا کہ میں طلاق دونگا، ہندہ نے جھلا کر انہنai بیزاری و گستاخی سے کہا گالی بکتے ہوئے کہ تو کیا طلاق دے گا، دے، اس پر فوراً زید نے کہا ”طلاق، طلاق، طلاق“، ۳ بار بعد میں ہندہ سے اس کی تحقیق کی گئی تو اس نے بھی مجمع عام میں اس واقعہ کی تصدیق کی، صورت مسٹولہ میں طلاق ہوئی کہ نہیں؟ اگر ہوئی تو مغلظہ یا رحمی یا باستہ اور اس کے تحت کیا حکم شرع ہے؟

(۲) طلاق واقع ہونے کی صورت میں نان و نفقہ اور مہر سے متعلق احکام بھی بیان فرمادیں۔ نیز طلاق کی صورت میں زید و ہندہ کا لڑکا امام احسن جو پونے دوسال کا ہے، اس کے متعلق حال اور مستقبل میں ہونے والے حکم کی وضاحت فرمادیں۔

المستفندی: سائنسیں کھاڑی، رام گنر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہرنے بیوی کو مخاطب کر کے تین مرتبہ سے زائد طلاق دیدی ہے، تو بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو گئی۔ اب بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو چکی ہے۔
لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشبه والنظائر

قدیم ۹، ۲۱، جدید زکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.
 (عالمنگیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۳۵، هدایۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، تاتارخانیہ،

زکریا ۵/۱۴۷، رقم: ۷۵۰۳، مجمع الأنہر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۸۸)

(۲) اگر شوہر جہاں پر عدت گذارنے کے لئے کہے وہاں پر عدت گذارتی ہے، تو صرف عدت کے زمانہ کا نان و نفقہ شوہر پر واجب ہے اور پونے دوسال کے بچوں کا دوسال پورے ہونے تک رکھ سکتی ہے، اس کے بعد باپ اپنے پاس رکھنا چاہے، تو باپ کے حوالہ کردینا لازم ہے۔ نیز اگر ماں دوسری جگہ شادی کرتی ہے، تب بھی ماں کو رکھنے کا حق نہیں ہے۔

والحاضنة يسقط حقها بنكاح غير محرومة أي الصغير الخ۔ (در مختار، کراچی ۳/۵۶۰، ذکریا/۲۶۶) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شمیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۱۸ روزی قعدہ ۱۴۱۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۱۷، گلشن/۳۷)

بیوی کو مخاطب کر کے چار مرتبہ طلاق دینا

سوال [۶۷۶۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ چار ماہ کا لڑکی کو حمل ہے اور میاں بیوی میں اور نند، ساس میں بھی جھگڑا تھا، اس وجہ سے شوہرنے چار مرتبہ یہ کہہ کر کہ شاہانہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دیدی، دو لڑکیاں ہیں ایک کی قریب ۲ رسال کی عمر ہے اور دوسری کی ۹ ماہ ہے اور تیسرا حمل ۳ ماہ کا ہے اور میری ماں بیوہ ہے، میں نے دونوں لڑکیوں کو دادی کے پاس چھوڑ دیا ہے، میں اپنی والدہ کے پاس آگئی ہوں، ان لڑکیوں کی پرورش کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟؛ لہذا طلاق کے بارے میں اور ان لڑکیوں کے بارے میں علماء دین کیا فرماتے ہیں؟

المستفییہ: شاہانہ بی

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب شوہرنے بیوی کو مخاطب کر کے چار مرتبہ طلاق کے الفاظ زبان سے نکال دیے تو بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو گئی ہے۔ اب شوہر بیوی کو بغیر حالہ کے نکاح میں بھی نہیں لاسکتا۔

کرر لفظ الطلاق وقع الكل۔ (شامی، ذکریا/۵۲۱، کراچی ۳/۲۹۳) لوقال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً۔ (الأشباه والنظائر

قدیم ۲۱۹، جدید ذکریا/۳۷۶)

ان دنوں بھیوں کی پروش کا حق مار کو ہے؛ البتہ بالآخر ہونے کے بعد باپ کو لے جانے کا حق ہوگا۔ نیز اگر ماں دوسرا جگہ شادی کرے گی تو بھی باپ کو لے جانے کا حق ہوگا۔

تربيۃ الولد تثبت للأم. (در مختار، زکریا ۵/۲۰۲، ۲۵۳، کراچی ۳/۵۵۵)

والأم، والجدة لأم، أو لأب أحق بها أي بالصغيرة حتى تحيض أي تبلغ.

(در مختار، کراچی ۳/۵۶۶، زکریا ۵/۲۶۸) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ علّم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

امحرام الحرام ۱۴۳۱ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۲/۳۵۸۰)

جھگڑے کی حالت میں چار مرتبہ طلاق دینا

سوال [۶۷۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مقام کر بلایں یہوی میں جھگڑا ہوا، قریب رات کو اور بے یہوی کے خاوند نے چار بار ”طلاق، طلاق، طلاق، طلاق“ کہا، اس کے علاوہ قریب میں ایک عورت رہتی ہیں وہ بھی کہہ رہی تھیں کہ میں نے بھی چار بار طلاق سنا، شوہر کی یہوی کہتی ہے کہ مجھے ایک بار طلاق دی؛ جبکہ شوہر خود چار بار کہنے کا اقرار کر رہا ہے۔

المسئفتی: محمد فیض، محمد کربلا، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب جھگڑے کی حالت میں زبان سے طلاق نکلا ہے، تو مخاطب یہوی ہی ہوگی؛ اس لئے صورت مذکورہ میں یہوی کو طلاق مغلظہ واقع ہوگی۔ اب بلا حلالة دوبارہ نکاح بھی درست نہیں ہوگا۔

ولایلزم کون الإضافة صریحة في کلامہ. (شامی، کراچی ۳/۲۴۸)

زکریا ۴/۴۵۸)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباء والنظائر قدیم ۲۱۹، جدید ذکریا ۳۷۶) **فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم**

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۹ محرم الحرام ۱۴۱۰ھ
(فونی نمبر: الف ۱۶۰۰/۲۵)

دو طلاق دینے کے بعد بہن کے کہنے پر دو اور دینا

سوال [۶۰-۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عتیق مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بہن سرتاج جہاں کی شادی آٹھ سال قبل ظہیر عالم ولد شہادت حسین سے ہوئی تھی، ظہیر عالم نے بروز سنیچرا مئی ۲۰۱۰ء کو صبح آٹھ بجے طلاق طلاق کہہ کر گھر سے نکال دیا اور کہا ”جائیں نے تجھے طلاق دی“ اس پر ظہیر عالم کی بہن نے کہا ابھی طلاق نہیں ہوئی ہے، پھر ظہیر عالم نے دوبارہ طلاق طلاق کہکھ کہا لے اب ہو گئی۔ سرتاج جہاں کے دو بیٹے ہیں اور آٹھ ماہ سے حاملہ ہے، تو کیا ان حالات میں طلاق ہو گئی؟

المستفییہ: سرتاج جہاں اصلاح پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: سوال نامہ میں درج شدہ صورت میں جب پہلے طلاق طلاق کہہ کر گھر سے نکال دیا، تو اس سے دو طلاق رجعی واقع ہو گئیں اور ”جائیں نے تجھے طلاق دیدی“ یہ پہلی طلاق کی خبر ہے؛ لیکن اس کے بعد بہن کے جواب پر دوبارہ مزید جو یہ کہا ہے کہ طلاق طلاق لے اب ہو گئی، تو اس کے ذریعہ سے مزید ایک طلاق کی جو گنجائش باقی تھی وہ ختم ہو گئی؛ لہذا سرتاج جہاں پر تینوں طلاقیں واقع ہو کر مغلظہ ہو گئی اور بیوی شوہر پر قطعی حرام ہو گئی، آئندہ دونوں کے درمیان بغیر حلالہ کے نکاح بھی درست نہ ہوگا، اور حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ ہاں البتہ بچہ کی ولادت کے بعد عدت پوری ہو جائیگی۔

لوقال لزوجته: أنت طلاق طالق طلاق طلاق ثلثاً. (الاشباء والنظائر، قدیم ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶)

وطلاق الحامل يجوز (هدایہ اشرفی دیوبند ۳۵۶/۲) **وحل طلاقهن أي الائسة والصغريرة والحامل.** (شامی کراچی ۴۳۴/۴، زکریا ۲۳۲/۳)

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضْعُنَ حَمْلُهُنَّ . [الطلاق: ۴]

وإن كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها لإطلاق، قوله تعالى: **وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضْعُنَ حَمْلُهُنَّ .** (هدایہ اشرفی دیوبند ۴۲۳/۲) وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثبتت في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، نكا حاصحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها (ہندیہ زکریا قدیم ۱/۱، ۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایہ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹)،

تاتارخانیہ، زکریا ۱۴۷/۱، رقم ۳۰۵۰ (۷۵۰) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
الجواب صحیح:
احضر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۱ھ/اولیٰ جمادی (۱۰۳۹/۳۰۰)
۱۴۳۱ھ/اولیٰ جمادی (۱۰۳۹/۳۰۰)

میں نے ان کو طلاق دیدی ۲۵/۳ مرتبہ کہنے سے طلاق کا حکم

سوال [۱۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ رات کے وقت باپ بیٹے کے نیچے کسی بات کو لیکر جگڑا ہو رہا تھا اور اس رات میں ان کا رشتہ دار بھی موجود تھا۔ لڑکا شادی شدہ تھا جس کے ساتھ باپ جگڑا رہا تھا اس کے باپ اور اس کے چھوٹے بھائی اور رشتہ دار نے پکڑ کر اس شادی شدہ لڑکے کو باندھا اور بری طرح مار پیٹ کی اور یہ سب کچھ اس کی وجہ بھی دیکھ رہی تھی، جب لڑکے کے اوپر

تنگی ہو رہی تھی۔ وہ لوگ مار پیٹ کر اپنے گھر میں چلے گئے، اور ان کو اسی طرح بندھا ہوا چھوڑ دیا، اس حالت میں انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم مجھ کو کھول دو، مگر ان کی زوجہ نے انکار کر دیا، پھر کہا کہ اگر تم نے مجھے نہیں کھولا تو میں تم کو طلاق دیدوں گا، اس بات پر ان کی زوجہ نے کہا کہ نکاح کرتے وقت دس پندرہ آدمی تھے، اسی طرح دس پندرہ آدمی کے سامنے طلاق دینا، اس پر لڑکے نے کہا دس پندرہ تو نہیں دو چار پڑوی ضرور سن رہے ہوں گے، جب تم میرا کہنا نہیں مانتی تو تم میری کیسی عورت ہو، جو اس حالت میں میرے کام نہیں آ سکتیں اس طرح لڑکے نے بلند آواز سے کہا کہ سن لو پڑو سیو میں نے ان کو طلاق دیدی، اور یہ الفاظ چار پانچ مرتبہ کہے، اور یہ سب پڑوی سن رہے تھے، پھر بھی اس عورت نے نہیں کھولا، اس کے رشتہ دار اور اس کے والد نے آ کر کھولا، اب صبح میں بات ہوئی اس لڑکے کی والدہ نے محلہ والوں کو بلا کر خود کہا کہ میرے لڑکے نے اپنی عورت کو طلاق دیدی، اور یہ گواہی خود ان کی زوجہ نے بھی دی کہ انہوں نے مجھے طلاق دیدی ہے، میں ان کے پاس رہنے کے قابل نہیں رہی، کھیل سمجھ رہے ہیں، برابر یہ بات گاؤں کے اندر چلتی رہی، جب حدیث کی روشنی میں یہ بات آئی تو صبح گواہی پڑو سیوں سے ملی، تب انہوں نے سوچا کہ یہ عورت ہم سے چھوٹ جائے گی، تو سب لوگوں کو جھٹلایا، کہ میں نے طلاق نہیں دی، صرف یہ کہا تھا کہ اگر تم نے نہیں کھولا تو میں طلاق دیدوں گا؛ جبکہ پڑوی یہ کہہ رہے ہیں کہ چار پانچ مرتبہ یہ جملہ کہا میں نے اس کو طلاق دی، یہ طلاق ہوئی یا نہیں؟

جب لوگوں نے بات کھول دی کہ اس کو طلاق دیدی، تو وہ لڑکا اس کو لیکر پر دیں چلا گیا، یہ شرارت اس کے والدین کی تھی اور اس طلاق کی حالت میں ایک بچہ پیدا ہوا کچھ عرصہ بعد پھر گاؤں واپس آ گیا، پھر لوگوں نے اس کے آنے پر بات اٹھائی، پھر اس نے اس بات کو جھٹلا دیا، کہ میں نے طلاق نہیں دی، آپ لوگ چھوٹ بول رہے ہیں، جو گواہ ہیں (سننے والے) یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں بھی گواہی دلوادو ہم تیار ہیں۔ آپ اس کا

صحیح جواب دیکر عند اللہ ماجور ہوں۔

اور اس کے ساتھ ہم لوگوں کو کیسا تعلق رکھنا چاہئے اور مسجد سے کوئی مطلب رکھنا چاہئے یا نہیں؟ اور ان لوگوں سے کلام کرنا کیسار ہے گا؟ صحیح جواب سے مطلع فرمائیں۔
اور جو گواہ ہیں ان کے انگوٹھا کا نشان ہے۔ ۱۔ محمد یوسف ۲۔ یاسر ۳۔ قیوم احمد

۴۔ محمد یعقوب ۵۔ محمد شاہد انصاری

نوث: ان کے والد نے سہارا دیدیا کہ ہمارے لڑکے نے طلاق نہیں دی، ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہئے؛ جبکہ گواہ صحیح گزرنے ہیں، اس پر یہ نہیں مانتے؛ جبکہ ان حالات میں اس لڑکے کی زوجہ نے نہیں کھولا اور دوسرے نے کھول دیا اور آپ صحیح جواب دیں؛ کیونکہ ان لوگوں نے سب کو جھੰٹلار کھا ہے۔

المستفتی: محمد شاہد انصاری آئندہ

با اسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر سوال نامہ میں درج شدہ واقع صحیح ہے اور شہادت دینے والے مقبول الشہادہ ہیں اور مذکورہ واقعہ کی صحت کی شہادت دے رہے ہیں، تو یوں پر تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، بلکہ اللہ ساتھ رکھنا ناجائز اور حرام کاری ہے۔

لوقال لزوجته: انت طالق، طالق، طالق، طلفت ثلاثاً۔ (الاشباء

والنظائر، قدیم ۲۱، جدید زکر یا ۳۷۶) فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعیر احمد فاسکی عفنا اللہ عنہ

۳ مر رمضاں المبارک ۱۴۰۹ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۳۸۱/۲۵)

”میں نے تختے طلاق دی،“ چار مرتبہ کہنے سے طلاق

سوال [۶۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متبین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ محمد یامین نے اپنی بیوی سے جھگڑے کے درمیان چار پانچ مرتبہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو اب اس صورت میں یامین کی بیوی پر کتنی طلاقيں واقع ہوئیں۔ اب بیوی کو رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ رکھنے کی کیا صورت ہو گی؟ جواب سے نوازیں نوازش ہو گی۔

المستفتی: محمد یامین، کربلا، سنجل روڈ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: صورت مسٹولہ میں یامین کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو گئی ہے۔ اب بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو چکی ہے۔ اب بیوی کو رکھنے کی صرف یہ صورت ہو سکتی ہے کہ عدت گذار کر کسی دوسرے مرد سے شرعی نکاح کر کے اس کے ساتھ ہمسفتری ہو جائے، پھر وہ شوہر ثانی اپنی مرضی سے طلاق دیدے یا اس کا انتقال ہو جائے، تو دوبارہ عدت گذار کر شوہر اول یامین سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۲۱۹، جدید زکریا (۳۷۶)

متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد

الطلاق. (عالمنگیری، زکریا قدیم ۱/۳۵۶، جدید ۱/۴۲۳)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت
عنها. (فتاویٰ عالمنگیری، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ الشرفی
دیوبند/۲، ۳۹۹، تاتارخانیة، زکریا ۵/۱۴۷، رقم: ۷۵۰۳، مجمع الأنہر، دارالکتب
العلمیہ بیروت ۸۸/۲) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان الدین

۹ صفر المظہر ۱۴۳۰ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۴۲۸/۲۵)

چار پانچ بار طلاق دی؛ لیکن لڑکی نے نہیں سنا

سوال [۶۷۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ شادی میں گئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ میرے گھر آگئی تھی، شوہر راضی خوشی لڑکی کے کپڑے اور زیورے کراپنے گھر چلا گیا، میری لڑکی نسیم جہاں سے یہ کہہ گیا کہ شام کو گھر آ جانا میری لڑکی نے یہ کہا کہ تم آ جانا یا کسی بھائی کو بھیج دینا، میرے داماد محمد و سیم دوسرے دن آئے، غصہ میں آئے تھے ساس کو دروازہ پر بلا کر کہا کہ میں نے تمہاری لڑکی کو طلاق دی، یہ بات سن کرو سیم کے منھ پر ہاتھ رکھ دیا، یتم نے کیا کہہ دیا، وہ چار مرتبہ کہہ کر چلے گئے، میری لڑکی نسیم باور پی خانہ میں تھی، اس نے نہیں سنا، جب اس کی والدہ نے لڑکی سے کہا کہ تجھے طلاق دے کر چلے گئے، اس نے کہا کہ میں نے نہیں سنا،

المستفتی: ظہور احمد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسئولہ میں نسیم جہاں پر متنیوں طلاقیں واقع ہو گئیں۔

متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد

الطلاق . (هندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۵۶، جدید ۱/۴۲۳)

اب بلا حلالة کے دو بارہ نکاح بھی صحیح نہیں ہوگا، طلاق ہونے کے لئے بیوی کا سننا لازم نہیں۔

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هداية اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، مجمع الانہر، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۸۸، تاتارخانیہ، زکریا ۱/۴۷، رقم: ۳۰۰، ۷۵، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شمسیہ احمد قاسمی عفان الدین عنہ
مرذیٰ الحجج ۱۳۰۷ھ
(فتاویٰ نمبر: الف ۳۹۲/۳۲)

پانچ چھ مرتبہ طلاق

سوال [۶۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی ہندہ کو غصہ کے عالم میں پانچ چھ مرتبہ طلاق دی اور کہا کہ ”میں نے تجھے طلاق دی“ ان الفاظ کوئی مرتبہ دہرا�ا، تو ہندہ پر طلاق واقع ہو گئی یا نہیں؟ اگر ہوئی تو بغیر حالہ کے وہ اس کے نکاح میں آسکتی ہے یا نہیں؟ اور عدت کہاں گزارے گی؟

ال المستفتی: محمد اسماعیل، انگوان پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر تین مرتبہ یا اس سے زیادہ طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے، تو بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔ بغیر حالہ کے نکاح بھی درست نہیں ہو گا اور حالہ کے اندر ہمسٹری اور ولی شرط ہے، اس کے بغیر حالہ صحیح نہ ہو گا۔

لوکر لفظ الطلاق وقع الكل. (شامی، کتاب الطلاق، باب طلاق غیر

المدخول بها، کراچی ۳/۳۹۳، زکریا ۱/۵۲۱)

متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد

الطلاق. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۵۶، جدید ۱/۴۲۳)

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويذوق كل واحد

منهم عسیلہ صاحبہ۔ (سنن الدارقطنی، کتاب الطلاق، دارالکتب العلمیہ

بیروت ۴/۲۱، رقم: ۳۹۳۲)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(عالمگیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵)

نیز بیوی کو عدت شوہر کے گھر گذارنا لازم ہے، بلاعذر وہاں سے منتقل ہونا جائز نہیں۔

وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه، ولا تخرجان
منه۔ (الدر المختار، کراچی ۳/۵۳۶، ذکریا ۲۲۵) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شیبی احمد قاسمی عفی اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۳۲۰ھ صفر امظفر ۱۴۳۱ھ

۱۳۱۱/۲/۱۳

(نحوی نمبر: الف ۲۲۰/۲۶)

”میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق دی“، چھ مرتبہ کہنا

سوال [۲۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مตین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ میرے اور میرے سر کے درمیان پہلے سے بھگڑا تھا، اس درمیان
سرمیرے یہاں آئے اور کہا کہ کل تم میرے یہاں گئے تھے، تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں
یہاں آگیا ہوں، میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی کو طلاق دینی ہے، اور کچھ نہیں پھر میں نے کہا
کہ ”میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق دی، میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق دی، میں نے تمہاری بیٹی کو
طلاق دی“، پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر تمہاری
بیٹی کو طلاق دی، میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق دی، میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق دی۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ صورت مسؤولہ میں میری بیوی پر کتنی طلا قیں واقع ہوئیں؟

المستفتی: رئیس احمد، ہود پورا، تالاپور، رامپور (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسؤولہ میں آپ کی بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو کروہ مغلظہ ہو گئی، دوبارہ بلا حلالہ کے نکاح بھی درست نہیں ہو سکتا اور حلالہ کی صورت یہ ہے کہ دوسرے مرد سے عدت کے بعد نکاح صحیح کر کے ہمبستر ہو جائے، پھر اس کے منے یا طلاق دینے کے بعد عدت گذار کرنکاح کر لیا جائے۔

متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق . (عالِمگیری، زکریا قدیم ۳۵۶/۱، جدید ۴۲۳/۱)

لو كرر لفظ الطلاق وقع الكل . (شامي، كراچي ۳۹۲/۳، زکریا ۴/۵۲)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً . (الأشباه والنظائر

قدیم ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت
عنها . (عالِمگیری، زکریا قدیم ۴۷۳/۱، جدید ۵۳۵/۱، هداية اشرفي
دیوبند ۳۹۹/۲، تاتارخانیة، زکریا ۱۴۷/۵، رقم: ۷۵۰۳، مجمع الأنهر، دارالكتب
العلمیة بیروت ۸۸/۲) فقط والله سبحانہ وتعالیٰ اعلم

كتبه: شبير احمد قادر کی عفای اللہ عنہ
۱۳۰۸ھ / شعبان المعظم
(نوقی نمبر: الف ۸۵۸/۲۲)

دو مرتبہ تین تین دفعہ طلاق دینے کا حکم

سوال [۶۷-۶۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مตین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ مسماۃ شائستہ خانم بدیلین بدتمیز بے حیا لڑکی تھی، اس کی شادی سائل کے

ساتھ ہو گئی، دیگر رقومات کے ساتھ متفرق اوقات میں شاستہ کو اس کے دین مہر کا روپیہ مبلغ دس ہزار روپیہ ادا کر دیا تھا؛ لیکن شاستہ نے اپنی ناجائز حرکات سے سائل کو جیتے جی زندہ درگور کر دیا، آخر سائل شاستہ کی بد کرداری سے متفرق ہو کر متفرق اوقات میں دو مرتبہ تین تین دفعہ اس کو طلاق دے چکا ہے؛ لیکن سائل شاستہ کی جانب سے خدا اور رسول کے واسطہ دینے پر سابقہ طور پر اس کے ساتھ رہتا چلا آرہا تھا اور شاستہ کے بطن سے پیدا ہونے والی تیسری لڑکی سعدیہ جس کی عمر دو سال چھ ماہ کی ہے، پوچھی اُڑکی علینا جو صرف گیارہ ماہ کی ہے، حیات ہیں جو شاستہ کے پاس ہیں۔ اب گذارش یہ ہے کہ آپ حضرات کلام مقدس اور احادیث شریفہ کی روشنی میں یہ طفر مادیں کہ سائل کو نمکورہ بالا حالات میں کیا کرنا چاہئے؟

المستفتی: شہادت حسین

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہر خود اقرار کر رہا ہے کہ پہلے دو مرتبہ طلاق دے چکا ہے اور بعد میں پھر تین طلاقیں، تو یوں شوہر پر قطعی طور پر حرام ہو گئی اور طلاق مغلظہ ہو کر زوجیت سے بالکل خارج ہو چکی ہے، اب دونوں کا میاں یوں کی طرح رہنا ناجائز اور حرام کاری ہو گی۔ اب شاستہ شوہر کی یوں نہیں رہی، اب دونوں میں علیحدگی شرعی طور پر لازم اور واجب ہے۔

لوکرر لفظ الطلاق وقع الكل۔ (شامی، کتاب الطلاق، باب طلاق غیر

المدخول بها، کراچی ۳۹۳/۴، زکریا ۵۲۱)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً۔ (الأشباه والنظائر

قديم ۲۱۹، جديده زکریا ۳۷۶)

إذا قال لامرأته: أنت طالق، طالق، طالق، ولم يعلقه بالشرط، إن كانت مدخلولة طلقت ثلاثاً۔ (هندية، زکریا قديم ۱/۳۵۵، جديده ۴۲۳)

إذا كانت الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى

تنکح زوجاً غیره نکاحاً صحیحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هنديۃ، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۲۹ ربیع الثانی ۱۴۲۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸/۸۹۸)

جھگڑے کے دوران سات مرتبہ طلاق دینا

سوال [۲۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مตین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے جھگڑے کے دوران سات مرتبہ طلاق کے الفاظ کہے، اس کے بعد اس کی بیوی اپنے میکہ چلی گئی، آج ایک محینہ تیرہ دن ہو گئے، شریعت کی روشنی میں اس طرح طلاق کہنے سے کتنی طلاقیں ہوئیں؟ واضح فرمائیں۔

بسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب سات مرتبہ شوہرن طلاق کے الفاظ استعمال کئے ہیں، تو بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی، بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو چکی ہے اب بغیر حلالہ کے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح بھی درست نہیں ہوگا؛ اور سات مرتبہ طلاق کے الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے شریعت کے ساتھ ایک طرح کاملاً کیا ہے؛ اس لئے شوہر پر توبہ کرنا زلام ہے، اب اگر ساتھر ہنا چاہے تو شرعی حلالہ کے بعد ساتھر ہنکی گنجائش ہے۔

أن رجلاً قال لابن عباس: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة، فماذا ترى على؟ فقال ابن عباس: طلقت منك بثلاث وسبعين وتسعون اتخذت بها آيات الله هزواً. (مؤطرا مالک، کتاب الطلاق، باب ما جاء في البينة،

النسخة الهنديۃ ۱۹۹، مشکوہ شریف ۴/۲۸)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى

تنکح زوجاً غیره، نکاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(الهنديۃ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۶/ شعبان المعظم ۱۴۲۵ھ

(نوتی نمبر: الف ۸۵۲۵/۳۷)

سات مرتبہ طلاق دینا

سوال [۲۷۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی کئی لڑکیاں ہیں، بڑی لڑکی کی شادی ہوگئی، مگر اس کے شوہرنے کسی بنا پر سات طلاق دیدیں، کچھ دنوں بعدت میں رہی، پھر وہ اپنے شوہر کے پاس چل گئی اور کہا کہ حلال ہو گیا، مگر اس کا ثبوت نہ دے سکی اور وہ طلاق شدہ لڑکی زید کے یہاں آتی جاتی رہی تو زید سے تعلقات باقی رکھے جائیں یا نہیں؟

المستفتی: حبیب الرحمن، دھامپور

با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہرنے سات مرتبہ طلاق دیدی ہے، تو اس سے طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔ اب بغیر حلالہ اس شوہر کے پاس رہنا حرام کاری ہوگی، اگر صحیح واقعہ کے مطابق شرعی حلال نہیں ہوا ہے، تو اس کا طلاق مغلظہ دینے والے شوہر کے ساتھ رہنا ہرگز جائز نہیں ہے۔

أن رجلاً قال لابن عباسٌ: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة، فماذا ترى على؟

فقال له ابن عباسٌ: طلقت منك بثلاث وسبعين وتسعون اتخذت بها آيت الله هزواً. (مؤطاً مالك، کتاب الطلاق، باب ما جاء في البنة، النسخة الہندیۃ ۱۹۹)

لوکرر لفظ الطلاق وقع الكل. (شامی، کتاب الطلاق، باب طلاق غیر

المدخول بها، کراچی ۳/۲۹۳، زکریا ۱/۵۲۱)

وإن كان الطلاق ثالثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(عالمگیری، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵)

سب رشتہ دار اور با اثر لوگوں پر ضروری ہے کہ زید کو سمجھائیں کہ لڑکی کو حالہ سے پہلے شوہر کے پاس جانے سے روک لیں، اگر زید روک تھام نہ کرے، تو اس سے قطع تعلق کرنے کی گنجائش ہے۔

قولہ تعالیٰ: وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ . الآية
[هو د: ۱۱۳] فَظْ وَاللَّهُ سَجَنَهُ وَتَعَالَى عَلَم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۵ روزی قعدہ ۱۴۲۴ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۶۹/۱۱۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۴/۱۱/۱۵

آٹھ طلاق دینا

سوال [۶۷۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو لڑائی کے دوران آٹھ طلاق دیدیں طلاق ہو گئی یا نہیں؟

المستفتی: داشاد احمد پکباغ، مراد آباد

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہرنے تین سے زائد طلاقیں دیدیں تو بیوی پر طلاق مغایظ واقع ہو چکی ہے، اب بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو چکی ہے اب بغیر حلالہ نکاح بھی جائز نہیں ہے۔

أن رجلاً قال لابن عباسٌ: إني طلقت امرأةي مائة تطليقة، فماذا ترى علىّ؟
فقال له ابن عباسٌ: طلقت منك بثلاث وسبعين وتسعون اتخذت بها آيت
الله هزوأاً. (مؤطاً مالک، کتاب الطلاق، باب ما جاء في البتة، النسخة الهندية ۱۹۹)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره، نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(عالیٰ مکاری، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵) نفظوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۳/۱۱/۲۱

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفاف اللہ عنہ

۱۴۲۳/۱۲/۲۱

(فتومی نمبر: الف/۳۱۰۲/۳۷)

آٹھونو مرتبہ طلاق کے بعد کہنا طلاق نہیں ہوئی

سوال [۶۷۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مตین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ قادر و شیم تاج اور ان کے شوہر امداد حسین کے درمیان کسی بات پر
چھکڑا ہوا اور شوہر امداد حسین نے اپنی زوجہ قادر و شیم کو ۹-۸ رمرتبہ لفظ طلاق طلاق کہدیا،
بعدہ تیار ہو کر گھر سے دور جا کر فون کے ذریعہ تج SMS بھیجا کہ میں کاغذات بھیج رہا ہوں
اس پر دستخط کر دو، پھر شام کو گھر آ کر اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمارے درمیان طلاق نہیں ہوئی
ہے، میں نے مسئلہ معلوم کر لیا ہے۔

المستفتی: کیوں تاج الدین بھرا کا پلی، آنحضر اپر دیش

بسم سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: حسب تحریر سوال جب امداد حسین نے اپنی بیوی
کو آٹھونو مرتبہ طلاق کے الفاظ کہدیے، تو اس کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کروہ امداد حسین
کے لئے قطعی طور پر حرام ہوگئی۔ اب بغیر حلالة شرعیہ کے دونوں کامیاب بیوی کی طرح رہنا
ناجائز اور حرام ہے اور شوہر کا یہ کہنا کہ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی ہے محض غلط
بیانی ہے؛ اس لئے اس کا اعتبار نہیں۔

عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس، ف جاء رجل، فقال: إنه طلاق
أمرأته ثلاثة قال: فسكت حتى ظنت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم

فیر کب الحموقة، ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له، مخراجاً وانك لم تتق الله فلا أجدلك مخراجاً، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. (أبو داؤد، كتاب الطلاق، باب بقية التطليقات الشلات، النسخة الهندية ۱/۲۹۹، دار السلام رقم: ۲۱۹۷) **نقطة اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم**

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

الجواب صحیح:
احضر محمد سلمان متصور پوری غفران
۱۴۳۳ھ / ۲۸ مئی ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف / ۳۹، ج ۷، ص ۱۰۷)

نشہ کی حالت میں آٹھ نوبار طلاق دینا

سوال [۶۷۸۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نیعہ بانو خدا کو حاضر و ناظر کر کے میں یہ پرچہ لکھ رہی ہوں، میرے شوہر گھر میں شراب پی کر آتے ہیں اور جو کچھ بھی ان کے دل میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں، مجھ کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلا اپنے گھر والوں کو میں نے تجوہ کو طلاق دی، وہ فیصلہ کر کے لیجاویں گے، یہ الفاظ کہدیتے ہیں، بات بات پر طلاق کا نام لیتے ہیں، آٹھ نوبار یہ الفاظ کہدیتے ہیں، اور اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں، اس وقت ان کی والدہ نے بھی کہا کہ بار طلاق کا نام تولیتا ہے اور طلاق کی دھونس بار بار دیتے ہیں اور کہتے تھے تیرے گھر پر وہ کارنامہ انجام دوں گا کہ جب دیکھوں گا کہ تیرے باپ اور بھائی کتنے بڑے لاث صاحب ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ مجھ کو طلاق ہو چکی ہے، میں اس گھر میں اب نہیں جانا چاہتی، مجھ کو مجبور کرنے کی ضرورت نہیں یہ لڑکی کا بیان ہے۔

نحوٹ: او پر لڑکی کا بیان ہے اور خدا کو حاضر و ناظر جان کر بیان دے رہی ہے، اب ہم لوگ پریشان ہیں کہ کیا کریں؟ ہم کو اس مندرجہ بالاعبارت کی روشنی میں اور شریعت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ جواب چاہئے کہ کیا لڑکی کو طلاق ہو چکی ہے؟

المستفتی: محمد الیاس آزاد، صدر بازار سیوہارہ، بجھور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر واقعہ میں لفظ طلاق دی کا تلفظ شوہر تین مرتبہ کرچکا ہے، تو تین طلاقيں ہو گئیں، ورنہ نہیں۔ نیز اس کے ثبوت کے لئے یہی لازم ہے کہ لڑکی دو باشرع مرد یا ایک باشرع پابند صوم و صلوٰۃ مردا اور دعورتوں کی شہادت سے ثابت کر دے یا شوہر خود اقرار کرے ورنہ طلاق کا شرعی ثبوت نہ ہو گا۔

قال اللہ تعالیٰ: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنَ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يُكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَانِ مِمْنُ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ . [آل بقرہ: ۲۸۲]

ولغیرہا رجالن، اور جل و امر انان للآلیہ، اُ طلقہ فشمل المال وغیرہ كالنکاح والطلاق. (البحر الرائق، کتاب الشہادت، کوئٹہ ۶۲/۷، زکریا دیوبند ۷/۴۰۱) وما سوا ذلک من الحقوق يقبل فيه رجالن، اُر جل، وامر انان سواء كان الحق مالاً أو غير مالٍ مثل النکاح، والع tac، والطلاق. (الجوهرة، امدادیہ ۲/۶۳۲، دارالکتاب دیوبند ۲/۹۰۳، هدایۃ الشرفی دیوبند ۳/۴۱۵، شامی، کراچی ۵/۴۶۵، زکریا ۸/۱۷۸) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان الدین عنہ

۲۰ ربیع الثانی ۱۴۳۱ھ

(فتاویٰ نمبر: الف ۲۵/۲۷۷)

تم کو تین طلاق ہی نہیں بلکہ نو طلاق کہنے کا حکم

سوال [۲۷۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شیخ جلال الدین ساکن پرینی بازار اصلح بھاگل پور نے کسی وجہ سے اپنی بیوی خدیجہ کو کافی مارا، پیٹا اور غصہ کی حالت میں اپنی بیوی سے کہا کہ تم کو تین طلاق ہی نہیں؛ بلکہ نو طلاق دیں، تو خدیجہ کو تلتی طلاق ہو گئی؟

المستفی: محمد شیعیم خاں، بھاگل پور (بہار)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شیخ جلال الدین نے اپنی بیوی خدیجہ سے کہا کہ تم کوتین طلاق ہی نہیں؛ بلکہ ”نو طلاق“ تو اس سے شیخ جلال الدین کی بیوی پر تین طلاق مخالفہ واقع ہو گئیں اور بقیہ چھ لغو ہو گئیں اور بغیر حالہ کے شیخ جلال الدین کے لئے اس بیوی سے دوبارہ نکاح کرنا صحیح نہ ہوگا۔

أن رجلاً قال لابن عباسٌ: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة، فماذا
ترى على؟ فقال ابن عباسٌ: طلقت منك بثلاث وسبعين وتسعون
اتخذت بها آيات الله هزواً۔ (المؤطلا للإمام مالك، كتاب الطلاق، باب ما جاء
في البتة، اشرفي دیوبند ۱۹۹)

در منقار میں ہے۔

لو قال أكثر الطلاق، أو أنت طلاق مراراً، أو ألوفاً، أو لا قليل،
ولا كثير فثلاث. هو المختار وفي الشامية: قوله ألوفاً؛ أي فيقع به الثالث
ويبلغو الزائد. (در مختار مع الشامي، كتاب الطلاق، باب الصریح، کراچی ۳/۲۸۰،
زکریا دیوبند ۴/۵۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عنفان اللہ عنہ

۱۴۲۳ھ / ۲۲ محرم الحرام

(فتویٰ نمبر: الف ۳۶/ ۳۱۳)

جا تھے طلاق، طلاق دس مرتبہ کہنا

سوال [۶۷۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مตین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ میں نے غصہ کی حالت میں اپنی بیوی کو دس بار یہ الفاظ کہے کہ جا تھے
طلاق، طلاق اور دس مرتبہ ماں کی گالی بھی دی۔ اب معلوم یہ کہ طلاق واقع

ہوگئی؟ اگر واقع ہوگئی، تو کون سی پھر دوبارہ نکاح کی کیا صورت ہوگی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں عین کرم ہوگا۔
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ایسی صورت میں یہوی پر طلاق مغلظہ واقع ہوگئی ہے، اب بلا حلال دوبارہ نکاح جائز نہیں، حلالہ کی صورت یہ ہے کہ عدت گذرنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے ہمبوستر ہو جائے، اس کے بعد طلاق دے دے، اس کے بعد دوبارہ عدت گذرنے کے بعد آپ نکاح کر سکتے ہیں۔

أن رجلاً قال لابن عباسٌ: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة، فماذا
ترى علىّ؟ فقال ابن عباسٌ: طلقت منك بثلاث وسبعين وتسعون
اتخذت بها آيات الله هزواً。 (مؤطا للإمام مالك، كتاب الطلاق، باب ما جاء في
البيتة، اشرفي دیوبند) (۱۹۹)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنتين في الأمة لم تحل له
حتى تنكح زوجاً غيره، نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها،
أو يموت عنها. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ اشرفی
دیوبند ۲/۳۹۹) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفوا اللہ عنہ
امراجی اسلامی ۱۴۲۶ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۳۲۳۹، ۲۷۸۲)

تحقیق طلاق دیتا ہوں، طلاق، طلاق..... دس مرتبہ کہنا

سوال [۲۷۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متنین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ زید نے کہا اپنی یہوی کو طلاق دیتے ہوئے کہ تیرا رادہ کیا ہے، یہوی نے

کہا جو تمہارا ہے وہی میرا ارادہ ہے، شوہرنے کہا میرے بچے ہیں، میں اپنے بچے لینے آیا ہوں اور تجھے طلاق دیتا ہوں اور کم از کم دس مرتبہ لفظ طلاق کہا، آپ سے درخواست ہے کہ جواب تحریر فرمادیں طلاق ہوئی یا نہیں؟

المسنونتی: حافظ جلیس احمد، سوار، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ میں ذکر کردہ صورت میں زید کا اپنی بیوی سے یہ کہنا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور دس مرتبہ لفظ طلاق کہا، تو اس سے تینوں طلاقوں واقع ہو گئیں اب طلاق مغلظہ واقع ہونے کی وجہ سے بغیر حالہ شرعیہ کے آپس میں نکاح بھی درست نہیں ہے۔

أن رجلاً قال لابن عباسٌ: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة،
فماذا ترى على؟ فقال ابن عباسٌ: طلقت منك بثلاث وسبعين
وتسعون اتخذت بها آيات الله هنواً. (مؤطراً إمام مالك، كتاب الطلاق،
باب ما جاء في البتة، اشرفی دیوبند ۱۹۹)

وفي الأشياء: لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً.

(الأشباه والنظائر قديم ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶)

وفي الهندية: وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة
لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً. (عالمنگیری، زکریا قدیم
۱/۴۷۲، ۱/۵۳۵، هدایۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، تاتارخانیہ، زکریا ۵/۱۴۷)
رقم: ۷۵۰۳) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان الدعنہ

۱۴۲۹ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۸۰، ۵۰۰)

یکبارگی دسیوں بار طلاق دینا

سوال [۲۷۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک روز زید جمعہ کے دن اپنے گھر سے گیا، پھر جب گھر واپس آیا، تو اپنے گھر میں یہوی کو غائب پایا اور دروازہ پر تالا لگا ہوا تھا، پھر تقریباً ساڑھے تین بجے گھر آیا، تو یہوی کو موجود پایا، زید نے اپنی یہوی سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم پہلے یہاں سے کہاں گئی تھی، یہوی خاموش رہی اتنے میں زید کی یہوی کی بہن جو کہ زید کی بھا بھی بھی ہوتی ہے، وہ بولتی ہے آپ طلاق دیدیں، زید کی یہوی خاموش تھی، کچھ بول نہیں رہتی تھی، پھر زید گھر سے باہر آیا اور دروازہ پر اپنی زبان سے یکبارگی کم از کم دسیوں مرتبہ طلاق طلاق طلاق طلاق اس طرح ان گنت مرتبہ ادا کیا، ان الفاظ کی ادائے گی کے وقت چند عورتیں موجود تھیں، تو زید کی یہوی پر طلاق ہو گئی یا نہیں؟

المستفتی: محمد نیس، سیانہ بلند شہر

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب زید نے تین سے زیادہ مرتبہ سے یہوی کو طلاق دی ہے، تو اس سے زید کی یہوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔ اب بلا حلالہ دوبارہ نکاح بھی درست نہ ہوگا۔

لو قال أكثرا الطلاق، أو أنت طالق مراراً، أو ألوفاً، أو لا قليل، ولا كثير فثلاث. هو المختار وفي الشامية: قوله ألوفاً؛ أي فيقع به الشلات ويبلغو الزائد. (در مختار مع الشامي، کتاب الطلاق، باب الصریح، کراچی ۳ / ۲۸۰، زکریا دیوبند ۴ / ۴۰)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وشتين في الأمة لم تحل له

حتیٰ تنکح زوجاً غیره نکاحاً صحيحاً ويد خل بها، ثم يطلقها، اويموت عنها۔ (هنديہ، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، تاتارخانیہ، ذکریا ۱/۱۴۷، رقم: ۳۹۹/۲ دیوبند) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعہ احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۲۰/ رب جمادی الاولی ۱۴۲۰ھ

(نومبر: الف ۳۲/ ۲۶۲)

جنون کے عالم میں دس گیارہ مرتبہ طلاق دینا

سوال [۶۷۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ضیاء الاسلام کا بھگڑا اپنی سالی سے اتنا بڑھا کہ اس نے بھرے چورا ہے پر ضیاء الاسلام کے تھیڑ مار دیا، اس جنون میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی، جنون کا عالم یہ تھا کہ اس نے ان الفاظ کا استعمال کم از کم دس گیارہ بار کیا؛ جبکہ اس کی بیوی سے نہ کوئی ناراضگی تھی، نہ ہی اس نے کوئی نافرمانی کی، کیا یہ طلاق مانی جائے گی؟

المستفتی: ضیاء الاسلام، گویاں باع، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ میں ذکر کردہ صورت میں بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، غصہ کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا اگر اب بھر سے بیوی کو رکھنا چاہے، تو بغیر حالہ شرعیہ کے نہیں رکھ سکتا۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۲۱۹، جدید ذکریا ۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنکح زوجاً غیره نکاحاً صحيحاً ويد خل بها، ثم يطلقها،

اویمومت عنہا۔ (عالیگیری، ذکریاب قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/۳۹۹) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح: اختر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۶ھ/۷/۲۳	کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ ۱۴۲۶ھ (فتویٰ نمبر: الف ۸۹۰۹، ۳۸)
---	---

لاتعداً طلاق، طلاق، کہنا

سوال [۲۷۸۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے پیٹ میں سخت درد ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں بے چین تھا، میں نے اپنی بیوی کو پیٹ سہلانے کی غرض سے بلایا؛ لیکن وہ نہیں آئی، جس پر مجھ کو اتنا غصہ آیا کہ میں غصے کی حالت میں پاگل سا ہو گیا اور مجھ کو کچھ بھی بھائی نہیں دے رہا تھا، میں نے اس غصے کی حالت میں اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر یہ الفاظ ادا کر دیے، لاتعداً طلاق طلاق؟ لیکن بعد میں مجھ کو بہت افسوس ہوا۔ اور ان الفاظ پر مجھے بے حد ندامت ہے۔

المستفتی: صابر علی خاں، مقبرہ نجیب آباد، بخوار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق غصہ کی ہی حالت میں دی جاتی ہے اور جب آپ کو اتنا یاد ہے کہ لفظ طلاق آپ کی زبان سے نکلا ہے، تو آپ کی بیوی پر طلاق واقع ہو چکی ہے اور جب تین بار پورے ہو گئے، تو طلاق مغالظہ واقع ہو چکی ہے، بغیر حالہ کے رکھنا حرام کاری ہو گی۔

أن رجلاً قال لا بن عباسٌ: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة، فماذا ترى على؟ فقال ابن عباسٌ: طلقت منك بثلاث وسبعين وتسعون اتخذت بها آيات الله هزواً۔ (مؤطراً إمام مالك، کتاب الطلاق، باب ما جاء في

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هندیہ، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵)

الجواب صحیح:

احترم مسلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳/۱/۹

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۹ محرم الحرام ۱۴۱۳ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۹۵۷/۲۸)

سینکڑوں بار لفظ طلاق کہنا

سوال [۲۷۸۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ حال یہ ہے کہ میں حامد حسین ولد علی حسین محلہ گوئیاں باعث میں کافی ٹائم سے رہتے چلے آ رہے ہیں، میری عمر قریب ۵۵ سال کی ہے، میری بیوی اور مجھ میں کچھ آپس میں جھگڑا چل رہا تھا، جس کی عمر ۲۵ سال ہے، رات کے سات بجے میں نے اپنی بیوی سے کہا اگل میں کتوانی عادت سے باز آ جائیں تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، کئی بار کہتا رہا اور اسکے بعد میں نے اسے طلاق طلاق طلاق سینکڑوں بار کہا۔ اب آپ اس کا جواب دیں کہ یہ طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: حامد حسین، محلہ گوئیاں باعث، مراد آباد

باسم سجنانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ میں درج شدہ صورت میں آپ کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو کر مغاظہ ہو گئی ہے، دوبارہ بلا حلالة نکاح بھی صحیح نہیں ہو گا۔ (مستقاد: فتاویٰ دارالعلوم ۹/۲۹۲، فتاویٰ محمدیہ قدمیم ۵۲/۲، جدید ابیل ۱۲/۰۷، لفایت المفتی ۶/۲۷)

أن رجلاً قال لابن عباسٌ: إني طلقت امرأتي مائة طليقة، فماذا ترى على؟ فقال له ابن عباسٌ: طلقت منك بثلاث وسبعين وتسعون اخذت بها آيات الله هزواً۔ (مؤطراً إمام مالک، کتاب الطلاق، باب ما جاء في

البتة، النسخة الهندية (۱۹۹)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلثاً، فإن قال أردت به التأكيد صدق ديانة لا قضاءً. (الأشباه والنظائر قديم ۲۱۹، جديد زكرياء ۳۷۶)

ولو كرر لفظ الطلاق ولم ينون الاستئناف ولا التأكيد وقع الكل قضاءً؛ لأنَّه يجعل تأسيساً لا تأكيداً؛ لأنَّه خير من التأكيد. (حموي، قديم ۹۷، جديد زكرياء ۱۷۸، وهكذا في الشامي، كوشہ ۴۹۹/۲، كراچي ۲۹۳/۳، زكرياء ۴/۵۲۱) فقط والسبحانة وتعالى أعلم

كتبه: شمسير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
اول رمضان المبارک ۱۴۰۸ھ
(نوقی نمبر: الف ۸۲۳/۲۲)

شوہر پر مطلقہ ثلاثہ کا مہر، جہیز اور بچی کا خرچہ لازم ہے

سوال [۲۷۸۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے شوہر رضوان حسین عرف پپولڈ اخلاق حسین کالا پیادہ سنبلی گیٹ مراد آباد نے لگ بھگ چار لوگوں کی موجودگی میں مجھے طلاق دیدی ہے، محرم کے دو دن پہلے ۱۴۰۹/۱ میرے میکہ میں آ کر، میں نے بھی سنا اور چار لوگوں نے بھی سنا اور اس سے پہلے بھی یہ تین مرتبہ مجھے طلاق دے چکا تھا؛ لیکن پہلے کوئی گواہ نہیں تھا، میرے ایک لڑکی ہے جو میکہ ہی میں پیدا ہوئی ہے، ۱۴۰۸/۱۲ کو پرائیویٹ ہسپتال میں جو میرے ساتھ ہے، اب وہ میرا سامان اور مہر کی رقم بھی نہیں دینا چاہتے ہیں اور مجھے میری بچی کا خرچہ بھی ملتا چاہئے، تو کیا ہماری مہر کی رقم اور جہیز کا سامان شوہر پر واپس کرنا لازم ہے یا نہیں؟ شوہر کے انتہے سے جو لڑکی ہے، اس کا خرچہ شوہر پر لازم ہے یا نہیں؟

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہر نے دو مردا اور دو عورتوں کی موجودگی میں اپنی بیوی کو تین سے زائد طلاقیں دیدیں، تو بیوی شوہر پر حرام ہو گئی۔ اب شوہر کے ساتھ رہنا حرام ہے۔

قال سبحانہ و تعالیٰ: فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحُلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تُنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔

[سورۃ البقرہ: ۲۳۰]

شوہر پر سامان جہیز کی واپسی اور مہر کی مکمل ادائیگی لازم ہے اور بچی کا مکمل خرچ بھی باپ کے ذمہ ہے اور بالغ ہونے تک بچی کی پروش کا حق ماں کو حاصل ہے۔

والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض۔ (عالیٰ مکاری، ذکریا قدیم

(۵۴۲/۱، جدید ۵۹۳/۱)

نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد۔ (عالیٰ مکاری، ذکریا

قدیم ۱/۵۶۰، جدید ۶۰۷/۱) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

كتبه: شیبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۱ صفر المظفر ۱۴۳۱ھ

۱۴۳۱/۲/۲۱

(فتوى نمبر: الف ۹۸۹۰/۳۸)

طلاق مغلظہ کی صورت میں مہر اور بچوں کا حکم

سوال [۶۷۹۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ موئرخہ: ۱۹ اگسٹ ۲۰۱۳ء بوقت صبح ۸/۸ بجے میری بیوی کی تائی تارہ بیگم، ان کا لڑکا اور میرے مکان مالک حافظ جی کی موجودگی میں تین بار طلاق طلاق کہہ کر میں نے اپنی بیوی کو زوجیت سے آزاد کر دیا۔ اب میرا میری بیوی سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رہا ہے، اب تباہی طلاق ہوئی یا نہیں؟

(۲) طلاق کے بعد مبلغ - /۱۰۰۰ روپے مهر کی ادائے گی مجھ پر لازم ہے جو کہ میں دینے کیلئے تیار ہوں اور خرچ عدت بھی؛ لیکن اس پروہ رضامند نہیں ہے، تو کیا مهر و عدت کے علاوہ بھی کوئی خرچ دینا ضروری ہے؟

(۳) بچے بھی نہیں دے رہی ہے کہتی ہے، یہ تو میرا سہارا ہیں بچے کسی بھی صورت میں نہیں دول گی، بچوں میں دول کے محمد امان عمر دس سال، محمد ایمان عمر ۸ سال، ایک لاٹ کی علیینہ عمر ۶ سال ہے یہ بچے کس کے پاس رہیں گے اور ان کا خرچ کس پر لازم ہے؟ باپ پر یا ماں پر؟

المستقتفی: نہال الدین، محلہ صالت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) جب آپ نے تین مرتبہ طلاق طلاق طلاق کہہ دیا تو یہی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر آپ پروہ قطعی طور پر حرام ہو گئی۔

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۲۱۹، جدید زکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵)

(۲) مسئولہ صورت میں گیارہ ہزار روپے مهر اور عدت کا خرچ آپ پر لازم ہے اور اس کے علاوہ زائد مطالبه یہی کی طرف سے جائز نہیں ہے۔

والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت

أحد الزوجين. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۰۳، جدید ۱/۳۷۰)

وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذلك وإن كانت الفرقة من قبلها؛ لأن اليد بعد تأكده لا يتحمل السقوط إلا بالإبراء. (شامی، کراچی

(۴/۲۳۳، زکریا دیوبند ۴/۱۰۲)

(۳) لڑکے کی اگر سات سال سے کم عمر ہوتا کو اپنے پاس رکھنے کا حق ہوتا ہے اور جب سات سال سے زائد عمر کا بچہ ہو جائے تو باپ کو اپنے پاس رکھنے کا حق ہو جاتا ہے، ماں کے لئے اپنی پرورش میں رکھنے کا اصرار درست نہیں ہے اور بچوں کا خرچہ بہر حال باپ کے اوپر لازم ہے اور جب لڑکی باپ کے پاس رہنے لگے، تو ماں کے پاس آنے جانے پر روک لگانا باپ کے لئے جائز نہیں۔ اور لڑکی کو بالغ ہونے تک یعنی ماہواری کا سلسلہ شروع ہونے تک ماں کو اپنی پرورش میں رکھنے کا حق ہے اور اس درمیان لڑکی کا خرچہ باپ کے اوپر لازم ہوتا ہے، مگر تعلیم کا خرچ جیسے چاہے باپ سے مطالبہ کا حق ماں کو نہیں ہے؛ بلکہ باپ اپنے اختیار سے جس اسکول میں چاہے پڑھائے اور چاہے نہ پڑھائے، صرف کھانے کپڑے کا خرچہ باپ سے لینے کا حق ہے۔

والحاضنة أما أو غيرها أحق به أي بالغلام حتى يتسعني عن النساء، وقدر بسبع وبه يفتى؛ لأنه الغالب..... فإن أكل، وشرب، ولبس، واستنجي وحده دفع إليه، ولو جبراً، وإلا وفي الشامية: ولو جبراً أي إن لم يأخذه بعد الاستغناء أجبر عليه بالإجماع. وفي شرح المجمع وإذا استغنى الغلام عن الخدمة أجبر الأب، أو الوصي، أو الولي على أخذه؛ لأنه أقدر على تأدبيه، وتعليمه. (شامي، کراچی ۳/۶۶، ۵/۶۷، ۵/۶۷، هندیہ،

زکریا قدیم ۱/۵۴۲، ۱/۵۹۳)

والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۵۴۲، ۱/۵۹۳) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

الجواب صحیح:
احترم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۱/۱۱/۱۲۳۲

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان اللہ عنہ
۱۴۳۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۸۰)

طلاق کے بعد سامان جہیز، مہر اور زیورات کے تبادلہ کا حکم

سوال [۶۷۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک لڑکی جس کا نام فرزانہ عرف رانی بنت عبدالرشید مرحوم، ساکن محلہ اصالت پورہ، مراد آباد کا عقد برخوردار محمد اکرم ولد صابر حسین، ساکن ہاپوڑ کے ساتھ اسلامی رسم و رواج کے مطابق عرصہ تقریباً تین سال پہلے ہوا تھا۔ اب عرصہ تقریباً ایک سال پہلے محمد اکرم مذکور نے تحریری طور پر فرزانہ بنت عبدالرشید کو تین مرتبہ طلاق دیدی ہے، فرزانہ بنت عبدالرشید کی شادی کے وقت جو سامان جہیز دیا گیا تھا، وہ محمد اکرم مذکور کے گھر پر ہے، محمد اکرم مذکور کا زیور و کپڑا اونچیرہ فرزانہ کے پاس ہے، کیا یہ سامان اور اپرکھا گیا سامان ایک دوسرے کو واپس کرنا ہوگا؟ اور فرزانہ عرف رانی مہر کی رقم لینے کی حق دار ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد یوسف، اصالت پورہ، مراد آباد

باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سامان جہیز اور مہر یہ مطلقہ کی خالص ملکیت ہے، اس کی ملکیت اس کوئٹی چاہئے اور جو زیور مطلقہ کو اپنے میکہ سے ملا تھا، وہ بھی اسی کی ملکیت ہے، ہاں البتہ جو زیور شوہر کی طرف سے دیا گیا تھا، وہ اگر بطور ملکیت دیا گیا تھا، یا اس قبیلہ کا عرف اور ستور یہی ہے کہ مالک بنادیا جاتا ہے، تو وہ زیور بھی مطلقہ کا حق ہے اور اگر اس قبیلہ کا عرف اور رواج مالک بنانے کا نہیں ہے، بلکہ اس کی ملکیت شوہر کی سمجھی جاتی ہے، تو وہ زیور شوہر کا ہے؛ اسے واپس کرنا مطلقہ پر لازم ہے۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۳۳۷/۳، جدید ۱۲/بھیل ۱۰/۱)

کل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلقها تأخذه كله۔ (شامی، کتاب

النكاح، باب المهر، کراچی ۴/۱۵۸)

قال الشيخ الإمام الأجل الشهيد: المختار للفتوی أن يحكم بكون

الجهاز ملکا لا عارية؛ لأنّ الظاهر الغالب إلا في بلدة جرت العادة بدفع الكل عارية، فالقول للأب. (شامي، کراچی ۳/۱۵۷، زکریا ۴/۳۰۹)

وإذا بعث الزوج إلى أهل زوجته أشياء عند زفافها منها ديناج، فلما زفت إليه أراد أن يسترد من المرأة الديناج ليس له ذلك إذا بعث إليها على جهة التملك جهز بنته وزوجها، ثم زعم أن الذي دفعه إليها ماله، وكان على وجه العارية عندها، وقالت: هو ملكي جهزني به، أو قال الزوج ذلك بعد موتها..... وقال في الواقعات إن كان العرف ظاهراً بمثله في الجهاز كما في ديارنا، فالقول قول الزوج. (هنديہ، زکریا قدیم ۱/۳۲۷، جدید ۱/۳۹۳) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

كتبه: شیبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان متصور پوری غفرلہ
۱۴۲۰ھ / ۱۱/۱۵

۱۴۲۰ھ

(فتاویٰ نمبر: الف-۳۳/۲۳۸۰)

کیا مطلقة ثلاثة شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے؟

سوال [۶۷۹۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی ہیں؛ لیکن وہ ہمارے گھر پر ہی رہ رہی ہیں اپنے میکنہ میں جاتی کیا اس کا شوہر کے گھر میں رہنا جائز ہے اور اب کتنی طلاق واقع ہوئیں ساتھ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا دو ران عدت شوہر کے گھر رہ سکتی ہے اور عدت کے بعد شوہر کے گھر رہے تو کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد معراج، محلہ پیرزادہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب عورت کو طلاق مغلظہ دیدی گئی ہے تو عورت شوہر پر قطعی طور پر حرام ہو گئی ہے؛ لہذا عدت گزر جانے کے بعد اس عورت کا شوہر سے کسی قسم

کا ازدواجی تعلق باقی نہیں رہا ہے؛ لہذا جس گھر میں شوہر کی رہائش ہے، اس میں اس عورت کی رہائش جائز نہیں ہے اور دونوں کا ایک گھر میں رہنا جائز نہیں ہے، اگر عورت کے میکہ میں بآپ بھائی وغیرہ موجود ہوں تو اس کو وہاں چلے جانا چاہئے؛ ہاں البتہ اگر عورت کے بچے جوان ہو چکے ہیں تو اس کے لئے اپنے جوان بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہنے کی گنجائش ہے بشرطیکہ شوہر سے کسی قسم کا تعلق اور آمنہ سامنے کا موقع نہ دیا جاتا ہو اور کسی قسم کے نزد کا خطرہ نہ ہو۔ ورنہ اگر فتنہ کا خطرہ ہو اور عورت کے جانے کی بھی کوئی شکل نہ ہو تو شوہر کے لئے اس میں رہنا جائز نہیں۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۱۳۱۲/۵۸۷، میرٹھ ۱۸/۲۱۸)

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحُلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ۔ [سورة البقر: ۲۳۰]

فإن طلقها فلا تحل له أي من بعد ذلك التطليق حتى تنكح زوجاً غيره

أي تزوج زوجاً غيره فلا يكفي مجرد العقد. (روح المعاني بيروت: ۲/۲۱۲)
 وفي المحتبى الأفضل الحيلولة بستر ولو فاسقاً فبامرأة. قال: ولهمما
 أن يسكننا بعد الثلاث في بيت واحد إذا لم يلتقيا النساء الأزواجا ولهم يكن فيه
 خوف فتنة وسائل شيخ الإسلام عن زوجين افترقا ولكل منهما ستون سنة
 وبينهما أولاد تتعذر عليهما مفارقتهم فيسكنان في بيتهما ولا يجتمعان في
 فراش ولا يلتقيان النساء الأزواجا هل لهم ذلكر؟ قال: نعم! وأقره المصنف
 (در مختار) وفي الشامي: والأفضل أن يحال بينهما في البيوتة بستر إلا أن
 يكون فاسقاً في حال بامرأة ثقة وإن تعذر فلتخرج هي وخروجه أولى وفيه
 مخالفة لمأمور، فإن الستره لابد منها كما عبر المصنف تبعاً للهدایة وهو
 الظاهر لحرمة الخلوة بالأجنبيه. (شامي، ذكريات: ۵/۲۲۷) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان مصطفى پوری غفرله

۱۴۳۶/۱۱/۱۵

كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۹ محرم الحرام ۱۴۳۶ھ

(فتوى نمبر: الف ۱۱۸/۳۱)

”جا تجوہ کو تین طلاق“

سوال [الف: ۶۷۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع تین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا ”جا تجوہ کو تین طلاق“؛ لیکن یہ لفظ اس نے اس وقت ادا کئے جبکہ اس کی بیوی سے اس بات پر اڑائی ہو رہی تھی کہ بیوی کہہ رہی تھی کہ میں شادی میں جاؤ گئی اور شوہر کہہ رہا تھا کہ تو شادی میں نہیں جائے گی، پھر اس کے بعد بات منقطع ہو گئی، پھر وہ شخص نماز پڑھنے کے لئے چلا گیا، اس کے بعد اس کی بیوی نے فون کیا کہ میں کپڑے پہن کر شادی میں جا رہی ہوں؛ لیکن شوہر منع کرتا رہا، جب بیوی نے زیادہ اصرار کیا تو شوہر نے کہا کہ ”جا تجوہ کو تین طلاق“، لیکن ان الفاظ کے کہہ دینے کے بعد بیوی شادی میں نہیں گئی۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ الفاظ تعلیق طلاق میں داخل ہوں گے یا نہیں؟ اور اگر تعلیق طلاق میں داخل ہیں تو طلاق واقع ہو گی یا نہیں؟ اور اگر واقع ہو گی تو کتنی طلاقیں واقع ہو گئیں؟ نیز بعد میں شوہر سے یہ بھی معلوم کیا گیا کہ جانے سے تمہاری کیا مراد تھی، تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اس وقت کچھ مراد نہیں لیا بس میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ ”جا تجوہ کو تین طلاق“۔

المستفتی: عبداللہ، موضع کمال گنج، فرغ آباد (بیوی)

با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ”جا تجوہ کو تین طلاق“ کے الفاظ سے بیوی کے اوپر فوری طور پر تینوں طلاقیں واقع ہو کر شوہر کے لئے قطعی طور پر حرام ہو گئی ہے، ان الفاظ میں کوئی تعلیق نہیں ہے اور نہ ہی تین طلاق کو کسی عمل پر معلق کیا گیا ہے؛ اس لئے شوہر کی نیت کچھ بھی ہواں الفاظ سے تین طلاق واقع ہو گئیں ہیں؛ لہذا آئندہ بغیر حالہ کے دونوں کے درمیان نکاح بھی درست نہ ہو گا۔

من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثة، فقال الشافعی، وأبو حنیفة، وجماهیر العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث. (نووی شرح مسلم / ۴۷۸)

عن واقع بن سحبان قال: سئل عمران بن حصین عن رجل طلق امرأته ثلاثة في مجلس، قال: أثم بربه وحرمت عليه امرأته. (مصنف ابن أبي

شيبة، مؤسسة علوم القرآن جدید ۱۹/۹، رقم: ۱۸۰۸۷)

عن سهل بن سعد، في هذا الخبر قال: فطلها ثلاثة تطليقات عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، فأنفذه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم.

(أبوداؤد شریف، باب في اللعan، النسخة الہندیة ۱/۳۰۶، دار السلام رقم: ۲۲۵)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هدایة، کتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة اشرفي دیوبند ۳۹۹/۲، هندیة، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، زکریا جدید ۱/۵۳۵، تاتار خانیة ۱۴۷/۵، رقم: ۳۰۷۵) فقط والله سبحانه وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۳۶/۲/۹

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ
۹ رصرف امظفر ۱۴۳۶ھ
(فتوى نمبر: الف ۱۸۸۲/۳)

[ب: ۶۹۳] مطلقہ خواتین کے مسائل کا تحقیقی جائزہ

طلاق اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے یا ممنوع؟

سوال [ا]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ یا طلاق اپنی اصل کے اعتبار سے نفہ مباح ہے یا ممنوع اور معصیت ہے؟
المستفتی: مسلم پرنسل لا بورڈ

باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے یا ممنوع؟ اس بارے میں فقهاء کے دو قول ہیں:

(۱) حضرات فقهاء میں سے جمہور اور اکثر فقهاء قرآن کریم کی آیتوں کے مطلق ہونے کی وجہ سے فرماتے ہیں: کہ طلاق اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے، اس لئے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس سے مباح ہونا ہی ثابت ہوتا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ۔ [آل عمران: ۲۳۶]

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ۔ [الطلاق: ۱]

الطَّلاقُ مَرْتَأَنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ۔ [آل عمران: ۲۲۹]
ان آیتوں کے پیش نظر اکثر فقهاء یہ فرماتے ہیں کہ طلاق اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے، فقهاء کرام کی عبارات ملاحظہ ہو:

”در مختار“ کی عبارت ملاحظہ فرمائیے:

وَإِيقاعه مباح عند العامة لـ طلاق الآيات۔ (در مختار مع الشامی، زکریا

”الموسوعة“ میں اس کو اس طرح کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

ذهب الجمهور إلى أن الأصل في الطلاق الإباحة، وقد يخرج عنها في أحوال. (الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۹ / ۸)

(۲) فقہاء کرام کا دوسرا قول یہی ہے کہ طلاق اپنی اصل کے اعتبار سے مباح نہیں ہے؛ بلکہ شیء ممنوع اور مبغوض ہے اور یہی فقہاء کا قول راجح اور قول مفتی ہے؛ لہذا بلا ضرورت اور بلا کسی خاص وجہ کے بیوی کو طلاق دے کر بے سہار ابنا دینے سے شوہر گنہ گار ہو گا۔

حدیث شریف میں حضرت سید الکوئین علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن امور کو حلال اور جائز قرار دیا ہے، ان میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ترین اور ناپسندیدہ امر طلاق ہی ہے؛ لہذا ناپسندیدہ اور مبغوض ترین عمل کو بے ضرورت مباح و جائز نہیں کہا جاسکتا؛ بلکہ کسی ضرورت و خاص وجہ سے اسے حلal و مباح قرار دیا جاسکتا ہے۔

حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

عن ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: أبغض الحال

إلى الله عز وجل: الطلاق. (أبوداؤد شریف، باب فی کراہیۃ الطلاق ۱ / ۲۹۶)

عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطلقو النساء إلا من ريبة، فإن الله لا يحب النواقين ولا النواقات.

(المعجم الأوسط ۶ / ۲۰، رقم: ۷۸۴۸)

حضرات فقہاء کی عبارات ملاحظہ فرمائیے:

إن الأصل في الطلاق هو الحظر، والإباحة لحاجة الخلاص .

(هداية أشرفی، باب طلاق السنة ۲ / ۳۵۴)

اور علامہ شامیؒ نے زیادہ واضح الفاظ کے ساتھ اس کو نقل فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

الأصح حظره، أي منعه إلا لحاجة، وتحته في الشامية: أما الطلاق فإن

الأصل فيه الحظر بمعنى أنه محظور إلا لعارض بيده، وهو معنى قولهم: الأصل فيه الحظر، والإباحة للحاجة إلى الخلاص، فإذا كان بلا سبب أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقا وسفاهة رأي ومجرد كفران النعمة - إلى قوله - ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة، وإذا وجدت الحاجة المبيحة أبيح - إلى قوله - إن أراد بالخلاص منها الخلاص بلا سبب كما هو المتبادر منه، فهو ممنوع لمخالفته لقولهم: إن إباحته للحاجة إلى الخلاص فلم يبيحه إلا عند الحاجة إليه. لا عند مجرد إرادة الخلاص، وإن أراد الخلاص عند الحاجة إليه، فهو المطلوب.

(شامي، زکریا / ۴، ۴۲۸، کراچی / ۳) (۲۲۸)

اور علامہ زیلیمی نے اس مسئلہ کو اعتراض و جواب کی حیثیت سے اٹھایا ہے کہ اگر طلاق اپنی اصل کے اعتبار سے شیئ ممنوع ہے تو ”طلاق حسن“ اور ”طلاق احسن“ کا اطلاق کیسے کیا جاسکتا ہے؟ ایک شیئ ممنوع کو ”حسن“ یا ”احسن“ کہنا عجیب بات ہے تو اس کو علامہ زیلیمی نے بہت خوبصورت انداز میں واضح فرمایا ہے کہ طلاق میں دو حیثیتیں بالکل الگ الگ ہیں:

(۱) من حیث الذات: یعنی طلاق اپنی اصل اور ذات کے اعتبار سے فی نفسہ امر ممنوع ہے۔

(۲) من حیث الوقت: یعنی طلاق دینے کے اوقات اور زمانہ کی حیثیت سے حسن اور احسن کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ بلا ضرورت طلاق دینا جائز نہیں ہے؛ بلکہ امر ممنوع ہے۔ اور جب طلاق دینے کی ضرورت پیش آجائے تو کن اوقات میں طلاق دینا بہتر ہے؟ ان اوقات کی حیثیت کے اعتبار سے حسن اور احسن کا حکم لگایا گیا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان نہجاو ممکن نہ ہو اور حدود اللہ کے دائرہ میں رہ کر کے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے اور طلاق دے کر ایک دوسرے سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہو جائے تو اوقات کے اعتبار سے طلاق دینی چاہئے؛ لہذا جس طہر میں بیوی سے ہمستری نہیں ہوئی ہے

اس میں ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے یہ احسن طریقہ ہے۔ اور اگر الگ الگ دو طہر میں دو طلاق دی جائیں تو یہ حسن ہے، اب اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ طلاق اپنی ذات اور حقیقت اور اصل کے اعتبار سے فی نفسہ امر منوع ہے، مگر اوقات کے اعتبار سے حسن اور احسن کا اطلاق بھی اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے۔

امام زبیعیؓ کی عبارت ملاحظہ فرمائیے:

الأصل في الطلاق الحظر، فكيف يصح أن يكون منه حسن وأحسن؟
وأجيب بأن الحظر من حيث ذاته، وأما كونه حسناً وأحسناً فمن حيث
الوقت، واعلم أن الطلاق في الأصل على نوعين: طلاق سنة، وطلاق
بدعة، والأول على قسمين: حسن وأحسن، والثاني: وهو البدعي على
قسمين أيضاً بحسب العدد، وهو أن يطلقاً ثلاثاً بكلمة واحدة وجملة،
أو على التفريق في طهر واحد، وبحسب الوقت، وهو أن يطلقاً في
حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه. (تبیین الحقائق، ذکریا ۳ / ۲۱، قدیم،

امدادیہ ملتان ۲ / ۱۸۸)

”موسوعۃ“ کی عبارت ملاحظہ فرمائیے:

إن الأصل فيه الحظر ويخرج عن الحظر في أحوال، وعلى كل، فالفقهاء
متفقون في النهاية على أنه تعترىء الأحكام فيكون مباحاً أو مندوباً أو واجباً
كما يكون مكرروها أو حراماً. (الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۹ / ۸-۹)

طلاق دینے کا حق مرد کو کیوں؟

سوال [۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مستشرقان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ شریعت نے طلاق دینے کا حق مرد کو کیوں دیا عورت کو کیوں نہیں؟

المستفتی: مسلم پرسن لاءِ بورڈ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا؛ اس لئے کہ مرد کو نظری طور پر مضبوط اور زیادہ مستحکم بنایا گیا اور کامل لعقل اور معاملہ فہم اور دور انداز بنا یا اور مرد جو بھی فیصلہ کرتا ہے سوچ بوجھ کر انجام پر غور و فکر کر کے نتائج کو سامنے رکھ کر کرتا ہے۔ اور فطری اعتبار سے جو تحلیل اور تدبیر مرد میں ہوتا ہے وہ عورت میں نہیں ہوتا اور مرد جذبات سے مغلوب ہو کر جلد بازی سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اس کے برخلاف عورت میں تحلیل اور تدبیر اور دور انداز کم ہوتی ہے اور مزاج کے خلاف جب کوئی بات سامنے آتی ہے تو برداشت سے باہر ہو جاتی ہے اور جذبات سے مغلوب ہو کر انجام اور نتائج پر نظر ڈالے بغیر جلد فیصلہ کر ڈالتی ہے، نیز شریعت نے مرد کو عورت پر فوقيت بخشی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ . [البقرة: ۲۲۸]

ان وجوہات کی بناء پر شریعت نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے عورت کو نہیں تاکہ جلد بازی سے طلاق کا معاملہ پیش نہ آیا کرے۔
روايات ملاحظہ فرمائیے:

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، هكذا عن الشعبي، وإبراهيم، وسليمان بن يسار . (المصنف لابن أبي شيبة / ۹، ۶۱۳، رقم: ۱۸۵۶۰)

صعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، فقال: يا أيها الناس! ما بال أحدكم يزوج عبده أمنته ثم يريده أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالسوق . الحديث (ابن ماجة شریف، مکتبہ تہانوی دیوبند، ص: ۱۵۱، رقم: ۲۰۸۱)

اس کو "احکام القرآن" للجہاں میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے:

ومن وجوه التفضيل عليها ما ملك الرجل من فرافقها بالطلاق ولم تملكه. (أحكام القرآن جصاص، ذکریا دیوبند ۱ / ۴۴۵)

اس کو شامی میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے:

قال في الفتح: ومنها: أي من محاسنه جعله بيد الرجال دون النساء لاختصاصهن بنقصان العقل، وغلبة الهوى، ونقصان الدين. (شامی، ذکریا

کراچی ۲۲۹ / ۴

اس کو ”الفقه الاسلامی و ادله“ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے:

جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة بالرغم من أنها شريكة في العقد حفاظاً على الزواج تقديرأً لمحاطر إنهائه بنحو سريع غير متعد؛ لأن الرجل الذي دفع المهر وأنفق على الزوجة والبيت يكون عادة أكثر تقديرأً لعواقب الأمور، وأبعد عن الطيش في تصرف يلحق به ضرراً كبيراً، فهو أولى من المرأة بإعطائه حق النطليق. (الفقه الإسلامي وأدلته ۷ / ۳۴۷)

اس کو ”موسوعہ“ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے:

الطلاق: نوع من أنواع الفرق، وهو ملك للزوج وحده، ذلك أن الرجل يملك مفارقة زوجته إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك بعيارته وإرادته المنفردة. (الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۹ / ۱۱)

کن حالات میں عورت کو طلاق دی جائے؟

سوال [۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و منتظرین شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کن حالات میں طلاق دینی چاہئے؟

المستحب: مسلم پرسنل لاء ابو رؤذ

باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق ایک ایسی ہے جس کی وجہ سے میاں یوں

کی رفاقت اور تعلق کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اگر اولاد ہوچکی ہے تو ماں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے اولاد تینوں کی طرح بے سہارا ہو جاتی ہے، گھر یلو زندگی بر باد ہو جاتی ہے؛ اس لئے انتہائی مجبوری میں طلاق دینے کی اجازت ہوتی ہے، مثلاً، میاں یوں دونوں کے ساتھ رہنے میں سکون کی زندگی گذار سکنے کی امید باقی نہ رہے۔ اور اللہ کے احکام کے حدود کے دائرہ میں رہ کر ایک دوسرا کے حق کو ادا کرنا ممکن نہ رہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے طلاق کو مستحسن قرار دیا ہے اور کبھی طلاق دینا واجب اور لازم بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی مباح ہوتا ہے اور کبھی مکروہ ہوتا ہے اور کبھی حرام بھی ہو جاتا ہے، اس کی چند صورتیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

(۱) طلاق دینا کب واجب ہوتا ہے؟

سوال [۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہبیوں کو طلاق دینا کب لازم اور واجب ہو جاتا ہے؟
المستفتی: مسلم پرنل لا عبور

بسم اللہ الرحمن الرحيم

الجواب وبالله التوفيق: کبھی طلاق دینا شوہر پر واجب اور لازم ہو جاتا ہے، مثلًا امساک بالمعروف کا امکان باقی نہ رہے کہ بیوی فاحشہ ہو اور شوہر متقد ہو اور حدود اللہ کے دائرہ میں رہ کر زندگی گذارنا ممکن نہ ہو تو طلاق دے کر بیوی کو زوجیت سے الگ کر دینا واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح بیوی کا حق ادا کرنا ممکن نہ رہے تب بھی لازم ہو جاتا ہے، جیسا کہ ”شامی“ کی اس عبارت سے واضح ہوتا ہے:

ويجب لِوْفَاتِ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ استَعْمَلَ لَا بِأَسْسٍ
هُنَّا لِلْوُجُوبِ اقْتِدَاء بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمُ الَّا يُقْيِيمَا حُلُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا إِفْرِدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ۲۲۹]

فَإِنْ نَفَى الْبَأْسُ فِي مَعْنَى نَفَى الْجَنَاحَ فَافْهَمُوهُمْ۔ (شامی، زکریا ۴ / ۱۴۴، کراچی ۳ / ۵۰)

اوّل ”موسوعہ“ کی اس عبارت سے بھی وجوب طلاق کی بات معلوم ہوتی ہے:

فِي كُونَ واجِباً كَالْمُولَى إِذَا أَبَى الْفَيْئَةَ إِلَى زَوْجَتِهِ بَعْدَ التَّرْبُصِ عَلَى مَذْهَبِ الْجَمْهُورِ، أَمَّا الْحَنْفِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يَوْقُنُونَ الْفَرَقَةَ بَعْدَ تَهْلِكَةِ الْمَدَةِ حَكْمًا وَكَطْلَاقَ الْحَكَمِيَّنَ فِي الشَّقَاقِ إِذَا تَعْذَرَ عَلَيْهِمَا التَّوْفِيقُ بَيْنَ الرَّوْجَيْنِ وَرَأِيَا الطَّلاقَ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِالتَّفْرِيقِ لِذَلِكَ۔ (الموسوعة الفقهية ۲۹ / ۹)

(۲) طلاق دینا کب مستحب اور مستحسن ہوتا ہے؟

سوال [۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بیوی کو طلاق دینا کب مستحب اور مستحسن ہوتا ہے؟

المستفتی: مسلم پرسنل لا، بورڈ
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: کبھی طلاق دے کر بیوی کو زوجیت سے الگ کر دینا مستحب اور مستحسن ہو جاتا ہے، مثلاً بیوی سخت مزاج اور ترش رو ہے اور ایسا نی سے باز نہیں آتی یا تارک صلاۃ ہے، شوہر کے تعجب دلانے کے باوجود نہیں پڑھتی ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کو طلاق دے کر زوجیت سے الگ کر دینا مستحب اور مستحسن ہے؛ لیکن ایسی فاسقہ عورت کو طلاق دے کر زوجیت سے الگ کر دینا شوہر پر واجب نہیں اور اس کو ساتھ رکھ کر زندگی گزارنا شوہر کے لئے جائز ہے اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب کا و بال عورت پر ہو گا مرد پر اس کا گناہ نہیں ہو گا۔

اس کو صاحب بحر نے ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

يَسْتَحِبْ طَلاقُهَا إِذَا كَانَتْ سَلِيْطَةً مُؤْذِيَّةً أَوْ تَارِكَةً لِلصَّلَاةِ لَا تَقِيمُ حَدُودَ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ يَفِيدُ جَوَازَ مَعَاشَرَةِ مَنْ لَا تَصْلَى وَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ بَلْ

عليها، ولذا قالوا في الفتاوی: له أن يضر بها على ترك الصلاة.

(البحر الرائق، زکریا / ۳ / ۴۱۴)

اس کو صاحب درجتار نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے:

لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسرير الفاجر
إلا إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا. (شامی، زکریا

(۴۳/۱، کراچی ۱۴۴۱)

(۳) طلاق دینا کب مباح ہوتا ہے؟

سوال [۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنیں مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بیوی کو طلاق دینا کب مباح ہوتا ہے؟

المستفی: مسلم پرسنل لاء بورڈ

باسم سجادۃ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: کبھی طلاق دے کر بیوی کو زوجیت سے الگ کر دینا مباح ہوتا ہے، یا اس وقت ہوتا ہے جب کہ شوہر کا میلان اور رغبت بیوی کی طرف مکمل طور پر نہ ہوتی ہو اور ایسا کبھی اس وقت ہوتا ہے کہ جب بیوی خوبصورت نہ ہو یا بیوی بد اخلاق اور بد زبان ہو، جن امور کی وجہ سے شوہر کے اندر رغبت اور میلان بیوی کی طرف پیدا نہ ہوان امور کی وجہ سے طلاق دینا مباح ہو جاتا ہے اور ایسی صورت میں بیوی کے بے قصور ہونے کے باوجود طلاق دینے میں شوہر گنہگار نہیں ہوتا، جیسا کہ ”فتح القدر“ کی اس عبارت سے واضح ہوتا ہے:

فمن الحاجة المبيحة أن يلقى إليه عدم اشتئانها بحيث يعجز
أويتضرك بإكراهه نفسه على جماعها -إلى قوله:- وإن لم يكن قادرًا على
طولها أو لم ترض هي بترك حقها فهو مباح. (فتح القدیر، زکریا / ۳ / ۴۶)

اس کو ”الفقه الاسلامی“ میں ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

الأصح حظر الطلاق أي منعه إلا لحاجة كريمة و كبيرة، و رجح ابن عابدين هذا الرأي، ولن يست الحاجة مختصة بالكبيرة والكريمة، بل هي أعم.

(الفقه الاسلامی) (۳۴۹ / ۷)

وإذا وجدت الحاجة المبيحة وهي أعم من الكبر والكريمة أبيح الطلاق.

(الفقه الاسلامی) (۳۸۶ / ۷)

(۲) طلاق دینا کب مکروہ یا حرام ہوتا ہے؟

سوال [۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ یہوی کو طلاق دینا کب اور کن حالات میں مکروہ یا حرام ہوتا ہے؟

المسنون: مسلم پرشنل لاء ابو رؤ

باسم سچانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: کبھی طلاق دینا مکروہ یا حرام ہو جاتا ہے، مثلاً حالت حیض میں یہوی کو طلاق دے دی تو بعض لوگوں نے حرام کہا ہے اور بعض لوگوں نے مکروہ کہا ہے، اسی طرح ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں یا ایک جملہ میں تین طلاقیں دے دیں جس کو فقہاء نے طلاق بدی کہا ہے، تو ایسی صورت میں شوہر گنہگار بھی ہو گا اور اس طرح سے طلاق دینا مکروہ یا حرام ہے، اسی طرح جس طہر میں یہوی سے ہم بستری کی گئی ہو اس میں طلاق دینا مکروہ ہے، مگر طلاق ہر صورت میں واقع ہو جاتی ہے، اس طرح طلاق دینے میں شوہر گنہگار اور معصیت کا مرتبہ ہو گا، جیسا کہ فقہاء کی ذیل کی عبارات سے واضح ہوتا ہے۔

اس کو ”موسوعہ“ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے:

ويكون مكروها إذا لم يكن ثمة من داع إليه مما تقدم، وقيل: هو

حرام في هذه الحال لما فيه من الإضرار بالزوجة من غير داع إليه، ويكون حراماً وهو الطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، وهو الطلاق البدعي. (الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۹ / ۹)

”الفقه الإسلامي وأدلته“ میں طلاق بدیعی کی وضاحت کافی واضح الفاظ میں کی گئی ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں یا ایک طہر کی تین طلاقوں یا حالت حیض میں طلاق دینا مکروہ تحریکی ہے، اس سے شوہر گناہ کبیرہ کا مرتكب ہو جاتا ہے۔

عبارات ملاحظہ فرمائیے:

وطلاق البدعة: أن يطلقها ثلاثاً أو اثنين بكلمة واحدة أو يطلقبها ثلاثاً في طهر واحد؛ لأن الأصل في الطلاق الحظر لما فيه من قطع الزواج الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية، والإباحة إنما هي للحاجة إلى الخلاص ولا حاجة إلى الجمع في الثلاث، أو في طهر واحد؛ لأن الحاجة تندفع بالواحدة وتمام الخلاص في المفرق على الأطهار، والزيادة إسراف، فكان بدعة، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وبيان المرأة منه، وكان آثاما عاصيما، والطلاق مكروه تحريمـا. (الفقه الإسلامي وأدلته ۷ / ۴۰۸)

شوہر پر تعزیر مالی

ســـــوال [۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا بلا جہ بیوی کو طلاق دینے کی وجہ سے شوہر پر تعزیر مالی لازم کی جاسکتی ہے؟
المستفتی: مسلم پر شل لاءِ بورڈ

باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: تعزیر کی دو تمیں مشہور ہیں: تعزیر جسمانی، تعزیر مالی۔
(۱) تعزیر جسمانی: ہندوستان جیسے آزاد غیر اسلامی ممالک میں تعزیر جسمانی کا

جاری کرنا مشکل ہے، یہاں کام احوال اور معاشرہ نہ اس کا متحمل ہے اور نہ ہی معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے۔

(۲) تعزیر مالی: تعزیر مالی (مالی جرمانہ) کے متعلق حضرات فقہاء نے اپنی اپنی کتابوں میں کافی تفصیلی بحث کی ہیں، ان تمام تفصیلات اور بحثوں کا حاصل یہ ہے کہ حضرات طرفین کے نزدیک مالی جرمانہ سرے سے جائز نہیں ہے اور حضرت امام ابو یوسفؓ کے نزدیک حاکم وقت کے لئے تعزیر مالی کو جاری کرنا جائز و درست ہے۔ اور ساتھ میں یہ بات واضح رہے کہ امام ابو یوسفؓ کے نزدیک تعزیر مالی کا جواز مطلقاً ہر جگہ جائز نہیں ہے؛ بلکہ جہاں پرمدہ دار شخصیت تعزیر مالی کو مصلحت سمجھے گی وہاں پر جاری کرے گی۔

اور فقہاء نے حضرات طرفین کے نزدیک عدم جواز کی جوبات نقل فرمائی ہے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ تعزیر مالی شروع اسلام میں جائز تھی بعد میں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، لیکن فقہاء کے اندر منسوخ ہونے کی بات کی تردید کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ مالی جرمانہ شروع اسلام میں جائز تھا بعد میں منسوخ ہو چکا ہے، ان لوگوں کے پاس منسوخ ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور یہ دعویٰ بلا دلیل کے ہے؛ اس لئے یہ حکم آج بھی بدستور باقی ہے؛ لہذا جہاں ذمہ دار شخصیت تعزیر مالی کو جاری کرنا مصلحت سمجھے گی وہاں آج بھی تعزیر مالی (مالی جرمانہ) جاری کرنے کی گنجائش ہے؛ لہذا اس قول کے اعتبار سے جو شوہر بیوی کو بلا وجہ اور بغیر کسی ضرورت کے اور بیوی کی طرف سے ایسے کوئی خاص اسباب پیدا نہیں کئے گئے ہیں، جن کی وجہ سے طلاق دینے کی ضرورت پڑے اس کے باوجود خواہ مخواہ معلق چھوڑ دے، تو ایسے حالات میں ذمہ دار شخصیات شوہر کے اوپر مصلحت کے پیش نظر مناسب تعزیر مالی جاری کر سکتی ہیں اور کچھ مقدار مال لے کر بیوی

کے حوالہ کر سکتی ہیں۔ اور اگر واقعی طور پر شوہر سے کچھ مال ضبط کر کے رکھ لیں اور بعد میں جب وہ اپنے جرم سے تائب ہو جائے تو اسے واپس کر دیں، تو ایسا کرنا سب کے نزد یک جائز ہے اور تائب نہ ہونے کی صورت میں امام ابو یوسفؓ کے قول کے مطابق یہی کے حوالہ کرنے کی گنجائش ہے۔

اب فہباء کے جزئیات ملاحظہ فرمائیے: ”فقہ السنۃ“ میں اس کو ان الفاظ سے نقل کیا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیں:

ومن قال: إن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط على مذاهب الأئمة
نقلاً واستدلالاً، وليس يسهل دعوى نسخها والمدعون للنسخ ليس
معهم سنة، ولا إجماع يصح دعواهم. (فقہ السنۃ ۲/ ۵۳۵)

اور امام زیلیعی نے حضرت امام ابو یوسفؓ کا قول ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

وعن أبي يوسف أن التعزير بأخذ الأموال جائز للإمام. (تبیین الحقائق قدیم
مکتبہ امدادیہ ملتان ۳/ ۲۰۸، جدید زکریا ۳/ ۶۳۴)

”تبیین“ کے حاشیہ میں علامہ چلپی نے اس کو ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

وعن أبي يوسف أن التعزير بأخذ المال جائز للإمام، وعندهما
والشافعي ومالك وأحمد لا يجوز بأخذ المال، وما في الخلاصة: سمعت
من ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز، ومن
جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال مبني على
اختیار من قال بذلك من المشايخ لقول أبي يوسف. (حاشیہ چلپی علی
الزیلیعی، قدیم ۳/ ۲۰۸، جدید زکریا ۳/ ۶۳۴)

اس کو ”الموسوعة الفقهية“ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے:

الأصل في مذهب أبي حنيفة أن التعزير بأخذ المال غير جائز، فأبو
حنينة ومحمد لا يجيزانه، بل إن محمداً لم يذكره في كتاب من كتبه، أما

أبو يوسف فقد روی عنه أن التعزير بأخذ المال من الجاني جائز إن رؤية فيه مصلحة. (الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۲ / ۲۷۰)

اس کو صاحب ”فتح القدیر“ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے ساتھ تھوڑا سا اضافہ کر کے لکھا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

يجوز تعزيره بأخذ المال مبني على اختيار من قال بذلك من المشايخ كقول أبي يوسف، وقال التمرتاشي: يجوز التعزير الذي يحب حقاً لله تعالى لكل أحد بعلمة النيابة عن الله تعالى. (فتح القدیر، زکریا ۵ / ۳۳۰)

”در مختار مع الشامی“ میں اس کو ان الفاظ سے نقل کیا گیا ہے، کافی تفصیل موجود ہے، اس میں سے تھوڑی سی عبارت اقتباس کے ساتھ ذیل میں درج کی جاتی ہے:

لا بأخذ المال في المذهب (بحر) وفيه عن البزازية وقيل: يجوز و معناه أن يمسكه مدة لينجز جر ثم يعيده له، فإن أيس من توبته صرفه إلى ما يرى، وفي المجتبى: أنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ، وتحته في الشامية: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعندهما وباقى الأئمة لا يجوز. (در مختار مع الشامی، زکریا

۶ / ۱۰۵، کراچی ۱۰۶-۱۰۷)

اور ”بزازیہ“ میں اس کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے:

والتعزير بأخذ المال إن المصلحة فيه جائزة قال مولانا خاتمة المجتهدين مولانا ركن الدين أبو يحيى الخوارزمي: معناه أن نأخذ ماله ونودعه، فإذا تاب نرده عليه كما عرف في خيول البغاء وسلامهم، وصوبه الإمام ظهير الدين التمرتاشي الخوارزمي، قالوا: ومن جملته من لا يحضر الجمعة يجوز تعزيره بأخذ المال. (البزازية على الهندية ۶ / ۴۲۷، زکریا جدید ۳ / ۲۵)

دین مہر کی ادائیگی میں توازن

سوال [۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کیا طویل زمانہ تک ادا نہ کئے مہر کے عوض میں ادائے گی کے وقت عقد کے وقت کی قیمت اور ویلو کا اعتبار کیا جاسکتا ہے؟

المستفتی: مسلم پرنسل لاء بورڈ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: عرب ملکوں میں آج بھی نکاح کے وقت مہر کی ادائیگی لازم ہوتی ہے اور ادائے مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اسی وجہ سے عرب دنیا میں نکاح میں بڑکے والوں کا خرچ زیادہ ہوتا ہے، اس کے برخلاف ہمارے ہندوستان اور بر صغیر میں شادی کے موقع پر بڑکی والے زیادہ خرچ کرتے ہیں، بڑکے والوں کے یہاں کا خرچ کم ہوتا ہے، چنانچہ شادی کے موقع پر دوہن کا جو مہر باندھا جاتا ہے وہ عام طور پر فوری ادائیگی کیا جاتا؛ بلکہ شوہر کے اوپر بطور قرض کے باقی رہتا ہے، عمر گزر جاتی ہے، اولادیں پیدا ہو کر بڑی ہو جاتی ہیں، مگر مہر ادائیگی نہیں ہوتا؛ بلکہ شوہر پر اس کا قرض باقی رہ جاتا ہے، بعض لوگوں کی نیتیں خراب ہوتی ہیں، حیلہ بہانہ سے بیوی سے مہر معاف کرایتے ہیں، یہ انتہائی بے غیرتی کی بات ہے، جن لوگوں کے یہاں بیوی کا قرض شوہر پر باقی رہ جاتا ہے وہ عام طور پر خداحتو استہ اگر طلاق واقع ہو جائے تو مہر کا مطالبه کیا جاتا ہے، یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو وارثین کو ادائیگی کی فکر ہوتی ہے اور جو لوگ مہر ادا کر دیتے ہیں، ان سے بھی ۳۰-۲۰ سال کی تا خیر ہو جاتی ہے، تو ایسے میں اگر مہر میں مہر فاطمی باندھا گیا ہے یا سونا چاندی کی کوئی خاص مقدار مہر میں متعین کردی گئی ہے، تو عورت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس لئے کہ جس زمانے میں بھی مہر ادا کیا جائے گا تو اس زمانے میں طے شدہ مقدار میں متعین شیعی عورت کو صحیح طور پر مل جاتی ہے یا ادائیگی کے وقت کی قیمت لگا کر سکہ رانچ وقت مل جاتا ہے، اس کے برخلاف

اگر مہر میں کرنی متعین ہو جائے مثلاً پچیس، تیس سال پہلے نکاح ہوا ہے اور چار ہزار روپیہ مہر میں متعین ہوا تھا اور اس زمانہ میں مہر فاطمی کی قیمت چار ہزار روپے سے کم تھی؛ بلکہ دو ڈھانی ہزار روپیہ مہر فاطمی کی قیمت تھی؛ لہذا چار ہزار روپے میں ۲-۵ تو لہ سونا خریدا جاسکتا تھا اور آج ۲۰-۴۰ روپے چاندی مل جاتی تھی، مگر اس زمانہ میں چار ہزار روپیہ مہر میں ادنیں کیا گیا اور آج ۳۰-۴۵ رسال بعد ادا کرنے کا نمبر آیا ہے، تو یہی کہتی ہے کہ یہ چار ہزار روپیہ لے کر کیا کروں گی، میرا تو چار ہزار روپیہ ایسا تھا جو ۷-۵ تو لہ سونا یا ۲۰-۰۰ روپے چاندی کی ویلور کھتنا تھا اور آج جو چار ہزار روپیہ ایسا ہے جو ۵ روپے سونے کا ویلور کھتنا ہے، تو ایسے حالات میں ۸/۲ ہزار روپیہ دینے کی صورت میں عورت پر بردست ظلم اور اس کا نقصان ہے، اس نقصان سے بچاؤ کا کوئی حل ہے تو اس بارے میں حضرات فقہاء کے بیہاں بظاہر کوئی حل نہیں ہے؛ بلکہ عورت کو اسی چار ہزار روپے پر صبر کرنا پڑے گا، ایسی صورت میں عورت کو نقصان اور ظلم کے برداشت پر مجبور کرنا لازم آئے گا جو مقتضی شریعت کے خلاف ہے۔

اس لئے اس مسئلہ پر ارباب افتاء کو غور کرنے کی ضرورت ہے، چنانچہ اس سلسلے میں عورت کو نقصان سے بچانے کے واسطے دشکلیں ہمارے سامنے ہیں:

(۱) عورت کو چار ہزار روپیہ کرنی نہ ادا کی جائے؛ بلکہ چار ہزار روپیہ کے عوض میں عقد نکاح کے زمانہ کی حیثیت کا اعتبار کرتے ہوئے سونا چاندی یا کوئی دوسرا ثابتی سامان مہر میں ادا کر دیا جائے تو ایسی صورت میں سود یا ربا کی بات لازم نہیں آئے گی اور عورت کو اپنا حق پورے طور پر حاصل ہو جائے گا، یہ بات تکملہ شامی کی ذیل کی عبارت سے مستفاد ہوتی ہے۔

ولو کان لر جل علی رجل دراهم لا یعرفان وزنها فصالحه منها على ثوب او غيره فهو جائز؛ لأن جهالة المصالح عنه لا تمنع مع صحة الصلح،

وإن صالحه على دراهم فهو فاسد في القياس؛ لأنّه يحتمل أن بدل الصلح أكثر منه، ولكنني أستحسن أن أجيزه؛ لأنّ الظاهر أنه كان أقل مما عليه؛ لأنّ مبني الصلح على الحط والإغماض، فكان تقديرهما بدل الصلح شيء.

الخ (تكميله شامي زکریا / ۱۲، ۳۳۶، کراچی ۸ / ۲۵۲)

(۲) طول زمانہ کے بعد جب کرنی و روپیہ کی حیثیت گھٹ گئی تو مہر کی ادائے کی بات سامنے آئی اور عقد کے وقت میں چار ہزار روپیہ کرنی مہر میں طے ہو چکی تھی اور اس زمانہ میں چار ہزار روپیہ میں ۵۵-۵۰ رگرام سونایا ۲۰-۰۷ رولہ چاندی مل جایا کرتی تھی، آج چار ہزار روپیہ میں ۲ رگرام سونا بھی نہیں مل سکتا، اسی طرح چار ہزار روپیہ میں ۰۷ رولہ چاندی بھی نہیں مل سکتی، روپیہ کی ویلو گھٹ کراس کی حیثیت دو رگرام سونے کے برابر بھی نہیں رہی، ایسی صورت میں عورت کو نقصان سے بچانے کے لئے کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو علامہ شامی نے ”رسائل ابن عابدین“ میں صلح کے ذریعہ سے ایک معقول اور درمیانی را اختیار کرنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، مثلاً اگر عقد کے وقت میں چار ہزار روپیہ میں ۵۰ رگرام سونا مل سکتا تھا یا ۰۷ رولہ چاندی مل سکتی تھی اور ادائے کی کے وقت میں چار ہزار روپیہ کے ذریعہ ۲ رگرام سونایا ۰۰ رولہ چاندی بھی نہیں مل سکتی، تو ایسی صورت میں ایک درمیانی را اختیار کی جائے کہ کرنی ادا نہ کر کے ۳۰ رگرام سونایا ۰۵ رولہ چاندی عورت کو ادا کی جائے، تو ایسی صورت میں شوہر کا بھی زیادہ نقصان نہیں ہے اور عورت کو بھی زیادہ نقصان سے بچایا جا سکتا ہے اور عورت کو ایسی صورت میں مہر وصول پانے میں کافی حد تکطمینان ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ علامہ شامی کی کتاب ”رسائل ابن عابدین“ کی اس عبارت سے مستفاد ہوتا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

ووجه ما أفتى به بعض المفتين كما قدمناه آنفاً أن القروش في زماننا بيان لمقدار الشمن لا لبيان نوعه ولا جنسه، فإذا باع شخص سلعة بمائة فرش مثلاً ودفع له المشتري بعد الرخص ما صارت قيمته تسعين قرشاً من الريال

أو الذهب مثلاً لم يحصل للبائع ذلك المقدار الذي قدره ورضي به ثمناً لسلعته لكن قد يقال لما كان راضياً وقت العقد بأخذ غير القروش بالقيمة من أي نوع كان صار كأن العقد وقع على الأنواع كلها، فإذا رخصت كان عليه أن يأخذ بذلك العيار الذي كان راضياً به، وإنما اخترنا الصلح لتفاوت رخصتها، وقصد الإضرار كما قلنا، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار ولو تساوى رخصتها لما قلنا إلا بلزم العيار الذي كان وقت العقد كأن صار مثلاً ما كان قيمته مائة قرش من الريال يساوى تسعين، وكذا سائر الأنواع أما إذا صار ما قيمته مائة من نوع يساوي تسعين، ومن نوع آخر خمسة وتسعين، ومن آخر ثمانية وتسعين، فإن أزل منها البائع بأخذ ما يساوي التسعين بمائة فقد اختص الضرر به، وإن أزل منها المشتري بدفعه بتسعين اختص الضرر به، فينبعي وقوع الصلح على الأوسط. (رسائل ابن عابدين، مكتبه ثاقب بكڈپو دیوبند / ۶۷)

بیوی کو کب مارا جاسکتا ہے؟

سوال [۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بیوی کو کب مارا جاسکتا ہے؟ کیا شوہر کو یقین ہے کہ بیوی کو وجہ چاہے مارے؟
المسفتی: مسلم پر نہ لاء بورڈ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ہر جائز امور میں شوہر کی اطاعت کرنا بیوی پر لازم ہے؛ لیکن اگر بیوی جائز اور امور مباح میں شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے، مثلاً اس کی نافرمانی کرتی ہے، اس کے حقوق کی ادائے گی میں کوتاہی کرتی ہے، یا اس کی اجازت کے بغیر کہیں بھی چلی جاتی ہے یا طہارت کا اہتمام نہیں کرتی ہے یا تارک صلاۃ ہے یا اپنی ذات

اور شوہر کے مال میں خیانت کرتی ہے، تو اس طرح کے امور میں شوہر پہلے نرمی سے وعظ و نصیحت کے ذریعہ سمجھایا کرے، اس سے بازنہ آئے تو تادیب ضریبی کی بھی اجازت ہے، مگر اس طرح مارے کہ جس سے اس کے بدن پر زخم یا تور چھوڑنہ ہو جائے، اس کو ”ابحر الرائق“، میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے:

وَحَقُّ الرِّزْوَجِ عَلَى الْزَوْجِ أَنْ تَطْيِعَهُ فِي كُلِّ مَبَاحِيْمَ رِهَا بِهِ.

(البحرالرائق، ذکریا / ۳۸۵)

اس کو ”معنى المحتاج“، میں اس طرح کے الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے:
فَالْأُولَى لَهُ عَدْمُ الْعَفْوِ؛ لِأَنَّ ضَرْبَهُ لِلتَّأْدِيبِ مَصْلَحَةٌ لَهُ، وَضَرْبُ الزَّوْجِ زَوْجَتِهِ مَصْلَحَةٌ لِنَفْسِهِ، وَالنَّشُوزُ هُوَ الْخَرُوجُ مِنَ الْمَنْزِلِ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ، وَقَوْلُهُ: وَكَمْنَعَهَا أَيُّ الْزَوْجَةِ مِنِ الْإِسْتِمْتَاعِ. (معنى المحتاج / ۴۲۷)

اس کو ”الفقه الاسلامی“، میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، ملاحظہ فرمائیے:
وَلَيْلَةُ السَّادِيبِ لِلزَّوْجِ إِذَا لَمْ تَطْعَهُ فِيمَا يَلْزَمُ طَاعَتَهُ بِأَنْ نَشَرَتْ أَوْ خَرَجَتْ بِلَا إِذْنٍ أَوْ تَرَكَتْ حَقَوقَ اللَّهِ كَالظَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ، أَوْ أَغْلَقَتِ الْبَابَ دُونَهُ أَوْ خَانَتِهِ فِي نَفْسِهَا أَوْ مَالِهِ، وَيَدِأُ بِالْتَّرْتِيبِ بِمَا يَلِي: الْوعْظُ، وَالنَّصْحُ بِالرَّفِقِ، وَاللَّيْلِينِ، وَهُوَ ذَكْرُ مَا يَقْتَضِي رَجُوعُهَا عَمَّا ارْتَكَبَتْهُ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهِيِّ بِرَفْقِ، ثُمَّ الْهِجْرِ وَالْاعْتِزَالِ، وَتَرَكَ الْجَمَاعَ وَالْمَضَاجِعَةَ، ثُمَّ الضَّرْبُ غَيْرُ بِرَفْقِ، ثُمَّ الْهِجْرِ وَالْاعْتِزَالِ، وَتَرَكَ الْجَمَاعَ وَالْمَضَاجِعَةَ، ثُمَّ الضَّرْبُ غَيْرُ بِرَفْقِ، ثُمَّ الْمَبْرَحُ وَلَا الشَّائِئُ، وَهُوَ الضَّرْبُ بِالسَّوَاقِ وَنحوِهِ فَقَطُّ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّاتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْرَهُنَّ فَعَطُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِيْ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ﴾ [النساء: ۳۴] (الفقه الاسلامی و أدلمته / ۷ / ۱۱۱-۱۱۲)

بیوی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ

سوال [۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں مسئلہ ذیل کے بارے

میں کہ بیوی کو طلاق کا مطالبہ کرنے کا حق کب حاصل ہوتا ہے؟

المستفتی: مسلم پرنسل لاءِ بورڈ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: بیوی کی طرف سے فتح نکاح کے مطالبہ سے متعلق ”الحکیمة الناجزة“، وغیرہ میں جو اسباب لکھے جا چکے ہیں وہ سب کے سامنے واضح ہیں، ان کے علاوہ آں انڈیا مسلم پرنسل لاءِ بورڈ کی طرف سے جاری کئے گئے سوالات کے ذیل میں جو باتیں لکھی گئیں ہیں، گیارہ وجوہات سوال نامہ میں درج ہیں، ان گیارہ وجوہات کے علاوہ مزید وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنی زندگی کی رفیق حیات کے طور پر انسیت اور محبت کے ساتھ نہ رکھے اور بیوی کے لئے اس شوہر کے ماتحت میں رہ کر سکون کی زندگی نصیب نہ ہو بالآخر تنگ آ کر طلاق کا مطالبہ کر لیتی ہے، تو اس کا مطالبہ جائز اور بجا ہے، ایسے حالات میں طلاق کی صورت میں بیوی کو اپنے تمام حقوق مل جانے چاہئے؛ لیکن عام طور پر ظالم شوہر سے بیوی کو اپنا حق وصول نہیں ہوتا ہے؛ اس لئے خاندانی لوگوں پر ضروری ہے کہ شوہر سے اس کا حق اس کو کسی بھی طریقہ سے دلا دینا چاہئے۔

اجرت رضاعت

سوال [۱۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ کیا اجرت رضاعت شوہر پر لازم ہے؟

المستفتی: مسلم پرنسل لاءِ بورڈ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو عدت کے زمانہ میں اپنے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت کی مستحق مان نہیں بنے گی، اخلاقاً و دیناً دودھ

پلانام کے ذمہ لازم ہے؛ البتہ عدت پوری ہو جانے کے بعد عورت شوہر کے لئے کلی طور پر اجنبیہ بن جاتی ہے؛ اس لئے دودھ پلانے کی اجرت عدت پوری ہونے کے بعد لینا عورت کے لئے جائز ہے، اس کو صاحب ہدایہ نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے:

وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضع ولدها لم تجز؛ لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة وإن انقضت عدتها فاستأجرها يعني لإرضاع ولدها جاز؛ لأن النكاح قد زال بالكلية وصارت كالأجنبية.

(الهداية ۲/ ۴۴۴-۴۴۵)

زمانہ عدت کا ننان ونفقة

سوال [۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کیا شوہر پر زمانہ عدت کا خرچ لازم ہے؟

المستفتی: مسلم پر شیل لاء بورڈ

باسم سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر شوہرنے بیوی کو طلاق دے دی ہے اور بیوی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی معصیت اور نشووز بیوی کی طرف سے ثابت ہے، تو ایسی صورت میں طلاق کی عدت کا خرچ شوہر کے اوپر لازم ہے۔ اور اگر بیوی کی طرف سے نشووز و نافرمانی ثابت ہے اور معقول وجہ کے بغیر میکہ جا کر بیٹھ گئی ہے اور طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں عورت عدت کے خرچ کی مستحق نہیں ہوتی، اس کو حضرات فقہاء نے اس طرح کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكنى كانت الطلاق رجعياً أو بائناً أو ثلاثة حاملاً كانت المرأة أو لم تكن الأصل أن الفرقة متى كانت من الزوج فلها النفقة، وإن كانت من جهة المرأة إن كانت بحق لها النفقة،

وإن كانت بمعصية لا نفقة لها، وإن كانت بمعنى من جهة غيرها فلها النفقة. (هندیہ قدیم زکریا / ۱، ۵۵۷، جدید مکتبہ اتحاد / ۶۰۵) اور اسی طرح کی عبارت قدرے اختلاف کے ساتھ ”تاتارخانیہ ۳۹۹/۵، رقم: ۸۳۰۲، قاضی خاں علی ہامش الہندیہ قدیم ۱/۵۵۷“ میں موجود ہے۔ اور اس کو ”ابحر الرائق“ میں ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

وتلزم النفقة ما لم تنقض العدة وقوله: المعتدة إذا خرجت من بيت العدة تسقط نفقتها ما دامت على الشوز، فإن عادت إلى بيت الزوج كان لها النفقة والسكنى. (البحر الرائق، کراچی ۴/۱۹۹)

متاع یا متعد کا حکم

سوال [۱۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ متاع یا متعد سے کیا مراد ہے؟ متاع یا متعد کس مطلقہ کے لئے واجب ہوتا ہے؟ اور متعد واجب کو متین کرنے کا حق شوہر کو ہے یا میاں یا بیوی دونوں کو؟ اور کیا ہر قسم کی مطلقہ کے لئے متعد دینے کا حکم ہے؟

المستفتی: مسلم پرشنل لاء بورڈ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال کا جواب تحریر کرنے سے پہلے قرآن کی دو آیتوں کو نقل کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

- (۱) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِعُوهُنَّ عَلَى الْمُؤْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ۔ [آلہ البر: ۲۳۶]
- (۲) وَلِلْمَطَّلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ۔ [آلہ البر: ۲۴۱]

ان دونوں آیتوں میں متاع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، شاید سوال نامہ میں انہیں آیتوں کی مناسبت سے لفظ ”متاع“، استعمال کیا گیا ہے، مگر حضرات فقہاء عمومی طور پر لفظ متاع کے بجائے ”متعہ“ کا لفظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اس سے مراد حضرات فقہاء کے نزدیک عورت کے کچھ ضروری کپڑے وغیرہ ہیں، مثلاً درع، یعنی قبص، خمار یعنی دوپٹہ، ملحفہ یعنی وہ کپڑا جو سر سے لے کر پیر تک ڈھانپنے کے لئے ہوتا ہے، جس کو بر قع بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ شامیؒ نے اس پر بحث کرتے ہوئے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ عربوں میں عام طور پر ان تین کپڑوں کا استعمال زیادہ رہا ہے؛ لیکن حجم میں قبص کے نیچے از اریا شلوار کا پہننا بھی ضروری ہوتا ہے؛ اس لئے علامہ شامیؒ نے دو چیزوں کا اضافہ مزید فرمایا ہے:

(۱) از اریا شلوار (۲) مکعب، کوئی پھول دار چادر۔ بہر حال متعہ سے عام طور پر یہی چیزیں مرادی جاتی ہیں اور بعض فقہاء نے کچھ مزید توسع دے کر اس کے لئے الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ متعہ سے مراد نہ کورہ اشیاء ہیں یا وہ مال ہے جو شوہر اپنی مطلاقہ بیوی کو مہر کے علاوہ کچھ اضافہ کے طور پر دیتا ہے جس کو حضرات فقہاء نے اس طرح کے الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

أما تفسير المتعة الواجبة فقد قال أصحابنا: إنها ثلاثة أثواب: درع، و خمار، و ملحفة. (بدائع، زکریا ۲/۶۰۳، در مختار زکریا ۴/۲۴۴، کراچی ۳/۱۱۰)
اس عبارت کے نیچے شامیؒ نے نقل فرمایا ہے کہ ان تین چیزوں پر دو چیزوں کا اضافہ مزید کیا جائے گا، جس میں از اریا شلوار اور پھول دار چادر شامل ہے، ملاحظہ فرمائیے:

قال فخر الإسلام: في ديارهم، أما في ديارنا فيزيد على هذا إزار، ومكعب كذا في الدرابية، ولا يكفي إغفاء الملحفة عن الإزار إذ هي بهذا التفصيل إزار إلا أن يتعارف تغايرهما كما في مكة المشرفة.

(شامی، زکریا ۴/۲۴۴، کراچی ۳/۱۱۰)

اس کو ”الفقه الإِسلامي“ میں اس طرح کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے:
الممتعة المراده هنا هي الكسوة أو المال الذي يعطيه الزوج للمطلقة زبادة على الصداق أو بدلًا منه كما في المفوضة لتطيب نفسها. (الفقه
 الإسلامي وأدله ۳۰۶/۷)

متعہ کی مستحق کوئی مطلقہ؟

متعہ کے پیش نظر مطلقہ عورتیں چار قسموں پر ہیں:

(۱) وہ مطلقہ عورت جس کے لئے بوقت نکاح مہر متعین کیا جا چکا ہو یا طلاق سے پہلے اس کا مہر متعین ہو چکا ہو اور اس کو شوہرن نے قبل الدخول طلاق دے دی ہو، تو ایسی عورت کے لئے نصف مہر واجب ہو جاتا ہے اور اس کو نصف مہر کے علاوہ مزید اوپر سے متعہ کے نام سے کچھ دینا مستحب بھی نہیں ہے؛ اس لئے کہ اس کو نصف مہر یوں ہی مل گیا ہے اور شوہرن نے اس سے کسی قسم کا استفادہ نہیں کیا؛ اس لئے نصف مہر کے علاوہ مزید اوپر سے کچھ دینا مستحب بھی نہیں ہے۔

(۲) وہ مطلقہ عورت جس کے لئے مہر متعین نہیں کیا گیا ہے یا وہ مفوضہ عورت جس نے اپنے آپ کو شوہر کے لئے سونپ دیا ہے اور کوئی مہر متعین نہیں ہوا ہے اور شوہرن نے اس کو قبل الدخول طلاق دے دی ہے، تو ایسی عورت کے لئے نہ مہر مثل لازم ہے اور نہ ہی مہر مثل کا نصف حصہ دینا لازم ہے؛ بلکہ اس کے لئے اوپر کی تفصیل کے مطابق دینا شوہر پر واجب ہے۔

(۳) وہ مطلقہ عورت ہے جس کے لئے مہر متعین کیا جا چکا ہو اور دخول یا خلوت صحیح کے بعد شوہرنے اس کو طلاق دے دی ہو، تو اس کو طلاق کے بعد طے شدہ مہر ادا کر دینے کے بعد مزید اوپر سے متعہ کے نام سے کچھ دینا مستحب اور افضل ہے۔

(۴) وہ مطلقہ عورت ہے جس کے لئے مہر متعین نہیں کیا گیا ہے اور شوہرنے اس کو دخول و ہم بستری کے بعد طلاق دے دی ہے، تو ایسی عورت کو مہر مثل ادا کرنا واجب ہے اور مہر

مثل کی ادائے گی کے بعد متعہ کے عنوان سے مزید پکھد دینا بھی مستحب اور افضل ہے۔ اس تفصیل سے مطلقة کی چاروں قسموں کا حکم واضح ہو گیا ہے کہ پہلی قسم کے لئے صرف نصف مهر لازم ہے اور متعہ دینا مستحب بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ قسم کے لئے مهر کے نام سے کچھ بھی دینا واجب نہیں، مگر متعہ دینا واجب ہوتا ہے اور تیسرا اور چوتھی قسم کی مطلقة سے شوہرن استفادہ اور استمناع حاصل کیا ہے؛ اس لئے ان دونوں قسم کی عورتوں کا مهر ادا کرنا شوہر پر واجب ہے اور مزید اوپر سے متعہ کے طور پر کچھ دینا مستحب و افضل ہے، مگر لازم یا واجب نہیں ہے، اس کو حضرات فقهاء نے اپنے اپنے الفاظ میں کافی وضاحت کے ساتھ تحریر فرمایا ہے۔ ”تاتار خانیہ“ میں اس کو ان الفاظ میں نقل فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

المطلقات أربع: مطلقة قبل الدخول والتسممية وهي التي تجب لها المتعة، ومطلقة بعد الدخول وقد سمى لها مهراً، ومطلقة بعد الدخول ولم يسم لها مهراً فيستحب لها المتعة، ومطلقة قبل الدخول بعد التسممية وهي التي لا تستحب لها المتعة ولا تجب؛ لأنها تأخذ نصف المهر منه من غير أن يستوفي الزوج منها شيئاً، فنزل ذلك منزلة المتعة فلا تستحب لها المتعة مع ذلك. (الفتاوى التاتار خانية ۴ / ۲۲۲، رقم: ۶۰۲۴)

ہندیہ اور شامی میں اس کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے:

فالمطلقات أربع: أي مطلقة قبل الوطء أو بعده سمى لها أولاً، فالمطلقة قبله إن لم يسم لها فمتعتها واجبة وإن سمى فغير واجبة، ولا مسححة أيضاً على ما هنا، والمطلقة بعده متعتها مسححة سمى لها أولاً. الخ (شامی، زکریا ۴ / ۲۴۶، کراچی ۳ / ۱۱۱، هندیہ زکریا قدیم ۱ / ۳۰۴، جدید ۱ / ۲۷۰)

”محیط برہانی“ میں اس کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے ملاحظہ فرمائیے:

ثم المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول بها إذا لم يسم لها مهراً في

كل فرقه جاءت من قبل الزوج، وإذا جاءت من قبل المرأة فلا متعة فيها وإن لم يسم لها مهراً، وإنها مستحبة لـ كل مطلقة يرید بالمطلقة بعد الدخول بها إذا لم يكن في النظام تسمية أو كان فيه تسمية، والمطلقة قبل الدخول بها كان في النكاح تسمية. وفي القدوري: وكل فرقه جاءت من قبل المرأة فلا متعة فيها، وإن كان من قبل الزوج ففيها المتعة، وفيه أيضاً، وكل فرقه من جهة الزوج بعد الدخول يستحب فيها المتعة إلا أن يرتد وبأبی الإسلام، وفيه أيضاً ولو خيّر امرأته فاختارت فهي فرقه من جهة الزوج. (المحيط البرهاني، المجلس العلمي / ۱۵۵، رقم: ۳۹۰-۴)

متعه کی ادائے گی میں شوہر کی حالت کا اعتبار کیا جائے یا عورت کی حالت کا؟ تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض نے قرآن کریم کی آیت ﴿عَلَى الْمُؤْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ﴾ [البقرة: ۲۳۱] کے پیش نظر شوہر کی حالت کا اعتبار کیا ہے اور بعض علماء نے متعدد اجہہ کے پیش نظر عورت کی حالت کا اعتبار کیا ہے اور بعض علماء نے دونوں کی حالتوں کا اعتبار کرتے ہوئے دونوں کی معیار زندگی کے پیش نظر درمیانی را اختیار کرنے کی بات کی ہے، اس سلسلہ میں بداع کی عبارت زیادہ واضح ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

وَأَمَّا بَيْانُ مَنْ تَعْتَبِرُ الْمَمْتُوعَ بِحَالِهِ، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْرُ الْمَمْتُوعَ يُعْتَبَرُ بِحَالِ الرَّجُلِ فِي يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَعْتَبِرُ بِحَالِ الْمَرْأَةِ فِي يَسَارِهَا وَإِعْسَارِهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَعْتَبِرُ بِحَالِهِمَا جَمِيعًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمَمْتُوعَ الْوَاجِبَةُ تَعْتَبِرُ بِحَالِهِ الْمَمْتُوعَ الْمُسْتَحْبَةُ تَعْتَبِرُ بِحَالِهِ وَجْهَ قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُؤْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ﴾ [البقرة: ۲۳۶]

جعل المتعة على قدر حال الرجل في يساره وإعساره. (بدائع

سوال نامہ میں یہ بات اٹھائی گئی ہے کہ بہت سے مسلم ممالک میں مطلقہ کو متعہ یا متاع کے نام سے دو یا تین سال کے نفقہ کی رقم لازمی طور پر دلائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ جن مسلم ممالک میں دو یا تین سال کا نفقہ دلایا جاتا ہے یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، ان ممالک کی انتظامیہ کے لوگ اپنے نظام کے پیش نظر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، مگر یہ شریعت کا حکم نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجہ سے ہندوستان جیسے ممالک میں شریعت کے خلاف خطرناک حکم جاری ہونے کا خطرہ ہے جیسا کہ شاہ بانو کیس میں ایسا ہی ہوا ہے، سپریم کورٹ نے عبد اللہ یوسف کے اگر بیزی ترجمہ سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ حکم جاری کیا تھا کہ مطلقہ عورت کو شوہر کی جانب سے تا حیات یا تانکاح ثانی نان و نفقہ دینا لازم ہے اور مزید اوپر سے قرآن کریم کی آیت کا غلط معنی پہننا کر حکم جاری کیا گیا ہے جو قطعاً غلط ہے؛ اس لئے جن مسلم ممالک میں اس طرح سے نفقہ دلایا جاتا ہے اس کا مذکورہ بھی ہندوستان میں مناسب نہیں۔



يَارَبِّ صَلُّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدًا ☆ عَلَى حَيْثِكَ خَيْرُ الْخُلُقِ كُلُّهُمْ
اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ الحدیث

(المعجم الكبير / ۲، ۱۳۵، برقم: ۱۵۷۰)

(مفتي) شبیر احمد قادری

خادم الحدیث والافتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد (یو-پی)

بروز جمعرات نیم محرم الحرام ۱۴۳۳ھ

طلاق غضبان اور طلاق بدی کا تحقیقی جائزہ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُولِہِ الْکَرِیمِ أَمَّا بَعْدُ!

فلسطینی مجلس افتاء کی طرف سے اسلامک فقہہ اکیڈمی انڈیا کے پاس طلاق غضبان اور طلاق بدی سے متعلق تحقیق و تدقیق طلب کی گئی ہے کہ ان دونوں مسئلتوں میں ائمہ اربعہ اور جمہور کے مسلک سے عدول کر کے قول شاذ پر فتویٰ جاری کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اور اسلامک فقہہ اکیڈمی نے جواب کے لئے ہمارے یہاں بھی عربی سوال نامہ بھیجا ہے، یہاں پر عربی سوال نامہ کا خلاصہ اور جواب پیش کیا جا رہا ہے ہے ملاحظہ ہو:

فلسطینی مجلس افتاء کی طرف سے دونوں مسئلتوں کے متعلق اسلامک فقہہ اکیڈمی انڈیا سے تحقیق طلب کی گئی ہے۔

پہلا مسئلہ: طلاق غضبان سے متعلق ہے، معمولی معمولی باتوں پر میاں بیوی کے درمیان اڑائی پیدا ہوتی ہے اور شوہر غلبہ غضب میں آکر کے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور طلاق بھی تین طلاق دے بیٹھتا ہے، اس کے بعد مفتیان کرام سے جواز کا فتویٰ طلب کرتا ہے اور اس طرح سے ہزار ہا ہزار گھر انے غصہ کی حالت میں طلاق دینے کے بعد پھر بیوی کو ساتھ میں رکھتے ہیں تو کیا اس مسئلہ میں اس بات کی گنجائش ہے کہ جن علماء کے نزدیک طلاق غضبان واقع نہیں ہوتی ہے، ان کے قول پر عمل کر کے عدم وقوع طلاق کافتوی جاری کر دیا جائے؟

دوسرامسئلہ طلاق بدی سے متعلق ہے: دوسرا مسئلہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ طلاق بدی اگرچہ ائمہ اربعہ اور جمہور کے نزدیک واقع ہو جاتی ہے، لیکن بعض

علماء کے نزدیک واقع نہیں ہوتی، تو کیا جن علماء کے نزدیک واقع نہیں ہوتی ہے، ان کے قول پر عمل کر کے عدم قوع طلاق کا فتویٰ جاری کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر ہزاروں گھر انے ایسے ہیں جن میں شوہرنے بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دیدیں، اس کے بعد اپنے پاس رکھنے لگے، اسی طرح جس طہر میں بیوی سے ہم بستری ہوئی ہے اس میں شوہرنے بیوی کو تین طلاق دیدیں یا حالت جیض میں تین طلاق دیدیں ہیں اور پھر بیوی کو اپنے پاس رکھنے لگے یہ سب طلاق بدیعی کے دائرہ میں داخل ہیں۔ اس طرح طلاق بدیعی دے کر کے شوہربیوی کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور ہزاروں خاندان اسی طرح کی زندگی گذانے میں مبتلا ہیں، تو کیا جن علماء کے نزدیک طلاق بدیعی واقع نہیں ہوتی ہے، ان کے قول پر عمل کر کے فتویٰ جاری کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: مجلس الاسلامی للفتاویٰ بیت المقدس الداخل لفسطین

۱۲۔ ارشاد المکر م ۱۳۳۶ھ

نouث: یہ سوال دارالافتاء مرسر شاہی میں ماہ محرم الحرام ۱۴۳۷ھ میں آیا ہے
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ میں ایک ساتھ دو مسئللوں سے متعلق دریافت کیا گیا ہے۔

پہلا مسئلہ طلاق غضبان سے متعلق ہے اور دوسرا مسئلہ طلاق بدیعی سے متعلق ہے کہ طلاق بدیعی واقع ہوتی ہے یا نہیں؟

اب دونوں مسئللوں سے متعلق روایات اور فقہی جزئیات کے ذریعہ سے جو بات ثابت ہوتی ہے، وہ کسی بھی تجربہ کا رعلام اور مفتی سے مخفی نہیں ہے۔ اور دونوں مسئللوں میں ائمہ اربعہ اور جمہور کا اتفاق ہے اور صرف حافظ ابن قیم جوزیؒ جیسے چند حضرات کا اختلاف ہے اور ان کے اختلاف کو خارق اجماع بھی کہا جاسکتا ہے، اس تہمید کے بعد دونوں مسئللوں کو الگ الگ سرخیوں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔

مسئلہ نمبر اول: طلاق غصبان

حالت غصب میں طلاق دینے سے متعلق کچھ وضاحت کی ضرورت ہے، شوہرا پنی بیوی کو خوشی سے کبھی طلاق نہیں دیتا؛ بلکہ غیظ و غصب اور غصہ کی حالت ہی میں طلاق دیتا ہے، اور حضرات فقہاء نے غیظ و غصب اور غصہ کے تین درجات بیان کئے ہیں۔

درجہ نمبر ۱: غصہ کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا ہوش و حواس بدستور باقی رہتا ہے اور ہر چیز کو اپنی جگہ بدستور سمجھتا ہے، اس حالت میں طلاق دینے سے سب کے نزدیک طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

درجہ ۲: غصہ کا دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا غیظ و غصب اس کے اوپر غالب ہو جائے کہ وہ سب کچھ کھو یہیٹھے، اس کی عقل و دلش بالکل جاتی رہے، اور اس کا حال مجنون اور مغمی علیہ کی طرح ہو جائے جس کو فقہاء نے مد ہوش سے تعبیر کیا ہے، چنانچہ اس سلسلے میں فقہاء نے طلاق مد ہوش کے عنوان سے سرخیاں قائم کی ہیں، اس حالت کی طلاق با تقاضہ فقہاء واقع نہیں ہوتی، لیکن علامہ شامیؒ نے اس بارے میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ اگر عادل گواہوں نے اسکے سامنے شہادت دی ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اور ان کی باتوں پر اسے یقین اور اعتماد ہو کہ انہوں نے صحیح کہا ہے تو ایسی صورت میں اسکی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، اس حالت سے متعلق فقہاء کے دلائل کے ساتھ مستقل ایک سرخی کا عنوان آگے آ رہا ہے۔

درجہ ۳: غصہ کا تیسرا درجہ وہ ہوتا ہے جو نمکورہ دونوں حالتوں کے درمیان درمیان ہوتا ہے، نہ تو ہوش حواس اعتماد کے ساتھ باقی رہتا ہے، اور نہ ہی مجنون اور مغمی علیہ کی طرح بالکل بے خبر ہوتا ہے بلکہ غصہ اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے کہ کچھ یاد ہے اور کچھ یاد نہیں، اور حالت اعتماد سے تجاوز کر جاتا ہے اور غلبہ غصب کی وجہ سے کچھ کا کچھ بک دیتا ہے تو ایسی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں جمہور فقہاء کی رائے

یہ ہے کہ اسکی طلاق واقع ہو جائے گی یہی ائمہ اربعہ کا مسلک ہے، سوال نامہ میں اسی درجہ اور اسی حالت سے متعلق پوچھا گیا ہے کہ آج کل کے زمانہ میں اس طرح کے غلبہ غضب میں اکثر و بیشتر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

اب اس بارے میں غور کرنا ہے کہ ایسے حالات میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ واقع ہو گی یا نہیں؟ اگر اس حالت کی طلاق کو معتبر نہ مانا جائے تو دنیا میں طلاق کے جتنے واقعات پیش آتے ہیں ان میں سے کسی بھی واقعے میں وقوع طلاق کا حکم لگانا مشکل پڑ جائے گا۔

اسی وجہ سے ائمہ اربعہ اور جمہور نے اس حالت کی طلاق کو معتبر مانا ہے، اور فلسطین کی مجلس افتاء کی طرف سے اسی حالت سے متعلق دریافت کیا گیا ہے کہ اس حالت میں طلاق دینے کی صورت میں بعض علماء نے طلاق کے عدم وقوع کی بات کہی ہے، جیسا کہ علامہ ابن قیم جو زی کا رجحان ہے، تو اس کو اختیار کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حافظ ابن قیم جو زی کی رائے کو اختیار کیا جائے تو ہزاروں لاکھوں مسلمان طلاق دے کر حرام کاری میں بنتا رہیں گے اور منفی کے سامنے یہی بات پیش کریں گے کہ غلبہ غضب کی وجہ سے بے خبری میں طلاق دی گئی ہے، اس لئے اس مسئلے میں جمہور کی رائے سے ہٹ کر ابن قیم کی رائے کو اختیار کرنا ہمارے نزدیک خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لئے اس حالت کی طلاق کو ہم معتبر سمجھتے ہیں، اور جن لوگوں نے عدم وقوع طلاق کی بات کہی ہے، اس سے ہم کو اتفاق نہیں ہے۔

اب جزئیات ملاحظہ فرمائیں:

اس سلسلے میں کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ کی عبارت بہت واضح ہے، ملاحظہ فرمائیے:

(۱) وأما طلاق الغضبان فاعلم أن بعض العلماء قد قدّم الغضب

إلى ثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون الغضب في أول أمره فلا يغير عقل الغضبان بحيث يقصد ما يقوله ويعلمه، ولا ريب في أن الغضبان بهذه المعنى يقع طلاقه وتنفذ عبارته باتفاق.

الثاني: أن يكون الغضب في نهايته بحيث يغير عقل صاحبه ويجعله كالجنون الذي لا يقصد ما يقول ولا يعلم، ولا ريب في أن الغضبان بهذا المعنى لا يقع طلاقه لأنّه هو والجنون سواء.

الثالث: أن يكون الغضب وسطابين الحالتين بأن يستد ويخرج عن عادته؛ ولكنه لا يكون كالجنون الذي لا يقصد ما يقول ولا يعلم، والجمهور على أن القسم الثالث يقع به الطلاق. (كتاب الفقه على المذاهب الأربع، ۴/۲۹۴)

(۲) اس کو فتح الباری میں بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر اس حالت میں طلاق دینے سے عدم وقوع کی بات کہی جائے تو شخص یہی کہے گا کہ میں نے غلبہ غضب میں طلاق دی ہے، لہذا طلاق واقع نہ ہو، اور اس کی وجہ سے امت میں ایک بڑا فتنہ برپا ہو سکتا ہے، اور لوگ طلاق دے کر حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔

فتح الباری کتاب الطلاق باب الطلاق فی الاغلاق والکره والسران، بخاری کے ترجمۃ الباب کے تحت میں تشرح کرتے ہوئے فتح الباری کی عبارت ہے، ملاحظہ فرمائیے:
قال إن طلاق الناس غالباً إنما هو في حال الغضب، وقال ابن المرابط الإغلاق حرج النفس، وليس كل من وقع له فارق عقله، ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان، لكان لكل أحد أن يقول في ماجناته، كثت غضبانا، وأراد بذلك الرد على من ذهب إلى أن الطلاق في الغضب لا يقع

(فتح الباری، مطبع قاهرہ ۳۰۱/۹، ومکتبۃ اشرفیۃ ۹/۴۷۴)

(۳) علامہ شامیؒ نے ابن قیمؒ کے قول کو نقل کرنے کے بعد غاییہ کے حوالہ سے اس کی مخالفت کی عبارت نقل فرمائی کہ ابن قیمؒ کے قول پر رد فرمایا ہے، شامیؒ کی عبارت ملاحظہ فرمائیے:
قلت: وللحافظ ابن القیم الحنبلی رسالتہ فی طلاق الغضبان قال
فیها: إنه على ثلاثة أقسام:

أحدھا: أن يحصل له مبادى الغضب بحیث لا یتغیر عقله یعلم ما یقول ویقصدہ، وهذا إشكال فیه.

الثانی: أن یبلغ النهاية فلا یعلم ما یقول ولا یريده فهذا لا ریب أنه لا ینفذ شيء من أقواله. الثالث من توسط بين المرتبین بحیث لم یصر كالمحنون فهذا محل النظر، والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله ملخصاً من شرح الغایة الحنبلية، لكن أشار في الغایة إلى مخالفته في الثالث: حيث قال: ويقع طلاق من غضب خلافاً لابن القیم وهذا المواقف عندنا لمامر في المد هوش. (شامی زکریا ۴/۴۵۲ و کراچی

(۲۹/۲۴۴)، الموسوعة الفقهية

طلاق مد ہوش

مد ہوشی کی حالت اسی کو کہا جاتا ہے، کہ جس حالت میں آدمی ہوش وہ واس سے بالکل محروم ہو جاتا ہے، جیسے مجنون اور مغمی عليه کا حال ہوتا ہے، وہی مد ہوش شخص کا حال ہوتا ہے، اس حالت میں زبان سے طلاق نکلے اس کو کسی قسم کی طلاق دینے کی خبر نہیں ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے کیا نکلا ہے، اور اس نے کیا کہا ہے، تو ایسے مد ہوش شخص کی طلاق کے بارے میں جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ مغمی عليه اور مجنون اور نائم کی طرح اس کا حکم ہوگا، اور اس حالت میں اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

الفقہ الاسلامی کی عبارت بہت واضح ہے، ملاحظہ فرمائیے:

(۳) لا يصح طلاق المجنون، ومثله المغمي عليه والمدهوش: وهو الذى اعتزز به حال انفعال لا يدرى فيها ما يقول أو يفعل أو يصل به الانفعال إلى درجة يغلب معها الخلل فى أقواله وأفعاله بسبب فرط الخوف أو الحزن أو الغضب. (الفقہ الاسلامی وأد لته، ۷/۳۵۱)

(۵) صاحب بداع کی عبارت اس بارے میں بہت ہی مختصر ہے لیکن واضح ہے، ملاحظہ فرمائیے:

و منها أن لا يكون معتها ولا مدهوشًا ولا مبرسما ولا مغمي عليه ولا نائمًا فلا يقع طلاق هؤلاء . (بدائع الصنائع زكرياء ديو بند، ۱۵۹/۳)

اس کو علامہ شامی نے ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے،

(۶) وسائل نظماً فيمن طلق زوجته ثلثاً في مجلس القاضي، وهو مغتاظ مدھوش فأجاب نظماً أيضاً بأن الدهش من أقسام الجنون فلا يقع،

(شامی زكرياء ديو بند، ۴۵۲/۴، و کراچی ۳/۲۴)

بحر الرائق میں اس کو ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔

(۷) ولا يقع طلاق الصبي والمجنون وأراد بالمجنون من في عقله اختلال في دخل فيه المدهوش . (البحر الرائق، زكرياء ۳/۴۵۳)

لیکن علامہ شامی نے تفصیلی بحث کرتے ہوئے والواصہ کے حوالے سے یہ بات بھی نقل فرمائی ہے کہ حالت مدھوشی میں اگر بیوی کو طلاق دے دی ہے اور اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے، پھر ایسے دو گواہوں نے اس کے سامنے شہادت دی ہے جو عادل ہیں اور ان کی باتوں پر اس کو اعتماد ہے، تو ایسی صورت میں، ان کی باتوں پر اعتماد کر کے وقوع طلاق کو تسلیم کر لینا اس کے لیے جائز ہوگا، یعنی یہ ایک احتیاط کا پہلو ہے، کہ اس حالت کی طلاق کو دوسروں کی شہادت کے ساتھ تسلیم کر لیا جائے، اور بیوی کو اپنے سے الگ کر دیا جائے، اگر فلسطین کی مجلس افتاء کو اس حالت سے متعلق رائے معلوم کرنی ہے، کہ اس حالت میں عدم وقوع طلاق کی بات کی جائے تو اس سے اتفاق کرنا مناسب ہے۔

علامہ شامی کی عبارت ملاحظہ فرمائے:

(۸) لو طلاق فشهاد عنده اثنان أنك استشيت وهو غير ذاكر إن كان بحيث إذا غضب لا يدرى ما يقول وسعه الأخذ بشهادتها وإلا . فإن

مقتضاه أنه إذا كان لا يدرى ما يقول يقع طلاقه وإنما فلا حاجة إلى الأخذ بقولهما إنك استثنين (وقوله) ثم رأيت ما يؤيد ذلك الجواب وهو أنه قال في الولوالجية: إن كان بحال لوعصب يجري على لسانه مالا يحفظه بعده جاز له الاعتماد على قول الشاهدين، قوله لا يحفظه بعده صريح فيما قلنا. (شامی ز کریا ۴۵۳، کراچی ۳/۲۴۴)

فتاویٰ والوالجیہ کی عبارت اس بارے میں بہت واضح ہے کہ مدھوش کی طلاق اس وقت معتبر ہو جاتی ہے کہ اس کے سامنے قابل اعتماد دو آدمی آگر شہادت دیدیں اور اس کو ان کی شہادت پر اعتماد ہے تو اس کا اعتبار کر کے اس پر عمل کرنا اس کے لئے مناسب ہے۔
عبارت ملاحظہ فرمائے:

(۹) رجل طلق امرأته فشهد عنده شاهدان: أنك استثنين
موصولاً، وهو لا يذكر: إن كان هذا الرجل بحال لوعصب يجري على لسانه مالا يحفظ بعده جاز له الاعتماد على قول الشاهدين، لأن الظاهر يقرر قول الشاهدين، وإن لم يكن بحال إذا غصب يجري على لسانه مالا يحفظ لا يجوز له الاعتماد لأنه يخالف الظاهر. (الفتاوى الولوالجية، مکتبہ

دارالایمان سہار نفور ۵۵/۲، الفصل الثالث فی الاستثناء وغیره الى آخره)
ان دلائل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر مدھوش شخص کو معتبر دو گواہوں نے آکر نہیں بتایا ہے تو وہ اس طلاق پر عمل کرنے کا مکلف نہیں ہے، اور اگر شہادت مل گئی ہے تو اس پر عمل کرنا مناسب ہے۔

طلاق غضبان سے متعلق حدیث شریف

طلاق غضبان سے متعلق حضرت عائشہؓ کی حدیث نقل کی جاتی ہے جو حضرت صفیہ بنت شبیہ بن عثمان بن طلحہ صاحب کلید الکعبۃ حضرت عائشہؓ سے یہ روایت نقل کرتی ہیں،

اور صفیہ بنت شیبہ سے نقل کرنے والے روایت پانچ ہیں، (۱) محمد بن عثمان (۲) زکریا بن ابی زائدہ (۳) عبیدہ بن سفیان (۴) عبید بن ابی صالح (۵) محمد بن عبید بن ابی صالح، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد ۲۷۶۱/۲، حدیث: ۲۶۸۹۲، میں محمد بن عبید بن ابی صالح کی سے نقل فرمائی ہے، اور امام أبو داؤد نے بھی محمد بن عبید بن ابی صالح سے نقل فرمائی ہے، اور امام دارقطنی نے دور و ایقین نقل فرمائی ہیں۔

(۱) محمد بن عبید بن ابی صالح کی روایت ہے، جیسا کہ اوپر کے مدحیں نے نقل فرمائی ہے، اور محمد بن عبید بن ابی صالح کو سب نے متكلم فیہ ثابت کر کے ضعیف قرار دیا ہے، لہذا مسند احمد سنن ابی داؤد، اور دارقطنی کی یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور ثابت ہوتی ہے، اور دارقطنی کی دوسری روایت میں صفیہ بنت شیبہ کے شاگرد زکریا بن زائدہ اور محمد بن عثمان ہیں، یہ دونوں ثقہ ہیں، لیکن ان دونوں کے شاگرد قزعۃ بن سوید ہیں، اور قزعۃ بن سوید کو بھی ضعیف اور کمزور قرار دیا گیا ہے؛ اس لئے دارقطنی کی یہ روایت بھی کمزور ثابت ہو گی اور مصنف ابن شیبہ ۵/۳۷، حدیث ۱۸۳۲۲، اور ابن ماجہ نسخہ ہندیہ ص ۱۷۲، اور نسخہ مرقم ۲۰۳۶، میں باب طلاق المکرہ کے ذیل میں صفیہ سے روایت نقل کرنے والے عبید بن صالح کو قرار دیا ہے، عبید کے بیٹے محمد کا ذکر ہی نہیں ہے، بہر حال اس روایت کو اگر کمزور بھی قرار دیا جائے تو کثرت طرق کی وجہ سے ضعف اور کمزوری دور ہو کر کسی حد تک قوت آگئی ہے۔

اور امام أبویعلی الموصی نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو نقل فرمایا ہے، ان کی روایت میں صفیہ بنت شیبہ کے شاگرد عبیدہ بن سفیان ہیں، جو ثقہ راوی ہیں اور ان کی سند میں قزعۃ بن سوید آیا ہے، اور نہ ہی محمد بن عبید بن ابی صالح آیا ہے، لہذا حدیث کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ حدیث شریف صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔

اب اس تفصیل کے بعد حدیث شریف کامتن ملاحظہ فرمائیے:

(۹) عن عائشة[ؓ] قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق

ولاعتقاف فی إغلاق (مسند أبو يعلى الموصلى / ۴، رقم ۷۳/۴، رقم ۴۴۲۷، مصنف لابن أبي شیعہ / ۹، رقم ۵۷۳، رقم ۱۸۳۴۲، مسنند امام احمد بن حنبل / ۶، ۲۷۶/۶، رقم ۲۶۸۹۲، أبو داؤد شریف نسخہ هندیہ / ۱، رقم ۲۹۸، این ماجھ نسخہ هندیہ ص ۱۴۷، رقم ۲۰۴۶، دارقطنی / ۴، رقم ۳۹۴۳، ۳۹۴۴) دوسری بات حدیث شریف کے متن پر غور کرنا ہے متن میں اغلاق کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی کی تعین میں سخت اختلاف ہوا ہے، بعض لوگوں نے اس کا معنی اکراہ کا کیا ہے، اور امام بخاری نے بھی اپنے ترجمہ الباب میں اسی طرف اشارہ کیا ہے اور امام ابن ماجہ نے بھی طلاق مکرہ کے ذیل میں ذکر کیا ہے، اور صاحب بذل نے قیل کے لفظ سے اغلاق کے معنی غصب کے لئے ہیں، بذل الجھود قدیم نسخہ هندیہ / ۳، ۲۷۶، اور صاحب اعلاء السنن نے قال شیخنا کہہ کر کے یہ عبارت نقل کی ہے، ملاحظہ فرمائے:

(۱۰) والصواب أنه يعم الإكراه والغضب والجنون وكل أمر انغلق على صاحبه علمه وقصده، مأخوذ من غلق الباب، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. (اعلاء السنن کراچی ۱۱/۱۱، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۲۰۸/۱۱) اور اعلاء السنن کی پوری عبارت یہ ہے:

والمراد الغضب الذي يحصل به الدهش وزوال العقل فإن قليل الغضب لا يخلو الطلاق عنه إلا نادرًا. وقد قلنا بعدم وقوع الطلاق في مثل هذا الغضب قال الزيلعى: قال في التنسیح: وقد فسره أحمد أيضًا بالغضب. قال شیخنا : والصواب أنه يعم الإكراه والغضب والجنون وكل أمر انغلق على صاحبه علمه وقصده، مأخوذ من غلق الباب، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال (اعلاء السنن دارالكتب العلمية بيروت ۱۱/۲۰۸) اگر اس کو اکراہ کے معنی میں نہ لے کر غصب کے معنی میں لیا جائے تو غصب کے تینوں درجات میں سے وہ درجہ مراد ہو گا، جس میں آدمی حالت غصب کی وجہ سے مغمی علیہ اور مجنون

کی طرح بے خبر ہو جاتا ہے، جس کو مددوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اس تفصیل کے بعد حدیث شریف کے متن کو غضب کے معنی میں لینے کی صورت میں طلاق مددوں ہونا متعین ہو چکا ہے، اور مددوں کی طلاق با تقاض علماء واقع نہیں ہوتی ہے، لہذا حدیث شریف سے استدلال کر کے درجہ دہشت اور مددوں سے ہلکے درجے کے غضب کی طلاق مراد نہیں لی جاسکتی، اور مددوں اور مغمی علیکی طلاق جمہور کے نزدیک واقع نہیں ہوتی ہے۔

مسئلہ نمبر ۲: طلاق بدیعی

دوسرے مسئلہ طلاق بدیعی سے متعلق اٹھایا گیا ہے، کہ طلاق بدیعی جمہور کے نزدیک واقع ہو جاتی ہے، بعض اقوال شاذہ میں طلاق بدیعی واقع نہیں ہوتی ہے، تو کیا آج کے زمانے میں کثرت طلاق کی وجہ سے قول شاذ پر عمل کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ جیسے ادن قیم جوزی وغیرہ کا قول ہے، اس سلسلے میں مختصر وضاحت ذیل میں پیش کی جا رہی ہے کہ طلاق بدیعی کی دو قسمیں ہیں:

طلاق بدیعی بالزمان یعنی زمانہ اور وقت کی وجہ سے اس میں کراہت آتی ہے۔

(۱) وأما البدعى فنوعان: بدعى بمعنى يعود إلى العدد، وبدعى بمعنى يعود إلى الوقت؛ فالذى يعود إلى العدد أن يطلقها ثلاثة في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقة. وفي الخزانة: أو طلقها أكثر من ثلاثة، أو يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة أو بكلمتين متفرقتين. وفي الفتاوی الخلاصۃ: سواء كانت المرأة مدخولۃ أو غير مدخولۃ، أو من تحيض أو لا تحيض، وفي الهدایۃ: فإذا فعل ذلك وقع الطلاق و كان عاصیا. (الفتاوی التاتار حانیۃ زکریا کتاب الطلاق، الفصل الأول في بيان أنواع الطلاق / ۴، رقم ۳۸۰، ۶۴۷۶، الهندیۃ زکریا، کتاب الطلاق، الباب الأول في تفسیره ورکنه الخ، قدیم ۹/۳۴، جدید ۱/۴۱، بدائع الصنائع زکریا، کتاب الطلاق، فصل في طلاق البدعة / ۳، ۱۴۹)

اب اس کے بعد طلاق بدیعی کی دونوں قسموں سے متعلق الگ الگ عنوان قائم کر کے وضاحت پیش کی جاتی ہے۔

(۱) طلاق بدیعی بالعدد:

طلاق بدیعی بالعدد کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک جملہ میں تین طلاقيں دیدی جائیں، یا ایک مجلس میں تین طلاقيں دیدی جائیں، اس طرح بیک وقت تین طلاقيں واقع کر دینا سارے علماء کے نزدیک امر قائم ہے، اس کی وجہ سے شوہر گنہگار ہو جائے گا، مگر ائمہ ارجاع اور جہور امت کے نزدیک اس طرح سے ایک مجلس کی تین طلاقيں، یا ایک جملہ کی تین طلاقيں بلاشبہ واقع ہو جاتی ہیں، مگر غلط طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے شوہر گنہگار ہو گا۔

اور ابن حزم ظاہری ابن تیمیہ اور ابن قیم جوزی نے ایک مجلس کی تین طلاقيں کو ایک طلاق تسلیم کیا ہے، اور ان لوگوں کے اقوال انتہائی شاذ اور خارق اجماع ہیں، اب فقهاء کی عبارت ملاحظہ فرمائیے: صاحب ہدایۃ نے اس کو ان الفاظ میں نقل فرمایا ہے:

(۲) وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثة بكلمة واحدة، أو ثلاثة في طهير واحد، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق، وكان عاصياً. (الھدایۃ مکتبہ اشرفیہ دیوبند، کتاب الطلاق، باب طلاق السنۃ ۳۵۵/۲)

اس کو علامہ شامی نے مزید واضح الفاظ سے نقل فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

(۳) والبدعي ثلات متفرقة أو ثنتان بمرة أو مررتين في طهير واحد لارجعة فيه أو واحدة في طهير وطئت فيه أو واحدة في حيض موطوءة وتجب رجعتها أي الموطوءة المطلقة في الحيض، قوله على الأصح مقابلة قول القدورى أنهما مستحبة لأن المعصية وقعت، فتعذر ارتفاعها.

(شامی زکریا، کتاب الطلاق، مطلب طلاق الدرر ۴/۳۴-۴۳۵، کراچی

(۲) صاحب بحر نے اس کو ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

(وثلاثاً في طهر أو بكلمة بدعي) أي تطليقها ثلاثة متفرقة في طهر واحد أو ثلاثة بكلمة واحدة بدعي، أي منسوب إلى البدعة والمراد بها هنا المحرمة لأنهم صرّحوا بعصيانه، ومراده بهذا القسم ماليس حسناً ولا أحسن، ولذا قال في فتح القدير: طلاق البدعة ما خالف قسمي السنة، فدخل في كلامه ما لو طلق ثنتين بكلمة واحدة أو متفرقاً أو واحدة في طهر، قد جامعها فيه أو في حيض قبله. (البحر الرائق زکریا، کتاب الطلاق ۳/۴۱۷-۴۱۸)

اس سلسلہ میں علامہ عینیؒ کی عبارت بہت مختصر ہے، مگر بہت زیادہ واضح ہے، ملاحظہ فرمائیے:

(۵) ومن طلاق أمرأته ثلاثة أو قعن لكته يا ثم وقالوا من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السنة وإنما تعلق به أهل البدعة ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة الخ. (عمدة القارئ، مطبع ۲/۲۳۳)

(۲) طلاق بدیعی بالزمان

طلاق دینے میں شریعت نے زمانہ کی بھی رعایت کی ہے کہ شریعت کے نزدیک طلاق انتہائی مبغوض اور بری چیز ہے، انتہائی ضرورت میں طلاق دینے کی اجازت دی گئی ہے، لہذا جب میاں بیوی کے درمیاں نبھاؤ کی کوئی شکل نہ ہو تو شوہر کے لیے طلاق دیدینا جائز ہے، لیکن اس میں زمانہ اور وقت کی رعایت کرنا بھی شوہر کے ذمہ ضروری ہے، اور زمانہ کی رعایت کیے بغیر طلاق دے دینے سے شوہر گنہگار ہو گا، لہذا ایسے زمانہ اور وقت میں طلاق دینا چاہئے جس میں بیوی حالت حیض یا نفاس میں نہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ حالت حیض اور نفاس کا زمانہ بیوی کے ساتھ اختلاط میں تنفس کا زمانہ ہے، جنسی ضرورت پوری کرنے کا زمانہ نہیں ہے، اس حالت میں طلاق دینے کی صورت میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ نفترت کی وجہ سے طلاق دی ہے، ضرورت کی وجہ سے نہیں، اسی طرح اس طہر میں بھی طلاق دینے کی

ممانعت ہے جس طہر میں ہمبستری ہوئی ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیوی کے ساتھ ہمبستری ہو چکی ہے تو جنسی ضرورت پوری ہو چکی ہے، اب اس حالت میں طلاق دینے کی وجہ سے یہ بات سامنے آسکتی ہے کہ ضرورت پوری ہو گئی اور کام پورا ہو گیا تو طلاق دے کر ایک طرف کر دیا، اور بلا ضرورت طلاق دی گئی ہے، اس لئے ان دونوں حالتوں میں طلاق دینے سے طلاق بدیع کہا گیا ہے، اس کی وجہ سے شوہر گنہگار ہو جائے گا اور ایسی حالت میں طلاق دینے سے شوہر گنہگار نہیں ہوتا ہے، جس میں عورت حالت حیض میں نہ ہو، اور اسی طرح ایسے طہر میں طلاق دیدے جس میں بیوی کے ساتھ ہمبستری نہیں ہوئی ہے، ان حالات میں طلاق دینا انتہائی ضرورت اور آپس میں نجماونہ ہونے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اس لیے جب بھی طلاق دینے کی ضرورت پڑے تو ایسے طہر میں دینے کی گنجائش ہوتی ہے، جس میں ہمبستری نکی گئی ہو، لہذا جس طہر میں ہمبستری ہوئی ہے، اس میں طلاق دیدے یا حالت حیض میں طلاق دیدے، ان دونوں صورتوں میں شوہر گنہگار ہو گا، مگر طلاق بھی واقع ہو جائے گی، اسی پر احمدہ اربعہ اور جمہور امت کا اتفاق ہے، اور اس کی دلیل حضرت ابن عمرؓ کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے حالت حیض میں بیوی کو طلاق دی ہے تو حضورؐ نے غصہ کا اظہار فرمایا، اور رجعت کا حکم فرمایا، اور رجعت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب طلاق واقع ہو جائے، اور اگر طلاق ہی واقع نہ ہو تو رجعت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، اور یہاں حضورؐ نے رجعت کا حکم فرمایا ہے، کیوں کہ اگر واقع نہ ہوئی تو حضورؐ رجعت کے بغیر یوں ہی رکھنے کا حکم فرماتے، اور ایسا ہے نہیں۔

اب روایات اور فقیہی جزیات ملاحظہ فرمائیے: حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے:

(۲) طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي ﷺ فقال: ليراجعها، قلت تتحسب؟ قال: أريت إن عجزوا استحقهم الحديث (صحیح البخاری، کتاب الطلاق باب إذا طلقت الحائض الخ / ۲۹۰، رقم: ۵۰۵۶، ف ۵۲۵۲، والصحیح لمسلم / ۱، ۴۷۶، رقم: ۱۴۷۱، وجامع

الترمذی، باب ماجاء فی طلاق السنة / ۱، ۲۲۲، رقم: ۱۱۷۶، أبو داؤد، کتاب الطلاق، باب فی طلاق السنة / ۱، ۲۹۶، رقم: ۲۱۸۴)

اس حدیث میں رجعت کا حکم ہے، اور اگر طلاق واقع نہ ہوتی تو رجعت کا حکم نہ فرماتے، بلکہ یوں ہی رکھنے کا حکم فرماتے یا ”لاحرج“ فرماتے، اور ایسا ہے نہیں، اس لیے ایک طلاق واقع ہو چکی ہے دوسری روایت میں ہے:

(۷) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرْهٌ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسّ الحديث. (صحیح البخاری کتاب الطلاق / ۲، ۷۹۰، رقم ۵۰۵۱، ف ۵۲۵، والصحيح لمسلم، کتاب الطلاق / ۱، ۴۷۶، رقم ۱۴۷۱) وجامع الترمذی أبواب الطلاق، باب ماجاء فی طلاق السنة / ۱، ۲۲۲، رقم ۱۱۷۶، وأبو داؤد کتاب الطلاق، باب فی طلاق السنة / ۱، ۲۹۶، رقم ۲۱۷۹) علامہ ابن تیمیہؒ اور حافظ ابن قیم جوزیؒ نے عدم وقوع کی بات کہی ہے کہ اس حالت میں کوئی طلاق نہیں ہوتی ہے، فتاویٰ ابن تیمیہؒ / ۳۳/ ۲۷، زاد المعاویہ / ۵/ ۲۱۹، ۲۲۳-۲۲۴) فقهاء کے جزئیات ملاحظہ فرمائیے:

اس کو البحر الرائق میں ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

(۸) وصَحَ طلاقهن بعد الوطءِ، وطلاق الموطوءةِ حائضاً بدعيِ، فيرجعها وتحته في البحر فيرجعها أي وجبها في الحبض للتخلص من المعصية بالقدر الممكن، لأن رفعه بعد وقوعه غير ممكن، ورفع أثره وهو العدة بالمراجعةة ممكن، والأصح وجوبها لما قلنا، وعملاً بحقيقة الأمر في قوله عليه السلام ”مرأتك فليراجعها.“ (البحر الرائق ذکریا کتاب الطلاق

۳/ ۴۱-۴۲-۴۲۲، کوئٹہ ۳/ ۲۴۲-۲۴۳)

اور اس کو تفیین الحقائق میں ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

(۹) وطلاق الموطوءة حائضاً بدعىٌ لماذكرا، وقال أهل الظاهر لا يقع لأنه منهي عنه فلا يكون مشروعاً، ولنا قوله عليه الصلا والسلام لعمر مرابنك فليراجعاها، وكان طلاقها في حالة الحيض والمراجعة بدون وقوع الطلاق محال. (تبين الحقائق، كتاب الطلاق زکریا / ۳۰، وقدیم ۱۹۳/۲)
اس کوہنڈی میں بہت واضح الفاظ سے نقل فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

(۱۰) وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق، لأن النهي عنه لمعنىٍ في غيره، وهو ماذكرا، فلا ينعدم مشروعيته، ويستحب له أن يراجعها لقوله عليه السلام لعمر مرابنك فليراجعاها، وقد طلاقها في حالة الحيض، وهذا يفيد الواقع، والحق على الرجعة، ثم الاستحباب قول بعض المشايخ، والأصح أنه واجب عملاً بحقيقة الأمر، ورفعاً للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره. (الهداية المكتبه الاشرفية دیوبند ۳۵۷/۲)

اس کوہنڈی میں ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیے:

(۱۱) وأما البدعىٌ فنوعان: بدعىٌ لمعنىٍ يعود إلى العدد، وبدعىٌ لمعنىٍ يعود إلى الوقت، فالذى يعود إلى العدد أن يطلقها ثلاثة في طهر واحد بكلمة واحدة، أو بكلمات متفرقة، أو يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمتين متفرقتين، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً، والبدعى من حيث الوقت أن يطلق المد خول بها، وهي من ذوات الأقراء في حالة الحيض، أو طهر جامعها فيه، وكان الطلاق واقعاً، ويستحب له أن يراجعها، والأصح أن الرجعة واجبة هكذا في الكافي (الهندي زکریا كتاب الطلاق، الباب الأول في تفسيره الخ، قدیم ۳۴۹/۱، وجديد ۴۱۶/۱)

(۱۲) اس مسئلہ میں الفقه الاسلامی کی عبارت زیادہ واضح ہے، ملاحظہ فرمائیے:

يقع الطلاق با تفاق المذاهب الأربع في حال الحيض أو في حال الطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه، لأن النبي صلی اللہ علیہ وسلم أمر ابن عمر بمراجعة امرأته التي طلقها، وهي حائض والمراجعة لاتكون إلا بعد وقوع الطلاق..... وقال الشیعۃ الإمامیة والظاهریہ وابن تیمیة وابن القیم یحرم الطلاق في أثناء الحیض أو النفاس أو في طھر وطھر الرجل زوجته فيه ولا ینفذ هذا الطلاق البدعی. (الفقة الاسلامییہ وأدلة ۳۸۷/۷ - ۳۸۸)

اس پوری تفصیل سے واضح ہوا کہ ائمہ اربعہ اور جمہور امت کے نزدیک طلاق بدیعی سے اگرچہ شوہر گنہگار ہو جاتا ہے، مگر طلاق لازمی طور پر واقع ہو جاتی ہے، خارق اجماع اقوال شاذہ کی وجہ سے مذاہب ائمہ اربعہ اور قول جمہور کو ترک کردینا جائز نہ ہو گا۔ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم



يَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا ☆ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلَّهُمْ
اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. الحديث

(المعجم الكبير ۲/۱۳۵، برقم: ۱۵۷۰)

(مفتي) شیر احمد قاسمی

خادم الحديث والافتاء جامعة قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد (یو-پی)

۲۸ ربیع الاول ۱۴۳۳ھ

(۱۸) باب الشهادة في الطلاق

کیا وقوع طلاق کے لئے گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟

سوال [۲۷۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیں، طلاق دیتے وقت شوہر بیوی کے علاوہ دوسرا کوئی موجود نہیں تھا اور شوہر اور بیوی دونوں اقرار کرتے ہیں کہ طلاق ہوئی؛ لیکن کوئی دوسرا گواہ موجود نہیں، تقریباً عورت کو مطلقہ ہوئے سات سال ہو گئے ہیں، اب مسئلہ ذیل کے مطابق بتائیے کہ شریعت کی روشنی میں وہ عورت مطلقہ ہوئی یا نہیں، یہ مسئلہ ایک مولوی صاحب سے معلوم کیا گیا کہ اس مسئلہ کے اعتبار سے عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؛ تو مولوی صاحب نے جواب دیا کہ پہلے گواہ پیش کرو کہ کس کے سامنے طلاق دی ہے، مولوی صاحب کا فرمان صحیح ہے یا نہیں؟ اب عورت شوہر ثانی سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ وضاحت سے اس مسئلہ کا جواب مدلل شریعت کی روشنی میں دیجئے عین کرم ہو گا۔

المستفتی: وجید الیہ عرف خورشید احمد اخوان پور محلہ تار پور مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر شوہر نے خود طلاق کا اقرار کر لیا ہے تو بلا شہادت کے تینوں طلاق واقع ہو گئیں اور عورت مطلقہ ہو گئی۔

لو أقر بالطلاق كاذباً أو هازلاً وقع قضاءً. (شامی الطلاق، قبیل مطلب

فی المسائل التي وقع مع الإكراه، کراچی ۲۳۶/۳، زکریا دیوبند ۴/۴۰، البحیر الرائق ۲۴۶/۳، زکریا دیوبند ۳/۲۸)

لہذا عدالت کے بعد عورت دوسری جگہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، مولوی صاحب کا بیان صحیح نہیں ہے۔ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفاف اللہ عنہ
۱۶ شوال المظہم ۱۴۲۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۲۹۷/۲۳)

کیا طلاق میں دو عادل کی گواہی معتبر ہے؟

سوال [۶۷۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں سائل مسمی فیض الرحمن بقیہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی سماء ثریا بیگم کے ساتھ باہمی بھگڑے کے دوران؛ جبکہ میری بیوی نے انتہائی گھنا و تالفظ میری والدہ کے لئے کہا اس پر میں نے انتہائی شدید غصہ میں؛ جبکہ مجھے خود اپنا ہوش نہ تھا میں نے تین مرتبہ لفظ طلاق، طلاق، طلاق کہا، میرا غصہ رفع ہونے کے بعد موقع پر موجود حضرات (۱) عبد القیوم (۲) عبد السلام صاحب نے میرے کہے ہوئے سخت الفاظ طلاق کی طرف توجہ دلائی میں نے اسی وقت اپنی بیوی کو اپنے سے علاحدہ کر دیا، اب سخت پریشان ہوں، میں یہ بھی بقیہ کہتا ہوں کہ میری نیت بیوی کو طلاق دینے کی بالکل نہیں تھی، انتہائی شدید غصہ میں ہوش و حواس قائم نہ رہنے پر غیر ارادی طور پر میری زبان سے اچانک یہ الفاظ ادا ہو گئے تو کیا اب ہم دوبارہ ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں؟

المسنون: فیض الرحمن بمعراج فتح محمد سلمان نعیمیہ مدرسہ مراد آباد
با اسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر آپ کو شدت غصہ میں اپنے الفاظ کہے ہوئے یا دنیہ رہے ہیں تو سننے والے دو عادل شخصوں کے قول پر اعتماد کرنا جائز ہے؛ لہذا سوانحہ میں درج شدہ حضرات اگر عادل ہوں تو انکی شہادت کا اعتبار کرتے ہوئے آپ کی بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہونے کا حکم ہوگا، اب بلا حلال دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔

وصرح به في الفتح والخانية وهو لو طلق فشهادته عند إثناين إنك استثنىت وهو غير ذاكر إن كان بحيث إذا غصب لا يدرى ما يقول وسعه الأخذ بشهادتهما وإلا لا، (إلى قوله) ثم رأيت ما يؤيد ذلك الجواب وهو أنه قال في الولوالجية إن كان بحال لو غصب يجري على لسانه ما لا يحفظه بعده جاز له الاعتماد على قول الشاهدين فقوله لا يحفظه بعده صريح، فيما قلنا. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب في طلاق المدهوش، زکریا ۴۵۳/۴، کراچی ۴۱۳، کوئٹہ ۴۶۳/۲) **فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم**

کتبہ: شیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۳۰۰ رشوال معظم ۱۳۰۷ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۷/۲۳)

شہدین طلاق کے قائل اور زوجین منکر

سوال [۶۷۹۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کو کسی بات پر مارا پیٹا، زید کے والد نے پیچ بچاؤ کر دیا، بیوی اپنے والد کے گھر چل گئی، تین لڑکوں کا کہنا ہے کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی؛ جبکہ زید اور اس کی بیوی بھی طلاق کا انکار کر رہی ہے، زید کے باپ کا کہنا ہے کہ میں نے طلاق نہیں سنی، مذکورہ بالا صورت میں طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: رئیس احمد ساکن گلی ۱۸ قلعہ راپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب میاں بیوی دونوں منکر طلاق ہیں تو اگر گواہی دینے والے تینوں لڑکے عاقل بالغ، پابند صوم و صلوٰۃ اور تبع شریعت ہیں؛ نیز داڑھی بھی حدود شریعت کے خلاف نہ ہو تو طلاق کا ثبوت ہوگا اور اگر یہ شرائط موجود نہ ہوں تو شرعاً طلاق کا ثبوت نہ ہوگا اور وہ دونوں میاں بیوی ہیں نکاح بدستور باقی ہے۔

وَاسْتَشِهْدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالٍ كُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتَانِ مِمْنُ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ . (سورة البقرة، رقم الآية: ۲۸۲)

أقل ما يجوز في حقوق الناس فيما بينهم من الطلاق والعتاق
والنكاح شهادة رجلين أو رجل و امرأتين. (الفتاوى التاتار خانية، كتاب
الشهادة، الفصل الثاني، اقسام الشهادة، ذكرى ۴۱۸/۱۱، رقم: ۱۶۴۸۸)

سوی ذلک من الحقوق قبل فيه رجلان أو رجل و امرأتان سواء
كان الحق مالاً أو غير مال مثل النكاح والعتاق والطلاق الخ. (جوهره،
دارالكتاب ۳۰/۹۲، امدادیہ ملٹان ۳۲/۶۲) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم
الجواب صحیح:

كتبه: شیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ
اختر محمد سلمان متصور پوری غفرله
۹ ربیع الاول ۱۴۳۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۰۸۳/۲۶)

گواہ غیر عادل اور زوجین طلاق کے منکر

سوال [۶۷۹] کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ شوہر کا بیان میں خدا کو حاضروناظر کر کے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایک بار
یہ کہا طلاق دی اور میں اپنے گھر واپس آ گیا۔

بیسوی کا بیان: میں خدا کو حاضروناظر کر کے قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے کچھ
نہیں سنا تھا اور نہ ہی مجھ سے پنجایت کے وقت کوئی اس بات کو معلوم کرنے آیا تھا، اور نہ ہی
میں نے یہ بات کو پنجوں سے کہی ہے، دوسرے تین آدمی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ
شوہرنے تین طلاق دی ہیں اور یہ شہادت دینے والوں میں سے ایک نمازی اور دو بے نمازی
ہیں اور جو نمازی ہے وہ بھی پانچوں وقت نماز پابندی سے نہیں پڑھتا ہے، اور میاں
بیسوی ان دونوں کی شہادت کو جھੰٹلار ہے ہیں۔

المستفتی: رئیس احمد محلہ پٹھان پورہ، نجیب آباد جنوریو پی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب میاں یوں دونوں تین طلاق کے منکر ہیں اور شہادت دینے والوں میں دو عادل پابند صوم و صلوٰۃ نہیں ہیں، تو شرعاً ایک طلاق رجعی واقع ہو گئی ہے اور عدت کے اندر اندر رجعت کر کے رکھ سکتا ہے۔

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يُكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَامْرَأَانِ مِمْنُ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ۔ (سورة البقرة، رقم الآية: ۲۸۲)

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيه رجالن، أو رجال، وامرأتان،
سواء كان الحق مالاً أو غير مال مثل النكاح، والعتاق، والطلاق الخ.

(جوهرہ دار الكتاب دیوبند ۹/۲، ۳۰، امدادیہ ملتان ۶/۲)

إذا ترك الرجل الصلوٰۃ استخفافاً بالجماعة بأن لا يستعظم تفويت
الجماعۃ كما تفعله العوام، أو مجانية، أو فسقاً، لا تجوز شهادته الخ.

(فتاویٰ عالمگیری، کتاب الشہادۃ، الفصل الثانی، فیمن لا تقبل شهادته لفسقه، زکریا
قدیم ۳/۴۶۶، ۴/۰۱/۳، ذکریا جدید ۰۱/۴۶۶، هکذا فی البحر الرائق، کوئٹہ ۱۷/۶۲، زکریا
(۱۰۴/۷) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیخ احمد تقائی عفان اللہ عنہ

۳۰ صفر المظفر ۱۴۱۰ھ

(فتاویٰ نمبر: الف ۲۵/۷۲)

ایک گواہ طلاق کا مدعاً جبکہ شوہراً اور دیگر گواہان منکر

سوال [۶۷۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کمزید نے اپنی یوں کوتین گواہوں کے سامنے دو طلاقیں صراحتہ دیں، یہ عمل زید نے ایک رشتہ دار سے جھگڑے کے دوران کیا اس کے بعد جب رشتہ دار جانے لگا تو زید نے کہا میں نے طلاق دے دی، تم اپنی بہن کو لے کیوں نہیں جاتے، خط کشیدہ الفاظ صرف ایک

گواہ کے ہیں؛ جبکہ خود زید اور دیگر دو گواہ اس سے انکار کرتے ہیں کہ زید نے ایسا نہیں کہا، (خط کشیدہ الفاظ)؛ لہذا ایسی شکل میں شرعی حکم کیا ہے۔

المستفتی: خلیف الرحمن نور پور بجنور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: چونکہ زید اور دیگر گواہان صرف دو طلاق صریح کے مقر اور شاہد ہیں اور تیسری طلاق کے وقوع کے لئے شرعاً دو گواہ کا ثبوت یا زید کا خود اقرار نہیں پایا گیا؛ اس لئے قضاۓ دو ہی طلاق رجعی واقع ہو گئی؛ لہذا زید دوران عدت بلا نکاح ثانی رجوع کر سکتا ہے۔

كَذَا فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ: الْطَّلاقُ مَرْتَانٌ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٍ بِإِحْسَانٍ . (سورة البقرة: ۲۹)

إِذَا طلقَ الرَّجُلُ امْرَأَهُ تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أَن يرجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض . (هدایۃ، الطلاق، باب الرجعة، اشرفی، هندیہ، الباب السادس فی الرجعة، زکریا قدیم ۱ / ۴۰، بکڈپو دیوبند ۳۹۴/۲، هندیہ، الباب السادس فی الرجعة، زکریا قدیم ۱ / ۵۳۳، جدید ۱ / ۵۳۳)

لکھنؤ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۳/ رب شعبان المظہرم ۱۴۳۲ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۲۶۵/۲۹)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله

۱۴۳۲/۸/۳

شرعی شہادت مفقوہ ہونے کی صورت میں تعداد طلاق کا فیصلہ کیسے کریں؟

سوال [۲۷۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی ہندہ سے کہا کہ میں تھے طلاق دے دونگا، اس کے بعد پھر کہا کہ میں نے تھے طلاق دی، یہ کلمہ دوبار کہا؛ لیکن جب زید کی بیوی سے معلوم کیا گیا تو اس نے بتلایا کہ میں نے تھے طلاق دی یہ دوبار کہا؛ لیکن الفاظ دی دی کی بار کہا اور

دو گواہاں بتلاتے ہیں کہ زید نے لفظ طلاق دو بار کہا ہے، ان گواہاں میں ایک مرد ہے اور ایک عورت، اور ایک گواہ جو کہ دوسری عورت ہے وہ کہتی ہے کہ طلاق تین بار کہا، اب اس میں کون سا قول مانا جائے گا اور کسی قول کے مطابق طلاق ہوئی یا نہیں؟ اور اگر طلاق ہوئی تو حلالہ کی حاجت ہے یا نہیں۔

المسئلہ: مقصود حسین رسول پور مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شوہر کے قول کے اعتبار سے دو طلاق رحمی واقع

ہو گئی ہیں اور جن گواہاں کا ذکر ہے ان میں نصاب شہادت موجود نہیں ہے اور نہ ہی ان کی بات میں اتفاق ہے؛ اس لئے ان کی گواہی شرعاً معتبر نہ ہوگی، اب رہی بیوی کی بات تو اگر بیوی کو واقعی طور پر تین طلاق کا یقین ہے تو اس کو اپنے بارے میں سمجھ لینا چاہئے کہ وہ شوہر پر حرام ہو گئی ہے اور شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے اس کا فیصلہ بیوی خود کرے کہ اس کو تین طلاق کا کہاں تک یقین ہے اور مذکورہ معاملہ میں ان سب لوگوں میں سے شرعاً شوہر کا قول ہی معتبر ہوگا اور شوہر کو رجعت کر کے رکھنے کا حق دیا جائیگا؛ مگر بیوی کو تین طلاق کا یقین ہونے کی وجہ سے اس کو خلخ غیرہ کے ذریعہ سے شوہر سے الگ ہو جانے کا بھی حق ہے۔

(مستقاد: ایضاح النوادر ۲/۱۰۷)

المرأة كالقاضى إذا سمعته وأخبرها عدل لا يحل لها تمكينه.

(كتاب الطلاق، مطلب فى قول البحر: إن الصریح يحتاج فى وقوعه ديانة إلى النية، زکریا ۴۶۳/۴، مثله فى البحر الرائق، کراچی ۲۵۷۱۳، زکریا ۴۸۱/۳، کراچی ۲۵۱۱۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۱ رب جمادی الاولی ۱۴۳۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۹۹۵/۳۱)

طلاق کے باب میں ایک گواہ کی گواہی معتبر نہیں

سوال [۲۸۰۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ۲۲ جنوری ۹۹ء کو فاروق بن عبداللہ کی شادی محمدی بنت وجہت حسین سے ہوئی، شادی کے بعد تقریباً ۶ ماہ تک انکی ازدواجی زندگی خونگوار رہی؛ لیکن بدقتی سے ان کے مابین اچانک خانہ جنگل کا قضیہ نمودار ہوا اور معاملہ ایسا بگڑا کہ ۲۷ نومبر ۹۹ء کو فاروق نے جوش و غضب میں آ کر کم از کم ۳۰۰ آدمیوں کے مجمع میں محمدی کو تین طلاق دیدیں، مجمع کے کچھ لوگوں نے طلاق کے بارے میں کچھ سنایا ہی نہیں؛ مگر اکثر لوگوں نے طلاق کا لفظ سنایا اور اپنایا ہوا لوگوں سے کہا؛ مگر گواہی کے موقع پر کسی مصلحت سے خاموشی کا پہلو اپنایا؛ لیکن محمدی کے بڑے بھائی سجاد حسین کا کہنا ہے کہ مجلس طلاق میں میں حاضر تھا اور محمدی کو نہایت صاف لفظ میں تین طلاق دیتے ہوئے میں نے سنا، بعدہ فاروق کے عہم محترم جناب ہدایت حسین صاحب نے فاروق سے تنہائی میں پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا، اس نے جواباً عرض کیا کہ مجھے کچھ یاد نہیں۔

المستفتی: وجہت حسین ۲۳ پر گنوی

بسم اللہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب مجمع کے اکثر لوگوں نے تین طلاق کے لفظ کو سنا اور دوسروں سے کہا تو گواہی کے موقع پر سکوت کیوں اختیار کیا اس کی وجہ لکھی جائے، اس کے بعد جواب دیا جائے گا؛ نیز صرف محمدی کے بڑے بھائی سجاد حسین کا قول تنہایا معتبر نہ ہوگا؛ کیونکہ طلاق کے ثبوت کے لئے شرعاً دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجالين، أو رجل،
وامرأتين، سواء كان الحق مالاً أو غير مال مثل النكاح، والعتاق، والطلاق.
(هدایہ، کتاب الشہادۃ، اشرفی بکڈپو دیوبند ۳ / ۱۵۴، در مختار، کراچی ۵ / ۴۶۵)

زکریا/۸، الجوهرہ النیرہ، امدادیہ ملتان ۳۲۶۱۲، دارالکتاب دیوبند ۲۹۰۳،

کوئٹہ زکریا/۷۰۴) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۳ھ/۲۰۲۳ء

۱۴۲۱ھ/۲۰۲۳ء

(فتاویٰ نمبر: الف ۳۵/۹۷۲)

پنچایت کا ایک آدمی کی گواہی پر طلاق مخالفت کا فیصلہ کرنے کا حکم

سوال [۶۸۰۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زینب کا دعویٰ ہے کہ اس کے شوہر نے اس کے سامنے یہ بات کہی کہ میں نے زینب کو تین بار طلاق دیدی یہ پھر بھی رہ رہی ہے اور زینب کے حق میں صرف ایک آدمی گواہی دے رہا ہے؛ جبکہ شوہر انکار کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف دو بار کہا تھا تین بار کا لفظ استعمال نہیں کیا اور وہ اس پر قسم کھار ہا ہے؛ لیکن گاؤں کی پنچایت کے لوگوں نے زینب کی طرف سے دی گئی صرف ایک آدمی کی گواہی کی بنیاد پر طلاق مخالفت قرار دیتے ہوئے دونوں میں تفریق کرادی تھی اور اب جبکہ زینب کی عدت بھی پوری ہو گئی ہے تو وہ دوبارہ اسی شوہر سے نکاح کی کوشش کر رہی ہے۔

دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا صرف ایک آدمی کی گواہی کی بنیاد پر پنچایت کی طرف سے طلاق مخالفت قرار دینے کا فیصلہ درست تھا یا پھر زینب کے شوہر کا حلقویہ بیان معتبر ہوگا، صورت ثانیہ میں دوبارہ نکاح کے لئے شرعی حالہ ضروری ہوگا یا پھر صرف نکاح بنا حللا لے کے درست ہوگا؟

المستفتی: حافظ علی حسین گوجر والا رامپور

با اسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب زینب تین طلاق کا دعویٰ کرچکی ہے اور شوہر دو طلاق کا اقرار کر رہا ہے، اور زینب کے پاس دو شرعی گواہیں تھے ایک ہی گواہ رہا ہے

تو ایسی صورت میں شرعی قاضی پر لازم تھا کہ شوہر کے حق میں فیصلہ کر دیتے؛ لیکن چونکہ اس حالت میں نینب کی عدت بھی گزر گئی ہے تو دونوں کے درمیانِ مکمل طور پر تفریق واقع ہو چکی ہے، اب اس کے بعد قاضی کا فیصلہ بھی شوہر کے حق میں معتبر نہ ہوگا، اب دوبارہ نکاح کی بات جب سامنے آتی ہے تو اس بارے میں نینب کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس نے واقعہ تین طلاق اپنے کان سے سنی ہیں تو اس کے لئے سابق شوہر کے ساتھ بغیر حلالہ کے نکاح کرنا قطعی طور پر جائز نہیں ہوگا اور عدت پوری ہونے سے پہلے بھی شریعت کا حکم یہ تھا کہ عورت نے اگر تین طلاق اپنے کان سے سن رکھی ہیں تو خلخ وغیرہ کوئی بھی حیلہ کر کے اس شوہر سے چھٹکارہ حاصل کرنا عورت پر لازم تھا اور اب چھٹکارہ حاصل ہو جانے کے بعد اس شوہر سے نکاح کرنا قطعی طور پر جائز نہیں ہو سکتا۔

والمرأة كالمقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه والفتوى على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها بل تفدى نفسها بمال، أو تهرب. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی قول البحر، إن الصریح يحتاج فی وقوعه دیانته إلى النية، زکریا دیوبندی / ۴۶۳، کراچی / ۲۵۱، و مثله فی الہندیہ زکریا قدیم / ۴۱، ۳۵۶ / ۱، جدید ۴۲۲، البحر الرائق زکریا دیوبندی / ۳۴۸، کراچی / ۲۵۷) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علام

کتبہ: شیعہ احمد قاسمی عفی اللہ عنہ

۱۳۳۵ھ ربيع الثانی ۸

(فتویٰ نمبر: الف ۱۰/ ۱۳۷۸)

جھوٹی گواہی سے طلاق کو ثابت کرنا

سوال [۲۸۰۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی شادی ہندہ کے ساتھ ہوئی، دونوں ایک محلہ کے رہنے والے ہیں، کچھ دن کے بعد ہندہ کے ساتھ غلط بر تاؤ ہونے لگا، زید ایک شخص کے بیہاں ملازمت

کرتا تھا جس کے یہاں ملازمت کرتا تھا ان کو اپنے گھر بلانے لگا، اس صورت سے ہندہ اس سے نفرت کرنے لگی اور اس کے پڑوس میں بکر رہتا ہے ہندہ نے اس رویہ کی شکایت بکر کی بیوی سے کی تو بکر نے زید کو سمجھایا؛ مگر زید نے اس بات کو نہیں مانا تو ہندہ؟ کیونکہ پڑوسی کی بیٹی تھی اپنے ماں باپ کے یہاں چلی گئی، رمضان کامہینہ تھا، زید ہندہ کو؟ جبکہ ہندہ کے باپ نماز کے لئے چلے گئے وہاں سے زبردستی کھینچ کر لے آیا اور اپنے گھر سے باہر نکال کر جب لوگ نماز پڑھ کر واپس ہو رہے تھے تو برا بھلا کہنے لگا، اس پر ہندہ کے باپ وغیرہ خاموش ہو کر چلے گئے اور اپنے مکان پر جا کر اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور زید کے مکان پر چڑھ گئے اور ہندہ کو نکال لے گئے، زید نے ہندہ کے آدمیوں کے خلاف رپورٹ درج کرائی جن پر ان کی گرفتاری عمل میں آئی، دوسری طرف سے زید کے نام بھی سات آدمیوں کے نام پولس میں رپورٹ درج کرائی، دونوں طرف سے گرفتاریاں ہوئیں، فوجداری اور عدالت میں مقدمہ چلا، وکیل نے بتایا کہ اگر ہندہ کو طلاق ثابت ہو جائے تو تم لوگ سزا سے بچ سکتے ہو؛ ورنہ تمہیں سزا ہو جائیگی اور وہ لوگ صاف چھوٹ جائیں گے، اس شکل میں بکرا اور عمر دنوں مقدمہ میں چھنسے ہوئے تھے، جھوٹی گواہی طلاق کو ثابت کرنے کے لئے دی جس سے زید کے ساتھیوں کو مقدمہ میں سزا میں ہوئیں اور بکر کے ساتھی چھوٹ گئے، بکر شادی شدہ ہے اور عمر بھی دونوں کے بچے ہیں اب دریافت یہ ہے کہ بکر اور عمر نے جو گواہی دی ہے تو اس جرم عظیم کا کیا مدارک ہو سکتا ہے جواب دیں۔

(نوت) بکرا اور عمر دنوں کی بیویوں کا انتقال ہو گیا؛ نیز ہندہ بوقت طلاق حاملہ تھی وضع حمل کے بعد ہندہ کی دوسری جگہ شادی کر دی تھی اب اس کے بچے ہیں۔

المسنون: عبدالرشید

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جھوٹی گواہی دینے والے سب گناہ کبیرہ کے

مرتکب ہیں، زید کے پاس جا کر اپنی جھوٹی گواہی کا اظہار کر کے معافی مانگنا لازم ہے؛ ورنہ عند اللہ عظیم گناہ گارہوں گے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ألا أنبئكم بأكابر الكبائر ثلاثة :
الإشراك بالله ، وعقوبة الوالدين ، وشهادة الزور أو قال : وقول الزور .

(ترمذی، أبواب الشهادات، باب ما جاء في شهادة الزور، النسخة الہندیة ۱۲/۲)

دارالسلام رقم: (۲۳۰۱)

(۲) جھوٹی گواہی دے کر کے زید کی بیوی پر طلاق ثابت کر کے دوسرا جگہ جو ہندہ کا نکاح ہوا ہے وہ شریعت کی رو سے ناجائز اور حرام ہے، جن لوگوں نے جاں کر اس نکاح میں شرکت کی ہے وہ سخت ترین گناہ گار ہیں، سب پر لازم ہے کہ ہندہ کو وہاں سے علاحدہ کر کے شوہر زید کے حوالہ کر دیں اور جس کے ساتھ ہندہ کا نکاح ہوا ہے اس پر لازم ہے کہ فوراً ہندہ کو اپنے سے علیحدہ کر دے۔

والمحصنَت من النساء عطف على أمهاهاتكم يعني حرمت عليكم
المحصنَت من النساء أي ذوات الأزواج لا يحل للغير نكاحهن مالم يتم
زوجهما أو يطلقها وتنقضى عدتها من الوفات أو الطلاق . (تفسیر مظہری،
سورة نساء تحت رقم الآية: ۴، زکریا دیوبند ۶۴/۲) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم

کتبہ: شیعیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۱۴۳۱ھ / جمادی الاولی

(نوقی نمبر: الف ۲۵، ۱۸۰۵)

بیوی کو تین طلاق کا یقین ہوتا کیا حکم ہے؟

سوال [۶۸۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید (لیاقت) نے اپنی بیوی ہندہ (صابری) کو ایک بار کہا میں نے تجھے طلاق

دی جس کے کئی گواہ بھی ہیں، اس کے علاوہ یہ واقعہ پیش آیا کہ جب ہندہ نے اپنی اڑکی کو مارا اور ڈانٹا تو زید نے کہا کہ تو نے بلا وجہ اڑکی کو تنبیہ کی ہے اور اب تو میرے دل سے نہیں ہے، زید مقمر ہے کہ مذکورہ جملہ (اب تو میرے دل سے نہیں ہے) کہا اور گیارہ بجے کے وقت زید (لیاقت) نے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، چار مرتبہ یہ الفاظ کہے، مگر زید کا کہنا ہے کہ اس بار میں نے ایک مرتبہ بھی یہ جملہ نہیں بولا ہے زید و ہندہ کی ایک کم از کم دس سالہ پچی ہے، جو ہندہ کے قول کی تصدیق کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں چار مرتبہ مذکورہ الفاظ کہے، اس بات پر دونوں اپنے قول کی تصدیق و تائید کے لئے قسم پر تیار ہیں، ہندہ نے اپنی پچی کو تنبیہ اس کے غلطی کرنے پر کی تھی جس سے خفا ہو کر زید نے کہا اب تو میرے دل سے نہیں ہے اور نہ جانے لکنی مرتبہ یہ جملہ زید نے استعمال کیا۔ نیز بچوں کا نفقة کس کے ذمہ ہے؟ حکم شرع سے آگاہ فرمائیں۔

نحو: اب برادری کے لوگ آپس میں صلح کرانے کے لئے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں اور فریقین کو از حد سمجھا کر صلح پر آمادہ کر لیا ہے؛ لہذا آپ حکم شرعی صلح کے لئے بیان فرمادیں، اس میں حلالہ کرنا پڑے گایا نہیں یا صرف دوبارہ نکاح زید سے کافی ہو جائے گا یا حلالہ اور نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہندہ کا کہنا ہے کہ میں جان دے دوں گی، مگر شریعت کے خلاف نہیں کروں گی۔

المستفتی: محمد عبدالحمید رضوی ٹکلیماں قل رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ایک بار میں نے تجھے طلاق دی کے الفاظ سے ایک طلاق رجعی واقع ہو چکی ہے اور تو میرے دل سے نہیں کے الفاظ طلاق کے لئے نہ الفاظ صریح میں سے ہیں اور نہ ہی الفاظ کنایی میں سے؛ اس لئے ان الفاظ سے کوئی طلاق واقع نہ ہو گی، رات کو گیارہ بجے کے وقت چار مرتبہ میں نے تجھے طلاق دی کے الفاظ کے استعمال کا مسئلہ قابل غور ہے اور اس کے بارے میں بیوی اثبات میں اور شوہرنی میں اپنی جگہ مضبوط ہیں اور بیوی کے پاس اثبات میں شرعی گواہ موجود نہیں ہیں تو ایسی صورت میں شریعت کا ظاہری

حکم یہی ہے کہ شوہر کی تائید میں طلاق کا ثبوت نہ ہوگا اور برادری پنچایت کے لوگ بیوی کو شوہر کے ساتھ جانے کا حکم کر سکتے ہیں؛ لیکن شریعت کا ایک دوسرا حکم عورت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اگر اس کو تین طلاق کا یقین ہے تو شوہر کو مال دیکر خلع پر آمادہ کرے، اور خلع کے ذریعہ شوہر سے الگ ہو کر اپنے آپ کو حرام کاری سے بچا لے اور اگر عورت کو شوہر کے ساتھ جانا ہی پڑ جائے تو عورت گناہ گارندہ ہو گی سارا گناہ شوہر پر ہی ہوگا۔

والمرأة كالقاضى إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه
والفتوى على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها بل تفدى نفسها بمال
أو تهرب (إلى قوله) إنها ترفع الأمر للقاضى فإن حلف ولا بينة لها فلا إثم
عليه الخ. (شامی، کراچی، کتاب الطلاق، مطلب فی قول البحرالخ، زکریا دیوبند
۴/۴، ۴۶۳/۳، ۴۲۲/۱، البحر الرائق، کراچی
زکریا دیوبند ۳/۴۴۸، ۳/۴۵۷) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علام

کتبہ: شییر احمد قاسمی عفی اللہ عنہ
۵ محرم الحرام ۱۴۲۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف/۵۹۳۶)

بیوی تین طلاق کا دعویٰ کرے اور شوہر انکار

سوال [۶۸۰۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: محترم و مکرم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ، امید ہے کہ مزان گرامی بخیر ہوں گے آنحضرت سے مدعا یہ کے ایک معاملہ میں مشورہ مطلوب ہے امید ہے کہ رائے عالیٰ سے نوازیں گے، معاملہ درج ذیل ہے؟ مدعا یہ کہ شوہرنے تین طلاق دیں؛ مگر شوہر طلاق کا انکار کرتا ہے عورت کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے، ایسی صورت میں جو حکم شرعی ہے کہ جب عورت نے طلاق کے

الفاظ خود سنے ہوں تو عورت کے لئے جائز نہیں کہ اپنے اوپر قدرت دے؛ بلکہ علیحدہ رہ ہے اور شوہر سے چھٹکارے کی صورت اختیار کرے۔

والمرأة كالقاضى إذا سمعته أو أخبارها عدل لا يحل لها تمكينه
والفتوى على أنه ليس لها قتلها ولا تقتل نفسها بل تفدى نفسها بمال
أو تهرب الخ. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی قول البحر الخ، ذکریا دیوبند ۴/۶۳، ۴/۴۶)

مثله فی البحر الرائق، کراچی ۳/۷۵، زکریا دیوبند ۳/۸۴، ۲/۲۴۳ (۴۳۲)

بتلا یا گیا تو اس نے یہاں کی شرعی پنجایت میں مقدمہ دائر کیا با ضابطہ کارروائی کے بعد تاریخ پیشی پر مدعاہ اور مدعاہ علیہ حاضر عدالت ہوئے، مدعاہ نے دفعات عرضی دعویٰ میں جو باتیں ظاہر کیں مدعاہ علیہ کو سنا دی گئیں، اور اس سے بیان تحریری لیا گیا (اس نے ان تمام باتوں کہ شوہر نے ظلم و زیادتی کی، گھر سے نکال دیا اور طلاق دے دی وغیرہ وغیرہ) کا انکار کیا اور بیان تحریری دیا کہ، ہم اس پر قسم کھا سکتے ہیں کہ کوئی طلاق نہیں دی، عورت کے پاس اس معاملہ کے گواہ موجود نہیں، ایسی صورت میں کیا کارروائی کرنا مناسب ہے، آنحضرت اپنی رائے عالیٰ سے آگاہ فرمائیں، الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة میں ص: ۷۶ پر بحث حرمت مصاہرات کے ذیل میں جو کچھ موجود ہے، نیز شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی قول البحر الخ، ذکریا دیوبند ۳/۶۳، ۳/۲۳۲، کراچی ۳/۲۳۲، مطبوعہ نعمانیہ دیوبند پر جو کچھ موجود ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں اور اپنی رائے عالیٰ سے آگاہ فرمائیں؟

المستفتی: مفتی شفقت اللہ صاحب مدرس اشرف المدارس ہردوئی

باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: عورت طلاق کا دعویٰ کرے اور مرد اس کا انکار کرے اور عورت کے پاس تین طلاق پر گواہ نہ ہوں تو ایسی صورت میں شوہر سے قسم لیکر عورت شوہر کے حوالہ کی جاسکتی ہے، خدا نخواستہ اگر نفس الامر میں عورت کا دعویٰ صحیح ہے اور شوہر نے جھوٹی قسم سے کام لیا ہے تو سارا گناہ شوہر پر ہو گا نہ قاضی پر ہو گا اور نہ ہی عورت پر؛ لیکن شوہر

کی بد دینی کے اندیشہ سے ایسے معاملہ میں ہم مناسب اور بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ شوہر کو کسی طرح خلع پر آمادہ کر کے خلع کر دیا جائے اور شامی کی عبارت بھی اسی کی تائید کرتی ہے، اس موضوع پر اس خاکسار نے اپنی کتاب ”ایضاح النوادر“ سے ۱۰۲۲ء سے ۱۰۷۰ء پر ایک تحقیق نقل کی ہے شاید اس کا مطالعہ مفید ثابت ہوگا۔ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
لتبیہ: شیر احمد فاسی عفان اللہ عنہ
احقر محمد سلمان مصour پوری غفرلہ
۵ رب جمادی الثانیہ ۱۴۳۹ھ
(فتاویٰ نمبر: الف/۵۸۰۳) ۱۴۱۹/۶/۶

شوہر تین طلاق کا منکر ہوا اور بیوی اور دیگر لوگ مدعی

سوال [۶۸۰۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے غصہ کی حالت میں زجر و تویخ کے ساتھ اپنی بیوی کو کہا کہ اپنے گھر چل جا، بیوی نے شوہر کی بات مانتے ہوئے گھر کا راستہ لیا؛ مگر شوہر بھی بیوی کے ساتھ چلا گیا اور وہاں پہنچنے کے بعد زید نے اپنی بیوی کو ایک بار طلاق دی، زید کے الفاظ یہ تھے کہ (جا میں نے طلاق دی) مگر حضرات اس موقع کے شاہد ہیں ان کا کہنا ہے کہ تین مرتبہ طلاق دی ہے اور زوجہ زید کا بھی کہنا ہے کہ تین مرتبہ طلاق دی؟ مگر زید تین مرتبہ کا منکر ہے صرف ایک ہی مرتبہ کا اقرار کرتا ہے، برآ کرم تسلی بخش جواب سے مشکور و منون فرمائیں۔

المستفتی: محمد یاسین قریشی محلہ پٹھان پورہ نجیب آباد، کنور
با سمہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: حضرات وہاں موجود تھے اور تین مرتبہ طلاق دیتے ہوئے سنائے تو ان میں اگر دو پابند شرع مردوں نے سنکر شہادت دی ہے یا ایک پابند شرع باریش مرد اور دو پابند شرع عورتوں نے ملکر تین طلاق کی شہادت دی ہے تو شرعاً تین طلاق کا حکم لگا یا جائے گا اور بلا حلالة نکاح بھی درست نہ ہوگا اور اگر مذکورہ شرائط کے ساتھ

شہادت حاصل نہیں ہے تو شوہر کا قول حلفیہ بیان کے ساتھ معتبر ہوگا، اور ایک طلاق رجعی ہوگی اور عدت کے اندر اندر رجعت کر کے رکھ سکتا ہے۔

وَمَا سُوِي ذَلِكَ مِنَ الْحُقُوقِ يَقْبَلُ فِيهَا رِجْلٌ أَوْ رَجُلٌ، وَامْرَأَتَانِ
سَوَاءٌ كَانَ الْحَقُّ مَالًاً أَوْ غَيْرَ مَالٍ مِثْلُ النِّكَاحِ وَالْعُتْقَ وَالْطَّلاقِ وَالخُ. (الجوهرة

النیرہ، ۳۲۶، هـکذا فی المهدایة، کتاب الشهادة، اشرفی بکڈپو دیوبند ۳/۴) (۱۵۴)
لیکن اگر بیوی نے خودا پنے کان سے تین مرتبہ طلاق سنی ہے تو بیوی پر شرعی حکم یہ ہے کہ خلع
وغیرہ کے ذریعہ اس شوہر سے چھکارہ حاصل کر لے اور اس شوہر کے بیہاں بیوی بن کر نہ رہے۔
والمرأة كالقاضى إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه
والفتوى على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها بل تفدى نفسها بماله
أو تهرب. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی قول البحر، إن الصريح يحتاج في وقوعه
دياناً إلى النية، زکریا ۴/۴۶۳، کراچی ۳/۱۵۱) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان الدین عنہ

۱۴۳۰ھ صفر ۱۲

(فتویٰ نمبر: الف/۲۵۱، ۱۴۳۵ھ)

شوہر کو طلاق یاد نہ ہو تو بیوی کا قول معتبر ہو گا یا ماس کا؟

سوال [۶۸۰۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ میں نے اپنی مرضی سے اپنی شادی کر لی تھی اور سرسرال میں لڑکی کے گھر
رہتا تھا، پھر میری والدہ اپنے ساتھ لیکر آئیں اور میں اپنے گھر امروہ میں آ گیا، گھر میں
قدم رکھتے ہی میری حالت بد لئے لگی اور میرا دماغ جیسے بند ہو گیا اور مجھے کچھ بھی ہوش نہیں
رہتا تھا، بیوی بچوں سے بھاگتا تھا، پھر میں نے اسی حالت میں دہلی آ کر اپنے دوست
واحباب سے مل کر علاج کرایا اور میں ٹھیک ہو گیا، اب میری بیوی نے بتایا کہ جب میری

حالت بگڑ گئی تھی، تو اس وقت میں نے بیوی کو دو طلاق دی تھیں، میری ماں کہتی ہے کہ تین طلاق دی ہیں اور مجھے کچھ ہوش نہیں تھا اور نہ کچھ یاد آ رہا ہے، مجھے طلاق دینا بالکل یاد نہیں ہے، اب بتائیے طلاق ہوئی یا نہیں، شرعی حکم تحریر فرمائیں؟ واضح رہے کہ میری اس شادی کے میرے گھروالے اور میری ماں سب مخالف ہیں۔

المستفتی: قرآن مجید پورہ بی بلاک گلی نمبر ۸، دہلی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہر کو قطعی طور پر کچھ پتے نہیں ہے کہ کیا کہا ہے؟ یا کچھ کہا بھی ہے یا نہیں، اور بیوی دو مرتبہ سننے کو کہتی ہے اور ماں تین مرتبہ کو کہتی ہے اور حالت یہ ہے کہ ماں اس شادی کے مخالف ہے اور بہو نہیں چاہتی ہے، تو ایسی صورت میں تین طلاق کے بارے میں ماں کی بات بغیر شہادت کے معترض نہیں ہے اور ماں کے پاس اس کے ثبوت کے لئے کوئی گواہ نہیں ہے، اور شوہر کو بیوی کی بات پر اعتماد ہے تو ایسی صورت میں دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں، عدت کے اندر اندر رجعت کر کے میاں بیوی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔

لو طلق فشہد عنده إثناي أنك استشيت وهو غير ذاكر إن كان بحيث إذا غصب لا يدرى ما يقول وسعه الأخذ بشهادتهما وإلا لا. (شامی،

کتاب الطلاق، باب طلاق المدهوش، کراچی ۳/۴۴، ۴۵۳/۴، زکریا)

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين رجعيتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض الخ. (ہندیہ، الفصل السادس فی

الرجعة، زکریا قدیم ۱/۷۰، جدید ۱/۳۳، هکندا فی الہدایہ، کتاب الطلاق، باب

الرجعة اشرفی دیوبند ۲/۴۳۹) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عنفاللہ عنہ

۱۴۳۳ھ / شعبان ۱۶

(فتویٰ نمبر: الف ۳۹ / ۸۸۱۰)

بلا گواہ خلوت کی طلاق کا حکم

سوال [۶۸۰۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متن مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک عورت کا بیان ہے کہ مجھے میرے شوہر نے خلوت میں تین طلاقوں دیدیں ہیں میں نے شوہر سے کہا کہ میرا رشتہ آپ سے ختم ہو گیا، شوہر نے جواب دیا کہ میں نے تو مذاق کیا ہے، طلاق نہیں دی، خلوت کے بعد عورت نے گھر والوں سے کہا مجھے طلاق دیدی گئی تو شوہر نے کہا تم غلط کہتی ہو؛ لہذا طلاق واقع ہو گئی یا نہیں۔

(۲) یہ کہ اگر کوئی عورت شوہر سے خلاصی حاصل کرنے کیلئے الزاماً ایسی بات کہے، تو شرعاً کیا حکم ہے؟

المستفتی: عبدالعزیز بازار شاہی مسجد مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: بلا گواہ خلوت میں طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اسی طرح مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔

ثلاثۃ جدهن جدو هز لهن جد النکاح و الطلاق و الرجعة . (الحدیث، سنن ترمذی، کتاب الطلاق، باب ما جاء فی الجد و الہزل فی الطلاق، النسخة الہندیة ۱، دار السلام رقم: ۱۱۸۴، مشکوٰۃ شریف ۲/۲۸۴)

لیکن عورت کے پاس شرعی گواہ موجود نہیں ہیں اور شوہر انکار کر رہا ہے تو ایسی صورت میں قضاۓ طلاق کا ثبوت نہیں ہو گا، قضاۓ عورت شوہر کو ملے گی۔

و ما سوی ذلک من الحقوق يقبل فيه رجالن أو رجل و امرأتان سواء
كان الحق مالاً أو غير مال مثل النكاح والعناق والطلاق الخ . (الجوهرة النيرية، ۳۲۶/۲، هکذا فی الہدایة، کتاب الشهادة، اشرفی بکڈپو دیوبند ۳/۴۱۵، هکذا فی البحر الرائق، زکریا ۴/۱۰، کوئٹہ ۷/۶۲)

البته اگر عورت نقطعی طور پر شوہر سے تین طلاق دیتے ہوئے سنائے تو اس پر لازم ہے کہ خلخ وغیرہ کے ذریعہ اس شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے۔
والمرأة كالقاضى إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه
والفتوى على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها بل تفدى نفسها بمال،
أو تهرب . (شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی قول البحر، إن الصریح یحتاج فی وقوعه
دیانةً إلی النية، زکریا ۴/ ۴۶۳، ۴۶۸/ ۲) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان الدین عنہ

۱۴۰۸ھ محرم الحرام

(فتویٰ نمبر: الف ۲۲/ ۳۶۲)

بیوی اور گواہوں کی عدم موجودگی میں دی گئی طلاق کا حکم

سوال [۶۸۰۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کیا بیوی کی غیر موجودگی میں بغیر کسی گواہان کے طلاق شرعی دی جاسکتی ہے، کیا وہ شرعی اعتبار سے قابل قبول ہوگی؟

المستفتی: منصور علی جامع مسجد آزاد پارک مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق شرعی واقع ہونے کے لئے عورت کا سامنے موجود ہونا یا سننا یا نام لیکر خطاب کرنا شرط نہیں ہے؛ بلکہ عورت کی غیر موجودگی میں بغیر کسی گواہ کے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ (مستفاد: عزیز الفتاوی ۲۵۷/ ۳)

ولا یلزم کون الإضافة صريحة في كلامه لما في البحر لو
قال طالق فقيل له من عنيت فقال امرأته طلقت امرأته الخ.
(شامی، کتاب الطلاق، باب الصریح، کراچی ۳/ ۲۴۸، ۴/ ۴۵۸، زکریا ۴/ ۴۶۶، ۲/ ۵۹۰)

ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون الشهادة لأن الطلاق من حقوق الرجل فلا يحتاج إلى بينة الخ. (حاشية فتاوى

دار العلوم جدید ۹/۵۲، ۹/۱۳۸)

نیز حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

طلاق الحامل يجوز. (هدایہ، کتاب الطلاق، اشرفی بکڈپو دیوبند ۲/۳۵۶،

قدوری امدادیہ دیوبند ۱۷۱) **فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم**

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۸/رجمادی الثانیہ ۱۴۰۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۲۹/۲۹)

یاد نہیں کہ ۲ رطلاق دی یا ۳ رطلاق

سوال [۶۸۰۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ لکھنا ضروری یہ ہے کہ ایک شخص نے غصہ کی حالت میں کہا کہ میں نے طلاق دی طلاق دی؛ لیکن ان کو صحیح یاد نہیں کہ دو طلاق دی کہ تین طلاق دی؛ لہذا آپ کیا فرماتے ہیں، مجھے اس بارے میں تردید ہے کہ میری زبان سے الفاظ طلاق دو دفعہ نکلے کہ تین دفعہ۔

المستفتی: عبدالعزیز سلمانی قصبہ کاظمہ محلہ چوک بازار مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر واقعہ ایسا ہی ہے کہ شوہر کو دو اور تین میں تردید ہے اور تین دفعہ پر شرعی گواہ بھی نہیں ہے تو سوانحہ کی درج شدہ صورت میں بیوی پر تین طلاق واقع نہیں ہوتیں؛ بلکہ شرعاً دو ہی طلاق معتبر ہوں گی؛ لہذا عدالت کے اندر اندر رجعت کر کے رکھ سکتا ہے۔

لو شک أطلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل الخ. (الدر المختار،

کاب الطلاق، قبیل باب طلاق غیر المدخول بها، کراجی زکریا ۴/۵۰۸، ۳/۲۸۳،
الاشباہ والناظائر قدیم ص: ۱۰۸) **فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم**

کتبہ: شیخ احمد قادری عفان اللہ عنہ

۱۳۰۹ھ رجب المربج

(فونی نمبر: الف ۱۳۵۱/۲۵)

بیوی طلاق کی مدعیہ اور شوہر منکر

سوال [۶۸۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اپنی سرال اپنی بیوی سے ملاقات کی غرض سے گیا، دوران گفتگو سرال والوں سے کچھ تکرار ہو گیا، بات بڑھ کر زود کوب تک پہنچ گئی، سرال والوں نے زید کے ساتھ زیادتی کی اور مارپیٹ کے دوران زید کے سرال والوں نے زید کی بیوی سے کہا کہ تم فوراً یہ کہہ دو کہ مجھے طلاق دے دی، زید کی بیوی نے والدین کے دباؤ میں آ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے زید نے طلاق دے دی اور کئی مرتبہ طلاق دی ہے، لیکن زید حلفیہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، زید کی بات معتبر ہے یا زید کی بیوی کی، طلاق واقع ہو گئی یا کچھ گنجائش ہے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں مفصل جواب تحریر فرمائیے۔

المسنون: فراست حسین ثانیہ بادلی رامپور

بسہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر شوہر نے اپنی زبان سے کوئی طلاق نہیں دی ہے اور محض شوہر کو مارتے ہوئے تذلیل کرنے کے لئے طلاق کی شورش برپا کی ہے تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوا کرتی ہے؛ نیز اگر عورت کے پاس اس دعویٰ طلاق کو ثابت کرنے کے لئے دو معتبر اور عادل پابند شرعاً گواہ نہیں ہیں تو عورت کا دعویٰ عبور نہ ہوگا شوہر کے قول کا اعتبار ہوگا اور عورت بدستور شوہر کی بیوی رہے گی۔

وَاسْتَشِهْدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالٍ كُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتَانِ مِمْنُ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ . (سورة البقرة، رقم الآية: ۲۸۲)

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها رجال أو رجال وامرأة
سواء كان الحق مالاً أو غير مال مثل النكاح، والعتاق، والطلاق الخ.
(هدايه، كتاب الشهادة، اشرفى بكڈپو دیوبند، ۱۵۴/۳، هنکذا في الجوهرة النيرة، كتاب
الشهادة امدادیہ ملتان ۳۲۶/۲، دار الكتاب دیوبند ۹۱۲/۳۰) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

كتبه: شیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

افتخر محمد سلمان مصوص پوری غفرلہ
۲۰ ربیع الاول ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۰۱۲۸)

بیوی طلاق کی مدعیہ اور شوہر منکر تو کیا حکم ہے؟

سوال [۶۸۱۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں گھر سے اپنی بیوی کے پاس سے خوشی خوشی مراد آباد آیا، میاں بیوی میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، بیوی کو میں نے سمجھا کہ میکہ بھیج دیا تھا، میں یہاں مراد آباد میں ہوں، اب بیوی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور میں نے کبھی کوئی طلاق نہیں دی ہے تو بیوی کے یہ کہنے کی بنا پر کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے، طلاق ہوئی یا نہیں؟ اور شوہر کی بات مانی جائیگی یا بیوی کی؟ شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: محمد کلیم چوہدری بٹیا سپول بہار

باسہ سجانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے قطعاً طلاق نہیں دی ہے اور عورت نے طلاق کی افواہ پھیلا رکھی ہے اور عورت کے پاس اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لئے دو شرعی گواہ بھی موجود نہیں تو ایسی صورت میں عورت کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ بدستور شوہر کے نکاح میں باقی ہے۔ (مسنون: فتاویٰ دارالعلوم ۹/۲۱۷، ۹/۲۳۷)

وما سوی ذلک من الحقوق يقبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان سواء كان الحق مالاً، أو غير مال مثل النكاح، والعتاق، والطلاق الخ.

(هدایہ، کتاب الشہادۃ، اشرفی بکڈپو دیوبند ۳/۴۱۵، کراچی ۵/۶۴، درمختار زکریا

۸/۱۷۸، هکذا فی الجوهرۃ النیرہ، کتاب الشہادۃ امدادیہ ملتان ۲/۲۳۲، دار الكتاب

دیوبند ۹/۳۰، البحر الرائق، کوئٹہ ۷/۴۰، زکریا ۷/۶۲) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان مصور پوری غفرلہ

۱۹ جمادی الثانیہ ۱۴۲۱ھ

۱۹/۶/۱۹۲۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۹/۳۵)

طلاق کے سلسلہ میں زوجین کا اختلاف

سوال [۶۸۱۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مستشرقین شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ رابعہ کہتی ہے کہ میرے شوہر یعقوب نے مجھ سے کہا بھیں بیچوں یا نہ بیچوں، رابعہ نے کہا والد صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ بھیں نہ بیچنا، یعقوب نے کہا مجھ سے کسی نے نہیں کہا ہے اور اس پر ضد کرنے لگے تو رابعہ نے کہا ب جان چھوڑ دو، یعقوب نے کہا جان چھوڑ دی جان چھوڑ دی جان چھوٹی ہے؛ اس لئے کھر کا کام بگاڑ رہا ہوں، یہ مذکورہ بیان رابعہ کا ہے اور یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جان چھوڑ دو نگاہ تھا رے دل میں یہی ہے تو یہ بھی ہو جائے گا، اب رابعہ یعقوب کی تکذیب کرتی ہے اور یعقوب رابعہ کی تکذیب کرتے ہیں اور دونوں اپنے اپنے بیان پر قائم ہیں تو مذکورہ بالا صورت میں طلاق واقع ہوئی یا نہیں اگر ہوئی تو کون ہی ہوئی؟

المستفی: شیر احمد قاسمی دارالافتاء ریاض العلوم گورنی جو پور

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر رابعہ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو یعقوب کی

بات شرعاً معتبر ہوگی اسی کے مطابق بیوی کو شوہر کے پاس رہنے کا حکم ہوگا۔

وَمَا سُوِي ذَلِكَ مِنَ الْحَقُوقِ يَقْبَلُ فِيهَا رِجْلَانُ، أَوْ رِجْلٌ، وَامْرَأَتَانُ،
سَوَاءٌ كَانَ الْحَقُّ مَالًاً أَوْ غَيْرَ مَالٍ مِثْلُ النِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ، وَالْ طَلاقِ الْخَ.

(هدایہ، کتاب الشہادہ، اشرفی بکڈپو دیوبند ۳/۴۱۵، هکذا فی الجوهرۃ النیرہ، کتاب
الشہادۃ امدادیہ ملتان ۲/۲۶۳، دارالکتاب دیوبند ۲/۹۰۳، ۲/۸۱۳، البحر الرائق،
کوئٹہ ۷/۱۰، زکریا ۷/۶۲) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

الجواب صحیح:

لکتبہ: شیخ احمد قاسمی عفی اللہ عنہ

اختر محمد سلمان مصوّر پوری غفرله
۱۴۲۶/۲/۱۱

۱۲ رب جمادی الثانیہ ۱۴۲۶ھ
(فتوى نمبر: الف ۳۲/۸۲۳)

بیوی طلاق کی مدعیہ اور شوہر منکر

سوال [۶۸۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی بغیر کسی گواہ کے اب زید کہتا ہے کہ میں نے
طلاق نہیں دی، اور بیوی کہتی ہے کہ طلاق دی ہے اور تین طلاق دی ہیں اور اب لڑکی اپنے
باپ کے گھر ہے، اور عدالت سے بھی طلاق لے لی ہے اور کوڑ میرج بھی کروالیا ہے، اب
اس لڑکی کا نکاح دوسرے لڑکے سے ہو سکتا ہے یا نہیں؛ لہذا شریعت مطہرہ کی روشنی میں جواب
طلب یہ ہے کہ لڑکی کے قول پر عمل کیا جائے یا لڑکے کی بات پر، جواب عنایت فرمائیں؟

المستفتی: غلام نبی عدل پورٹھا کردارہ مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب لڑکی کے پاس شرعی گواہ موجود نہیں ہیں تو محض
اس کے دعویٰ سے شرعی حکم ثابت نہ ہوگا؛ اس لئے شوہر کے قول کا اعتبار ہوگا اور عدالت کے غیر مسلم
نجیا مسلم نجیا غیر شرعی فیصلہ معتبر نہیں ہے؛ اس لئے لڑکی کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالٍ كُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتَانِ مِمْنُ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ . (سورة البقرة، رقم الآية: ۲۸۲)

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان
سواء كان الحق مالاً أو غير مال مثل النكاح والعتاق والطلاق الخ.

(هدايه، كتاب الشهادة، اشرفی بکلپو دیوبند ۳/۴، ۱۵، هکذا فی الجوهرة النیرہ،
۱۳۸/۲، کتاب الشهادة امدادیہ ملتان ۶/۲، ۳۲، دارالکتاب دیوبند ۹/۲، البحیرائق،

کوئٹہ ۷/۴، ۱۰، زکریا ۷/۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
افتقر محمد سلمان مخصوص پوری غفرله
۱۴۳۲/۲/۱

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
کیم مریض اثنی ۱۴۳۱ھ
(فتوى نمبر: الف ۲۸/۳۰۹)

عورت طلاق کی مدعیہ ہے اور شوہر منکر تو طلاق ہوئی یا نہیں؟

سوال [۲۸۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ زید کی بیوی اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ میرے شوہرنے مجھ کو طلاق دی ہے
اور شوہر قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے اور گواہ کسی کے پاس موجود نہیں ہیں؛
لیکن محلہ میں چرچا اس بات کا ہے کہ زید نے طلاق دے دی ہے تو ایسی صورت میں زید کی
بیوی پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: محمد سراجیں سپولوی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسئولہ میں جبکہ عورت کے پاس
دو شرعی گواہ موجود نہیں ہیں اور شوہر قسم کھا کر طلاق دینے کا انکار کرتا ہے تو ایسی صورت
میں شوہر کا قول معتبر ہوگا۔

فالبینة حجة المدعى والیمین حجة المدعى عليه لقوله عليه الصلة و السلام البینة علی المدعى والیمین علی المدعى علیه. (بدائع قديم، كتاب الدعوى، فصل في حجة المدعى والمدعى عليه، ذكرى ديواند ۳۳۶/۵، ۳۳۷/۲۲۵/۶) اور اگر عورت نے خود سن رکھا ہے اور اس پر یقین ہے کہ شوہرنے اس کو طلاق دیدی ہے تو ایسی صورت میں عورت کیلئے شوہر کو اپنے اوپر قدرت دینا جائز نہیں ہے؛ بلکہ جس طرح بھی ہو سکے اس سے خلاصی حاصل کر لے۔ (ستفادہ: فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۹/۲۳۷)

والمرأة كا لقاضى لا يحل لها تمكينه إذا سمعته منه ذلك الخ. (المسکيرى ذکریاً قدیم ۱/۳۵۴، جدید ۱/۴۲۲، هنکذا فی الشامی کراچی ۲۵۱/۳، ذکریاً دیوبند ۴/۴۶۳) **فقط والله سبحانه وتعالى أعلم**

الجواب صحیح:

احترم مسلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۲/۲۱۸

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴۱۲/۱۳۱۲

(فتویٰ نمبر: الف ۲۳۱۲/۲۹)

بیوی طلاق کا دعویٰ کرتی ہے اور شوہر اس کا منکر ہے

سوال [۶۸۱۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص مقصود حسین کا اپنی بیوی سے خانگی معاملات میں جھگڑا ہوا اس جھگڑے کی بنابریت بہت بڑھ گئی، نوبت تو تو میں میں تک آگئی، اس سلسلہ میں بیوی نے بتایا کہ میرے شوہرنے جھگڑے کے دوران کئی بار یہ بات کہی کہ میں نے تجھے طلاق دی چل بیہاں سے نکل، یہ سنکر میں وہاں سے چلی آئی؛ لیکن شوہر کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ بیہاں سے چلی جا (یعنی اپنی ماں کے بیہاں) اس کے بعد میری بیوی گھر سے چلی گئی، صورت مذکورہ میں طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟

المستفتی: سعید الرحمن محلہ قادر نون گویان مراد آباد

بِسْمِهِ سَبْحَانَهُ تَعَالَى

الجواب وبالله التوفيق: اگر بیوی کے پاس اپنے دعوے کے ثبوت کے لئے شرعی گواہ موجود نہیں ہیں تو شوہر کا قول شرعاً معتبر ہوگا اور وہ طلاق کا انکار کر رہا ہے اور سوالنامہ کے سیاق سے واضح ہوتا ہے کہ شوہرنے چلی جا کے لفظ سے بھی طلاق کی نیت نہیں کی ہے؛ اس لئے شرعاً بیوی یہ کسی قسم کی طلاق کے واقع ہونے کا حکم نہیں لگے گا۔

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالٍ كُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. (سورة البقرة، رقم الآية: ٢٨٢)

وَمَا سُوِيْ ذلِكَ مِنَ الْحَقُوقِ يَقْبَلُ فِيهِ رِجْلَانِ أَوْ رِجْلٍ وَامْرَأَتَانِ سَوَاءٍ
كَانَ الْحَقُّ مَالًاً أَوْ غَيْرَ مَالٍ مِثْلَ النِّكَاحِ وَالْعَتَاقِ وَالْطَّلاقِ وَالخ. (الجوهرة،
كتاب الشهادة امدادیه ملتان ۲/۳۲۶، دار الكتاب دیوبند ۹/۲۰۳، هدایه، کتاب
الشهادۃ، اشرفی بکڈپو دیوبند ۳/۱۵۴)

كتبه: شبير احمد قاسمي عفوا اللہ عنہ

۱۸ ارڈی الحجہ ۱۴۳۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۷/۲۸۸۲)

بیوی طلاق کی مدعیہ اور شوہر طلاق کا منکر

سوال [۲۸۱۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنیں مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اور نینب دو نوں میاں بیوی ہیں، دونوں کی زندگی خوشگوار ماحول میں گزری، شادی کوتقر پیاً دوسال ہو گئے، کبھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، نینب کی بہن کی شادی ہونے لگی تو نینب اپنی بہن کی شادی میں میکہ گئی، شادی کے بعد نینب پھر اپنے شوہر کے ساتھ گھر آگئی، پھر صبح ہی میکہ چلی گئی، دو چار روز کے بعد جب شوہر ساس وغیرہ بلا نے گئے تو نینب نے کہا میں نہیں جاؤں گی، مجھے شوہرنے طلاق دے دی ہے، جب

کسی طرح بھی نینب آنے پر رضامند نہیں ہوئی تو دوچار آدمی نیچ میں پڑے؛ تب بھی نہیں آئی تو لوگوں نے کہا کب طلاق دی ہے اور کیوں دی ہے تو بیوی نے کہا دو مہینہ پہلے ہی طلاق دی ہے؛ جبکہ نینب اپنے شوہر کے گھر رہتی رہی اور اس وقت تک کوئی بات طلاق کی نہیں کی، جب شادی ہو گئی تب طلاق والی بات سامنے آئی؛ نیز لوگوں نے کہا کیسے طلاق دی تو نینب نے کہا کوئی جھگڑا اونیرہ نہیں ہوا ہے، ایک روز میں مسالا پیس رہی تھی اس سے پہلے شوہرنے بتا شے بھی کھلائے، دودھ بھی پلایا، یہ سب کھا پیکر مسالا پیسینے بیٹھ گئی، شوہر گھر سے نکل گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، طلاق طلاق طلاق تین بار کہا، شوہر قسم کھاتا ہے، قرآن شریف اٹھاتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی۔

غور طلب بات یہ ہے کہ بیوی کے ہی کہنے کے مطابق؛ جبکہ کوئی تکرار وغیرہ بھی نہیں ہوا اور یہ کہ مخاطب بھی نہیں کیا کہ تجھے طلاق ہے؛ بلکہ الگ تھلگ ہو کر صرف طلاق کہا؛ نیز عورت کے بقول دو ماہ پہلے طلاق دی ہے؛ جبکہ اس درمیان یعنی طلاق کے بعد دو ماہ بیوی شوہر کے گھر رہی اس وقت تک بیوی طلاق کا ذکر نہیں کرتی ہے، جب شادی میں گئی تو یہ معمہ سامنے آیا، شوہر قسم کھاتا ہے کہ میں نے طلاق ہی نہیں دی ہے تو کیا ایسی صورت میں بقول بیوی کے بغیر مخاطب کئے طلاق طلاق کہنے سے طلاق ہو جائیگی، مہربانی فرم اکر جواب عنایت فرمائیں۔

المستخفتی: محمد شریف برلان مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوالنامہ سے واضح ہوتا ہے کہ شادی میں شرکت سے یہ سارا قصہ سامنے آیا ہے اور شوہر ہر طرح سے حلفیہ بیان دینے پر تیار ہے اور بیوی کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں بیوی کی بات کا اعتبار نہ ہو گا، شوہر کے قول کا اعتبار ہو گا، شرعی طور پر بیوی کو شوہر کے حوالہ کر دینا چاہئے؛ نیز بیوی نے ایک ماہ تک کسی قسم کا اظہار کیوں نہیں کیا؛ لہذا ان حالات میں شرعاً شوہر ہی کا قول معتبر ہوتا ہے۔

وَاسْتَشِهْدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالٍ كُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ۔ (سورة البقرة، رقم الآية: ۲۸۲)

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيه رجالن أو رجل وامرأتان سواء
كان الحق مالاً أو غير مال مثل النكاح والعتاق والطلاق الخ. (هداية، كتاب

الشهادة، اشرفي بكاثپيو ديو بند ۳/۱۵۴، هكذا في الجوهرة النيره، كتاب الشهادة امداديه

ملستان ۲/۳۲۶، دار الكتاب ديو بند ۳۰۹/۱۲ فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احترم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۸ھ

۱۴۳۸/۲/۱۵

(فتوى نمبر: الف ۳۳۷/۵)

طلاق میں شوہر کی بات معتبر ہوگی یا بیوی کی؟

سوال [۲۸۱۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: ایک حافظ صاحب جن کی تین سال قبل شادی ہو چکی ہے ایک بچی بھی ہے
جس کی عمر تقریباً ایک سال ہے، شوہر بیوی کے مابین کچھ جھگڑا ہوا اور شوہر نے تنبیہاً مختصری
پڑائی کر دی، شوہر کی والدہ نے نقچ بچاؤ کر دیا اور لڑکے کو ڈالنا، اس کے بعد لڑکی خوشی خوشی
شوہر کے پاس چار ماہ تک رہتی رہی، اس کے بعد میکہ چلی گئی، ڈیڑھ ماہ میکہ میں رہی، اس
کے بعد شوہر بلا لایا، پندرہ دن کے بعد لڑکی کے بھائی کے یہاں عقیقه ہوا، اس میں لڑکے
کے والدین اور خود شوہر بھی اس لڑکی کو لیکر عقیقه میں شریک ہوئے، عقیقه ختم ہونے کے بعد
رخصتی کی اجازت مانگی، لڑکی کے والد نے کہا کہ ابھی نہ جاؤ اس پر بات ہوتی رہی، اس میں
لڑکی کا بھائی بولا یہ کسی قیمت پر نہیں جائے گی، اس پر تنازع ہوا، اس دوران شوہر لڑکی کے
والد کے یہاں سے واپس آگئے، کچھ دنوں کے بعد لڑکے کے تاؤ کے پاس لڑکی کا بھائی آیا،
اس نے کہا ہم لڑکی کو نہیں بھیجیں گے؛ اس نے کہ اس کو بہت تنگ کیا ہے، ایک ہفتہ بعد اور

آیا اور لڑکے کے تاؤ سے کہا کہ ہمارا سامان دلواد تھے، لڑکی کو چھ ماہ قبل طلاق ہو چکی ہے، اس کے بعد لڑکی کی خفیہ اطلاعات موصول ہوئیں کہ مجھے آکر لے جائیں، میں جانے کے لئے تیار ہوں، لڑکی نے اپنا وقت بتایا اور شوہر کو بلا یا، شوہرو بھائیوں کے ساتھ رات کے ساڑھے نو بجے لڑکی کو لینے چلا گیا، لڑکی وعدہ کے مطابق موقع پر تیار مع سامان متعدد جگہ پر ملی، شوہر اور ایک بھائی وہاں سے لیکر چل دیئے اور ایک بھائی گاؤں سے باہر موڑ سائکل لئے ہوئے انتظار کر رہا تھا، گاؤں میں شادی تھی، برابر میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کے لوگ شادی میں کھانا کھانے جا رہے تھے، ان لوگوں نے موڑ سائکل کو دیکھا، کس کی کھڑی ہے، شور مچا دیا، فائرنگ شروع کر دی کہ ڈاکو ڈاکو، لڑکی کا شوہر سمجھا کہ میرا بھائی ما را گیا، اس نے کہہ دیا تو گھر چلی جا، شوہر اپنی بیوی اور سامان کو چھوڑ کر بھائی کو دیکھنے بھاگ نکلا، بیوی اور موڑ سائکل چھوڑ کر یہ لوگ گھر واپس آگئے۔

اب لڑکی اور اس کے گاؤں والوں کی پنچاہیت ہوئی، اس میں یہ طے پایا کہ دونوں کو قسم کھلا کر معلوم کرو کہ اس نے طلاق دی ہے یا نہیں تو لڑکے نے مسجد میں قسم کھا کر کہا کہ میں نے کبھی طلاق نہیں دی ہے اور لڑکی گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے کہتی ہے کہ مجھے اس جھگڑے میں طلاق دے دی؛ باوجود اس کے وہ آنے کے لئے تیار ہے؛ لیکن گھر والوں سے چھپ کر تو پنچوں نے لڑکی سے پوچھا تو کیوں جا رہی تھی؛ جبکہ تجھے طلاق دے دی، تو لڑکی اس پر خاموش رہی اور کوئی جواب نہیں دیا، اب صورتِ مسئولہ میں کیا حل ہے آیا طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟

المسئلہ: عابد حسین، امیر حسین، ماسٹر خلیل احمد، بشیر احمد، اسحاق احمد، معصوم پور مراد آباد

با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوالِ نامہ کے پس منظر سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر نے طلاق نہیں دی، محض ناک بچاؤ کا مسئلہ ہے، خود لڑکی نے بھی خفیہ گفتگو میں بھی طلاق سے انکار کیا ہے؛ نیز اگر طلاق کا دعویٰ بھی ہے تو بیوی کے پاس شرعی گواہ موجود نہیں ہیں اور شوہر حلفیہ بیان دے رہا ہے کہ طلاق نہیں دی تو ایسی صورت میں بیوی کی بات

کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، شوہر کے قول کے مطابق شریعت کا حکم ثابت ہوتا ہے؛ لہذا شوہر کو یہ حق ہے کہ بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے۔

وَاسْتَشِهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالٍ كُمْ فَإِنْ لَمْ يُكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَامْرَأَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ۔ (سورة البقرة، رقم الآية: ۲۸۲)

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها رجال أو رجال وامرأة
سواء كان الحق مالاً أو غير مال مثل النكاح والعتاق والطلاق الخ۔ (هدایہ،

کتاب الشہادۃ، اشرفی بکڈپو دیوبند ۳/۱۵، هذکذا فی الجوهرۃ النیریۃ، کتاب الشہادۃ

امدادیہ ملتان ۳۲۶/۲، دارالکتاب دیوبند ۹۱۲ (فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم)

لکتبہ: شیر احمد قاسمی عفان الدین عنہ

۲۸ صفر ۱۴۱۸ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۳ / ۵۱۸۵)

فقط ہی ضابطہ ”المَرْأَةُ كَالْقاضِيُّ“ کا مطلب

سوال [۶۸۱۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ المرأة كالقاضی کا قاعدہ جو فقهاء نے ذکر کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے، کیا ہر جگہ جہاں قضاء طلاق واقع ہوتی ہے وہاں عورت طلاق کا اعتبار کرے گی یا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے علم و تحقیق کے مطابق عمل کرے گی، حالہ کے ساتھ جواب تحریر فرمائیں؟ تاکہ مراجعت آسان ہو سکے۔

المستفتی: علاء الدین بن ستوی ہتھورہ باندہ

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اس کا مطلب یہی ہے کہ عورت اپنے علم و تحقیق کے مطابق عمل کرے گی کہ جب اس کو یہ بات محقق ہو گئی کہ شوہرنے میں طلاق دیکر غلط بیانی

کی ہے تو عورت اس شوہر سے اپنے آپ کو الگ رکھنے کے لئے جتنے بھی حرਬہ استعمال کر سکتی ہے کر لینا چاہئے، اگرنا کام ہو کر اسی شوہر کے پاس رہنا پڑے تو عورت گنہگار نہ ہوگی؛ بلکہ سارا دبال شوہر پر ہوگا؛ جیسا کہ ذیل کی عبارت سے واضح ہوتا ہے۔

والمرأة كالقاضى إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه
والفتوى على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها بل تفدى نفسها بمال
أو تهرب (إلى قوله) فان حلف ولا بينة لها فالإثم عليه الخ. (شامی، کتاب
الطلاق، مطلب فی قول البحر، إن الصريح يحتاج فی وقوعه دیانة إلى البينة، زکریا ۴/۶۳،
هنديہ زکریا قدیم ۱/۳۵، ۳۵، جدید ۱/۴۲۲) **فَظْوَاللَّهِ سَجَانَهُ وَعَالَى الْعِلْمِ**

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان الدین

۱۹ ربیع الثانی ۱۴۱۳ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۱۳۲/۲۸)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۱۳/۲/۱۹

بیوی نے طلاق کو سنا اور شوہر منکر ہے

سوال [۶۸۱۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اور اس کی بیوی ہندہ میں زیاد ہوا، ہندہ مدعا یہ ہے کہ زید نے مجھے طلاق دی اس طرح کہ جائیں نے مجھے طلاق دی، میں نے مجھے طلاق دی، میں نے مجھے طلاق دی اور جا کسی کے ساتھ چلی جا، ہندہ کے پاس گواہ موجود نہیں ہیں، لیکن اس واقعہ کو حل فیہ بیان کرتی ہے اور زید طلاق کا منکر ہے، لیکن اپنے انکار پر قسم نہیں کھاتا، اس صورت میں قدوری کی عبارت۔
وإذ انكَلَ المُدْعى عَلَيْهِ عَنِ اليمين قضى عَلَيْهِ بالنكول والزمه ما
ادعى عَلَيْهِ. (قدوری ص: ۲۳۹، کتاب الدعوی)

طلاق مغلظہ واقعہ ہو جائے گی، یا حدیث البینة علی المدعى و الیمین علی من انکر. کی وجہ سے شوہر کا قول معتبر ہوگا اور اگر زید جھوٹی قسم کھالے اور ہندہ کو

یقین ہے کہ اس کے شوہر نے طلاق کے مذکورہ الفاظ کہے ہیں تو کیا ہندہ کیلئے دوسرے شخص سے نکاح کرنا۔

المرأة كالمقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه الخ.

(شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی قول البحر، إن الصريح يحتاج فی وقوعه دیانۃ إلی النية، زکریا ۴/۴۶۳، هندیہ زکریا قدیم ۱/۳۵۴، جدید ۱/۴۲۲) کی وجہ سے حلال ہے یا نہیں، حضرت والاسے موبد بانہ درخواست ہے کہ تشفی بخش جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتی: محمد رضاون قادری مدرسہ قاسم العلوم نہبور بکنور یوپی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مذکورہ صورت میں بیوی مدعی ہے اور شوہر

مدعی علیہ ہے جب بیوی کے پاس شرعی گواہ موجود نہیں ہیں تو شوہر پر حلف لازم ہے اور جب شوہر حلف کے لئے تیار نہیں ہے تو بیوی کا دعویٰ صحیح تسلیم کیا جائے گا اور فتویٰ بیوی کے قول کے موافق صادر کرنا ہوگا؛ لہذا بیوی پر طلاق مغلظہ تسلیم کی جائے گی اور اگر شوہر قسم کھالیتا ہے اور دوسری طرف بیوی نے تین طلاق کو خود سن رکھا ہے اور اس پر یقین کامل بھی ہے تو شوہر کو لے جانے کا حق دیا جائے گا؛ لیکن بیوی کو بھی خلعن وغیرہ کے ذریعہ سے راہ فرار اختیار کرنے کا حق ہوگا، شامی کی عبارت جو آپ نے نقل کی ہے اس کا مطلب بھی یہی دوسری صورت ہے۔

المرأة كالمقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه الخ.

(شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی قول البحر، إن الصريح يحتاج فی وقوعه دیانۃ إلی النية، زکریا ۴/۴۶۳، هندیہ زکریا قدیم ۱/۳۵۴، جدید ۱/۴۲۲) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلامان منصور پوری غفرلہ

۱۳۱۲/۲/۱۳

لکتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۳۱۲ھ صفر المظفر

(فتویٰ نمبر: الف ۳۳۰۸/۲۹)

بیوی کا طلاق کو سدنہ اور شوہر کا انکار کرنا

سوال [۶۸۲۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متبین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا اور نوبت طلاق تک آپ یہوںچی اس سلسلہ میں شوہر کا بیان کچھ اس طرح ہے شوہرنے کہا میرا اگھر خالی کر دے، اس پر بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق دے ابھی چلی جاؤں گی، اس پر شوہرنے کہا میں نے دی اور مزید یہ کہا کہ اگر میرے ساتھ اسی طرح پیش آؤ گی تو ایک مرتبہ نہیں پچاس مرتبہ دونگا؛ جبکہ بیوی کہتی ہے کہ شوہرنے طلاق دے دی ہے اور اس طرح کہا کہ میں نے دی، میرے خدا نے دی اور یہ جملے چھ سات مرتبہ دہراتے، صورت مسئولہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں کہ طلاق ہوئی یا نہیں اگر ہوئی تو کون ہی ہوئی؟

المستفتی: محمد ذاکر گرالہ بدایوں

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: بیوی نے اگر واقعۃ شوہر کے قول "میں نے طلاق دی، میرے خدا نے دی" کو چھ سات مرتبہ سنائے تو اب بیوی کے لئے شوہر کے ساتھ رہنا قطعاً جائز نہیں ہے، شوہر سے خلع وغیرہ کر کے تفریق حاصل کر لے؛ لیکن چونکہ بیوی کے پاس اس کے ثبوت کے لئے گواہ نہیں ہیں، اور شوہر بیوی کے اس دعویٰ کا انکار کر رہا ہے، اور اگر پنچایت رکھی جائے تو پنچایت کو شوہر کی بات کا اعتبار کرنا ہوگا اور پنچایت کے ذریعہ سے بیوی کو شوہر کے پاس جانا پڑے گا اور اگر واقعۃ شوہر نے طلاق دی ہے تو شوہر گنہگار ہوگا بیوی نہیں ہوگی، اور اگر حقیقت میں شوہر کی بات صحیح ہے اور بیوی با توں کو بڑھا چڑھا کر کے کہہ رہی ہے تو ایسی صورت میں شوہر کے پاس نہ جانے کی شکل میں بیوی گنہگار ہوگی، اب اس کا فیصلہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، میاں بیوی آپس میں جانتے ہیں؛ اس لئے غلط کرنے کی صورت میں فیصلہ اللہ کے یہاں ہوگا۔ (مستفاد: الفیضان المنوار در ۱۰۳/۲)

والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه والفتوى على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال، أو تهرب (إلى قوله) فإن حلف ولا بينة لها فالإثم عليه الخ. (شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی قول البحر، إن الصريح يحتاج فی وقوعه دیانة إلى النية، ذکریا ۴/۶۳، هندیہ ذکریا قدیم ۱/۳۵، ۳۵/۴، جدید ۱/۲۲، کراچی ۳/۲۵۱) فقط اللہ سبحانو تعالیٰ علم

الجواب صحیح:

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفی اللہ عنہ

۲۹ ر Shawal المکرم ۱۴۲۲ھ

۱۴۲۲/۱۱/۲۹

(فتوى نمبر: الف ۷۳۲۹/۳۶)

بیوی نے تین طلاق کو سننا اور شوہر منکر

سوال [۲۸۲۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد شمس الحق ولد جناب عبدالغفور مرحوم نے اپنی بیوی مسماۃ زہرہ خاتون کو کسی بات پر جھگڑنے کے بعد کہا ابھی بھی سنبھل جاؤ، بیوی نے کہا کہ ہم نہیں سمجھے کیا سنبھل جائیں، شوہرنے کہا کہ باہر نکلو بیوی آگے سے ہٹ گئی، پھر شوہرنے بسم اللہ پڑھ کر اللہ اکبر کہا اور یہ کہا تم کو تین طلاق دیں، ایک طلاق، دو طلاق، تین طلاق، اب ہم تھوک چھینکتے ہیں بیوی آنکن میں بیٹھ گئی، شوہرنے کہا کہ تم کو تینوں طلاقوں دے دیں پھر آنکن میں کیوں بیٹھی ہوا اور پھر زبردستی دھکا دیکر آنکن سے باہر کر دیا، طلاق دیتے وقت اسکی بالغہ لڑکی اور لڑکا قریب الیلوغ موجود تھے اور پھر باہر بھی لوگوں سے کہا کہ ہم نے ناجائز کیا، جواب دے دیا و تین گواہوں کے سامنے اس نے اپنی بیوی کو دو جواب دے دیا، محمد شمس الحق شوہر مذکور نے بیوی سے یہ بھی کہا اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، اپنے باپ کو بلا و اور اپنا دین مہر لے لو، اب شوہر مذکورہ لوگوں کے پوچھنے پر انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے طلاق نہیں دی ہے، یہ کہا تھا کہ جواب دے دیں گے، دیا نہیں ہے،

دریافت طلب امریہ ہے کہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں اگر ہوئی تو کونی طلاق؛ نیز ”جواب دے دیا“، لفظ کنایہ ہے یا کچھ اور ہے اور کنایہ سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے۔

المستفتی: فرید عالم بجا گلپور بہار

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب یوں نے اپنے کانوں سے تین طلاق دینا سن لیا ہے تو اس کے لئے بغیر حلالہ کے پاس رہنا جائز نہ ہوگا؛ بلکہ اگر شوہر جھوٹی فتیمیں کھا کر رکھنا چاہتا ہے تو یوں خلع وغیرہ کے ذریعہ اس شوہر سے الگ ہو جائے اور اس شوہر کے پاس بلا حللاہ ہرگز نہ ہے۔ (مستقاد: الإيضاح النواذر ۱۰۵/۲)

والمرأة كالقاضى إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه والفتوى على أنه ليس لها قتلها ولا تقتل نفسها بل تفدى نفسها بمال أو تهرب (إلى قوله) فإن حلف ولا بينة لها فالإثم عليه الخ. (شامی، كتاب الطلاق، مطلب فى قول البحر، إن الصریح يحتاج فى وقوعه ديانة إلى النية، زکریاء / ۴، هندیہ زکریا قدیم / ۱، ۳۵۴، ۴۲۲ / ۱، شامی کراچی / ۳)

اور جواب دے دیا کا لفظ عرف میں یوں کے لئے طلاق کے واسطے مستعمل ہے؛ اس لئے اس سے طلاق صریح رجعی واقع ہو جاتی ہے، اور دو جواب سے دو طلاق رجعی واقع ہو جاتی ہیں اور جواب دے دیا کا لفظ یہاں کے عرف میں کنایہ نہیں ہے؛ بلکہ صریح ہے۔ (مستقاد: فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۹/۲۱۶)

كما استفيد من عبارة الشامي فإن سرحتك كنایة لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصریح (إلى قوله) إن الصریح ما لم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت الخ. (شامی، كتاب الطلاق، باب الكنایات، زکریاء دیوبند ۴/ ۵۳۰، کراچی / ۳، ۲۹۹)

كتبه: شیخ احمد قادری عفان اللہ عنہ

۱۴۳۱ھ

(فتاویٰ نمبر: الف ۳۱/ ۳۲۱)

بیوی تین طلاق کی مدعی ہے اور شوہر منکر

سوال [۶۸۲۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ بیوی تین طلاق کا دعویٰ کر رہی ہے اور شوہر انکار کر رہا ہے؛ تو اس مسئلہ میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

المسنون: شیخ احمد مانیوالا بخاری پی

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوالنامہ میں درج کردہ معاملہ میں دو باتیں الگ الگ ہیں

(۱) عورت نے طلاق کا دعویٰ کیا تو اس کے ثبوت کے لئے گواہ پیش کرنا لازم ہے، اگر عورت دو معتبر گواہ پیش کرتی ہے، تو قضاءً اور دیلۃ دونوں اعتبار سے طلاق مغلظہ واقع ہو گئی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ عورت کے پاس دعویٰ کے ثبوت کے لئے گواہ نہیں ہیں اور شوہر انکار کر رہا ہے تو ایسی صورت میں شوہر کی قسم کے ساتھ اس بات کو مان لیا جائیگا کہ شوہر نے طلاق نہیں دی ہے؛ لیکن اگر عورت نے اپنے کان سے شوہر کی طرف سے تین طلاق کو سنایا ہے، تو اس کے لئے قاضی کے فیصلہ کے باوجود اس شوہر کے پاس جانا جائز نہیں ہے، مہر وغیرہ معاف کر کے اس سے علیحدگی اختیار کرنا لازم ہے اور اگر شوہر کی معافی پر الگ نہیں کرتا ہے؛ تب بھی عورت کے لئے اس کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأُمَّا تَانِ مِمَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهِيدَيْنِ۔ (سورة البقرة، رقم الآية: ۲۸۲)

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل واحداً سواء كان الحق مالاً أو غير مال مثل النكاح، والطلاق والخ.

(هدایہ، کتاب الشہادۃ، اشرفی بکڈپور دبو بند ۳/۱۵۴)

والمرأة کا لقاضی إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمکینه والفتوى على أنه ليس لها قتل ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال، أو تهرب (قوله) أنها ترفع الأمر للقاضی فإن حلف ولا بینة لها فالإثم عليه. (شامی، کراچی، کتاب الطلاق، زکریا ۴/۶۳، تبیین الحقائق، امدادیہ ملتان

(زکریا ۳/۸۲، ۲۱۸/۲)

وفي البحر: يحل لها أن تزوج بزوج آخر فيما بينها وبين الله تعالى.
(البحر الرائق، زکریا ۴/۹۶، کوئٹہ ۴/۵۷) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۱۹ مرتب الاول ۱۴۳۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۸/۹۹۵۸)

شوہر طلاق ثلاٹھ کا منکر اور بیوی مدعیہ

سوال [۶۸۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بڑی ہندہ اپنے شوہر کے دماغی توازن کی کمی کی وجہ سے نجاہ نہیں کر سکی اور سخت پریشان ہے، اپنے شوہر کے پاس جانا نہیں چاہتی؛ چونکہ ان کے لوگ اور خود ان کا شوہر بہت تکلیف دیتا ہے، ایسے حالات میں کب تک مجرم زندگی گزارے، عورت ذات ہے، ایک بار اس نے تین طلاق بھی دے دی تھیں، اب ان کا کہنا ہے کہ جبکہ ہندہ نے خود اپنے کان سے سنا ہے اور ہندہ کی ماں نے بھی اپنے سے تین طلاق کو سنا ہے، اس لئے آپ کے دار القضاء میں مقدمہ دائر کرتا ہوں، بڑا زید کے ماں باپ انکار کرتے ہیں کہ میں نے طلاق نہیں دی تم چاہے کچھ بھی کرو اور خلع کرنے کو بھی تیار نہیں، بچی کا کہنا ہے کہ جب میں نے تین طلاق کو اپنے کان سے سنا ہے اب تمہارے کہنے سے حرام کام کو نہیں جاتی، اب شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: محمد صیف

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب لڑکی نے از خود تین طلاقیں اپنے کان سے سنی ہیں تو اس کے لئے اب اس شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے؛ مگر اس کے پاس شرعی ثبوت نہیں ہے اور شوہر طلاق دینے کا انکار کر رہا ہے؛ اس لئے ایسی صورت میں کسی طرح شوہر کو خلع پر راضی کر کے طلاق حاصل کر لے؛ تاکہ یہی خلع شرعی ثبوت بن جائے۔
(مستقاد: ایضاح النوادر ۲/۱۰۵)

والفتاویٰ علیٰ أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب الخ. (شامی کراجی ۲۵۱/۳، زکریا ۲۴۸/۳) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۰ھ/۱۱/۱۲
(فتویٰ نمبر: الف/۲۳۸۵، ۳۳)

تعداد طلاق کے بارے میں مدعیہ کا بیان شرعی گواہاں ہونے کی صورت میں معتبر ہے

سوال [۶۸۲۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ شوہرنے یہ کہا کہ اپنے باپ کے مال میں سے حصہ لے کر آؤ میں نے کچھ نہیں کہا، اس کے بعد مجھے نکال رہے تھے، پھر لڑکی سے کہا کہ مٹی کا تیل لے کر آؤ، اسے آگ لگائیں وہ لڑکی تیل لے کر نہیں آئی، مجھے پیٹنے لگے محلے والی عورتیں آگئیں اور آدمیوں کو بلا لیا، ان آدمیوں کے سامنے طلاق دی، پاچ بار میں نے اپنے کانوں سے سنा۔

سوال: تم نے کیا الفاظ سنے؟

جواب: میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی آزاد کیا آزاد کیا۔

سوال: کسی نے روکنے کی کوشش کی طلاق دینے سے؟

جواب: ماسٹر رشید صاحب نے اور ملا جی شوکت بھائی اور ایک پتی نہیں کون تھے اور چھوٹے چپا کی بیوی اور شریف نائی کی بیوی اور ماسٹر صاحب کی بیوی بھی تھیں۔

سوال: شوہر نے تمہیں بلا ناچاہا تو تم بہت دنوں تک پاس آنے سے گریز کرتی تھیں؟

جواب: یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔

سوال: اس سے پہلے ناراضی ہوئی یا ہوتی رہتی تھی؟

جواب: جی ہاں ہوتی رہتی تھی، کہتے رہتے تھے یہ نسل اچھی نہیں لگتی میرے اوپر کوئی ناراضگی نہیں تھی، سراسال سے جھگڑا تھا میں کہتی تھی کہ اوروں کے اوپر نہ جاؤ، مجھ سے واسطہ رکھو۔

بیان گواہ اول ملابجی شوکت علی صاحب

جو حق بات ہے وہ یہ ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوا، تو یہ بیوی کو مار رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پڑی تھی، میں نے ان سے کہا کہ تم آدمی ہو یا پڑواری؟ میں نے سنانہوں نے دو مرتبہ طلاق دی اور دو مرتبہ آزاد کر دیا کے الفاظ کہے۔

سوال: تم وہاں کیا کر رہے تھے؟

جواب: برابر والے مکان میں کام کر رہے تھے، جب جھگڑا ہوا، سن کر آگئے۔

سوال: تم نے جھگڑے کی آواز خود سن یا کسی نے اطلاع دی؟

جواب: چھوٹے کی گھروالی نے اطلاع دی، تو ہم اور ماسٹر رشید صاحب پہنچے۔

سوال: تمہیں کوئی بات پتہ چلی، جب ان کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا؟

جواب: ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم اتنی بات سن کر واپس آگئے۔

سوال: آپ نے خود سن کر کہا یا کسی اور سے سن کر کہا؟

جواب: ہم نے براہ راست سننا کسی اور سے نہیں سننا۔

گواہ ثانی محمد یسمین ولد عبد القیوم صاحب

ہمارے سامنے دو بار طلاق کو کہا اور دوبار آزاد کو کہا؛ جبکہ ہم اور ماسٹر رشید صاحب

انہیں کھپٹ کر لارہے تھے، باقی ماسٹر رشید سے معلوم کریں۔

سوال: جب یہ جھگڑا ہوا، آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟

جواب: ہم برابر والے مکان میں کام کر رہے تھے۔

سوال: تم خود وہاں پہنچ یا کسی نے اطلاع دی تھی؟

جواب: چھوٹے کی بیوی نے اطلاع دی کہ پہلوان اپنی اہلیہ کو مار رہے ہیں، تم بچالو، جب ہم وہاں پہنچ تو وہ اپنی بیوی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پڑی تھی، اسی گرم گھاؤ میں طلاق دیدی۔

سوال: ان کے درمیان جھگڑے کی کوئی وجہ آپ کو معلوم ہے؟

جواب: ہمیں کچھ پتہ نہیں۔

گواہ ثالث ماسٹر رشید صاحب

میں برابر میں مکان بنوار ہا ہوں، قریب سے ایک عورت گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ دشاد کے گھر چلو، جھگڑا ہور ہا ہے، میں گیا میرے ساتھ اور آدمی جو کام کر رہے تھے، وہ بھی آگئے، میں نے دشاد میاں کو کھڑا کیا اور کہا کہ جھگڑے کو چھوڑ دا اور میں اس کو کھینچ کر لانے لگا تو اس وقت میں نے سنا کہ اس نے کہا کہ میں نے اس کو طلاق دی، دو مرتبہ کہا اور میں نے اس کو آزاد کیا ایک مرتبہ کہا، میں اس کو کھینچ کر گھر لے گیا اور جتنا مجھ سے ہو سکا کوئی خست ڈا نٹا۔

سوال: ان کے درمیان جھگڑے کی وجہ آپ کو معلوم ہے؟

جواب: مجھے نہیں پتہ یا اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔

بیان مدعیٰ علیہ شوہر دشاد احمد

کسی بات پر ناراضگی پیدا ہونے پر میں نے ایک بار بغیر ارادہ کے ایک لفظ کہا کہ میں نے طلاق دی۔

سوال: ناراضگی کی کوئی خاص وجہ تھی؟

جواب: ایسی کوئی خاص وجہ نہ تھی؛ البتہ کافی دنوں تک میاں بیوی والے تعلقات سے گریز کرتی تھی، میں خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر کہتا ہوں کہ میں نے اور پچھنیں کہا۔

سوال: تو کیا اس سے پہلے کوئی ناراضگی ہوئی؟

جواب: اس سے پہلے ایسی کوئی خاص ناراضگی نہیں ہوئی۔

سوال: اس وقت وہاں کون کون موجود تھے؟

جواب: ایک ہماری جن تھی، ایک ہمارے پڑوں کا لڑکا اس کا نام رئیس احمد ہے، فرید احمد وزیر صاحبہ بر اہ راست جھگڑا انہوں نے سنایا۔

سوال: کیا تم نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ تم اپنے میکہ سے پیسے لے کر آؤ؟

جواب: نہیں بخدا میں نے نہیں کہا۔

بیان گواہ اول فرید احمد صاحب

میں تو اس سب جھگڑے کے بعد پہنچا اور جن سے میری بات ہوئی، انہوں نے بتایا دشاد نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور مارا ہے، پھر میں ماسٹر رشید صاحب سے ملا، انہوں نے مجھے کچھ بتا کر نہیں دیا۔

سوال: جن نے تمہیں کتنی بار طلاق دینے کے بارے میں بتایا؟

جواب: مجھے صرف ایک بار طلاق دینے کے متعلق بتایا اور کہا کہ میں شروع سے اخیر تک رہی۔

بیان گواہ رئیس احمد صاحب

میں نے سنا کہ دشاد احمد نے ایک مرتبہ طلاق دی کا لفظ کہا، تو میں فوراً دشاد کے قریب گیا، میں نے کہا کہ دیکھو یہ لفظ مت بولنا پھر ماسٹر رشید اور ملا جی اور مزدور آگئے اور اس کو کھینچ کر لے گئے، میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے یہ بیان دے رہا ہوں جو بالکل صحیح ہے۔

گواہ ثانی (الف) جن شکوراً اہلیہ حاجی رشید صاحب

میں گلی میں جا رہی تھی، میں نے جھگڑے کی آواز سنی تو میں اندر گئی، تو میں نے دیکھا کہ داشاد احمد اپنی بیوی کو مار رہا ہے، دعویٰ تین شریف اور چھوٹے کی بیوی بچا رہی تھی، تو میں نے کہا کہ ماسٹر رشید کے یہاں کام ہو رہا ہے، وہاں سے مردوں کو بلا لاؤ چھوٹے کی بیوی ماسٹر صاحب اور مزدوروں کو بلا لائی، وہ اسے کھینچ کر لے جانے لگے تو ہم نے یہ سنا کہ داشاد احمد کہہ رہا تھا کہ میں تو اسے نکالوں گا، میں نے اسے طلاق دی، آزاد کیا اور فارقی دی یہ صرف میں نے ایک بار سنا ہے۔

سوال: آپ جھگڑے کے شروع میں تھیں؟

جواب: میں شروع سے نہیں تھی، مار پیٹ پہلے سے ہو رہی تھی، میں تو جھگڑا سن کر پہنچی۔

سوال: جب آپ آئیں تو کیا جھگڑا ختم ہو چکا تھا؟

جواب: ماسٹر صاحب داشاد کو پکڑ کر لے گئے اور ان کے والد نے ان کو بلوایا، پھر میں سبزی لینے چلی گئی مجھے پتہ نہیں کیا ہوا۔

بیان گواہ ثانی (ب) وزیر ان اہلیہ حسیب اللہ صاحبہ

سوال: جب وہ پکڑ کر لے جا رہے تھے، تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟

جواب: جس وقت وہ لے جا رہے تھے، اس نے کہا کہ میں نے طلاق دی، فارقی دی، آگے پتہ نہیں کیا ہوا۔

سوال: جھگڑا لے جانے کے بعد ختم ہو گیا یا چلتا رہا؟

جواب: جھگڑا ختم ہو گیا اور اس کی بیوی ہمارے سامنے چلی گئی۔

دریافت یہ کرنا ہے کہ بیوی کے بیانات اور اس کے شوہر کے بیانات اسی طرح ہر دو کے گواہان کے تفصیلی بیانات آپ کے سامنے ہیں، جواب دیں کہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں

اور کون سی طلاق ہوئی؟ اب میاں بیوی کو کیا کرنا چاہئے؟

المستفتی: زید احمد، مبارک پور، امروہہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: بیوی مدعاہ کے دعویٰ کے مطابق دو گواہوں نے دو مرتبہ طلاق اور دو مرتبہ آزاد کر دیا کے الفاظ پر شہادت دی ہے اور ایک تیسرے گواہ نے دو مرتبہ طلاق اور ایک مرتبہ آزاد کر دیا کا لفظ سنایا، بہر حال بیوی نے اپنے دعویٰ پر گواہ پیش کر دیا ہے اور ہمارے عرف میں آزاد کر دیا کا لفظ بیوی کے حق میں طلاق کے لئے بولا جاتا ہے، اس لئے مذکورہ صورت میں بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو چکی ہے۔ اب بلا حلالہ نکاح بھی جائز نہ ہو گا اور شوہر کی طرف سے گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نیز وہ سب گواہ ناتمام بھی ہیں۔

قال اللہ تعالیٰ: وَاسْتَشْهِلُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا

رَجُلُينِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَانِ مِمَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهَدَاءِ۔ [البقرہ: ۲۸۲]

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالا، أو غير مال مثل النكاح، والطلاق. (هدایہ، کتاب الشہادۃ اشرفی دیوبند ۳/۱۵۴، البحر الرائق کوئٹہ ۷/۶۲، زکریا ۴/۷۷، در مختار، کراچی ۵/۴۶۵، زکریا ۸/۱۷۸)

سرحتک و هو رها کردم؛ لأنَّه صار صريحاً في العرف. (شامی،

کتاب الطلاق، باب الکنایات کراچی ۳/۹۹، زکریا ۴/۵۳۰)

وإنْ كَانَ الطلاق ثَلَاثًا فِي الْحَرَةِ، وَشَتَّىنِ فِي الْأُمَّةِ لَمْ تَحْلِ لَهُ حَتَّى تُنكِحَ زوجًا غَيْرَهُ نَكَاحًا صَحِيحًا وَيَدْخُلُ بِهَا، ثُمَّ يَطْلُقُهَا، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هنایہ، اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

كتبه: شیعیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

اختر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳/۱۳۱۹ھ

۳/۳/۱۳۱۹ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۳۲)

شوہرتین طلاق کا منکر اور بیوی مدعیہ

سوال [۶۸۲۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عتین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں اور میرے دو نپے ہیں، میرے شوہر جب ایک رات سونے کے لئے آئے تو ۱۵ ارمنٹ آرام کرنے کے بعد کہنے لگے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، میں اپنی پہلی بیوی کے پاس ہونے جا رہا ہوں یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلے گئے اور جانے لگے انہیں جاتا دیکھ کر مجھے غصہ آگیا، اور ان سے کہا سنی پر بات بڑھ گئی، اتنی بات بڑھنے پر میں نے ان سے کہا کہ اگر آج یہاں سے گئے، تو مجھے طلاق دے کر جاؤ گے، انہوں نے کہا ہاں میں تجھے طلاق دے دوں گا، اس بات پر میں نے کہا کہ ایسے نہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی، یہ انہوں نے تین بار بڑی زور دے کر کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ اب اس بات کو کافی دن ہو گئے ہیں اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں میں نے تین بار نہیں دوبارہ کہا ہے اور وہ فقیم بھی کھار ہے ہیں کہ میں نے دوبارہ کہا ہے۔
برائے مہربانی آپ میری مشکل کا حل بتانے کی زحمت کریں۔

المستفیۃ: عرشی، اندراء، چوک چاندوالی مسجد، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ میں دو بیان دو طرح کے ہیں کہ بیوی تین طلاق کی دعویدار ہے اور شوہرتین بار کا منکر ہے، اور شوہر اس پر فقیم بھی کھار ہا ہے اور شوہر کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ اس واقعہ کے بعد دونوں برضاور غبت ہم بستر بھی ہو گئے، اس پر بیوی نے انکار بھی نہیں کیا اور تین طلاق کے دعویٰ پر بیوی کے پاس گواہ بھی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں شرعاً شوہر کے قول کا اعتبار ہوتا ہے؛ لہذا شوہر کے قول کے مطابق ہی شریعت کا حکم ہے دو ہی طلاق کا اعتبار ہو گا اور بعد میں ہم بستری کرنے کی وجہ سے رجعت بھی ہو گئی؛ اس لئے شرعی طور پر بدستور میاں بیوی شمار ہوں گے۔

وَمَا سُوِيَ ذَلِكَ مِنَ الْحَقُوقِ يَقْبَلُ فِيهَا شَهادَةُ رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ،
وَامْرَأَتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَقُّ مَالًا، أَوْ غَيْرًا مَالًا، مُثْلِ النِّكَاحِ، وَالْطَّلاقِ،
وَالْوَكَالَةِ، وَالْوَصِيَّةِ. (هداية، کتاب الشهادت اشرفی دیوبند ۳/۴۱۵)

وَنَصَابُهَا لِغَيْرِهَا مِنَ الْحَقُوقِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَقُّ مَالًا، أَوْ غَيْرًا كَنِكَاحٍ،
وَطَلاقٍ.....رَجُلَانِ.....أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَانِ. (در مختار مع الشامي، کتاب الشهادت،
کراچی ۵/۶۵، زکریا ۸/۱۷۸)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرَضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ . (سورة البقرة، رقم
الآیة: ۲۸۲) فَنَظَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَلَمَ

کتبہ: شییر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
کار شعبان المعظم ۱۴۲۶ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۸/۸۹۳۳)

طلاق کے بارے میں زوجین میں سے کس کے قول کا اعتبار ہے؟

سوال [۲۸۲۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ خالد اور اس کی زوجہ میں کسی بات پر نزاع ہوا اور تکرار اس حد تک بڑھا کہ
خالد نے لفظ طلاق کا استعمال کیا؛ لیکن اس لفظ کی ادائے گی میں زوجین میں اختلاف ہو گیا،
شوہر کہتا ہے کہ میں نے دوبار کہا کہ ”میں تجھے طلاق دیوں گا“ اور بلا لے اپنے والد کو میں
اس کے سامنے بھی طلاق دیوں گا؛ البتہ میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں میں تجھے سے دسیوں بار یہ
کہہ چکا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جایہ صرف ڈرانے کے لئے کہا ہے، اس میں
طلاق کی نیت نہیں تھی؛ جبکہ بیوی کہتی ہے کہ میرے شوہرنے صراحةً دوبار یہ کہا کہ جا میں نے
تجھے طلاق دیوں گا اور بلا لے اپنے والد کو اس کے سامنے بھی طلاق دیوں گا اور یہ جا، ایک بار

نہیں؛ بلکہ دس بار کہہ چکا کہ چلی جا، اس واقعہ پر شوہر کی ماں اور بالغہ لڑکی موجود تھی، شوہر کی ماں اس بارے میں کچھ کہنے سے خاموش ہے اور لڑکی کہتی ہے کہ ایک بار تو یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دیدی اور ایک بار کہا کہ تجھے طلاق دیوں گا۔ اور تیسرا بار کہا کہ اپنے والد کو بلا لے اس کے سامنے بھی طلاق دیوں گا۔

المستفی: راشد حسین، عمری کلاں، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شوہر کے بیان کے مطابق کسی قسم کی کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی اور بیوی کے بیان کے مطابق دو طلاق رجی ہوئی ہیں، جس میں رجعت کی گنجائش باقی ہے، بیوی کے بیان کا اعتبار نہیں، بلکہ شوہر کے بیان کے مطابق کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، میاں بیوی کی زندگی گذار سکتے ہیں اور ماں اور لڑکی سے نصاب شہادت مکمل نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے بیان میں مطابقت ہے؛ اس لئے اس کا بھی اعتبار نہیں اور لفظ طلاق دیوں گا سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔

لوقال: أطلقك لم يقع. (سکب الأنہر، کتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق،

دارالكتب العمیة بیروت ۲/۱۴)

قال الله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ . (سورة البقرة، رقم الآية: ۲۸۲) وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين، أو رجل، وامرأتين سواء كان الحق مالاً، أو غير مال، مثل النكاح، والطلاق، والوكالة، والوصية. (هدایۃ، کتاب الشہادۃ اشرفی دیوبند ۳/۱۵۴، البحیر الرائی، کوئٹہ ۷/۶۲، زکریا ۸/۱۷۸، در مختار مع الشامی، کراچی ۵/۴۶۵، زکریا ۸/۱۷۸) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احترم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۲۳۲/۳۲۶

كتبه: شیخ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۲۶ ربیع الثانی ۱۴۳۶ھ

(فتاویٰ نمبر: الف ۳۲۲/۳۲۳۲)

مطلق اور گواہ کے مابین صیغہ طلاق میں اختلاف ہو تو کس کا قول معتبر ہے؟

سوال [۶۸۲۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد یعقوب نے لڑائی کے وقت اپنی بیوی سے کہا کہ چپ ہو جانیں تو میں تجھے طلاق دیوں گا، اس وقت بیوی کی ماں اور یعقوب کے ماں باپ موجود تھے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، مگر محلے کے تین چار آدمی کہتے ہیں کہ یعقوب نے طلاق دی کہا ہے، کیا اس صورت میں طلاق واقع ہونے کا حکم لگایا جائے گا؟

المستفتی: ٹپر مسلم انٹرکالج، تھاکر دواہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسئولہ میں محلہ کے لوگوں کی گواہی ماں باپ شوہر بیوی کے خلاف شرعاً معتبر نہیں ہے اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے طلاق دی سناء ہے اس کا اعتبار نہ ہو گا۔

وللوعدواة للدنيا لا تقبل سواء شهد على عدوه أو غيره. (در مختار،
کتاب الشہادة، باب القبول وعدمه، کراچی ۵/۴۸۰، زکریا ۹/۱۹۹، البحیر الرائق،
زکریا ۷/۱۴۳، کوئٹہ ۷/۸۵)

لہذا سوال نامہ میں مذکور لفظ طلاق دیدوں گا سے کوئی طلاق نہیں ہوتی؛ کیونکہ یہ طلاق نہیں بلکہ طلاق کی حکمی یا وعدہ طلاق ہے اور حکمی اور وعدہ سے طلاق نہیں ہوتی۔

بخلاف کنم؛ لأنَّه استقبال فلم يكن تحقيقاً بالتشكّك. وفي
المحيط: لو قال بالعربية أطلق لا يكون طلاقاً. (عالِمُگیری، زکریا قدیم ۱/۳۸۴،
جدید ۱/۴۵۲)

أنا طالق، أو أطلق نفسي لم يقع؛ لأنَّه وعد. (در مختار، کراچی ۳/۱۹،
زکریا ۴/۵۵۹، بحر، زکریا ۵/۵۴، کوئٹہ ۳/۳۱۴)

لوقال: أطلقك لم يقع. (سکب الأنهر فی شرح ملتقی الأبحر، دارالكتب
العلمیة بیروت ۲/۱۴) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

کتبہ: شیعہ احمد قاسمی عفان الدین عنہ

۱۴ رب جمادی ۱۴۲۱ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۵۰/۲۸۳۰)

شوہر دو طلاق کا اقرار کرے یا یوں چار کا

سوال [۶۸۲۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ابھی ہفتہ عشرہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ محمود علی صاحب اور ان کی بیوی کے درمیان آپس میں ناجاہتی اور اختلاف کی بناء پر غصہ کی حالت میں محمود علی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم کو ایک نمبر، دونوں طلاق دی، اس بات پر دونوں فریق متفق ہیں، محمود علی بھی اس کا اقرار کر رہا ہے اور اس کی بیوی بھی یہی کہتی ہے؛ لیکن ساتھ میں بیوی کی طرف سے یہ بھی دعویٰ ہے کہ آج سے تقریباً چھ مہینہ پہلے عید الغفر کے بعد ایسا ہی جھگڑا ہوا تھا اور اس جھگڑے کے دوران ”طلاق دیدی“ کا لفظ دو مرتبہ استعمال کیا ہے، میں اس معاملہ سے متعلق تحقیق کے لئے امر وہ سے اپنی بہن کے پاس آیا معلوم ہوا کہ اس مسئلہ سے متعلق تین فتوے آچکے ہیں۔ ایک فتویٰ جامع الہدی سے جس میں شوہر کے بیان کے مطابق دو طلاق سے متعلق ہے، اور ایک فتویٰ لاں مسجد سے مفتی عبد المنان کلیمی کا لکھا ہوا ہے، جس میں بھی شوہر کے بیان کے مطابق دو طلاق رجعی کا ذکر ہے، اور مدرسہ شاہی سے بھی ایک فتویٰ لیا گیا ہے، جس میں بیوی کے بیان کے مطابق تین طلاق کا ذکر ہے؛ اس لئے ہم بڑی تشوش میں مبتلا ہو گئے، پھر مدرسہ شاہی کے مفتیان کرام سے رابط کیا گیا، اس کے بعد مسئلہ کی تحقیق ہوئی اور مدرسہ شاہی میں، میں اور ماسٹر عتیق صاحب اور محمود علی کے تینوں بیٹیاں اور میری بہن جو محمود علی کی بیوی ہے، سب مدرسہ میں حاضر ہوئے اور ڈریٹھ گھنٹہ تک مدرسہ شاہی کے

مفتيان نے جانين کے بيانات سے اور دونوں طرف کی رد و قدر کی بات بھی سنی اور اس میں میری بہن ملکہ ثریا نے اپنے بيان میں بڑے بیٹے منصور علی کو گواہی میں پیش کیا ہے، مگر بیٹے نے کہا میں ماں باپ کے بيان میں سے کسی کو جھٹال نہیں سکتا ہوں؛ البتہ اس واقعہ میں موجود تھا، اس میں طلاق دیدوں گا لفظ کئی مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، دیدی کا لفظ مجھے یاد نہیں، اس پر ماں نے برسر عام مجلس ہی میں بیٹے کے لئے سخت بدعا نیہ الفاظ استعمال کئے، پھر بھی بیٹا اپنے بيان پر قائم ہے اور حاصل یہ نکلا کہ محمود علی ”دو طلاق کا اقراری ہے اور میری بہن ملکہ ثریا اپنے کان سے پہلے واقعہ میں بھی دو طلاق سننے کی وجہ سے مدعيہ ہے اور دوسرے واقعہ میں بھی دو طلاق سننے کی مدعيہ ہے، ایسے حالات میں شریعت کیا فیصلہ دیتی ہے؟

المستفتی: محمد آصف حیات جعفری، محلہ بڑا دربار، امروہ

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ میں ذکر کردہ تینوں فتوؤں میں سانکلوں نے جس طرح سے سوال پیش کیا ہے، اسی طرح کے جوابات ہیں، ان متصاد سوال و جواب کے بعد اور جانین کے الگ الگ بیانات سننے کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ آمنے سامنے بات چیت ہو جائے، تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تک جانین سے آمنے سامنے بات ہوئی، شوہر صرف دو طلاق دینے کا اقراری ہے، اور یہوی اس بات کی دعویدار ہے کہ شوہر نے ابھی ہفتہ عشرہ پہلے دو طلاق دی ہے، جس کا شوہر بھی اقرار کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ پانچ چھ مہینے پہلے عید الفطر کے بعد بھی جھگڑے کے دوران دو طلاق دے چکا ہے اور اس پر یہوی نے اپنے بڑے بیٹے کو گواہی میں پیش کیا اور بڑے بیٹے سے دونوں کے سامنے براہ راست معلوم کیا گیا وہ یہ کہتا ہے کہ ”طلاق دیدوں گا“ کا لفظ کئی بار استعمال کیا گیا ہے اور ”دیدی“ کا لفظ نہ سنا، نہ یاد ہے جیسا کہ سوال نامہ میں مذکور ہے اور شوہر نے بھی صاف لفظوں میں اس کا انکار کر دیا ہے کہ پانچ چھ مہینے پہلے جھگڑے کے

دوران طلاق دی ہے؛ بلکہ یہ کہتا ہے کہ حکمی کے لئے ”طلاق دیدوں گا“، کا لفظ کئی بار استعمال کیا اور ”طلاق دیدی“، کا لفظ قطعاً استعمال نہیں کیا اور اس بات پر قسم کھانے کے لئے تیار ہے؛ الہذا یوں کے اپنے دعوے کے ثبوت میں شرعی گواہ موجود نہیں ہیں اور شریعت اسلامی میں ایسی صورت میں حکم شرعی یہی ہے کہ یوں کے دعویٰ کا اعتبار نہیں شوہر کے قول کے اعتبار سے حکم شرعی نافذ ہو جاتا ہے؛ اس لئے مذکورہ واقعہ میں دو طلاق رجیع واقع ہو گئی ہیں، شوہر کو رجعت کا حق ہے؛ لیکن ساتھ ساتھ شریعت عورت کو یہ بھی کہتی ہے کہ اگر واقعۃ اس نے اپنے کان سے پہلے واقع میں بھی دو مرتبہ ”طلاق دی“، کا لفظ سن رکھا ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہے تو خوشی سے اپنے آپ کو شوہر کے حوالہ کرنا جائز نہیں ہے؛ بلکہ مال دے کر یا مہر معاف کر کے شوہر سے الگ ہو جائے اور اگر شوہر خلع کرنے اور مال لینے پر کسی طرح تیار نہیں ہے اور بیوی کو رکھنے پر ہی مصر ہے، تو ایسی صورت میں مجبوراً یوں کے لئے شوہر کے ساتھ رہنا جائز ہے اور سارا گناہ شوہر پر ہو گا، اللہ کے بیہاں یوں سے باز پرس نہیں ہو گی۔ (مستقاد: ایضاً الانوار ۲۸۲)

والمرأة كالقاضي إذا سمعته، أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه،
والفتوى على أنه ليس لها قتلها، ولا تقتل نفسها؛ بل تفدي نفسها بمال،
أو تهرب (وقوله) أنها ترفع الأمر للقاضي، فإن حلف ولابينة لها، فالإثم
عليه. (شامی، کراچی، ۲۵۱/۳، زکریا ۴/۶۳)

وفي البحر يحل لها أن تتزوج بزوج آخر فيما بينها وبين الله تعالى.
(البحر الرائق، کوئٹہ ۴/۵۷، زکریا ۴/۹۶)

أن المرأة كالقاضي لا يحل لها، أن تمكنه إذا علمت منه، ما ظاهره
خلاف مدعاه. (شامی، کراچی ۳/۳۰۵، زکریا ۴/۵۳۸)
إذا سمعت منه المرأة، أو شهد به عندها عدل لا يسعها أن تديننه؛

لأنها كالقاضي لا تعرف منه إلا الظاهر. (فتح القدير، دار الفکر بيروت ۴/۷، کوئٹہ ۳۵۳/۳، زکریا ۶/۴) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

رجماں اثنیہ ۱۳۲۲ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۷، ۸۰۹۶)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۳۲۲ھ / ۲۰۲۰

دو مرتبہ طلاق کے بعد زید / طلاق میں شوہر و بیوی کا اختلاف

سوال [۲۸۲۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کو ایک نشست میں دو مرتبہ طلاق دی، اندر وون عدت رجعت ہو گئی، چند ایام گذرنے کے بعد ایک دن دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوا، معاملہ طول پکڑ لیا، زید نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ میں نے پھر تھے دو مرتبہ طلاق دی، زید کی بیوی اس سے اس روز سے الگ ہو گئی اور وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہے؛ جبکہ زید اس بات پر مصروف ہے کہ اس نے طلاق دی، ایسا نہیں کہا؛ بلکہ طلاق دیوں کا کہا، اس سلسلہ میں زید اپنا حلفیہ بیان دینے پر نہ صرف یہ کہ راضی ہے؛ بلکہ اس کا اصرار ہے کہ ایسا کیا جائے اور اس نے اپنا حلفیہ بیان دیا ہے؛ لیکن اس کی بیوی اس کی درخواست اور بار بار کے اصرار پر کوئی نوٹس نہیں لے رہی ہے، وہ اپنی اس بات پر قائم ہے کہ اس کے شوہرنے اسے دو طلاق کے بعد رجعت کر کے اسے پھر دو اور طلاقیں دی ہیں، اب رجعت کا کوئی موقع نہیں رہا۔ برآ کرم اس مسئلہ میں رہنمائی فرمائیں۔

المستفتی: محمد عبد الکریم حنفی، منظر پورہ، اچلپورہ، امرادوتی (مہاراشٹر)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب زید نے اپنی بیوی کو دو مرتبہ طلاق دی ہے، اس سے دو طلاق رجی واقع ہو گئیں اور اندر وون عدت رجعت بھی کر لی ہے، تو اس

سر جعت ہو گئی، دونوں میاں بیوی کی طرح زندگی گذار سکتے ہیں جیسا کہ سوال نامہ میں مذکور ہے، لیکن چند روز گذر نے کے بعد جھگڑے کے درمیان زید کی زبان سے دو طلاق کے الفاظ جو نکلے ہیں، اس کے بارے میں زید اور اس کی بیوی کے درمیان اختلاف ہے، زید حلفیہ بیان کرتا ہے کہ ”تجھے دو طلاق دیدوں گا“ کے الفاظ کہے ہیں اور بیوی کہتی ہے کہ ”تجھے دو مرتبہ طلاق دی“ کے الفاظ کہے ہیں، تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کی بیوی پر اپنے دعویٰ میں دو شرعی گواہ پیش کرنا لازم ہے، جنہوں نے براہ راست اپنے کان سے یہ الفاظ سنے ہوں؛ لیکن اگر بیوی کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے اور شوہر قسم کھالیتا ہے، تو شوہر کی قسم کے مطابق فیصلہ ہو گا کہ ”طلاق دیدوں گا“ ہی کے الفاظ کا اعتبار ہو گا، جس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے اور ”طلاق دی“ کے الفاظ جو بیوی کا دعویٰ ہے اس کا اعتبار نہ ہو گا اور بیوی کو شوہر کے پاس جا کر حقوق زوجیت ادا کرنے چاہیں اور ایسے حالات میں اگر واقع میں شوہر نے جھوٹی قسم کھائی، تو اس کا سارا گناہ شوہر کے سر ہو گا، بیوی پر نہیں ہو گا۔

قالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهَدَاءِ . (سورة البقرة: ۲۸۲)

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين، أو رجل،
وامرأتين سواء كان الحق مالاً، أو غير مال، مثل الكاح، والطلاق،
والوکالة، والوصية، ونحو ذلك. (هدایۃ، کتاب الشہادۃ اشرفی
دیوبند ۳/۴، البحیر الرائق، کوئٹہ ۷/۶۲، زکریا ۷/۱۰۴، در محار مع
الشامی، کراچی ۵/۶۵، زکریا ۸/۱۷۸)

ونصابها لغيرها من الحقوق سواء كان الحق مالاً، أو غيره كنکاح،
وطلاق.....أو رجل و امرأتان. (در مختار مع الشامی، کتاب الشہادۃ،
کراچی ۵/۶۵، زکریا ۸/۱۷۸)

ولغیرها رجالن، أو رجل، وامرأتان للاية أطلقه فشمل المال وغيره كالنكاح، والطلاق. (البحر الرائق، كونٹہ ۶۲/۷، زکریا ۴/۱۰) فقط والله سبحانه وتعالیٰ علیم

الجواب صحیح:

كتبه: شیبیہ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان مصور پوری غفرلہ
۱۳۲۹ھ / ۱۳۲۹ء

۱۳۲۰ھ / جمادی الثانی ۱۴۲۰ھ
(فتوى نمبر: الف ۹۲۱ / ۳۸)

تعداد طلاق میں زوجین کا اختلاف ہو تو کس کا قول معتبر ہے؟

سوال [۶۸۳۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو دو مرتبہ ان الفاظ میں طلاق دی ہے کہ ”میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی“ اور بیوی کہتی ہے کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں مجھ کو تین بار طلاق دی ہے اور میاں اپنی بات پر قسم کھانے کے لئے تیار ہے۔ عنایت فرم اکر قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب تحریر فرمائیں۔

المستفتی: محمد رشید، ساکن گرڈھی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر شوہر دو طلاق کا اقرار کر رہا ہے، تو دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں، رجعت کر کے رکھنے کی گنجائش ہے، بیوی جو تین طلاق کا دعویٰ کر رہی ہے اور اس پر گواہ بھی نہیں ہیں اور شوہر تین طلاق کا انکار کر رہا ہے، تو شوہر کے قول کے مطابق، صرف دو طلاق کا اعتبار ہو گا۔

قال الله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ۔ (سورة البقرة: ۲۸۲)

ونصابها لغيرها من الحقوق سواء كان الحق مالا، أو غيره كنكاح، وطلاق.....أو رجل و امرأتان. (در مختار مع الشامي، كتاب الشهادة، کراچی ۵/۶۵، زکریا ۸/۱۷۸)

وما سوی ذلک من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين، أو رجل،
وامرأتين سواء كان الحق مالاً، أو غير مال، مثل النكاح، والطلاق الخ.
(هداية، اشرفي دیوبند ۱۵۴، البحر الرائق، کوئٹہ ۷/۶۲، زکریا ۷/۱۰۴، الجوهرة النیرہ،
امدادیہ ملتان ۲/۳۲۶، دارالکتاب دیوبند ۲/۹۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان الدعنة
۱۴رمضان ۱۴۱۸ھ
۱۴رمضان ۱۴۱۸ھ
(فتوى نمبر: الف ۳۳/۳۳)

تعداد طلاق میں کس کا قول معتبر ہے زوج یا زوجہ کا؟

سوال [۶۸۳۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی ہندہ کو چند سورتوں کی موجودگی میں طلاق دی، زید کہتا ہے کہ میں نے دو ہی طلاقوں میں اور ہندہ اور وہ عورتیں کہتی ہیں کہ تین بار طلاق دی ہے، اس واقعہ کو لگ بھگ آٹھ ماہ گذر کئے ہیں، صورت مسئولہ میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟
المستفی: عشر حسین، مراد آباد

باسمہ سبحانہ وتعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: زید کی بیوی زید کے نکاح سے نکل گئی؛ کیونکہ عدت پوری ہو چکی ہے؛ لہذا ایسی صورت میں بیوی کو اختیار ہے، جس کسی دوسرے شخص سے چاہے نکاح کرے شرعاً جائز ہے۔

**قال الله تعالى: الطلاق مرتان فاما ساک بمعروف او تسریع
بإحسان.** [سورة البقر: ۹] فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
دارالافتاء جامعہ نیعیمیہ مراد آباد
مودودی: ۲۹، رینج الثانی ۱۴۱۷ھ
محمد ایوب نیعی غفرلہ

جواب منجانب: دارالافتاء مدرسہ شاہی مراد آباد

با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسئولہ میں چونکہ نصاب شہادت دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں موجود نہیں ہیں؛ لہذا ایسی صورت میں شوہر کے قول کا شرعاً اعتبار ہوگا اور بیوی پر دو طلاق واقع ہو گئیں۔

قال اللہ تعالیٰ: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنُوا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرَضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ۔ (سورۃ البقرۃ: ۲۸۲)

ولغیرہا رجال، اور جل، وامرأتان للآلية أطلقوه فشمل المال وغيره كالنکاح، والطلاق۔ (البحر الرائق، کوئٹہ ۷/۶۲، زکریا ۴/۱۰، الجوهرة النیرہ، امدادیہ ملتان ۲/۲۳۶، دارالکتاب دیوبند ۲/۳۰۹، در مختار، کراچی ۵/۶۵، زکریا ۸/۱۸۷) وما سوی ذلك من الحقوق يقل فيها شهادة رجالين، اور جل، وامرأتين سواء كان الحق مالا، او غير مال، مثل النکاح، والطلاق الخ۔ (هدایۃ، اشرفی دیوبند ۳/۱۵۴)

اور اب چونکہ طلاق دیئے ہوئے آٹھ ماہ گذر چکے ہیں؛ لہذا بیوی کی عدت بھی پوری ہو گئی؛ اس لئے اب وہ باستہ ہو چکی ہے، اب شوہر کا بیوی پر اختیار باقی نہیں رہا؛ بلکہ بیوی کو اختیار ہے چاہے شوہر اول سے نکاح کرے یا کسی دوسرے مرد سے۔

وينکح مبانة بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع۔ (تنویر

الأبصار مع الشامي، کراچی ۳/۹۰، زکریا ۵/۴۰) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۱/۱۳۱۷/۵/۱۱

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۱/رجاہی الاولی ۱۴۳۷ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۳۲/۱۴۳۷)

بلا گواہ عورت تین طلاق سننے کی مدعیہ اور شوہر منکر

سوال [۶۸۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ میری بہن گلناز بنت نزاکت علی کا نکاح فرحت علی سے ہوا تھا، اب فرحت علی نے گلناز کو مار پیٹ کر گھر سے باہر یہ کہہ کر نکال دیا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، تیرا مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو میرے نکاح سے باہر ہو گئی، میں نے تجھے آزاد کیا تین چار مرتبہ یہی الفاظ کہے، اس کا لڑکی کے پاس کوئی گواہ یا ثبوت نہیں ہے، یہ الفاظ سن کر لڑکی اپنے گھر آگئی اور اپنے گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا یہ بات سن کر لڑکی کے بھائی لڑکے کے والد کے پاس گئے کہ آپ کے بیٹے نے ہماری بہن کو مار اپیٹا ہے، اور اس کو طلاق دیدی ہے، تب لڑکے کے والد نے لڑکی سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا، تو لڑکی نے پھر یہی کہا کہ آپ کے لڑکے نے مجھ سے یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، اور اب تو میرے نکاح سے باہر ہے، تیرا مجھ سے کوئی مطلب نہیں، میں نے تجھے آزاد کیا، تو یہ سن کر لڑکے کے والد نے یہ کہا کہ میں لڑکے سے اور پوچھ لوں، جب جواب دوں گا، جب شام کو انہوں نے لڑکے سے پوچھا تو لڑکے نے یہ کہا کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے اور لڑکی کے بھائیوں کے سامنے بھی یہی الفاظ کہے کہ میں نے تمہاری بہن کو طلاق نہیں دی، لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ مار اور طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا، منھ میں طلاق دی، اب یہ مکر رہے ہیں اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ہی کوئی گواہ ہے، جو کہ میں لڑکے کے سامنے لا کر کھڑا کر دوں۔ اب آپ بتائیے کہ لڑکی کو طلاق ہوئی یا نہیں؟

المستفني: شہاب علی ولد نزاکت، نواب پورہ، باغ گلاب رائے، مراد آباد
با اسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب گلناز کا خود کہنا ہے کہ اس نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اس کے شوہر نے اسے تین سے زائد مرتبہ طلاق دے کر گھر سے باہر نکال

دیا ہے، اور طلاق کے الفاظ اس نے خود سننے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اپنے شوہر کے لئے قطعاً حرام ہو چکی ہے اور اس پر طلاق مغلظہ واقع ہو گئی ہے، اب اس کے لئے شوہر کے پاس جانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اب اگر دونوں اپنی خوشی سے ساتھ رہنا چاہیں تو بغیر حالہ شرعیہ کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہوگا۔ (مستفاد: ایضاح النوادر/۱۰۶)

والمرأة كالقاضي إذا سمعته، أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه،
والفتوى على أنه ليس لها قتله، ولا تقتل نفسها؛ بل تفدي نفسها بمال،
أو تهرب . (شامی، کراچی، ۲۵۱/۴، زکریا ۴۶۳، البحر الرائق، کونہ ۲۵۷/۳، زکریا
۴۸، تبیین الحقائق، امدادیہ ملتان ۲۱۸/۲، زکریا ۳/۸۲) **فظوظ واللہ سبحانہ و تعالیٰ علم**

کتبہ: شیخ احمد قادری عفان الدین

۲۵ صفر امظفر ۱۴۲۶ھ

(فتولی نمبر: الف ۳۷/۲۷۸)

تین طلاق پر بیوی کے پاس کوئی گواہ نہیں

سوال [۶۸۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ میں تجھے کہدوں؟ لڑکی نے کہا کہدو، پھر کہا کہ میں تجھے کہدوں، لڑکی نے کہا کہدو، ”طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی“، اب صورت حال یہ ہے کہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے دوبار کہا تھا، لڑکی کہتی ہے کہ تین بار کہا تھا، کیا اس صورت میں طلاق ہو گئی یا نہیں؟ اگر طلاق ہو گئی ہے، تو کون سی طلاق مانی جائے گی؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔

المستفتی: ڈاکٹر عبدالقدیر، سکون نگلہ، ڈاکخانہ سرکڑا، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جبکہ بیوی طلاق کے الفاظ کا تین مرتبہ کہنے کا

دعویٰ کر رہی ہے اور شوہر اس کا انکار کر رہا ہے اور میاں بیوی میں سے کسی کے پاس شرعی گواہ بھی موجود نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں شوہر کا قول کہ ”میں نے دو مرتبہ کہا تھا“ معتبر ہو گا اور اس سے دو طلاق رجعی کا حکم ثابت کیا جائے گا، اور اگر واقع میں شوہرنے تین طلاق دیدی تھیں، جس کا علم شوہر کو ضرور ہو گا، تو اس کا گناہ شوہر پر ہو گا، عورت پر نہیں ہو گا۔ (ستفادہ: فتاویٰ دارالعلوم ۲۶۰/۹، فتاویٰ محمودیہ قدیم ۱۰۱/۳، جدید میرٹھ ۲۵۰/۱۹)

وإذا طلق الرجل امرأته طليقة رجعية، أو طليقتين، فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض . (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة، اشرفي دیوبند ۲/۴۹، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۰، جدید ۱/۵۳۳، مختصر القدوری، امدادیہ دیوبند ۱۷۷)

فإن حلف ولا بينة لها، فالإثم عليه . (شامی، کراچی ۳/۲۵، زکریا ۴/۶۳) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:
كتبه: شیر احمد قاسمی عن عفان اللہ عنہ
احترم مسلمان منصور پوری غفرلہ
رذی قعدہ ۱۴۲۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۷۳۹۲/۳۶)

شوہر طلاق کا منکر ہوا اور بیوی اقرار کرے تو کیا حکم ہے؟

سوال [۶۸۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اب سے تقریباً چھ سال قبل دو طلاق رجعی دیدی تھیں، جن کے بعد رجعت کر لی تھی، فی الحال دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، اب زید کہتا ہے کہ دوران نزاع میں نے یہ کہا کہ اگر تو طلاق چاہے، تو میں تجھ کو طلاق نہیں دوں گا؛ جبکہ ہندہ یوں کہتی ہے کہ میرے شوہرنے یوں کہا کہ میں نے تجھے طلاق دیدی، تاہم ہندہ کے پاس گواہ نہیں ہیں اور زید ہندہ کے دعوے کا قطعی منکر ہے، مسئلہ کی نوعیت سے آگاہ فرمائیں، یہ صراحت فرمادیں

کہ زید پر یقین ہے یا نہیں؟ نیز اس سلسلہ میں ہندہ کو کیا کرنا چاہئے؛ جبکہ اس کو یہ پختہ یقین ہے کہ اس کے شوہرنے طلاق مغلظہ دے کر اس کو اپنے نکاح سے جدا کر دیا ہے؛ جبکہ فتاویٰ دارالعلوم جدید میں مذکور ہے کہ اس صورت میں بیوی شوہر کے پاس نہ جائے۔
 (مستقاد: فتاویٰ دارالعلوم ۹/۶۲۹)

المستفیٰ: محمد صیٰع مدرس شرف المدارس، ڈیگری، ٹانڈہ، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر شوہر سوانحہ میں درج شدہ واقعہ میں طلاق سے قطعی انکار کر رہا ہے اور بیوی نے از خود طلاق سن کر یقین کیا ہے کہ واقعی شوہر طلاق دے کر کذب بیانی سے کام لے رہا ہے اور عورت کے پاس اس کے ثبوت پر شرعی گواہ موجود نہیں ہیں، تو ایسے حالات میں پنچاہی لوگ شوہر کی تصدیق کے مکلف ہیں اور پنچوں پر لازم ہے کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ رہنے کا اختیار دیدیں اور ایسے حالات میں اگر نفس الامر میں شوہر طلاق دے چکا تھا اور بے دینی کی وجہ سے جھوٹی قسم اور جھوٹا بیان دے کر حرام شدہ بیوی کو اپنے پاس رکھتا ہے، تو سارا گناہ اور بمال شوہر پر ہوگا، اور بیوی اور پنچاہی لوگ و بال سے محفوظ ہوں گے؛ لیکن دوسری طرف شریعت نے بیوی کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ خلع وغیرہ کے ذریعہ سے ایسے شوہر سے جان چھڑا لے یا بھاگ جائے اور اگر کسی طرح جان چھڑانے پر قدرت نہیں رکھتی ہے، تو بیوی گنہگار نہیں ہوگی، اور از خود بخوبی شوہر کے پاس رہنے سے عورت بھی شوہر کی طرح گنہگار ہوگی۔

والمرأة كالقاضي إذا سمعته، أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه، والفتوى على أنه ليس لها قتلها لها، ولا تقتل نفسها؛ بل تفدي نفسها بمال، أو تهرب (إلي قوله) أنها ترفع الأمر للقاضي، فإن حلف ولا بينة لها، فالإنتم عليه . (شامی، کراچی، ۲۵۱/۳، مصری ۵۹۴/۲، زکریا

۴/۴، البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۲۵۷، زکریا ۳/۴۸، تبیین الحقائق، امدادیہ

ملتان ۲/۲۱۸، زکریا ۳/۸۲) نفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۱۴۱۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۷۵۰/۲۵۵)

تعداد طلاق میں زوجین کا اختلاف

سوال [۲۸۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی زوج کو طلاق اس طرح سے دی کہ ایک مرتبہ کہا کہ میں تجھے طلاق دیوں گا، دوسری مرتبہ یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی (یہ زید کے بیان ہیں) اتفاق سے زید کے بھائی جو کہ حافظ ہیں اور امامت بھی کرتے ہیں، وہ گھر آگئے، تو ان کی والدہ نے کہا کہ تیرے بھائی نے اس کو دو مرتبہ طلاق دی ہے، تو حافظ نے اپنی والدہ کے الفاظ سن کر زید کی زوجہ سے کہا کہ خاموش ہو جا، ابھی گنجائش ہے، تو زید کی زوجہ نے یہ کہا کہ مجھے اپنی قبر میں سونا ہے اور جو جھوٹ بولوں گی، تو ان کے بچوں کو کھاؤں گی، مجھے تو صح سے کئی مرتبہ کہہ پکے ہیں اور یہ الفاظ زید کی زوجہ کے حافظ صاحب اور والدہ نے اور دیگر عورتوں نے بھی سنے، پھر حافظ صاحب کی والدہ یا کسی اور نے یہ کہا یہ غلط کہہ رہی ہے، شام کو اس کا بھائی آ کر اسے لے گیا، تو اب یہ تحریر فرمائیں کہ کس کی بات کا اعتبار کیا جائے؟ زید کی بات کا اعتبار ہوگا یا زید کی والدہ کا اور بعد میں تحقیق سے پتہ چلا ایک عورت نے بتایا کہ میں اس وقت وہاں موجود تھی اور ایک غیر مسلم بھنگن تھی، شوہرنے طلاق کی باردی ہے، تو کس کی بات کا اعتبار ہوگا؟

(۲) کافی دنوں بعد زوج کا داد بغير کسی تحقیق کے خود ہی سوال لکھ کر لگینہ سے جائز ہونے کا فتویٰ لا کر اپنی خوشداں کو اس کے باپ کے یہاں سے لے کر اس کے شوہر کے پاس چھوڑ گیا،

وہ دونوں میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں اور دادا نے اپنے سر سے بیان بھی نہیں لیا، تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس فتویٰ کو تسلیم کیا جائے یا نہیں؟ (۳) اور اگر خدا نہ کرے کہ اس کو طلاق مغلظہ پڑ گئی اور زید کسی کی بات کو حلالہ کے لئے نہ مانے تو زید کے ساتھ کھانا پینا شادی وغیرہ میں شریک ہونا گناہ تو نہیں ہے؟ (۴) حافظ صاحب کے سامنے جوزید کی بیوی نے بیان دیئے ہیں اور بہت سی عورتوں کے اور والدہ کے، ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے شوہرنے بھی سنے ہوں کہ مجھے تو کئی مرتبہ طلاق دے چکا ہے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مذکورہ صورت میں زید کے بیان کے مطابق ایک طلاق رجعی واقع ہوئی اور ماں نے جو دو مرتبہ کہا ہے، شاید وہ دیدوں گا کے لفظ بھی طلاق سمجھ رہی ہے، اس لفظ سے طلاق نہیں ہوئی، باقی دوسروں کے بیان کا اعتبار نہیں ہے؛ اس لئے کہ ان سب کا بیان غیر مستقر اور غیر معین ہے۔ نیز اس سے نصاب شہادت پورا نہیں ہوا ہے؛ الہذا عدالت کے اندر اندر رجعت کر کے میاں بیوی کی زندگی گذارنا جائز ہوگا اور جواز کا جو فتویٰ لیا گیا، وہ بھی صحیح ہے۔

لوقال: أطلقك لم يقع. (سکب الأنهر فی شرح ملتقی الأبحر، دارالكتب

العلمية بیروت ۲/۱۴)

لو قال: بالعربيه أطلق لا يكون طلاقاً. (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۸، جدید ۱/۴۵۲) قال الله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأُمْرَاتٍ مِمَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهَدَاءِ. (سورہ البقرة، رقم الآیہ: ۲۸۲)

وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين، أو رجل، وامرأتين سواء كان الحق مالا، أو غير مال، مثل النكاح، والطلاق. (ہدایہ،

کتاب الشہادت اشرفی دیوبند ۳/۱۵۴)

وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية، أو تطليقتين، فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض. (هداية، اشرفی دیوبند ۴/۳۹، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۰، جدید ۱/۵۳۳)

حافظ صاحب کی امامت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شمیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۲۲۳۱ھ مرحومان المبارک

(فتولی نمبر: الف ۳۶۲۸، ۳۱)

زوجین کے مابین طلاق کے سلسلہ میں اختلاف ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

سوال [۶۸۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی ہندہ کی عدم موجودگی میں وقفہ و قفہ سے کچھ اس طرح تین طلاق دیں کہ جس وقت زید نے اپنی بیوی ہندہ کو پہلی طلاق دی تھی، اسوقت ہندہ حاملہ تھی، زید نے ہندہ سے کہا کہ آج میں نے تجوہ کو پہلی طلاق دی، دوسری بار طلاق دیتے وقت ہندہ دوسری بار حمل سے تھی، اس وقت زید نے یوں کہا آج میں نے تجوہ کو دوسری طلاق دی، تیسرا بچے کے حمل کے دوران زید نے تیسرا طلاق دی تھی، اس وقت زید نے ہندہ سے یوں کہا کہ آج میں نے تجوہ کو دوسری طلاق دی؛ حالانکہ اس سے قبل زید دو طلاق دے چکا تھا؛ لیکن تیسرا طلاق کو دیتے وقت بجائے تیسرا طلاق کے کہ آج تجوہ کو دوسری طلاق دی، اس طرح کہا؛ جبکہ زید اب اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ میں نے ہندہ کو طلاق نہیں دی اور ہندہ کہہ رہی ہے کہ زید وقفہ و قفہ سے مجھے تین طلاق دے پچے، دونوں کے درمیان سوائے اللہ کے کوئی گواہ نہیں، تو کیا طلاق واقع ہو چکی؟

المستفتی: لیاقت علی، حل گاؤں (مہاراشٹر)

بسمہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب دونوں کے درمیان کوئی گواہ نہیں ہے

اور شوہر طلاق کا منکر ہے اور بیوی اس کا دعویٰ کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں شرعی طور پر شوہر کی بات معتبر ہوتی ہے، خدا نخواستہ زیداً گرواقع میں جھوٹا ہے، تو سارا گناہ اسی پر ہوگا۔

قالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَانِ مِمْنُ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ۔ (سورة البقرة: ۲۸۲)

ما سوئی ذلک من الحقوق یقبل فیها شهادة رجالین، أو رجل،
وامرأتين سواء كان الحق مالا، أو غير مال، مثل النکاح، والطلاق. (هدایۃ،

کتاب الشہادت اشرفی دیوبندی ۳/۱۵۴)

فِإِنْ حَلَفَ وَلَا بَيِّنَةً لَهَا فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ الْخَ۔ (شامی، کراچی ۳/۵۱، زکریا
۴/۶۳) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان الدین عنہ
محرم الحرام ۱۴۳۷ھ
(فتوى نمبر: الف ۳۲/ ۵۸۹)

زوجین کے قول میں اختلاف ہو تو کیا حکم ہے؟

سوال [۶۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا، جس میں شوہرنے بیوی سے کہا کہ میں تجھے اس مہینہ میں طلاق دیدوں گا، اس پر بیوی نے یہ کہا کہ تو مجھے ایک بار نہیں چھ بار طلاق دیں؟ یہ سن کر شوہرنے کہا جا میں نے تجھے طلاق دی (یہ شوہر کے الفاظ ہیں اور بیان ہے) بیوی کا کہنا ہے کہ میرے الفاظ کے جواب میں شوہرنے یہ کہا کہ (جا میں نے تجھے چھ بار طلاق دی) اس واقعہ کے وقت صرف ان کی بیٹی موجود تھی، صورت مسئولہ میں شرعاً کتنی طلاق ہوئیں؟ شرعی حکم تحریر فرمائے کہ عند اللہ ماجور ہوں۔

المسنونۃ: عبدالوحید قاسمی، ثانیہ و علپوری، رامپور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مذکورہ مسئلہ میں شوہر اور بیوی دونوں کے بیان پر غور کیا گیا شوہر کے بیان کے اعتبار سے مذکورہ واقعہ میں صرف ایک طلاق رجیع واقع ہوگی، عدت کے اندر رجعت کر کے شوہر کے ساتھ رہنے کی گنجائش ہے۔

طلقنيٰ ثلثاً، فقال: أنت طالق يقع واحدة (بزاریہ، زکریا ۱۱۸۱۱)
وعلى ها مش الهندية، زکریا ۴ / ۱۸۰)

امرأة قالت لزوجها: طلقنيٰ ثلثاً، فقال الزوج: أنت طالق، أو قال
فأنت طالق، يقع واحد. (تاتارخانیہ زکریا ۲۷۱۴ / رقم ۶۵۹۲)
اور بیوی کے بیان کے مطابق تین طلاق واقع ہوں گی اور چھ میں سے تین کے ذریعہ طلاق مغایظہ واقع ہوگئی اور باقی تین لغو ہے۔

سئل ابن عباس^{رض} عن رجل طلق امرأته مائة فقال: ثلا ث تحرم
عليك امرأتك وسائرهن وزر اتخذت آيات الله هزوا (دارقطني
٤ / ١، رقم: ۳۸۸۰، مطبوعہ دارالایمان، سہارنپور، السنن الکبریٰ للبیهقی،
قدیم ۳۳۲۱۷، جدید دارالفکر بیروت ۱۱ / ۲۲۳، رقم: ۱۵۳۵۲)

قال لها: أنت طالق واحدة فقال: هزار إن نوى شيئاً فعلى
مانوى وإلا فلا شيء. (بزاریہ، زکریا ۱۱۸۱۱، وعلى هامش الهندية ۱۸۱۱۴)

اب سوال یہ ہے، کہ کس کے بیان کا اعتبار کیا جائے تو اس سلسلہ میں شرعی حکم یہ ہے کہ جب عورت کے پاس شرعی گواہ نہیں ہیں تو شوہر کے بیان کے مطابق حکم شرعی نافذ ہو جائے گا اور اس کو رجعت کا حق حاصل ہوگا، لیکن اگر عورت نے اپنے کان سے چھ طلاق کے لفاظ سنے ہیں تو دییئہ عورت کے لئے شوہر کے پاس جانا ہرگز جائز نہیں ہے اور المرأة کالقاضی کے اصول کے مطابق اس کو اپنے سنے ہوئے الفاظ کی وجہ سے شوہر کے پاس نہ جانے کا فیصلہ کر لینا چاہئے ورنہ عورت خود معصیت اور گناہ کی مرتكب ہوگی، اور خلع وغیرہ کے

ذریعہ شوہر سے چھٹا راحاصل کر لینا چاہئے۔

والمرأة كا لقاضى إذا سمعته أوأ خبرها عدل لا يحل لها تمكينه والفتوى على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها؛ بل تفدي نفسها بمال، أو تهرب. (شامى، كراچى ۲۵۱۳، زکریا ۶۳۴، البحر الرائق، کوئٹہ ۲۵۷۳، زکریا ۴۸۱۳، تبین الحائق، امدادیہ ملتان ۲۱۸۱، زکریا ۸۲۱۳) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

كتبه: شبیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۱۳ جمادی الاولی ۱۴۳۱ھ

(فتوى نمبر: الف ۱۰۰۵۹/۳۹)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان مصوّر پوری غفرلہ

۱۴۳۳/۱۵/۱۳

عد طلاق کے بارے میں زوجین کا اختلاف

سوال [۶۸۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری شادی تقریباً ایک سال پہلے ہوئی ہے۔ شادی کے تین، چار ماہ بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ نکاح و ملنگی سے پہلے میری اہلیہ کا ایک اڑکے کے ساتھ موبائل فون پر بات چیت کی حد تک تعلق تھا۔ اس بات کی تحقیق کے لئے میں نے بذات خود اس اڑکے کو اس تعلق کے بارے میں پوچھا تو اس اڑکے نے جواب میں کہا، کہ نکاح و ملنگی سے پہلے میرا تہاری اہلیہ کے ساتھ موبائل فون پر صرف بات چیت کی حد تک تعلق تھا۔ اس بات کی مزید تحقیق کرنے کے لئے میں نے اپنی اہلیہ سے تہائی میں (جہاں ہم دو کے سواتر اکوئی نہیں تھا) کہا کہ نکاح یا ملنگی کے بعد تیرا اس اڑکے کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق نہیں رہا۔ میری اہلیہ نے کہا کہ اب میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس جواب سے میں مطمئن ہو گیا اور ہماری ازدواجی زندگی حسب حال چلتی رہی، اس واقعہ کا تذکرہ کچھ دنوں کے بعد میری اہلیہ کی پھوپھی کے سامنے ہوا۔ اس وقت میں میری اہلیہ اور اس کی پھوپھی ہم تین ہی انسان موجود تھے۔ صرف اس واقعہ کا تذکرہ

ہوا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ اور ہم دونوں تقریباً آٹھ ماہ تک خوش و خرم ازدواجی زندگی گزار تے رہے، اور فی الحال میری اہلیہ کو سات ماہ کا حمل بھی ہے۔

تقریباً آٹھ دن پہلے کی بات ہے کہ میرے سرال والوں کے ساتھ کار و باری معاملہ پر میرا اختلاف ہوا اور بات تکرار کی حد تک بڑھ گئی؛ اور تکرار کے درمیان میرے گھر والوں نے میرے سرال والوں سے کار و بار کے لئے دی ہوئی رقم کا مطالبه کیا، تو اس تکرار والے روز سے لیکر یہ تحریر لکھنے تک میری اہلیہ اپنے ماں باپ کے گھر کی ہوئی ہے۔

جب کار و بار والی رقم کا مطالبه شدت کے ساتھ ہونے لگا تو آٹھ ماہ پہلے والی ایک شرطی طلاق کے بارے میں (جو میرے علم کے مطابق واقع بھی نہیں ہوئی) میری اہلیہ اور اس کی پھوپھی ایک طلاق کے بجائے تین طلاق کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ اور میں بحیثیت شوہر پورے وثوق کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ کہہ اور لکھ رہا ہوں، کہ وہ ایک طلاق تھی اور وہ بھی شرطی۔ (میں الحمد للہ فارغ التحصیل ہوں اور طلاق کی نزاکتوں کو جانتا ہوں) تو میں حضرت والا سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کہ میں مسئلے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہو گا؟

ذکورہ بالا اختلاف ”ایک“ یا ”تین“ طلاق کے بارے میں تحقیق کے لئے میرے پاس پانچ آدمی پہوچنے، اور ہماری یہ مجلس ایک مسجد میں ہوئی، آنے والے پانچ آدمیوں میں سے دو آدمی جو میری اہلیہ کے پچاہیں۔ انہوں نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ تم نے تین طلاق ہی دی ہوں گی تم برابر یاد کرو؛ اس وقت بھی میں نے ان پانچ آدمیوں سے مسجد میں بیٹھ کر کہا کہ میں نے ایک ہی طلاق شرطی دی ہے۔ (اور میں یہ تحریر لکھتے وقت بھی کہہ رہا ہوں، کہ میں نے ایک ہی طلاق اور وہ بھی شرطی دی ہے) ان پانچ آدمیوں کے ساتھ میری جو مجلس ہوئی اس مجلس میں میری اہلیہ کے دو چھامچھ پر تین طلاق کا دباؤ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، کہ ہماری اہلیہ کی پھوپھی بھی تین طلاق کو ہی کہہ رہی ہے، اور ہماری اہلیہ بھی تین طلاق کو کہہ رہی ہے؛ جبکہ آٹھ ماہ پہلے طلاق کا جو معاملہ ہوا تھا اس وقت میں اور میری اہلیہ ہی موجود تھے، اس وقت اس کی پھوپھی موجود بھی نہ

تھی۔

دوسری بات یہ کہ آٹھ ماہ قبل میں نے صرف ایک شرطی طلاق دی تھی، تواب آٹھ ماہ کے بعد میری اہلیہ کس بنیاد پر تین کا دعویٰ کر رہی ہے، یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔
ان پانچ آدمیوں والی مجلس میں جب میری اہلیہ کے دونوں پیچا تین طلاق پر زیادہ زور دینے لگے تو مجھے غصہ آگیا۔ اور میں نے اس وقت اپنے دوست سے ”رضوان“ کو (جو ان پانچ آدمیوں میں سے ایک ہے) مخاطب کر کے کہا کہ، رضوان اس (اہلیہ) کو ابھی کی ابھی (میرے گھر) چھوڑ جانا نہیں تو پڑ جائیگی۔۔۔ انشاء اللہ۔

مذکورہ بالا الفاظ میں نے کہے ہیں۔۔۔ اور اس مجلس کے پانچوں آدمیوں کا کہنا ہے کہ تم نے الفاظ کہے ہیں کہ ”رضوان اس (اہلیہ) کو ابھی کی ابھی میرے گھر چھوڑ جانا نہیں تو دو طلاق پڑ جائیگی۔۔۔ ان شاء اللہ۔ بولے ہو۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ میں نے ”دو طلاق“ کے الفاظ بولے ہی نہیں۔ اگر ان پانچ آدمیوں کے کہنے کے مطابق، اگر میں نے دو طلاق پڑ جائیگی، کے الفاظ بولے ہوں تو کیا اس صورت میں طلاق ہوگی؟

یہ بات خاص طور پر ذہن نشیں رہے، کہ ”رضوان اس (اہلیہ) کو ابھی کی ابھی (میرے گھر) چھوڑ جانا نہیں تو پڑ جائیگی۔۔۔ ان شاء اللہ“، مذکورہ الفاظ بولنے کے بعد ایک دو سینڈ کے دفعہ کے بعد انشاء اللہ بولا ہوں۔

اب سوال یہ ہے کہ

(۱) میں نے جو شرطی طلاق دی تھی کیا وہ ہوگی؟

(۲) آٹھ ماہ بعد میری اہلیہ اور اس کی پھوپھی کا دعویٰ معتبر ہو گایا میری بات کا اعتبار کیا جائے گا؟

(۳) پانچ آدمیوں والی مجلس میں میرے الفاظ ”رضوان اس (اہلیہ) کو ابھی کی ابھی (میرے گھر) چھوڑ جانا نہیں تو پڑ جائیگی۔۔۔ ان شاء اللہ“ یہ الفاظ تو میں نے کہے ہیں، مجلس کے

پانچ آدمیوں کے الفاظ ”نہیں تو دو طلاق پڑ جائیگی“، یہ جو الفاظ کے بارے میں ہمارے درمیان اختلاف ہے، اس میں کس کی بات معتبر ہوگی، میری یا ان کی؟ الفاظ کا تکلم کرنے والا میں ہوں اور میں نے یہی الفاظ کہے ہیں کہ ”رضوان اس (ابلیہ) کو ابھی کی ابھی (میرے گھر) چھوڑ جانا نہیں تو پڑ جائیگی۔ ان شاء اللہ“، میں نے اپنے جملے میں دو طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔

امید ہے کہ مذکورہ بالاسوال کا تفصیلی جواب عنایت فرمائی ممنون و مشکور ہوں گے۔

المستفتی: مولوی محمد تو صیف بن سلیمان، گودھرا (گجرات)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مسجد میں بیٹھ کر جن پانچ آدمیوں سے گفتگو ہوئی ہے، ان میں سے، دو آدمی بیوی کے پچا ہیں اور ایک شخص خود شوہر کا دوست ہے، اور باقی دو کے بارے میں، کوئی صراحةً نہیں کی ہے، اگر وہ دونوں غیر جانبدار ہیں اور شوہر سے ان دونوں کو کوئی دشمنی نہیں رہی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کے دوست اور ان دونوں آدمیوں کی شہادت معتبر ہوگی؛ لہذا انصاب شہادت اس معاملہ میں پورا ہو گیا، اگر بیوی کے دونوں پچاؤں کی شہادت کو معتبر نہ مانا جائے تب بھی دیگر لوگوں کی شہادت معتبر ہوگی، اور شوہر کا انکار معتبر نہ ہوگا، اس لئے مسجد میں تعلیق طلاق کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعہ میں مذکورہ تینوں آدمیوں کی شہادت کی بنا پر دو طلاق رجعی واقع ہوئی ہیں، اور طلاق کو ابھی ابھی شوہر کے گھر چھوڑ کر آنے پر، موقوف رکھا ہے، اور شوہر کے گھر نہ ابھی چھوڑ کر آیا اور نہ پورے دن اور نہ دوسرے دن چھوڑ کر آیا، لہذا تعلیق طلاق کی شرط کے پائے جانے کی وجہ سے دو طلاق رجعی واقع ہو چکی ہیں، اور فون پر بات کرنے سے متعلق اس لڑکے کا بیان جس سے بات ہوئی ہے، اور بیوی کا بیان متعدد ہے، کہ نکاح اور منگنی کے بعد سے دونوں کے درمیان میں کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رہا، اور شوہر نے کہا کہ اگر تعلق رہا ہو تو طلاق ہے؛ اور تعلق نہیں رہا ہے، اس لئے اس واقعہ میں کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے لہذا صرف دو طلاق

رجعي پورے معاملہ میں واقع ہوئی ہیں، اس لئے عدت کے اندر شوہر کو رجعت کرنے کا حق ہے اور رجعت کر کے ازدواجی زندگی گزارنا جائز ہوگا، اور مسجد کے واقعہ میں تعلق طلاق کے ساتھ دو تین سکنڈ کے بعد جوان شاء اللہ کہا گیا ہے، وہ اتنے فاصلہ کے بعد، معتبر نہیں ہے۔

عن الأعرج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاتجوز شهادة ذى الظنة والجنة والجنة) الجنة الجنون والجنة الذى يكون بينكم وبينه عداوة. (السنن الكبرى للبهقى، كتاب الشهادت، باب لا تقبل شهادة خائن،

دار الفكر بيروت ۲۷۵/۱۵، رقم: ۴۵۷)

لاتجوز شهادة الرجل على الرجل إذا كانت بينهما عداوة، قالوا: هذا إذا كانت العداوة بينهما في شيء من أمور الدنيا. (تاتار خانیہ، زکریا
۱۶۵/۱۱، رقم: ۴۳۲)

فإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثة وحدى الزوج والمرأة ذلك فرق بينهما؛ لأن الشهادة على الطلاق قبل من غير دعوى (تاتار خانیہ، ۱۶۵/۱، رقم: ۷۴۱)

أن يكون موصولاً بما قبله من الكلام عند عدم الضرورة حتى لو حصل الفصل بينهما بسكوت أو غير ذلك لا يصح. (ہندیہ، زکریا، قدیم ۴۶۰/۱، جدید ۵۲۵/۱)

امرأته تطليقة رجعية، أو تطليقتين، فله أن يرا جعها في عدتها رضيت بذلك، أو لم ترض. (ہندیہ، زکریا قدیم ۴۷۰/۱، جدید ۵۳۳/۱)

إذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط. (ہدایہ، اشرفی دیوبند ۳۸۵/۲) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله
۱۹۳۳/۶/۳

كتبه: شیعیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ
۳ جمادی الاولی ۱۴۳۳ھ
(فتوى نمبر: الف ۱۹۳۹)

شوہر کا چار گواہوں کے سامنے طلاق کا اقرار کر کے مکر جانا

سوال [۶۸۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عتیقین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ انعام الحق کا بیان ہے، کہ میرے یہاں گھر تقریباً ایک ہفتہ سے کسی بات پر لڑائی چل رہی تھی میرے والد کا مطالبہ تھا کہ بیوی کو طلاق دیدو، جب میں گھر آیا تو بات چل رہی تھی، تو معاملہ سنجھانے کے لئے محمد امان اللہ صاحب، جناب عبداللطیف صاحب محمد عبدالعزیز صاحب، اسمعیل صاحب آئے تھے، اندر جا کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم گھر چلی جاؤ، ورنہ تینوں طلاق دیدیں گے، میں نے کئی مرتبہ کہا اور باہر آ کر میں نے لوگوں سے کہا کہ طلاق دیدی، نقل و سخن محمد انعام الحق۔

جناب عبداللطیف صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے انعام الحق کو کہا کہ تم جاؤ اپنی بیوی کو سمجھاؤ، کہ تمہارے والد سے زبان درازی نہ کرے، اندر جا کر کیا کہا یہ ہمیں معلوم نہیں، باہر آ کر اس نے بتایا میں نے طلاق دیدی، جب ہم نے کہایا کیا کہہ رہے ہو خاموش رہ تو اس نے کہا ہاں، ہاں، میں نے تینوں طلاق دیدیں اور میں بھی پھانسی لگا کر مر جاؤں گا۔
نقل و سخن گواہ، عبداللطیف۔

اس بیان کی تائید جناب اسمعیل صاحب، عبدالعزیز صاحب نے بھی کی اور سخن
کردئے، نقل و سخن گواہان، عزیزاً حمد، محمد اسمعیل،

جناب امان اللہ صاحب نے فرمایا، نہ کورہ بالا گواہوں کے بیان کی تصدیق کرتا ہوں ساتھ ساتھ اندر جا کر اپنی بیوی سے انعام الحق نے کہا کہ تم گھر چلی جاؤ میں نے تینوں طلاق دیدی، نقل و سخن، محمد امان اللہ،

اسماء خاتون زوجہ انعام الحق کا بیان ہے، کہ میرے شوہر آئے اور چاہی بھی مانگی اور کہا تم گھر چلی جاؤ ورنہ تینوں طلاق دیدیں گے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سن، نقل و سخن، اسماء خاتون۔

مذکورہ بالابیان کی روشنی میں جواب تحریر فرمائیں، طلاق ہوئی یا نہیں، اور کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟ مدلل و مفصل جواب مرحمت فرمائیں۔

المستفتی: نذرتو حیدر مظاہری، دارالافتاء جامعہ رشید العلوم، چیترا

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہر چار گواہوں کے سامنے تین طلاق دینے کا اقرار کر چکا ہے؛ تو اس کی بیوی پر طلاق مخالفہ واقع ہونے کا حکم ثابت ہو گا، اور بعد میں اس کا انکار اور بیوی کا صیغہ استقبال کی شہادت دینا معتبر نہ ہو گا۔ (مستفاد: فتاویٰ دارالعلوم لمحفظین کراچی ۵۹۷/۱۳۶۱ء، امداد امداد امداد)

لوقيل له طلقت امرأتك، فقال: نعم أوبلى بالهجة طلقت.

(الدر المختار، کتاب الطلاق، باب الصریح، کراچی ۱۳۹۱، ذکریا ۶۰۱۴)

فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

كتبه: شیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

اربعہ شنبہ ۱۳۱۳ھ

۱۳۱۳/۰۷/۱۸

(فتوى نمبر: الف ۳۱۲۷/۲۸)

شوہر طلاق کا مقرر اور گواہ مکر ہوتا کیا حکم ہے؟

سوال [۲۸۳۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ واحد عرف بہلو نے اپنی بیوی کو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے تین بار طلاق دیدی اور واحد عرف بہلو تین مرتبہ طلاق دینے کا خود اقرار کر رہا ہے اور طلاق کے دو گواہ موجود تھے، گواہ مکر گئے اور اس کے سرال والے نہیں مانتے ہیں، مگر وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے تین طلاق دی ہیں، تو ایسی صورت میں شوہر کے اقرار کرنے کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟ اور بیوی حاملہ ہے کیا حالت حمل میں طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں؟

اور سرال والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو تیرے پاس بھیجن گے، ایسے طلاق واقع نہیں ہوتی، شرعی مسئلہ کیا ہے واضح فرمادیں۔

المستفتی: واحد عرف بلووار ثانی نگر، مراد آباد

با اسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شوہر بلو جب اپنی زبان سے یہوی کو تین طلاق دینے کا اقرار کر رہا ہے، تو یہوی پر تین طلاق مغلظہ واقع ہو کر شوہر کے لئے قطعی طور پر حرام ہو گئی ہے، اب بغیر حالہ کے دونوں کے درمیان نکاح بھی درست نہ ہوگا اور شوہر کے اقرار کے بعد کسی قسم کے گواہوں کی بھی ضرورت نہیں اور میکہ والوں کا یہ کہہ کر لڑکی کو بھیجنے کی کوشش کرنا کہ ہم اس طلاق کو نہیں مانتے، ایسے طلاق واقع نہیں ہوئی ان کا یہ طرز عمل شرعاً ناجائز اور غلط ہے، ان کو ایسا کرنا ناجائز نہیں ہے اور حالت حمل میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثبتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هدایہ، کتاب الطلاق، باب الرجعة اشرفی بکڈپور ۲/۹۹)

و طلاق الحامل يجوز عقیب الجماع۔ (هدایہ، کتاب الطلاق، باب طلاق

السنة اشرفی بکڈپور ۲/۶۵)

ولو أقر بالطلاق كاذباً أو هازلاً وقع قضاءً۔ (شامی، کتاب الطلاق، مطلب فی الامرہ علی النوكیل بالطلاق کراچی ۳/۲۳۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

كتبه: شیبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احترم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

رجب الرجب ۶۳۳۶ھ

۱۳۳۹/۷/۲۱

(فتویٰ نمبر: الف ۱۲۵۵/۳)

عورت کے پاس شرعی گواہ موجود ہوں تو شوہر کے قول کا اعتبار نہیں

سوال [۶۸۳۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و منتظرین شرع متنین مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ ایک شخص زید نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیں اور طلاق دینے کے وقت بیوی اور اس کے علاوہ چھ سات عورتیں وہاں پر موجود تھیں، اس کے بعد زید اپنے گھر سے اپنے دوست خالد کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اس نے زید سے پوچھا کہ لتنی طلاق دی ہیں اور کیوں دی ہیں؟ زید نے کہا کہ تین طلاق دی ہیں بس ویسے ہی دیدیں کچھ مدتے بعد زید طلاق کا منکر ہو گیا؛ لیکن زید کی بیوی اور اس کے طلاق دینے کے وقت جو عورتیں موجود تھیں وہ عورتیں گواہی دے رہی ہیں کہ اس نے ہمارے سامنے طلاق دی ہے، اسی طرح بیوی اور اس کا دوست خالد بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے سامنے تین طلاق اپنی بیوی کو دینے کا اقرار کیا ہے، لیکن زید اب کسی بھی طرح کی طلاق کا منکر ہے، تو مفتی صاحب بتائیے کہ کیا ایسی صورت میں زید کے انکار کے باوجود اور اس کے طلاق دینے کے وقت موجود عورتوں اور اس کی بیوی اور اس کے دوست کی گواہی کے پائے جانے کے باوجود کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟

المستفتی: محمد سالم، مخلّه ملانہ، امروہہ (بیوی)

با اسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: زید نے چھ سات عورتوں کے سامنے بیوی کو تین طلاق دیں اور وہ عورتیں شہادت دے رہی ہیں اور زید نے خالد کے سامنے بھی اپنی بیوی کو تین طلاق دینے کا اقرار کیا ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کے پاس ایک مرد اور دوسرے زیادہ عورتوں کی شہادت موجود ہے، اب زید کے انکار کا اعتبار نہیں؛ بلکہ بیوی کے دعویٰ پر شہادت ہونے کی وجہ سے تین طلاق کے واقع ہونے کو معتبر مانا جائے گا بیوی شوہر پر قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے قضاءً و دیانتہً دونوں اعتبار سے طلاق واقع ہو چکی ہے، اب بغیر حلالہ کے دونوں کے درمیان نکاح بھی درست نہ ہو گا۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ڈاہیل ۲۲۲/۱۲)

و منها الشهادة بغير الحدود والقصاص وما يطلع عليه الرجال
وشرط فيها شهادة رجلين أو رجل، وامرأتين سواء كان الحق مالا أو غير

مال کالنکاح، والطلاق، والعتاق، والوكالة والوصایة، ونحو ذلك مما ليس بمال۔ (هنديہ، ۴۵۱/۳، زکریا جدید ۳۸۸/۳)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هدایۃ، کتاب الطلاق، باب طلاق السنة اشرفی بکڈپور ۳۵۶/۲، عالمگیری، زکریا قدیم

۱/۴۷۳، جدید ۵۳۵/۱) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان الدین عنہ

۷ ارمجم الحرام ۱۴۳۳ھ

(فتوى نمبر: الف ۱۰۹۳۸/۲۱)

الجواب صحیح:

احترم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۳/۱/۱۷

طلاق کی تعداد یاد یا نہیں

سوال [۲۸۳۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ فاطمہ بی کی شادی صلاح الدین سے ہوئی شوہر صلاح الدین نے بھوکو طلاق دے دی ہے، طلاق کے بعد بھی وہ میرے ساتھ رہتا ہے کیا یہ درست ہے؟ شوہر کے ساتھ رہنے پر ان کے گھر والوں سے خطرہ ہے، جیزیر کا سارا سامان جبراً نفع دیا، کیا طلاق کے بعد سامان شوہر کے لئے واپسی کرنا ضروری یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مدل جواب سے عند اللہ ما جور ہوں۔

المستفیۃ: فاطمہ بی

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ میں طلاق کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، اگر واقع میں تین طلاقوں دی گئی ہیں، تو یوی شوہر پر قطعی طور پر حرام ہو گئی ہے دونوں کا ساتھ رہنا بدکاری اور حرام کاری شمار ہو گا، شوہر کے گھر والوں کے خطرے سے تین طلاق کے بعد اس

کے گھر پر ہنا قطعاً جائز نہیں ہے، آپ کو اپنے میکہ چلے جانا چاہئے اور جہیز کا سامان ہر حال میں بیوی کی ملکیت ہے، شوہر کے اوپر اس کی واپسی لازم اور ضروری ہے۔

وإنْ كَانَ الطَّلاقُ ثَلَاثَةً فِي الْحُرْةِ، وَثَتَّتِينَ فِي الْأُمَّةِ لَمْ تَحْلِ لَهُ حَتَّى
تُنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نَكَاحًا صَحِيحًا وَيُدْخَلَ بِهَا، ثُمَّ يُطْلَقُهَا، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا.

(هداية، کتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة اشرفي بکلپو دیوبند ۲/۳۹۹)

عالِمگیری، زکریا قدیم ۱/۷۳، ۴، زکریا جدید ۱/۵۳۵، شامی کراچی ۳/۴۰۹، زکریا

۴/۵، الفتاویٰ التاتارخانیہ زکریا ۵/۱۴۸، رقم: ۴، ۷۵۰)

إن الجهاز للمرأة إذا طلقها تأخذه كله الخ. (شامی، کتاب النکاح،
باب المهر، مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية کراچی ۳/۱۵۸) (فقط والد سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

كتبه: شیبیر احمد قاسمی عفوا اللہ عنہ

۱۴۳۳ھ اول ربیع

(فتویٰ نمبر: الف ۳۱/۱۹۳۲)

۱۴۳۲ھ/۱۳/۱۳

احقر محمد سلمان منصور پوری غفران



(۱۹) باب الحلالۃ

حلالہ کی تفصیل اور اس کی شرائط

سوال [۶۸۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) زید نے اپنی بیوی ہندہ کو تین طلاقیں دیں، ہندہ اپنی عدت پوری کر چکی ہے، زید پھر ہندہ کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے؛ جبکہ زید نے صحیح حالت میں طلاق دی ہے، تو آپ یہ بتلائیے کہ زید اور ہندہ دوبارہ پھر کسی طرح سے شوہر بیوی بن سکتے ہیں؟ آیا دوسرے انسان سے نکاح کرنا پڑے گا؟ قدرے تفصیل فرمادیجئے۔

(۲) حلالہ کے واسطے شوہر بالغ یا نابالغ کی کوئی قید ہے؟ اگر مطلقہ ہندہ نابالغ لڑکے کے ساتھ شب باشی کرے، تقریباً دس بارہ سال کا لڑکا تو شوہر اول زید کی نکاح میں آسکتی ہے یا نہیں؟

(۳) مرافق کس کو کہتے ہیں اور حلالہ کے واسطے دخول حشفہ اور انزال شرط ہے یا نہیں؟ تینوں سوالوں کا جواب بالتفصیل مرحمت فرمادیجئے۔ بیویا تو جروا۔

المسنفتی: سخاوت علی، سرانے کجھور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہرنے ہندہ کو تین طلاقیں دے دیں، تواب بلا حلالہ دوبارہ نکاح درست نہیں ہوگا اور حلالہ کی صورت یہ ہے کہ عورت عدت گذار کر دوسرے مرد سے نکاح کر کے ہمیسٹر ہو جائے، پھر وہ مرد طلاق دیدے، تو دوبارہ عدت گذار کر شوہر اول زید کے ساتھ نکاح درست ہو سکتا ہے۔

عن عائشة ^{رض} قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل

امرأته ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويذوق كل واحد منها عسيلة صاحبه۔ (دارقطني، كتاب الطلاق، دارالكتب العلمية

بیروت ۴/ ۲۱، رقم: ۳۹۳۲)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(فتاویٰ عالمگیری، ذکریا قدیم ۱/ ۴۷۳، جدید ۱/ ۵۳۵)

(۳) نبالغ شوہر سے ہمبستر ہونا کافی نہیں ہے۔

لو صغیرة لا يجامع مثلها لا يحللها..... وفي الأنفع: الصبي المراهق في التحليل كالبالغ، إذا جامعها قبل البلوغ، وطلقها بعد البلوغ؛ لأن الطلاق منه قبل البلوغ غير واقع۔ (ہندیۃ، باب الرجعة، ذکریا قدیم ۱/ ۴۷۳،

ذکریا جدید دیوبند ۱/ ۵۳۵)

(۲) مراهق اس کو کہتے ہے جو بالکل قریب البلوغ ہو، جماع پر باقاعدہ قدرت رکھتا ہو، اور حالہ کے لئے دخول حشفہ شرط ہے، وازوال شرط نہیں ہے۔

والشرط الإيلاج دون الإنزال؛ لأنَّه كمال و مبالغة فيه إلى قوله: والصبي، المراهق في التحليل كالبالغ لوجود الدخول في نكاح صحيح. فسر الصبي المراهق في الجامع فقال: غلام لم يبلغ و مثله يجامع. وفي المنافع: المراهق الداني من البلوغ، وقيل الذي تحرك آلتَه ويشتهي الجماع. وفي فوائد شمس الأئمة: أنه مقدر بعشرين سنين۔ (فتح القدير، باب الرجعة، فصل في ما تحل به المطلقة، دارالفکر بیروت ۴/ ۱۸۰، کوئٹہ ۴/ ۳۳، ذکریا ۱/ ۶۰، ہندیۃ، ذکریا قدیم ۱/ ۴۷۳، جدید ۱/ ۵۳۵) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان الدین عنہ

۱۵- درج المرجب ۱۳۱۰

(فتویٰ نمبر: الف۲۶/ ۱۸۶۸)

حلالہ کے لئے اسلام شرط ہے

سوال [۶۸۳۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متبین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہندہ کی شادی زید سے ہوئی، زید نے ہندہ کو طلاق دیدی، ہندہ نے بعد عدت بکر سے شادی کی بکر کی بات چیت سے بھانپ لیا کہ یہ عیسائی ہے اور ایک وقت ایسا آیا کہ بکر نے ظاہر کر دیا کہ وہ عیسائی ہے، ہندہ کا پہلا شوہر زید بڑی مشکل سے ہندہ کو بکر کے گھر سے لا یا۔ اب ہندہ اور زید شادی کرنا چاہتے ہیں، اس نکاح کے صحیح ہونے کے بارے میں شرعی نقطہ نظر سے تحریر فرمائیں۔

المستفتی: محمد عطاء الحق

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مذکورہ میں اگر بکرو قعی عیسائی تھا، تو ہندہ اور بکر کے درمیان سرے سے نکاح شرعاً ہوا ہی نہیں۔

لا يجوز تزوج المسلمة من مشركٍ ولا كنابي. (ہندیہ، کتاب النکاح،

باب المحرمات القسم السابع المحرمات بالشرك، ذکریا دیوبند قدیم ۱/۲۸۰، جدید ۱/۳۴۷) اور اگر زید طلاق مغلظہ دے چکا تھا، تو اب زید کا ہندہ کے ساتھ نکاح کرنا اس وقت تک شرعاً صحیح نہیں رہے گا، جب تک کہ ہندہ کسی مسلمان مرد سے نکاح صحیح کر کے ہمبستری نہ کرے؛ کیونکہ عیسائی کی ہمسبرتی حلالہ کے لئے کافی نہیں۔

وإذا وطئها إنسان بالزنا، أو بشبهة لا تحل لزوجها لعدم النكاح. (ہندیہ،

ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، ذکریا جدید دیوبند ۱/۵۳۵)

اور اگر زید نے طلاق مغلظہ نہیں دی تھی، تو اب دونوں کا آپس میں نکاح کرنا بحالہ کے درست رہے گا۔

إذا كان الطلاق بائناً دون الشلال، فله أن يتزوج في العدة

وبعد انقضائهما۔ (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۲، جدید ۱/۵۳۵، هدایہ، اشرفی دیوبند

۲۹۹/۲، تاتارخانیہ، زکریا ۵/۱۴۸، رقم: ۴۰۷۵) **فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم**

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۲۷ ربیعان المظہم ۱۴۰۷ھ

(فونی نمبر: الف ۳۲۵/۳۲)

دوبارہ مطلقہ سے نکاح کرنے کی ایسی شکل جس میں محلل اور محلل لہ مستحق لعنت نہ ہوں

سوال [۶۸۳۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے غصہ میں اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی تھیں، پھر میں بہت پریشان ہوں، میرے تین چھوٹے بچے بھی ہیں، لڑکی والوں سے منت سماجت کیا، تو انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی فتویٰ لاوے گے، تو کارروائی کی جائے گی؛ لہذا اگر کوئی شکل نکل سکتی ہو، جس میں محلل اور محلل لہ دونوں لعنت کے مستحق بھی نہ بنیں تو مطلع فرمائیں۔

المسنون: محمد جشید، رام نگر، بگور

بسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب آپ نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی ہیں، تو اس سے طلاق مخالفہ واقع ہو کر بیوی آپ کے اوپر قطعی طور پر حرام ہو گئی ہے، اب شرعی حلالہ کے بغیر اس سے نکاح بھی جائز نہ ہوگا، حالہ کی مذمت جور و ایات میں آتی ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے، اس سے بچنے کے لئے صرف یہی شکل ہے کہ بیوی اپنی مرضی سے کسی دوسرے شخص سے شادی کر کے اسی کے پاس رہ جائے، پھر وہ شخص اپنی مرضی سے طلاق دیدے یا اس کا انتقال ہو جائے، اس کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں، تو شرعی حلالہ بھی ہو جائے گا اور لعنت کی مذمت سے بھی بچ جائیں گے۔

عن جابر و علی قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المحلل

وال محلل له. (سنن الترمذی، کتاب النکاح، باب ما جاء فی المحلل والمحلل له، النسخة الھندية ۱/۲۱۳، دارالسلام رقم: ۱۱۹، سنن أبي داؤد، کتاب النکاح، باب فی التحلیل، النسخة الھندية ۱/۲۸۴، دارالسلام رقم: ۲۰۷۶)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(ھندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹)

يكره التزوج بشرط التحليل بالقول، بأن قال: تزوجتك على أن أحلك له، أو قالت المرأة: ذلك، لقوله عليه الصلة والسلام: لعن الله المحلل، والمحلل له، أما لونيا ذلك بقلبهما ولم يشتطرطا بقولهما فلا عبرة به.
 (مجمع الأنہر، دارالكتب العلمیہ بیروت ۲/۹۱) فقط والسبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شیراحرقائی عفان الدین

۱۵ ارشوال المکرم ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۹/۹۷)

اس نیت سے نکاح کرنے کے جماع کے بعد طلاق دیدے گا

سوال [۶۸۳۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ کسی شخص سے اس ارادہ سے نکاح کرایا جائے کہ تو صحیح طلاق دیدیا، اگر کوئی لڑکی کو اس کے شوہر پر حلال ہونے کی نیت سے اس طرح نکاح کرے کہ صحیح کو طلاق دے دیگا، تو وہ شخص اجر و ثواب کا مستحق ہو گا کہ نہیں؟

المسنونی: محمد شہزاد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اس طریقہ سے حلالہ کرایا جائے تو یہوی شوہر

اول کے لئے بذریعہ نکاح حلال تو ہو جاتی ہے، مگر یہ شخص کسی قسم کے اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہو سکتا؛ بلکہ آئندہ کے لئے توبہ واستغفار کرنا چاہئے۔

عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المحلل والمحلل له. (سنن الترمذی، کتاب النکاح، باب ما جاء في المحلل والمحلل له، النسخة الہندیۃ ۱/۲۱۳، دارالسلام رقم: ۱۲۰، سنن ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب المحلل والمحلل له، النسخة الہندیۃ ۱۳۹، دارالسلام رقم: ۱۹۳۴، مشکوہ شریف ۲/۲۸۴) **فقط والله سبحانه وتعالى اعلم**

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
 ۵ رمضان المبارک ۱۴۲۶ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۳۱/ ۳۵۸۷)

شوہر ثانی سے حلالہ میں زبردستی طلاق دلوانا

سوال [۶۸۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ الیاس نے اپنی بیوی شمیمہ عرف شمیم کو طلاق مغلظہ دی، تقریباً دوسال پہلے، اب الیاس پھر شمیمہ سے عقد کرنا چاہتا ہے؛ لیکن شمیمہ الیاس سے عقد کرنے پر راضی نہیں تھی، عملیات کے زور پر اور سمجھانے پر شمیمہ کو راضی کر لیا گیا اور حلالہ کی شکل اختیار کی گئی اور الیاس کے پھوپھی زاد بہنوئی جن کا نیم احمد نام ہے سے حلالہ کی غرض سے شمیمہ کا عقد کر دیا گیا اور اس حلالہ والے عقد میں نیم بیگ کی پہلی بیوی سلمی کے والد گواہ تھے، شام کو عقد ہوا اور صبح بعد نماز فجر تین چار آدمیوں نے زبردستی طلاق دلوادی اور نیم بیگ کی طلاق کے الفاظ تھے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں اور یہ الفاظ تین مرتبہ کہلوائے؛ لیکن لوگ مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے دوسری مرتبہ شمیمہ کا نام لے کر طلاق دلوائی۔ اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ نیم بیگ

نے جو پہلے طلاق دی، وہ آیا شمیمہ جس سے حلالہ کیا گیا، اس کو واقع ہوئی یا نیم بیگ کی پہلی بیوی سلمی کو واقع ہوئی؟ اور شمیمہ اب اپنے شوہر کے نکاح میں آسکتی ہے یا نہیں؟ جبکہ الیاس کی نسبت دی ہو گئی ہے اور وہ لاولد ہے اور شمیمہ کو بچوں کی آرزو ہے اور حلالہ کے وقت شمیمہ کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ صحیح ہوتے ہی نیم بیگ سے طلاق لینی ہے، آپ کو صرف ایک مرتبہ حق زوجیت ادا کرنا ہے تاکہ الیاس سے نکاح کرنے کی گنجائش نکل آئے۔ اور نیم بیگ سے شمیمہ کا نکاح اس شرط پر ہوا کہ صحیح ہوتے ہی آپ کو طلاق دینی ہوگی۔
تو دریافت یہ کرنا ہے کہ شمیمہ اپنے شوہراً کے نکاح میں آسکتی ہے یا نہیں؟ نیم بیگ نے جو پہلے طلاق دی وہ شمیمہ پر واقع ہوئی یا پہلی بیوی سلمی پر؟

المستفتی: انیس الرحمن مظاہری، گڑھوال

بامسہ سماںہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صحیح کو طلاق دینے کی شرط پر نکاح کرنے اور پھر صحیح کو زور دباً سے طلاق لینے والے گنہگار ہوں گے اور اگر نیم نے شمیمہ سے تمبستی کر لی ہے، تو ایسی صورت میں شمیمہ محمد الیاس سے عدت کے بعد عقد نکاح کر سکتی ہے، گناہ الگ چیز ہے اور حلالہ ہو جانا الگ چیز ہے۔

قال عقبة بن عامر^{رض}: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى! يا رسول الله، قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. (ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب المحلل والمحلل له،

النسخة الہندیۃ ۱۳۹، دارالسلام رقم: ۱۹۳۶)

عن عبدالله بن مسعود^{رض} قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحلل والمحلل له. (سنن الترمذی، کتاب لنكاح، باب ما جاء في محلل والمحلل له)، النسخة الہندیۃ ۱۱۲۰، دارالسلام رقم: ۲۱۳)

النسخة الهندية / ۲۸۴، دارالسلام رقم: ۲۰۷۶، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب المحلل

وال محلل له، النسخة الهندية ۱۳۹، دارالسلام رقم: ۱۹۳۵)

يکرہ التزوج بشرط التحلیل بالقول، بأن قال: تزوجتك على أن أحللک له، أو قالت المرأة: ذلك، لقوله عليه الصلة والسلام: لعن الله المحلل، والمحلل له، أما لو نويا ذلك بقلبهما ولم يشتطرطا بقولهما فللاعبرة به. (مجمع الأنہر، دارالكتب العلمية بيروت ۹۱/۲)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هنديہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵)

شمیم بیگ سے شمیمہ کو طلاق دینے کا مطالبہ ہوا ہے، اس لئے شمیمہ ہی پر طلاق واقع ہو گئی ہے، سملی پر نہیں، جو الفاظ پہلے کہے وہ بھی شمیمہ کے حق میں ہوں گے۔ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم
کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان الدین عن
لصفر المظفر ۱۴۱۵ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۸۵۳/۳۱)

حلالہ میں مہر کا لزوم اور طلاق دینے کی شرط پر حلالہ

سوال [۶۸۳۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی اور عدت گذارنے کے بعد عمر سے اس کا نکاح کر دیا اور عمر سے یہ کہہ دیا کہ نکاح کے بعد طلاق دیدینا؛ چنانچہ عمر اس لڑکی سے ایک رات ملا اور صحیح میں طلاق دیدی تو دوسرے شوہر پر مہر واجب ہو گا یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل جواب تحریر فرمائیں۔

المستفتی: محمد الدین، بھاگل پوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اس صورت میں عمر کے ذمہ مہر لازم ہو گیا؛ البتہ اس طرح طے کر کے نکاح کرنا شرعاً مذموم ہے۔ حضور نے ﷺ ایسے مرد و عورت پر لعنت فرمائی ہے۔
وَيَأْكُدْ عِنْدَ وَطْءٍ، أَوْ خُلُوةً صَحْتَ مِنَ الرَّوْجِ۔ (در مختار علی الشامی،

کتاب النکاح، باب المهر، کراچی ۱۰/۳، زکریا ۲۳۳)

عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المحلل والمحلل له۔ (سنن الترمذی، کتاب النکاح، باب ما جاء في المحلل والمحلل له، النسخة الہندیۃ ۱/۲۱۳، دارالسلام رقم: ۱۱۲۰، سنن أبي داؤد، کتاب النکاح، باب في التحلیل، النسخة الہندیۃ ۱/۲۸۴، دارالسلام رقم: ۲۰۷۶) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان الدین عنہ

۲۰ صفر امظفر ۱۴۲۲ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۵/۰۶۹)

حلالہ کی شرط پر نکاح کرنے کا حکم

سوال [۶۸۳۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عبد اللہ نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی؛ جبکہ بیوی کو ابھی معلوم نہیں ہے اور تین مہینہ پندرہ دن گزار پکھے ہیں، کیا عبد اللہ کی بیوی کی عدت گزری مانی جائے گی یا عدت گزارنے کے لئے بیوی کے علم میں طلاق کا لانا ضروری ہے؟

(۲) عبد اللہ اپنی بیوی کو تین طلاق دے چکا ہے؛ لیکن بیوی اس کے پاس آنا چاہتی ہے، اگر عبد اللہ بیوی کو صورت مسئلہ بتا کر اپنے ایک درست سے نکاح کرادے، بغیر طلاق کی شرط پر اور عبد اللہ کا دوست حلالہ کی غرض سے نکاح کرے اور دو یا تین دن بیوی کے ساتھ گزارنے کے بعد عبد اللہ کے کہنے پر عبد اللہ کا دوست طلاق دیدے اور عبد اللہ کے گھر میں عدت

گذارنے کے بعد عبد اللہ اس سے دوبارہ نکاح کر لے تو کیا اس عبد اللہ کے دوست کا نکاح جائز ہوگا اور عبد اللہ کے لئے اس کی بیوی جائز ہو سکتی ہے؛ جبکہ حدیث میں حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے دونوں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ نیز سعودی عرب سے چھپا ہوا قرآن اردو تفسیر میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان میں جو لوگ حلالہ کرتے ہیں بالکل غلط ہے، نکاح نہیں ہوتا ہے وہ زنا ہے اور شوہر کے لئے بیوی حلال نہیں ہوتی ہے، مفتی صاحب سے گذارش ہے کہ دونوں مسئللوں کی وضاحت فرمائیں۔

المستفتی: محمد انس، سپریوالی بازار، پاکبرا، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) جب شوہرنے بیوی کو تین طلاق دیدی ہیں، تو اس سے بیوی کے اوپر طلاق مغلظہ واقع ہو کر شوہر کے لئے قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے اور طلاق کے واقع ہونے کیلئے بیوی کو معلوم ہونا لازم نہیں ہے۔ اور جب طلاق دیئے ہوئے تین مہینہ پندرہ دن ہو گئے ہیں، تو اگر اس مدت کے دوران طلاق کے بعد بیوی کو تین مرتبہ ماہواری آئی ہے اور بیوی تیسرا ماہواری سے پاک ہو گئی ہے تو بیوی کی عدالت بھی پوری ہو گئی ہے۔

وقال الليث عن نافع كأن ابن عمر إذا سُئِ عن طلاق ثلثاً، قال:

لو طلقت مرة، أو مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرني بهذا فإن طلقتها ثلاثة حرمت حتى تنكح زوجاً غيرك. (بخاري شریف، کتاب الطلاق، باب من اجاز الطلاق الثلاث، النسخة الهندية ۲/۷۹۲، رقم: ۵۰۶۵، ف: ۵۲۶۴، مسلم شریف،

کتاب الطلاق، باب تحریم طلاق البيان، النسخة الهندية ۱/۷۶۱، یت الأفکار رقم: ۱۴۷۱)

عن محمد ابن إیاس أن ابن عباس رضي الله عنهمَا، وأبا هريرة، وعبد الله ابن عمر وبن العاص، سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثة، فكلهم، قال: لا، تحل له حتى تنكح زوجاً غيره۔ (أبوداؤد شریف، کتاب الطلاق، باب نسخ

المراجعة بعد التطليقات الثلاث، النسخة الهندية ۱/۲۹۹، رقم: ۲۱۹۸)

عدة الحرة للطلاق.....ثلاثة أفراء أي حيض . (تبیین الحقائق امدادیہ ملتان)

۲۶/۳، زکریا/۲۴۸

وهي في حق حرة تحيض لطلاق، أو فسخ بعد الدخول حقيقةً، أو حكمًا ثلاث حيض كواهل . (در مختار، کراچی ۳/۵۰۴، زکریا ۵/۱۸۱)

(۳) اگر بیوی کی عدت پوری ہو گئی ہے اور اس کے بعد دوسرا آدمی سے بغیر کچھ کہے اور بغیر کچھ شرط لگائے یہوی کا نکاح ہو جائے اور اس کے ساتھ ہم بستری ہو جائے اور ہم بستری کے بعد اس دوسرے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر کے طلاق دلوائی جائے یا وہ دوسرا شوہر اپنی مرضی سے طلاق دیدے، اس کے بعد کہیں بھی رہ کروہ دوبارہ عدت گذارے، چاہے شوہر کے گھر میں یا میکے میں، اس طرح تین ماہواری کے ذریعہ سے عدت پوری ہو جائے، تو اس کے بعد عبد اللہ کا نکاح اس عورت کے ساتھ درست ہو جائے گا اور یہی حدیث پاک کے اندر صراحةً کے ساتھ موجود ہے؛ ہاں البتہ طلاق دینے اور حلالہ کی شرط کے ساتھ دوسرے شوہر سے نکاح ہوا ہے اور اس نے ہم بستری کے بعد طلاق دیدی ہے، تو ایسی صورت میں دونوں گھنگا رہوں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

عن عقبة بن عامر ^{رض} قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى! يا رسول الله، قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. (ابن ماجه، کتاب النکاح، باب المحلل والمحلل له،

النسخة الہندیۃ ۱۳۹، دارالسلام رقم: ۱۹۳۶)

عن ابن عمر ^{رض} قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثة، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب، ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر. (نسائی شریف،

النسخة الہندیۃ ۲/۸، دارالسلام رقم: ۳۴۴)

عن عليٍّ، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المحلل

وال محلل له. (ترمذی شریف، کتاب النکاح، باب ماجاء فی المحلل والمحلل له، النسخة الہندیۃ ۱/۱۳، دارالسلام رقم: ۱۱۱۹)

فإن تزوجها بشرط التحليل كرهه: أي يكره التزوج بشرط التحليل لقوله عليه الصلوة والسلام: لعن الله المحلل، والمحلل له الخ .
 (مجمع الأئمہ، دارالکتب العلمیہ بیروت ۲/۹۰-۹۱، البحیرائق، کوئٹہ ۴/۵۸، زکریا ۵/۹۷، شامی، زکریا ۵/۴۷)

وشرط أن يطأها الزوج الثاني؛ لأنّه ثبت بإشارة الكتاب وبالسنة المشهورة، والإجماع. (تبیین الحقائق، امدادیہ، ملتان ۲/۲۵۸، زکریا ۳/۱۶۲) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان الدین
 الحرام ۱۴۳۵ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۱۴۳۶/۲۰)

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۳۵/۱۷ھ

حلالہ کی نیت سے کئے گئے نکاح اور حلالہ کا حکم

سوال [۶۸۵۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک صاحب نے اپنی زوجہ کو تین طلاقیں دیں، اب وہ اپنے اس فعل فتح پر نادم شرمندہ ہیں اور اسی لڑکی کو اپنے نکاح میں ازسرنو لینا چاہتے ہیں؛ چنانچہ لڑکی اور لڑکا دونوں کے اہل خانہ کی رضا مندی سے بہیت حلالہ اس لڑکی کا عقد اس کے شوہر ہی کے خاندان میں ایک لڑکے سے گیارہ سور و پیعے کے عوض کر دیا گیا۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ حلالہ کی نیت سے (یعنی اس صورت میں جبکہ لڑکی لڑکا اور دونوں کے اہل خانہ و متعلقین کو اس بات کا علم ہو کہ یہ نکاح صرف حلالہ کرنے ہی کے لئے ہو رہا ہے اور ہر جگہ اس کا چرچا بھی ہے) نکاح کا حکم کیا ہے؟ کیا اس طرح شرعاً نکاح ہو جاتا ہے اور اس طرح حلالہ درست ہو جائے گا۔

نیز یہ بات بھی دریافت طلب ہے کہ کیا گیارہ سوروپے کے عوض نکاح ہو جائے گا؟ اگر نکاح ہو جائے گا تو شوہر پر کتنی مقدار میں مہر لازم ہو گا، یعنی مہر شرعی کی آج کے دور میں اقل مقدار کیا ہے؟

المستفتی: محمد فرمان ملک، جہاںگیر آباد، دھام پور، بخوبی

با سمسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صرف حلالہ ہی کی نیت سے نکاح ہونے میں گناہ ہوتا ہے؛ اس لئے کہ آپ ﷺ نے حلالہ کرنیوالے اور کرانے والے پر لعنت کے جملے استعمال کئے ہیں؛ لیکن اس طرح حلالہ کرانے کی صورت میں فی نفسہ حلالہ درست ہو جاتا ہے، اور اس طلاق کے بعد عدت پوری ہو جانے سے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح بلا شبهہ درست ہو جاتا ہے؛ لیکن حلالہ کی صورت میں دوسرا شوہر کے ساتھ ہمبستری لازم ہے۔

عن ابن عمر ^{رض} قال: سئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم: عن الرجل يطلق امرأته ثلاثة، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب، ويرخي الستار، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر. (نسائی شریف، کتاب

الطلاق، باب احلال المطلقة ثلاثة، النسخة الہندیۃ / ۲۴، ۸۴، دارالسلام رقم: ۳۴۴)

عن عبد الله بن مسعود ^{رض} قال: لعن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: **المحلل والمحلل له.** (سنن الترمذی، کتاب النکاح، باب ما جاء في المحلل والمحلل له، النسخة الہندیۃ / ۱۲۱، دارالسلام رقم: ۱۱۲۰، سنن ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب المحلل والمحلل له، النسخة الہندیۃ / ۱۳۹، رقم: ۱۹۳۵، سنن أبي داؤد، کتاب النکاح، باب في التحليل، النسخة الہندیۃ / ۱۴۲، دارالسلام رقم: ۲۰۷۶)

رجل تزوج امرأة، ومن نيتها التحليل ولم يشتري طا ذلک تحل للأول بهذا، ولا يكره وليست النية بشيء ولو شرط يكره وتحل عند أبي حنيفة، وزفر رحمهما الله. (ہندیۃ، زکریا قدیم / ۱، ۷۴، جدید / ۱، ۵۳۷)

اقل مہر کی مقدار دس درہم ہے، موجودہ زمانہ کے اعتبار سے اس کا وزن ۳۰ گرام

۶۱۸ رملی گرام یعنی دس گرام کے تولہ سے تین تولہ ۶۱۸ رملی گرام چاندی ہے، اور تین تولہ ۶۱۸ رملی گرام چاندی کی قیمت گیارہ سور و پئے سے زیادہ بنتی ہے؛ اس لئے گیارہ سور و پیسہ مہر نہیں بنے گا، بلکہ تین تولہ ۶۱۸ رملی گرام چاندی کا قیمت مہر میں ادا کرنا لازم ہوگا اور ادائے گی کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ (مستقاد: ایضاح الطحاوی ۱۹۳۳)

و أقل المهر عشرة دراهم. (هداۃ اشرفی دبو بند / ۳۲۴ / ۲) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم

الجواب صحیح:

لکتبہ: شبیر احمد قاسمی عفاف اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۲ھ قعدہ ۱۴۳۲ھ

۱۴۳۲/۱۱/۳

(فتوى نمبر: الف ۱۱۲۷۹ / ۲۰)

طلاق کی شرط کے ساتھ حلالہ کرانا

سوال [۶۸۵۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے نکاح کیا ہندہ سے اور ان سے چار بچے ہیں، زید نے ہندہ کو تین طلاق دیدیں۔ اب زید دوبارہ ہندہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، پھر زید ہی نے ایک شخص کو تیار کیا کہ تم ہندہ سے شادی کرلو، اس شرط پر کہ تم ہندہ کو ایک دو دن میں طلاق دیدو گے اور عدت کے بعد میں دوبارہ ہندہ سے نکاح کرلوں گا: یعنی حلالہ کی شکل اختیار کیا، تو کیا اس طرح شرط لگا کر اول شوہر کو نکاح کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ اسی طرح دوسرے شخص کا شرط لگا کر لینا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبدالمنان، متعلم مدرسة شاہی مراد آباد (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شوہر چند دن میں طلاق دینے کی شرط کے ساتھ نکاح کرے گا، تو شرط باطل ہو جائے گی نکاح صحیح ہو جائے گا۔ اور نکاح کے بعد دونوں ہی ہمسپouse ہو جائیں، پھر ہمسپouse کے بعد دوسرا شوہر طلاق دے دیتا ہے، تو ایسی صورت میں

عدت گذر جانے کے بعد پہلے شوہر کے لئے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا، مگر اس طریقہ سے شرط لگا کرنے کا حکم کرنا سبب لعنت ہے؛ بلکہ بلا شرط نکاح کر لیا جائے، پھر دوسرا شوہر اپنی مرضی سے طلاق دیدے۔ (مسقیاد: فتاویٰ دارالعلوم ۳۵۹/۹)

قال عقبة بن عامر^{رض}: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى! يا رسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. (سنن ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب المحلل والمحلل له،

النسخة الہندیۃ ۱۳۹، دارالسلام رقم: ۱۹۳۶)

عن جابر و علي^{رض} قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المحلل والمحلل له. (سنن الترمذی، کتاب النکاح، باب ما جاء في المحلل والمحلل له، النسخة الہندیۃ ۱/۲۱۳، دارالسلام رقم: ۱۱۹، سنن أبي داؤد، کتاب النکاح، باب في التحليل، النسخة الہندیۃ ۱/۲۸۴، دارالسلام رقم: ۲۰۷۶)

وكره التزوج للثاني تحريمًا، كذا في البحر؛ لكن في القهستاني، وكره للأول والثاني لحديث لعن المحلل والمحلل له بشرط التحليل كتزوجتك على أن أحللك وإن حللت للأول لصحة النکاح وبطلان الشرط. (در مختار مع الشامی، کتاب الطلاق، باب الرجعة، کراجی ۳/۴۱۴، زکریا دیوبندی ۵/۴۷، البحر الرائق، کوشش ۴/۵۸، زکریا ۴/۹۷، مجمع الأئمہ، دارالكتب العلمیہ بیروت ۲/۹۰-۹۱) فقط والله سبحانه وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان الدین عنہ

۱۴۲۲ھ / جمادی الاولی

(فتویٰ نمبر: الف ۳۲/۸۰۵۵)

مطلقہ مغلظہ کا شوہر ثانی سے خلوت کے بعد شوہر اول سے نکاح کرنا

سوال [۲۸۵۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں مسئلہ ذیل کے

بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں، عدت کے بعد عقد ثانی شوہر ثانی سے ہوا اور حلالہ کے لئے خلوت کرائی گئی؛ ہمستری نہیں ہوئی، بغیر صحبت کے طلاق ہو گئی اور پھر عدت کے بعد شوہر اول سے نکاح کر لیا؛ لیکن عورت نے کسی سے نہیں بتایا، تقریباً میں سال کے بعد عورت نے کسی کتاب میں یہ مسئلہ دیکھا کہ بغیر صحبت کے حلالہ نہیں ہوتا ہے، مسئلہ زیر غور یہ ہے کہ اس وقت یہ شوہر و بیوی کیا کریں؟

مسئلہ کی وضاحت فرمائیں مکمل و مدلل جواب عنایت فرمائیں کہ مشکور ہوں، اس وقت پچھے جوان ہیں اور عورت حلالہ چاہتی ہے، لیکن شوہر چھوڑنا یا حلالہ نہیں چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو حلالہ کر لیا ہے، تو نے اس وقت ہی کیوں نہیں بتایا تھا، عورت کہتی ہے کہ مجھے مسئلہ کا علم نہیں تھا اب معلوم ہوا ہے، تفصیلی جواب چاہتے ہیں۔ فقط والسلام

المسنون: محمد ظفر سرائے، بجور (یوپی)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مطلاق ثلاثہ کے ساتھ نکاح کرنا پہلے شوہر کے لئے اس وقت حلال ہوتا ہے کہ جب دوسرے شوہر کے ساتھ ہمستری اور جماع عمل میں آجائے، محض خلوت کی وجہ سے شوہر اول کے لئے حلال نہیں ہوتی؛ لہذا مذکورہ صورت میں بیس سال تک ساتھ میں جو رہنا ہوا، اس میں وٹی بالشبہ ہوئی اور اس سے جوازاد ہوئی، وہ حلال اور ثابت النسب ہیں؛ ہاں البتہ معلوم ہو جانے کے بعد اب دونوں کا ساتھ رہنا جائز نہ ہوگا؛ بلکہ شرعی حلالہ لازم ہوگا۔

عن عائشة ^{رض} أَن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجت فطلاق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، أتحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. (صحیح البخاری، کتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث، النسخة الہندیۃ ۲/۷۹۱، رقم: ۵۶۱، ف: ۵۰۶۲، صحیح مسلم،

کتاب النکاح، باب لا تحل المطلقة ثلثاً لمطلقاتها حتى تنكح زوجاً غيره، النسخة الہندية
 (۳۴۴۰، دارالسلام رقم: ۲/۸۴)

لاتحل مطلقة الثالث للزوج الأول بمجرد خلوة الشاني؛ بل لا بد من وطئه بحديث العسيلة. (شامی، باب المهر، مطلب في أحكام الخلوة،
 کراچی ۱۹/۳ زکریاء / ۲۵۷، الہندیہ، زکریا قدیم / ۱، ۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵)

بأن وطئ المطلقة بالثلاث (إلى قوله) بأن من وطئ امرأة زفت إليه وقيل له إنها امرأتك فهي شبهة في الفعل، وأن النسب يثبت إذا ادعاه الخ.

(شامی، کراچی ۳/۱، ۵۴، زکریاء / ۲۳۲ فقط والله سبحانه وتعالى عالم

الجواب صحیح:

كتبه: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۳۰ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ

۱۴۲۵/۱/۳۰

(فتویٰ نمبر: الف ۳۲۷، ۲۳۲)

حالہ شرعی کی صحیح صورت

- سوال [۶۸۵۳]:** کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (الف) حالہ شرعی کی صحیح صورت کیا ہو سکتی ہے؟
 (ب) مطلقة سے بغرض حالہ محض اس ارادے سے شادی کرنا کہ دو چار روز بعد طلاق دیدی جائے گی تاکہ وہ شوہراً کی طرف لوٹ سکے جائز ہے یا نہیں؟
 (ج) اگر کوئی شخص بغرض حالہ نکاح کرتا ہے، پھر اس کی نیت بدل جاتی ہے اور وہ طلاق دینے پر آمادہ نہیں ہے، تو اس صورت میں احکام شرعیہ کیا ہوں گے کیا فرض ہے؟
 حالہ کے لئے خلوۃ صحیح کافی ہے یا نہیں؟

- (د) زید نے ہندہ سے بغرض حالہ شادی کی دونوں کے درمیان کسی بھی طرح سے صحبت اور مباشرت کی نوبت نہیں آئے دی گئی اور کاؤں والوں نے جرأۃ زید سے طلاق

کامطالیہ کیا زید جب یہ طلاق کے لئے تین نہیں ہے زید کے اس رویہ پر گاؤں والوں نے اس کا مقاطعہ کر رکھا ہے، صورت مذکورہ میں شرعاً کیا حکم ہے؟

(ی) اگر زید ہندہ کو صحبت اور مباشرت کے بغیر طلاق دیتا ہے، تو ایسی صورت میں ہندہ اپنے شوہرا اول کی طرف الوٹ سکے گی یا نہیں؟ تمام نکتوں پر واضح دلائل کے ساتھ مطمئن فرمائیں۔

المستفتی: محمد کبیر الدین

باسم سجادۃ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (الف) اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ مطلقہ ثالثہ کسی دوسرے سے نکاح صحیح کر کے اس کے ساتھ تب میسری بھی ہو جائے، اس کے بعد شوہر ثانی اپنی مرضی سے طلاق دیدے اور پھر عدت بھی گذر جائے، تو شوہرا اول کے لئے نکاح کرنا درست ہو سکتا ہے، بغیر صحبت کے حال میں صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدوق كل واحد منها عسيلة صاحبه. (سنن الدارقطني، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية

بیروت ۴/۲۱، رقم: ۳۹۳۲)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هدایۃ اشرفی دبو بند ۲/۳۹۹)

(ب) یہ مکروہ تحریکی ہے اور حضور ﷺ نے محلل اور محلل لہ دلوں پر لعنت فرمائی ہے۔
عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المحلل والمحلل له. (سنن الترمذی، كتاب النکاح، باب ما جاء في المحلل
والمحلل له، النسخة الہندیہ ۱/۲۱۳، دارالسلام رقم: ۱۱۲۰)

لیکن اس کے باوجود شوہر ثانی صحبت کر کے طلاق دے گا، تو شوہرا اول کے لئے نکاح حلال ہو جائے گا۔

كما في الهدایة: فإن طلقها بعد وطءها حلت للأول لوجود الدخول في نکاح صحيح. (الهدایة، اشرفی دیوبند ۴۰۰ / ۲)

(ج) اصل میں نکاح ایک عقدالعمری ہے جو کہ اس عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت سے کرنا ضروری ہے؛ اس لئے اس کو طلاق پر جبر کرنا ناجائز ہے؛ جبکہ وہ بھی سارے حقوق ادا کرنے کو تیار ہے، جبکہ نیوالے شرعاً ظالم کہلائیں گے، اور شوہر ثانی مظلوم ہوگا۔ (مستفاد: فتاویٰ دالعلوم ۱۲۲۸)

(د) صحبت: میاں بیوی ہمستری میں جو فعل مخصوص کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں خلوت صحیح کسی خالی جگہ یا کمرہ میں میاں بیوی تنہائی اختیار کر لیں بشرطیکہ کوئی مانع شرعی (روزہ، نمازوغیرہ) نہ ہو اور مانع حسی (صغر پن) نہ ہو اور اسی طرح مانع طبعی (حیض و نقاس) بھی نہ ہو حلالہ کے لئے خلوت صحیح کافی نہیں ہے؛ بلکہ صحبت شرط ہے۔

(د) جبر کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ ”ج“ میں گذر چکا ہے۔

(ی) عورت حلال نہیں ہو سکتی، جیسا کہ ”الف“ میں گذر رہا ہے۔ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان اللہ عنہ
رمضان المبارک ۱۴۰۷ھ
(فوقی نمبر: الف ۲۲/۲۳)

شرعی حلالہ کا طریقہ

سوال [۶۸۵۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو تین بار سے زیادہ مرتبہ طلاق دیدی ہے، اب دونوں یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ساتھ رہیں، تو شرعاً کس طرح رہ سکتے ہیں؟ مہر ادا نہیں ہوا ہے، اس کی ادا یعنی ضروری ہے یا نہیں؟ ایک بچہ دو سال کا ہے، وہ کس کے پاس رہے گا اور خرچ کون دے گا؟

المستفتی: محمد اقبال، احتل وہار، کرولہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب آپ نے تین مرتبہ سے زیادہ طلاق دے دی ہے، تو بیوی پر طلاق مخالفہ واقع ہو کروہ کلی طور پر حرام ہو گئی، اب اگر دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو شرعی حلالہ کے بغیر رہنا جائز نہیں اور حلالہ کا طریقہ یہ ہے کہ طلاق کے وقت سے تین مرتبہ ماہواری گذرنے کے بعد بیوی دوسرا مرد سے شادی کر لے اور اسکے ساتھ ہمستری بھی لازم ہے، اس کے بعد وہ شخص طلاق دیدے، پھر تین مرتبہ ماہواری گذرنے کے بعد آپ کے ساتھ نکاح جائز ہو سکتا ہے، مہر کا ادا کرنا آپ کے اوپر ہر حال میں لازم ہے اور پچ کا خرچ بھی آپ ہی کے اوپر لازم ہے اور پچ ماں ہی کے پاس رہا کرے گا۔

عن سهل بن سعد^{رض}، فی هذا الخبر قال: فطلقها ثلاثة تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(ابو داؤد شریف، کتاب الطلاق، باب فی اللعان، النسخة الهندية ۶/۳۰، دارالسلام رقم: ۲۵۰، بخاری شریف، کتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، النسخة الهندية ۲/۷۹۱، رقم: ۵۰۶۰، ف: ۵۲۵۹، مسلم شریف، کتاب اللعان، النسخة الهندية ۱/۴۸۹، بیت الأفکار، رقم: ۱۴۹۲؛ نسائی شریف، کتاب الطلاق، باب الرخصة فی ذلك، النسخة الهندية ۲/۸۳، رقم: ۳۴۳۱)

عن عائشة، أن رجلاً طلق امرأته ثلاثة، فتزوجت زوجاً، فطلقها قبل أن يمسها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيتها كما ذاق الأول. (نسائی شریف، کتاب الطلاق، باب احلال المطلقة ثلاثة، النسخة الهندية ۲/۸، دارالسلام رقم: ۳۴۱)

لا يحل له أن ينكح التي أبا أنها بالثلاث، وإن كانت المرأة حرمة، وباثنتين إن كانت أمة حتى يطأها زوج غيره، بنكاح صحيح وتمضي عدتها منه. (تبیین الحائق، امدادیہ ملتان ۲/۲۵۷، زکریا ۳/۱۶۲)

والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين. (هندية، زکریاقدیم ۱/۳۰۳، ۳۷۰ / ۱، جدید ۱)

ونفقة الصغير واجبة على أبيه. (تاتارخانية، زکریا ۵/۱۲، رقم: ۸۳۳۳)

تربيبة الولد ثبت للأم. (در مختار، زکریا ۵/۲۵۳، کراچی ۳/۵۵۵)

نقطة واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احضر محمد سلمان منصور پوری غفرلنہ
۱۴۳۳ھ/۲۷/۲۳
کتبہ: شیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ
۱۴۳۲ھ/۲۳/۲۳
(فتویٰ نمبر: الف ۲۷۰)

حالۃ الشرعی کی صورت

سوال [۲۸۵۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو تکرار و لڑائی کے دوران یہ کہہ دیا کہ 'طلاق دی، طلاق دی طلاق دی'، تین دفعہ کہا تو طلاق ہو گئی یا نہیں؟ اگر اسے ساتھ رکھنا چاہیں تو کیا صورت ہو گی؟

المسئلہ: ابن حسن منصور پور، مراد آباد
با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب تین دفعہ طلاق دی کے الفاظ کہہ دئے ہیں، تو اس سے تینوں طلاقوں واقع ہو کر بیوی شوہر پر حرام ہو گئی ہے، اب بغیر حالۃ الشرعی کے دوبارہ نکاح بھی جائز نہ ہو گا۔ اور حالۃ الشرعی کی صورت یہ ہے کہ بیوی کی تین ماہواری کے ساتھ عدت پوری ہو جائے اس کے بعد دوسرے مرد کے ساتھ نکاح ہو کر اس کے ساتھ ہمسستری بھی ہو جائے، پھر وہ طلاق دی دے، پھر عدت تین ماہواری کے ساتھ گذر جائے، اس کے بعد پہلا شوہر نکاح کر سکتا ہے۔

عن عائشة أن رجلاً طلق امرأته ثلاثة، فتزوجت فطلق، فسئل

النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اتحل لالأول؟ قال: لا حتی یدوّق عسیلتها كما ذاق الأول. (صحیح البخاری، کتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، النسخة الہندیة ۷۹۱/۲، رقم: ۵۶۱، ف: ۵۶۲، نسائی، کتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثة، النسخة الہندیة، ۸۴/۲، دار السلام رقم: ۳۴۰، صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثة لمطلقها حتی تنکح زوجاً غیره، النسخة الہندیة ۴۶۳/۱، بیت الأفکار رقم: ۱۴۳۳)

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة لم تحل له حتی تنکح زوجاً غیره، ويدوّق كل واحد منها عسیلہ صاحبہ. (سنن الدارقطنی، کتاب الطلاق، دارالكتب العلمية بیروت ۴/۲۱، رقم: ۳۹۳۲)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتی تنکح زوجاً غیره نکاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (فتاوی عالمگیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹)

تاتارخانیہ، ذکریا ۱/۴۷۵، رقم: ۳۰۷۵) فقط واللہ سمجھانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان الدین عنہ

۱۴۲۹ھ رحرم الحرام

(فتویٰ نمبر: الف ۳۸/۹۲۲۷)

ہمبستری کے بغیر حلال ناکمل ہے

سوال [۶۸۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی تھیں، اس کی عدت گزرنے کے بعد میں نے چاہا کہ اس سے رجوع کروں، اس کے گھروں اور ذمہ دار حضرات نے اس کا نکاح کر دیا

ساری رات شوہر کے پاس رہنے کے بعد صحیح کواس نے طلاق دیدی، اب میری سابقہ بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ شوہر مجھ سے ہمیسٹر نہیں ہوا، ذمہ دار حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے نکاح کر دیا چاہے وہ ہم بستر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو یہ وہ جانے، کیا وہ بیوی اپنے سابق شوہر کے لئے حلال ہو گئی یا نہیں؟

المستفتی: اظفار النبی، سرانے جہانگیر، تمبکو والا ان، رامپور

بسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہر نے تین طلاقیں دیدیں اور عدالت کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا اور رات میں خلوت ہو گئی، مگر ہمیسٹر نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہو سکتی؛ لہذا بغیر ہمیسٹر کے دوسرا شوہر کی طلاق کے بعد عدالت گزار کر پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہو گا اور خاندان والوں کا یہ کہنا کہ ”ہم نے نکاح کر دیا، چاہے وہ ہمیسٹر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو وہ جانے“، اس کی وجہ سے پہلے شوہر کے لئے حل جدید ثابت نہیں ہو گی اگر پہلے شوہر سے نکاح کیا جائے گا، تو وہ نکاح درست نہیں ہو گا اور اس عورت کے سابق شوہر کے لئے حلال ہونے کے لئے یہ شکل ہے کہ دوسرے شوہر کی طلاق کے بعد عدالت گزارے، پھر تیسرا شوہر سے نکاح کرے، اس کے ساتھ ہمیسٹر کے بعد وہ طلاق دیدے گا، تو پھر عدالت گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کرنا درست ہو گا۔

عن عائشة^{رض} أَن رجلاً طلق امرأة ثلاثاً، فنزوْجت فطلق، فسئلَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَحُلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ عَسِيلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلَ.

(صحیح البخاری، کتاب الطلاق، باب من أجاز

طلاق الثلاث، النسخة الهندية ۲/۷۹۱، رقم: ۵۰۶۲، ف: ۵۲۶۱)

عن عائشة^{رض}، أَن رجلاً طلق امرأة ثلاثاً، فنزوْجت زوجاً، فطلقاها قبل أن يمسها، فسئلَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَحُلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا،

حتی یذوق عسیلتها کما ذاق الأول۔ (نسائی شریف، کتاب الطلاق، باب احلال المطلقة ثلثاً، المسخة الہندیہ / ۸۴، دارالسلام رقم: ۴۰۳۴)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلثاً. (الأشباء والنظائر

قدیم ۹۲۱، جدید زکریا (۳۷۶)

ولو اختلف الزوجان في التمكين من الوطء، فالقول لمنكرة؛ لأن الأصل عدمه. (الأشباء والنظائر، زکریا تحت قاعدة الأصل بقاء مكان على مكان (۱۹۰))

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (عالیگیری، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۳۵، هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/۳۹۹)

تاتارخانیہ، زکریا ۵/۴۷، رقم: ۳۰۵۰، فقط اللہ سبحانہ تعالیٰ علم

الجواب صحیح:

کتبہ: شیعہ احمد قاسمی عفی اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۹ ربیع الاول ۱۴۳۲ھ

۹/۳۳۲/۳۶

(فتوى نمبر: الف ۱۰۹۹۲/۳۰۹)

حلالہ میں ہمپسٹری شرط ہے

سوال [۶۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے کسی ناراضگی کی بنابریوں کو طلاق دیدی، وہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور عدت گزاری، اب زیدا پنی حرکت پر پیشمان ہے، وہ اپنی بیوی کی واپسی چاہتا ہے، لوگوں نے کہا کہ حلالہ کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے، زید پر پیشانی کے عالم میں ادھراً دھرمسئلہ کا حل ڈھونڈھتا رہا کسی عالم نے بتایا کہ بیوی کو اس کے حوالے کر دو وہ حلالہ کروالے گا؟ زید کا بھائی اس کے لئے آمادہ ہو گیا، اس کے بھائی کے ساتھ نکاح کرا دیا گیا، پہلی شب وہ بھائی بیوی کے کمرہ میں نہیں سویا یعنی خلوت صحیح نہیں ہوئی، اس کے بھائی نے بیوی کو طلاق دیدی

اور زیداً ساتھ نکاح کے لئے تیار ہو گیا، اب وہ عورت عدت گذاری ہی ہے (سرال میں یعنی شوہر کے پچاکے گھر) کیا عدت گذارنے کے بعد زیداً ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟

المستفتی: عبد الحفیظ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: حالہ کے لئے جب دوسرے مرد کے ساتھ نکاح ہو گا، تو اس کے ساتھ تم بیسٹری بھی لازم ہے، بغیر تم بیسٹری کے نہ عورت پر دوبارہ عدت لازم ہے نہ یہی پہلے شوہر کی ساتھ نکاح جائز ہے۔ (ستفادہ: فتاویٰ محمدیہ ابھیل ۳۸۱/۱۲)

وسبب وجوبها (أي العدة) عقد النکاح المتأكد بالتسليم وما جرى مجرراً من موت، أو خلوة: أي صحيحة. (تنوير الأ بصار مع الدر المختار، باب العدة،

کراچی ۴/۵، ۵۰، زکریا ۵/۱۸۰)

عن عائشة أَن رجلاً طلق امرأته ثلاثة، فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، أتحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. (صحیح البخاری، کتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، النسخة الہندیہ ۲/۹۱، رقم: ۵۶۲، ف: ۵۲۶۱، نسائی، کتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثة، النسخة الہندیہ ۲/۸۴، درالسلام رقم: ۴۴۳، صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثة لمطلقاتها حتى تنکح زوجاً غیره، النسخة الہندیہ ۱/۶۴، بیت الأفکار ۱۴۳۳)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنکح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (عالمنگیری، زکریا قدیم ۱/۲۷۴، جدید ۱/۳۵۰)

فظواللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان الدین

۱۴۲۲ھ ارشاد المکرر

(فتویٰ نمبر: الف ۳۸/۳۸۹۲)

حالہ کی صحت کے لئے ہمبستری شرط ہے

سوال [۶۸۵۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ صابر نے اپنی بیوی نخیا کوتین طلاق دیدیں، نخیا نے عدت پوری کی پھر نخیا کی سُکی جنمی کے بھتیجے بھورے سے نکاح ہو گیا، ارجمند کے بعد بھورے نے بغیر ہمبستری کے طلاق دیدی، تو یہ حالہ شرعاً ہوا یا نہیں اور صابر کے ساتھ اس عورت کا رہنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد صابر، بنی گاؤں اکبر پور، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب بھورے کے ساتھ ہمبستری نہیں ہوئی ہے، تو پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوئی؛ لہذا جب تک دوسرے شوہر سے صحبت نہ ہو جائے، اس وقت تک پہلے شوہر کے لئے حلال نہ ہوگی؛ لہذا جب بھورے نے بغیر صحبت کے طلاق دیدی ہے، تو طلاق بائن ہو گئی اور چونکہ غیر مدخول بہا ہے؛ اس لئے کسی بھی آدمی کے ساتھ بغیر عدت کے نکاح کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ صحبت ہو جانے کے بعد اگر وہ طلاق دیتا ہے، تو دوبارہ عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے لئے حلال ہو سکتی ہے۔ (متقاد: فتاویٰ محمود یڈا بھیل ۳۸۱/۱۲)

و سبب وجوبها (أي العدة) عقد النكاح المتأكد بالتسليم وماجرى
مجراه من موت، أو خلوة صحيحة. (تنوير الأ بصار مع الدر المختار، باب العدة،

کراچی ۴/۳، ۵۰، زکریا ۵/۱۸۰)

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدوق كل واحد منها عسيلة صاحبه. (دارقطني، كتاب الطلاق، دارالكتب العلمية
بيروت ۴/۲۱، رقم: ۳۹۳۲)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى

تنکح زوجاً غیره نکاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هدایة اشرفی دیوبند ۳۹۹/۲، هندیہ، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، تارخانیہ، ذکریا ۵/۱۴۷، رقم: ۷۵۰۳، مجمع الأنهر، دارالكتب العلمية بیروت ۲/۸۸)

اب جو پہلے شوہر کے ساتھ آگئی ہے، تو فوراً دونوں میں علیحدگی کر دینا لازم ہے۔

فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرله
۱۴۲۰ھ / ۱۳۲۰ مارچ الاول ۱۴۲۰ھ

لکتبہ: شبیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ

۱۴۲۰ھ / ۱۳۲۰ مارچ الاول ۱۴۲۰ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۲/ ۶۰۷)

حلالہ درست ہونے کے لئے دخول لازم ہے

سوال [۶۸۵۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زینب کا نکاح زید سے ہوا تھا، تین بچے بھی ہیں، اس کے بعد زید نے تینوں طلاقیں دیدیں، پھر عدت کے بعد زینب کا نکاح عمر و کے ساتھ ہو گیا، اب زینب اور اس کا پہلا شوہر زید دونوں چاہ رہے ہیں کہ پھر ہم دونوں کا نکاح ہو جائے۔ نیز عمر و بھی طلاق دینے کے لئے تیار ہے، اب اس مسئلہ میں شریعت کی رو سے کیا کیا جاوے؟

المستخفی: حسیم الدین، برولان، مراد آباد

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: زینب کا شوہر ثانی عمر و اگر دخول کر چکا ہے، اور اب وہ زینب کو طلاق دینا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں طلاق کے بعد عدت گزار کر زینب کا نکاح زید سے درست ہو گا۔ اور اگر عمر و سے دخول کی نوبت نہیں آئی ہے، تو زینب اپنے شوہر اول زید کے لئے حلال نہ ہو گی۔

عن ابن عمر قال: سئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم: عن الرجل يطلق

أمرأته ثلاثة، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب، ويونxi الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر. (نسائي، كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثة، النسخة الهندية ۲/۸۴، دار السلام رقم: ۴۴۳)

لاینكح مطلقة بها: أي بالثلاث حتى يطأها غيره. (در مختار مع الشامي، كتاب الطلاق، باب الرجعة، كراچی ۳/۹۰، ذکریا ۵/۴۰)

ولاتحل الحرة بعد التطليقات الثلاث لمطلقتها، لقوله تعالى: فَإِن طَّلَقَهَا فَلَا تَحُلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ . [البقرة: ۲۳۰]

من بعد الآية..... إلا بعد وطء زوج آخر بنكاح صحيح ومضى عدته أي عدة النكاح الصحيح بعد زواله بالطلاق في الزوج الثاني. (مجمع الأئمہ، دار الكتب العلمية بيروت ۲/۸۸) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شیبیر احمد قاسمی عفان الدین عنہ
۲۲ ربیع الثانی ۱۴۲۰ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۲۲۲/۳۲)

حالہ میں صحبت شرط ہے

- سوال [۶۸۶۰]:** کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے ہندہ کو تین طلاق غصہ کی حالت میں دیدیں اور اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں، اب زید نادم ہے کیا صورت ہو سکتی ہے کہ ہندہ زید کے پاس دوبارہ پہنچ جائے؟
- (۲) زید نے ہندہ کو تین طلاق دیں اور بکر سے عقد ثانی ہوا، بکرنے ہندہ سے تہائی میں پانی مانگا، ہندہ نے پانی دیا اور تھوڑا پانی پیا، اور بکر نے تین طلاق دیدیں، تو ایسی صورت میں کیا زید کے لئے ہندہ سے دوبارہ نکاح کرنا جائز ہے؟
- (۳) زید نے ہندہ کو تین طلاق دیں اور ہندہ کو حمل ہے اور زید نے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلایا، کیا یہ کفارہ ہو سکتا ہے اور زید ہندہ کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے سکتا ہے یا نہیں؟

(۲) زید نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیں اور زید کی بیوی کا عقد شانی بکر سے ہوا اور بکر زید کا ملنے والا ہے، لوگوں کے کہنے کے مطابق بکر نے طلاق دیدی، کیا یہ صورت جائز ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل جوابات عنایت فرمائیں عین کرم ہوگا۔

المستفتی: عظیم الدین، موضع: گلشن، پوسٹ: تترہات، منگیر (بہار)

با سمسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) تین طلاق سے ہندہ مذکورہ پر تین مغلظہ طلاق واقع ہو گئیں؛ لہذا اپسی کی یہ شکل ہو سکتی ہے کہ ہندہ عدت گذار کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے اور وہ شخص جب ہندہ کو وطنی اور صحبت کے بعد طلاق دیدے اور ہندہ عدت گذار لے، تو اب زید ہندہ کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔

وَإِنْ كَانَ الطَّلاقُ ثَلَاثَةً فِي الْحُرْرَةِ، أَوْ شَتَّيْنِ فِي الْأُمَّةِ لَمْ تَحْلِ لَهُ حَتَّى تَنكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ نَكَاحًا صَحِيحًا وَيَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ يَطْلُقُهَا، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا.

(هدایۃ اشرفی دبو بند ۲/۳۹۹)

(۲) حلالہ کے لئے صحبت شرط ہے، محض تہائی میں پانی دینے سے حلال نہیں ہوا؛ لہذا ہندہ زید کے لئے حلال نہیں ہوئی۔

لَمْ تَحْلِ لَهُ حَتَّى..... وَيَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يَطْلُقُهَا. (هدایۃ، ۲/۳۹۹)

لَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَتَرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، قَالَتْ: نَعَمْ! قَالَ: لَا حَتَّى تَذَوَّقِي عَسِيلَتَهُ وَيَنْوُقِ عَسِيلَتَكَ. الْحَدِيثُ.

(بخاری شریف، کتاب لا حرام، باب شہادۃ المختبی ۱/۳۵۹، رقم: ۲۶۲۹، ف: ۲۵۶۵، مشکوہ ۱/۲۸۴)

(۳) تین طلاق دینے کے بعد بطور کفارہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے سے نہ کفارہ ہوتا ہے اور نہ بیوی شوہر کے لئے حلال ہو سکتی ہے، چاہے حاملہ ہو یا غیر حاملہ۔

لَقَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

وطلاق العامل يجوز عقیب الجماع. (هداية، اشرفی دیوبند ۳۵۶/۲)
 (۲) اگر بکرشوہر ثانی نے عورت سے باضابطہ صحبت کر لی ہے، پھر لوگوں کے کہنے کے بعد طلاق دی ہے، تو عدت گذارنے کے بعد ہندہ زید کے لئے حلال ہو جائے گی اور اگر بغیر صحبت کے طلاق دی ہے، تو وہ زید کے لئے حلال نہیں ہوگی۔

فیإن طلقها بعد ما وظفها حللت للأول؛ لوجود الدخول. (هداية، اشرفی

دیوبند ۴۰۰/۲) نقطہ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعہ احمد قاسمی عننا اللہ عنہ
 ۱۴۲۰ھ محرم الحرام
 (نحوی نمبر: الف ۳۳ / ۵۹۹۱)

حلالہ کی ایک صورت

سوال [۶۸۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی عورت کو غصہ میں تین بار طلاق دی اور یہ الفاظ کھلے دل سے تین بار کہے کہ میں نے تم کو طلاق دی، طلاق دینے کے بعد مرد اور عورت دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس کے لئے دونوں نے کوئی صورت نکالنے کی کوشش کی طلاق کے بعد عورت نے عدت کا وقت گزار کر اور اپنی خوشی سے عدت پوری ہونے کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کر لیا، نکاح کرتے وقت کوئی شرط کسی سے نہیں لگائی تھی، کچھ راتیں اس عورت کے ساتھ گذارنے کے بعد اور صحبت کرنے کے بعد دوسرے مرد نے اس عورت کو طلاق دیدی اور یہ الفاظ تین بار کھلے لفظوں میں دو ہرائے ”میں نے تم کو طلاق دی، میں نے تم کو طلاق دی، میں نے تم کو طلاق دی“ یہ الفاظ میں نے اور عورت نے سننے طلاق دینے کے اگلے دن پھر اس مرد نے اس عورت سے صحبت کی اور عورت سے کہا کہ میں نے تم کو خوشی سے طلاق نہیں دی تھی، صرف دکھانے کے لئے دی تھی اور میں نے تم سے صحبت دوبارہ

رجعت کرنے کے لئے کی ہے، تم میری بیوی ہوا اور میں تم کو اپنی بیوی سمجھتا رہوں گا، یہ بات عورت نے کسی کو نہیں بتائی، یہ واقعہ ۱۹۸۶ء میں پیش آیا تھا اور عورت اپنی عدت پوری کرتی رہی، عدت پوری کرنے کے بعد عورت نے اپنی خوشی سے پہلے مرد سے نکاح کر لیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ دوسرے مرد نے جو عورت کو طلاق دی تھی، وہ عورت پر پڑی یا نہیں؟ اور عورت نے بعد میں پہلے مرد سے جو نکاح کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ اب عورت کس کی ہے اور کیا کرنا چاہئے؟ تفصیل سے اس بات کا حل لکھنے کی زحمت گوارہ کریں۔

المستفتی: مجتبی علی، محلہ: ویر بھدر، روئی کیس، دہرا دوں

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: طلاق واقع ہونے کے لئے نیت کرنا اور دل سے طلاق دینا لازم نہیں ہے؛ بلکہ مذاق میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا جب طلاق مغاظہ تین بار طلاق دینے کی وجہ سے واقع ہو پہنچی ہے، تو اس کے ساتھ دوبارہ ہمستری بالکل حرام تھی تو پہ کرنا لازم ہے اور جب عورت نے عدت کے بعد شوہر اول سے نکاح کیا تو وہ نکاح شرعاً معتبر ہے، اگرچہ عورت نے شوہر ثانی کے ارادہ کو ظاہر نہ کیا ہو۔

و يقع طلاق كُل زوج بالغ عاقل ، ولو عبداً ، أو مكرهاً ، أو هازلاً
لا يقصد حقيقة كلامه الخ . (تنوير الأ بصار مع الدر المختار، کراچی ۳/۲۳۵،

زکریا ۴/۳۸۴-۳۴)

و إن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة..... لم تحل له حتى تنكح زوجاً
غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها . (هدایۃ
اشرفي دیوبند ۲/۹۹)

فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۱۴۱۱ھ قدرہ ۲۲

(فتویٰ نمبر: الف ۲۷۲۵)

مطلقہ مغلظہ سے دوبارہ نکاح کرنا

سوال [۶۸۶۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متبین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کی بیوی نے عرصہ پانچ سال پہلے زید سے طلاق لے لی تھی، اور زید نے اپنی بیوی کو اس کے مطالبة اور ضد کرنے پر ہی زبانی اور تحریر میں تین طلاق دیدی تھیں، اب زید کی سابقہ بیوی اپنے کئے پر شرمند ہے اور دوبارہ زید کے نکاح میں آنا چاہتی ہے، تو کیا زید اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے اور بیوی بن سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ بتا کر مہربانی فرمائیں۔

المستفتی: خیاء الرحمن قریشی، اصلاح پورہ، مراد آباد

باسم سجادہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب پانچ سال قبل طلاق ہوئی ہے تو اس درمیان میں عدت بھی گذر چکی ہے، اب کسی دوسرے مرد سے شرعی نکاح کر کے اس کے ساتھ ہمستری اور صحبت ہو جائے، اس کے بعد وہ طلاق دیدے، پھر عدت گزرنے کے بعد پہلے شوہر کے ساتھ نکاح صحیح ہو سکتا ہے۔

عن عائشة^{رض} أن رجلاً طلق امرأته ثلاثة، فتزوجت فطلاق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، أتحل للأول؟ قال: لا حتى ينوق عسيتها كما ذاق الأول. (صحیح البخاری، کتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، النسخة الہندیۃ ۷۹۱/۲، رقم: ۵۰۶۲، ف: ۵۲۶۱، نسائی، کتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثة، النسخة الہندیۃ ۴/۸، دارالسلام رقم: ۳۴۴۰، صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثة لمطلقتها، النسخة الہندیۃ ۱/۶۳/۴، بیت الأفکار ۱۴۳۳)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى

تنکح زوجاً غیره نکاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هنديہ، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۵ صفر المظفر ۱۴۲۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۸۲۲۶/۳۷)

مطلقہ ثلاشہ سے بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح کرنا

سوال [۲۸۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدیں اور چار برس گذر گئے، پھر دونوں شادی کرنے پر راضی ہیں اور ابھی تک اس عورت نے کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کی ہے۔

المستفتی: محمد سعید

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو بغیر حلالہ شرعی کے نکاح جائز ہوگا اور جب طلاق کو چار سال ہو گئے، تو اس کی عدت بھی گذر گئی ہے، اب بلا تأخیر وہ عورت کسی مرد سے نکاح کر کے ہمپستہ ہو جائے، اس کے بعد وہ مرد جب اس کو طلاق دے گا، تو عدت گزار کر شوہر اول سے نکاح کر سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں۔

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدوق كل واحد منها عسيلة صاحبه. (دارقطنی، کتاب الطلاق، دارالكتب العلمية

بیروت ۴/۲۱، رقم: ۳۹۳۲)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى

تنکح زوجاً غیره نکاحاً صحیحاً ویدخل بها، ثم یطلقبها، أو یموت عنها.

(هنديہ، ذکریا قدیم ۱ / ۴۷۳، جدید ۱ / ۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

۲۰ ربیع الاول ۱۴۱۵ھ

(فتیٰ نمبر: الف / ۳۹۳۲، رقم: ۳۱)

طلاق ثلاثة کے بعد بلا حلہ نکاح جائز نہیں

سوال [۶۸۶۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں سلطان عظیم ولد عبد القوم نے اپنی بیوی فرزانہ بیگم ولد علی حسین کو ایک ہی مجلس میں تین بار طلاق دی، تو کیا اب میں فرزانہ کو اپنی زوجیت میں رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟

المستفتی: سلطان عظیم، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہرنے بیوی کو تین بار طلاق دیدی ہے، تو اس سے بیوی پر طلاق مغلظ واقع ہو چکی ہے، اب اگر دوبارہ رکھنا چاہے تو حالہ کے بعد ہی رکھ سکتا ہے بلا حلہ نکاح درست نہ ہو گا۔

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة لم تحل له حتى تنکح زوجاً غيره، ويندوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه. (سننDarقطني، کتاب الطلاق، دارالکتب العلمية

بیروت ۴ / ۲، رقم: ۳۹۳۲)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثة. (الأشباه والنظائر

قدیم ۱۹، جدید ذکریا ۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى

تنکح زوجاً غیره نکاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(الملگیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۳۵، هداية اشرفي دیوبند ۲/۳۹۹،

تاریخ تاریخی، ذکریا ۵/۴۷، رقم: ۳۵۰) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم

کتبہ: شیعہ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۹ شعبان المظہم ۱۴۱۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۱۵۰)

بغیر حلالہ کے نکاح کرنا

سوال [۶۸۶۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں محمد اظہر نے شہانہ پروین کو ۱۵ ار رمضان کو تین طلاق دیدی تھیں، پھر اس کے بعد ایک لڑکا ڈھانی مہینہ کے بعد پیدا ہوا ہے، اب طلاق کو آٹھ مہینہ ہو گئے ہیں، اب شہانہ پروین بغیر حلالہ کے میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد اظہر الدین، پیرزادہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب بیوی کو تین طلاق دی جا چکی ہیں تو بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو گئی اور دوبارہ نکاح کے لئے صرف یہ شکل ہے کہ عدت گذرنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح ہو جائے اور ہمبستری بھی ہو جائے، پھر وہ طلاق دیدے اور دوبارہ تین ماہواری کے ساتھ عدت گذر جائے تو اس کے بعد اظہر الدین کے لئے شہانہ پروین سے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا۔

عن ابن عمر قال: سئل النبي صلی الله عليه وسلم عن الرجل يطلق أمرأته ثلاثاً، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب، ويرخي الستير، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر. (نسائی شریف، کتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثاً، النسخة الہندیۃ ۲/۸۴، دار السلام رقم: ۴۴۳۴)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها، كذا في الهدایة. (هنديہ، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴۲۸ھ ربيع الثانی ۲۹

(فتولی نمبر: الف ۳۸۲۷)

مطلقہ مغلظہ سے بلا حلالہ نکاح درست نہیں

سوال [۶۸۶۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عتین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری شادی کو ۲۰ سال ہو گئے، میرے تین بچے ہیں، بڑی لڑکی ۱۸ سال، دوسرا ۱۶ سال اور ایک لڑکا ۱۳ سال کا ہے، میرا بیوی سے جھگڑا ہوا اور میں نے غصہ میں طلاق دیدی تین بار زبان سے ادا کر دیا، کیا بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح کر دیا جائے، اسلام میں کوئی گنجائش ہے؟ میں اپنے کئے ہوئے پر بہت نادم اور افسردہ ہوں۔

المسنون: محمد شاہد، ننی سڑک، مراد آباد

باسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب آپ نے اپنی بیوی کو تین بار زبان سے طلاق دیدی ہے، تو اس کے اوپر طلاق مغلظہ واقع ہو کر آپ کے لئے وہ قطعی طور پر حرام ہو گئی ہے، اب آئندہ بغیر حلالہ کے اس کے ساتھ نکاح بھی جائز نہ ہوگا۔ آپ اپنے کئے پر شرمندہ ضرور ہیں، مگر بغیر حلالہ کے بیوی حلال نہیں ہو سکتی۔

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدوق كل واحد منها عسيلة صاحبه. (سنن دارقطني، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية

بیروت ۴/۲۱، رقم: ۳۹۳۲)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباء والنظائر)

قدیم ۹، ۲۱، جدید زکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة..... لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره
نكاها صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (ہندیہ، زکریا
 قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ الشرفی دیوبند ۹/۳۹، تاتار خانیہ، زکریا

(۱۴۷/۵، رقم: ۷۵۰۳)

لا يحل للرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثاً قبل إصابة الزوج الثاني.
 (ہندیہ، زکریا قدیم ۱/۲۸۲، جدید ۱/۳۴۸) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
الجواب صحیح:
 کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
 اختر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۲۸ صفر المظفر ۱۴۳۲ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۱۰۲۹۷/۳۹)

طلاق مغلظہ سے بلا حلالہ نکاح کرنا

سوال [۶۸۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں محمد تحسین ولد محمد یاسین محلہ کرو لا اسلام نگر کارہنے والا ہوں، آج سے چار ماہ قبل اپنی بیوی زاہدہ پروین کو جھگڑا ہونے کی وجہ سے تین طلاق دے چکا ہوں، میری بیوی عدت گزار چکی ہے، میرے دوڑ کے تین سال ۵ رسال کے ہیں اپنی غلطی پر نادم ہوں، اب اپنی بیوی سے بنا حلالہ کے نئی مہر کے ساتھ نیا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی روشنی میں میری رہبری فرمائیں۔

المستفتی: محمد تحسین، اسلام نگر کرو لا، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: تین طلاق دینے کے بعد بیوی شوہر کے لئے حرام ہو جاتی ہے اور اس کو دوبارہ نکاح میں لانے کے لئے ضروری ہے کہ حلالہ شرعی کرایا جائے؛

لہذا آپ کے لئے اس سے بغیر حلالہ کے نکاح کرنا جائز نہ ہوگا۔

عن نافع عن ابن عمر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَطْلُقَةُ ثَلَاثًا لَا تَحْلُ لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره، ويحالطها وتدوق من عسلته. (المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث

بیروت ۱۲۹۵، رقم: ۱۳۴۲۹)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هندیہ، ذکریا قدیم ۱/۷۳، جدید ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان متصور پوری غفرله

۱۴۳۳/۵/۱۱

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عطا اللہ عنہ

۹ رب جمادی الاولی ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف-۱۰۶۸۶/۳۹)

مطلقہ مغلظہ سے بلا حلالہ نکاح کا حکم

سوال [۶۸۶۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید کے والدین کی، زید سے کچھ ناقابلی ہو گئی تو زید اپنے گاؤں سے نکل کر دوسرے شہر جانے لگا، تو اس کے والدین کراہیہ کے لئے روپیہ دینے لگے، تو زید نے روپیہ لینے سے انکار کر دیا، زید کے گاؤں کے لوگوں نے زید کو دوسرے شہر جانے سے منع کر دیا، زید نہیں مانا اور چلتا رہا، زید کی بیوی ہندہ بھی زید کے پیچھے چلتی رہی، زید نے ہندہ سے کہا تم گھر لوٹ جاؤ، لیکن ہندہ نہیں مانی اور وہ زید کے پیچھے چلتی رہی، زید بار بار منع کرتا رہا اور زید نے ہندہ سے کہا کہ دیکھو میں نے اپنی بیٹی شریا کی قسم کھالی ہے کہ میں یہاں سے دوسرے شہر چلا جاؤ گا، پھر بھی ہندہ نہیں مانی پھر زید ہندہ کے ساتھ گھر لوٹ آیا اور گھر لوٹنے کے ساتھ ہی زید نے ہندہ سے کہا ایک سانس میں کہ ”تم کو ایک دو تین طلاق“، اس حالت میں ہندہ کو طلاق

واقع ہوئی یا نہیں؟ اگر طلاق واقع ہو گئی ہے، تو رجوع کرنے کی کیا صورت ہو گی؟

المستفیٰ: عبدالقدار اصالت پورہ، مراد آباد

بسم اللہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: مذکورہ صورت میں بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں۔ اب بلا حلالہ دوبارہ نکاح بھی درست نہ ہو گا، اب رجوع کی کوئی صورت نہیں، صرف حلالہ کرانے کی صورت ہو سکتی ہے۔

عن عائشة ^{رض} قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويندوق كل واحد منهم ما عسيلة صاحبه. (سنن دارقطني، كتاب الطلاق، دارالكتب العلمية

بیروت ۴/۲۱، رقم: ۳۹۳۶)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.
(هندیہ، ذکریا قدیم ۱/۷۳، جدید ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان الدین عنہ

۱۳۱۷ھ / ۲۵ ربیعی الحجه

(نومی نمبر: الف ۳۲۸ / ۵۰۷)

تین طلاق کے بعد کفارہ دینے سے بیوی حلال نہیں ہوتی

سوال [۶۸۶۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری بہن جس کی شادی ارستمبر ۲۰۰۳ء کو ہوئی تھی، شادی کے تیرہ ماہ بعد ۷ اکتوبر ۲۰۰۵ء برتقاً اور رمضان ۱۴۲۵ھ بروز جمعہ بڑ کے لیعنی میرے بہن کے شوہر کا اس کے گھر والوں سے تکرار ہو گیا، اس وجہ سے دونوں میاں بیوی لیعنی میری بہن اور اس کے شوہر نے چھ دن تک کچھ کھایا نہیں اور گھر والوں سے ناراضگی رہی، جب یہ بات بہن کے جیٹھ لیعنی

میری بہن کے بڑے بھائی کو معلوم ہوئی، تو اس نے میرے بہنوئی کو کچھ روپے دیئے اور کہا آپ اپنا کھانا الگ پکانا شروع کر دو، جب بہن کی ساس کو معلوم ہوا کہ میرے بڑے بڑے کے نے چھوٹے بیٹے کو الگ کھانا پکانے کے لئے کہا ہے، تو وہ بہنوئی کے پاس لڑتی ہوئی آئی اور بولی تم نے اگر اپنی بڑی بہن کے گھر جا کر اپنی بڑی بہن کو نہیں مارا ہوتا تو یہ تمہارے گھر کی ہوتی، اگر تمہارے ساتھ یہ بیوی کو آکر کمراریں تو تم اس کو رکھ لو گے؟

لڑکے نے کہا اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے چھوڑ دوں، تو چھوڑ رہا ہوں، یہ کہہ کر اس نے تین سے زائد مرتبہ طلاق دیدی، یہ بات ہمیں ۱۱ اگست ۲۰۰۶ء کی تاریخ مابعد ۲۹ اگست ۲۰۰۶ء مطابق ۳۲ شعبان ۱۴۲۷ھ کو معلوم ہوئی۔ لڑکی گھر آنے لگی ان لوگوں نے روک لیا کہنے لگے میاں بیوی کے جھگڑے میں طلاق نہیں ہوتی ہے؛ لہذا گھر بیوی لڑکی میں طلاق نہیں ہوئی ہے، لڑکی بعد میں بیمار بھی رہی اور میکہ بھی کم آئی، اس نے کہا میں اپنے گھر جا کر بتا دوں، انہوں نے کہا ہم نے معلوم کر لیا ہے، کفارہ ادا کر دیا ہے؛ لہذا بھر سے لڑکی جھگڑے گھر میں ہوئے، لڑکی کی برداشت سے باہر ہو گئے، دو ماہ سے زیادہ پریشان تھی، اس نے ان لوگوں کی بات پر یقین رکھتے ہوئے دین دار لوگوں سے مسئلہ معلوم کر لیا ہوگا، ۱۱ ماہ تک کچھ نہیں بتایا۔
اس طلاق کی گواہ چار عورتیں ہیں۔

(۱) لڑکے کی ماں (والدہ)

(۲) بڑی جھانی

(۳) چھوٹی جھانی

(۴) نند بالغ ہے

دین کی روشنی میں اس مسئلہ کا حل بتائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔

فتوث: بڑی بہن کی شادی پندرہ سال پہلے ہوئی تھی اور وہ تیرہ چودہ سال سے اپنے گھر کی ہوئی ہے۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب ماں سے تکرار کے دوران میٹنے اپنی بیوی کو تین مرتبہ سے زائد طلاق دے دی ہے، تو اس سے طلاق مغلظ واقع ہو گئی اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، آئندہ بلا حلالہ کے آپس میں ملنا بھی جائز نہیں اور طلاق دینے کے بعد کفارہ کے نام سے کچھ دینے سے طلاق معاف نہیں ہوتی، طلاق ہر حال میں طلاق ہی ہے، کفارہ اس کے لئے تلافی نہیں ہے، اور تین طلاق کے بعد حلالہ کے بغیر دوبارہ نکاح بھی درست نہیں۔

عن عائشة أن رجلاً طلق امرأته ثلاثة، فتزوجت فطلاق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. (صحیح البخاری، کتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، النسخة الہندیۃ / ۲۷۹۱، رقم: ۵۰۶۲، ف: ۵۲۶۱، مسلم شریف، کتاب النکاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثة لمطلقاتها، النسخة الہندیۃ / ۱۴۶۳، بیت الأفکار رقم: ۱۴۳۳، نسائی، کتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثة، النسخة الہندیۃ / ۲۸۴، دار السلام رقم: ۴۰۳۴)

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدوق كل واحد منها عسيلة صاحبه. (سنن الدارقطني، کتاب الطلاق، دار الكتب العلمية بيروت / ۲۱، رقم: ۳۹۳۲، المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث العربي بيروت / ۲۹۵، رقم: ۱۳۴۲۹)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وشتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. كذلك في الهدایة. (فتاویٰ عالمگیری، زکریا قدیم / ۱۴۷۳، جدید ۱/ ۵۳۵، هدایۃ

اشرفی دیوبند/۲۹۹، تاتارخانیہ، زکریا ۱۴۷/۵، رقم: ۳۰۷۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیراحمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۵/شعبان المعظم ۱۴۲۷ھ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۸، گزینہ/۱۴۳۳)

بیوی کو تین طلاق دینے کے بعد بھی اس کے ساتھ زندگی گذارنا

سوال [۶۸۷۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع مตین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدیں پھر اسی کے ساتھ رہنے لگا، دو سال کا عرصہ گذرنے کے بعد فتویٰ لینے کی خواہش ہوئی، اسی درمیان میں ایک لڑکا بھی پیدا ہو گیا، اب شریعت کے مطابق زندگی گذارنا چاہتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ لڑکا میراث میں اس کے مال میں شریک ہو گایا نہیں؟

المستفتی: عبد الغفار قاسمی، لادھ کیسیہ، سمٹی پور (بہار)

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: تین طلاق دیدیں کے بعد عورت کو بلا حلالہ کے اپنے پاس رکھنا قطعاً ناجائز ہے؛ لہذا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا ضروری ہے، اب اگر آپ دوبارہ اس کو بیوی بنانا کر رکھنا چاہتے ہیں، تو حلالہ شرعیہ ضروری ہوگا اور اس عورت کی عدت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ اس سے حرام سمجھتے ہوئے ہم بستری کرتے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس عورت کی عدت پوری ہو چکی ہے اور اس کا فوری طور پر کسی دوسرے شخص سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اور اگر اس کو حلال سمجھتے ہوئے آپ نے اس سے ہم بستری کی ہے، تو آخری ہم بستری کے بعد جب تین ماہواری مکمل ہو جائیں، تو دوسرے مرد سے نکاح ہو جائے اور اس کے ساتھ ہم بستری بھی ہو جائے، پھر جب وہ طلاق دے دے اور اس کے بعد تین ماہواری گذر جائے، تو آپ اس سے

ناکھ کر سکتے ہیں اور جو پچھے اس مدت میں پیدا ہوا ہے، وہ ثابت النسب ہے؛ للہدا وہ باپ کے مال میں میراث کا حصہ رہو گا۔

اتفقوا أن التوبة من جميع المعاشي واجبة سواء كانت المعصية صغيرة، أو كبيرة. (نبوی، کتاب التوبہ ۴/۳۵)

والحاصل أنه إن كتمه، ثم أخبر به بعد مدة، فالفتوى على أنه لا يصدق في الإسناد؛ بل تجب العدة من وقت الإقرار سواء صدقته، أو كذبته، وإن لم يكتمه بل أقر به من وقت وقوعه، فإن لم يشتهر بين الناس، فكذلك. وإن يشتهر بينهم تجب العدة من حين وقوعه وتنقضي، إن كان زمانها مضى، وهذا إذا لم يكن وطئها بشبهة ظن الحل والإلا وجبت بالوطء عدة أخرى وتدخلتا كما مر، وكذا كلما وطئها تجب عدة أخرى فلا يحل لها التزوج بآخر مالم تمض عدة الوطء الأخير بخلاف ما إذا كان الوطء بلا شبهة، فإنه لا يوجب عدة لتمحضه زنا، والزنا لا يوجب عدة كما مر. (شامي، باب العدة، کراچی ۳/۲۲، زکریا ۵/۰۵)

من طلق امرأته ثلاثة، ثم أقام معها زماناً..... ولو وطئها وادعى الشبهة،
بأن قال : ظنت أنها تحل لي فإنها تستقبل العدة بكل وطأة تتدخل الأولى.
(تاتارخانية، زکریا ۵/۲۳۸، رقم: ۷۷۵)

فإن المطلقة الثلاث يثبت النسب منها؛ لأنه وطء في شبهة العقد،
فيكفي ذلك لإثبات النسب. (فتح القدير، دار الفكر بيروت ۵/۱، کوئٹہ ۵/۳۴،
زکریا ۹/۲۳۹، مجمع الأنہر، دار الكتب العلمية بيروت ۲/۴۸)

إن ادعى النسب يثبت في الأولى لا في الثانية إلا في المطلقة ثلاثة
بشرطه، وتحته في الشامية: وتحصل من هذا أنه إذا ادعى الولد يثبت
النسب سواء ولدت لأقل من سنتين، أو لأكثر، وإن لزم الوطء في العدة

لوجود شبہۃ العقد. (شامی، زکریا / ۳۲) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۲۲ ربیع المحرم ۱۴۳۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۹، ج ۱۰۶۰۳)

بیوی کو تین طلاق دے کر اس سے رجوع کرنا

سوال [۶۸۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید نے اپنی بیوی کو غلط تعلق کی وجہ سے صراحةً تین طلاق دیدیں تھیں، مگر چند بچھوٹے چھوٹے تھے اسی عورت سے اور خاندان والوں نے بھی زورڈا کہ اپنی بیوی سے رجوع کرو؛ چنانچہ ایک عالم سے معلوم کیا، تو انہوں نے بلا حلالہ کے رجوع کروا دیا، اور وہ اب میرے یہاں ہے، اب حج کا ارادہ رکھتا ہوں، تو پھر علماء سے پوچھا، تو بولے کہ وہ عالم دوسرے مسلک کے تھے؛ اس لئے تم مسئلہ دریافت کرو، ورنہ بہت کنہگار ہو گے؛ لہذا عرض ہے کہ صحیح طریقہ سے مسئلہ تحریر فرمادیں کہ مجھے کیا کرنا چاہئے؟

المسفتی: محمد زیر اصلاح پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اس صورت میں بیوی پر طلاق مغالظہ واقع ہو گئی ہے، جس عالم نے بلا حلالہ رجوع کرایا ہے وہ غلط ہے، اس سے حرام کاری ہو رہی ہے، فوراً بیوی سے الگ ہو جائیں، بغیر شرعی حلالہ کے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح بھی درست نہیں۔

عن عائشہ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدوق كل واحد منها عسيلة صاحبه. (سنن دارقطنی، کتاب الطلاق، دارالكتب العلمية

عن ابن عمر^{رض}، أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال: المطلقة ثلاثة لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره، ويخالطها وتذوق من عسيلته. (المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث بيروت ۱۲۹۵/۱۲، رقم: ۱۳۴۲۹)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هندية، ذكر يا قدیم ۱/۷۳، جدید ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان الدین عنہ

۹ محرم الحرام ۱۴۲۲ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۲۸۷۲/۳۶)

مطلقة مغلظہ کا بلا حلالة نکاح کرانا

سوال [۶۸۷۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میاں بیوی میں کسی بات پر کہا سنی ہو رہی تھی، میاں نے غصہ میں آکر اسے تین بار طلاق دی دی طلاق دئے ہوئے تقریباً ایک سال ۲ ماہ کا عرصہ ہو گیا، لڑکی اپنے والدین کے یہاں پر ہے، لڑکی کے والد کہتے ہیں کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح اسی میاں کے ساتھ کروں گا، تو ایسی صورت میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: عبدالقیوم، کندرکی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: زید نے اپنی بیوی کے لئے تین مرتبہ طلاق دی کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس سے زید کی بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو گئی۔ اب اگر دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بغیر حلالة شرعی کے نکاح کرنا درست نہیں ہے، جب دو سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، تو عدت گزر گئی، اب کسی دوسرے شخص سے نکاح کر کے اس سے ہمبستر ہو جائے،

پھر وہ شخص طلاق دیدے، اس کے بعد دوبارہ عدت گزار کر اس پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر کر رہنا درست ہے۔

عن ابن عمر رض قال: سئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثة، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب، ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر. (نسائی شریف، کتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثة، النسخة الهندية ۲/۸۴، دارالسلام رقم: ۴۴۳۴)

ولو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثة. (الأشباه والنظائر قدیم ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶)

وإن كانت الطلاق ثلاثة في الحرمة، وشتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (العلمگیری، زکریا قدیم ۱/۴۷۲، جدید ۱/۵۳۵، هداۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، تاریخانیہ، زکریا ۵/۱۴۷، رقم: ۷۵۰۳، مجمع الأنہر، دارالكتب العلمیہ بیروت ۲/۸۸) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان الدین عنہ

۱۵/رمذان ۱۴۲۳ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۷/۸۱۸۹)

مطلقہ ثلاثة سابق شوہر کے حق میں اجنبیہ ہے

سوال [۶۸۷۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہندہ زید کی پچھی زاد بہن ہے، ان دونوں کا نکاح آپس میں ہوا تھا، کسی وجہ سے ہندہ مغلظہ ہو گئی اور ہندہ کی شادی دوبارہ ہوتی نہیں حلالہ کے لئے؛ لیکن ہندہ اپنے شوہر سے بلا تکلف بات چیت کرتی ہے کھانا وغیرہ سب کام کرتی ہے حتیٰ کہ خلوت حاصل کرتی ہے،

ہندہ کے سر وغیرہ بھی اس سے متفق ہوتے ہیں، ہندہ کے لئے درست ہے کہ بغیر حلالہ کئے یہ سب کام کرے اور اس کے شوہر سر وغیرہ کو اس سے انتقال حاصل کرنا درست ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد اکرم سعید مدرسہ شاہی مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب ہندہ پر طلاق مغالظہ واقع ہو چکی ہے، تو اس کا شوہر کے پاس جانا اور اس سے بات چیت کرنا اور اس کے سامنے آنا جانا سب ناجائز ہے، ان دونوں کے درمیان شرعی پرده واجب ہے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرا کے لئے اجنبی اور غیر ہیں، اگر ساتھر ہنا چاہیں تو حلالہ شرعی کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدوّق كل واحد منهم ما عسيلة صاحبه. (سنن الدارقطني، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية

بیروت ۴/۲۱، رقم: ۳۹۳۲)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.
 (العالمگیری، ذکریا قدیم ۱/۷۳، جدید ۱/۳۵، هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، تاتارخانیہ، ذکریا ۵/۴۷، رقم: ۳۰۰۷۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۹ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ
 (فتویٰ نمبر: الف ۳۸۹۸/۳)

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

فان کی بیمار مطلقہ کو اپنے پاس اس مقصد سے رکھنا کہ اب اس سے کون نکاح کرے گا

سوال [۶۳۷۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دیدی ہیں اور ان

دونوں کی کچھ حالت اس طرح ہے کہ فانج کا اثر کئی مرتبہ ہو چکا ہے اور ان کو اپنے گھر کوئی رکھ بھی نہیں سکتا اور اب وہ چاہتے ہیں کہ رجوع ہو جائیں؛ اس لئے دہلی میں ایک مفتی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا امام شافعیؓ کے مسلک میں کچھ گنجائش ہے کیا یعنی چیز ہے؟

المستفتی: محمد سلیم

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: حسب تحریر سوال مذکورہ شخص کی بیوی پر تین طلاق واقع ہو چکی ہیں، اب حلالہ شرعیہ کے بغیر میاں بیوی کا آپس میں زوجیت کا تعلق رکھنا حرام ہے اور امام شافعیؓ کے مسلک میں تین طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے بیوی کو رکھنے کی جو گنجائش سوال نامہ میں لکھی ہے، ہماری نظر سے نہیں گذری۔

وذهب جمهور الصحابة والتابعين و من بعدهم من أئمة المسلمين
إلى أنه يقع ثلاث. (شامی، کراچی ۳/۲۳۲، ۴/۳۴، زکریاء، فتح القدیر، دار الفکر
بیروت ۳/۶۹، کوئٹہ ۳/۳۳۰، زکریاء/۴۵۱)

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق
الرجل امرأته ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدوّق كل واحد
منهما عسيلة صاحبه. (سنن الدارقطني، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية
بیروت ۴/۲۱، رقم: ۳۹۳۲)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له
حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها،
أو يموت عنها. (عالِمِگیری، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایۃ الشرفی
دیوبند ۲/۳۹۹) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیخ احمد قادری عفان اللہ عنہ

۱۲ ربیع الاول ۱۴۲۸ھ

(فتوى نمبر: الف ۹۱۹۹/۳۸)

طلاق مغاظہ کے بعد دونوں کا ایک ساتھ رہنا

سوال [۲۸۷۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متن مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ الف کی شادی ذال کے ساتھ ہوئی تھی، یہ شادی دونوں طرف کے والدین کی زور زبردستی اور چالاکی کی بناء پر ہوئی تھی، الف نے ذال کو منظور تو کر لیا؛ لیکن دل پر پتھر کر الف اور ذال کے چار پنج پیدا ہوئے، اس کے بعد الف کے والد کا انتقال ہو گیا، باپ کا ڈر جاتا رہا، تو الف نے میم نام کی عورت سے نکاح کر لیا اور ذال بھی رہتی رہی، ذال کے بھائیوں کو یہ بات بڑی لگی، وہ اپنے ہمدرد نیتا جی کو لے کر الف کے گھر آئے با توں با توں میں غصہ میں آ کر الف نے ذال کو ذال کی غیر موجودگی میں تین طلاق بول دیں، یعنی ذال کے بھائیوں اور ہمدرد کی موجودگی میں، ذال کے بھائی گھبرا کر بھاگ گئے اور ذال الف کے گھر میں بیوی کی حیثیت سے رہتی رہی، میم بھی رہتی رہی، کچھ سال بعد ذال کے بیٹے بڑے ہو گئے اور وہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھنے لگے، الف اپنی بیوی میم کے ساتھ رہنے لگے، جان کاری یہ کرنی ہے کہ الف اور ذال کے رشتے کیا شوہر بیوی کے ہیں یا طلاق ہو چکی ہے، الف اور ذال میاں بیوی بن کر رہنا چاہیں تو شریعت کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: انطہار اکشن، رثائز ڈائے، ڈی، او، گنگ پر یہس کے سامنے شیدھی سراء، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ذال پر طلاق مغاظہ واقع ہو چکی ہے، دونوں کا میاں بیوی کے طور پر ایک ساتھ رہنا قطعاً حرام ہے، دونوں میاں بیوی بن کر رہنا چاہیں تو حلالہ شرعیہ کے بعد ہی رہ سکتے ہیں۔

عن ابن عمر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَطْلَقَةُ ثَلَاثَةً لَا تَحْلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تُنكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَخْالِطُهَا وَتَذَوَّقُ مِنْ عَسِيلَتِهِ. (المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث بيروت ۱۲۹۵، رقم: ۱۳۴۲۹)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.
(عالِمگیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، شامی، کراچی ۳/۴۰۹ - ۴۱۰، البحـر
الرائق، ذکریا ۴/۹۴، کوئٹہ ۴/۵۶) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴۲۲ھ محرم الحرام

(فتوى نمبر: الف ۳۵/۲۹۸۶)

مطلاقہ ثلثا شوہر کے ساتھ رہنا حرام ہے

سوال [۶۸۷۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ میری شادی کو دو سال ہو گئے ہیں، میری بیوی کے ماں باپ نہیں ہیں، یہی
سوچ کر میں نے شادی کی تھی، پتیم بچی ہے ہمدردی میں، لیکن معاملہ برکس نکلا اس کی شروع
سے یہ ضد تھی کہ گھروں سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے، شادی کے ۸ روز بعد سے ہی ہم دونوں
میں جھگڑا ہونے لگا، میں نے ہر چند سلجنچانے کی کوشش کی ہر طرح سے سمجھایا الگ رہنے پر بھی
راضی ہو گیا؛ لیکن بہت سی ایسی باتیں ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا مزاج نہیں مل پایا، بالآخر ایک
دن میں نے اس سے کہہ دیا ”طلاق، طلاق، طلاق“ تین مرتبہ ۲۰۱۷ء / ۲۰۱۶ء کو طلاق دی،
لیکن اس کے گھروں اے چھاؤغیرہ نے میرے گھروں پر بھیج دیا ہے، میں ان سے کہہ چکا ہوں
کہ میں نے اس کو طلاق دیدی ہے، اب وہ میرے ساتھ رہتی ہے، شریعت کا کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد نجم، محلہ: چھوٹی منڈی، لکھنؤ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: آپس میں نزاع اور اختلاف کی وجہ سے تین
طلاق دینے کا شوہر خود اقرار کر رہا ہے؛ اس لئے بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو کر وہ شوہر کے لئے
قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے، اب دونوں کے درمیان بغیر حلالہ کے نکاح بھی درست نہیں ہو گا۔

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدوّق كل واحد منها عسيلة صاحبه. (سنن الدارقطني، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية)
بيروت ٤/٢١، رقم: (٣٩٣٢)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر قدیم، ۲۱۹، جدید ذکریا (۳۷۶)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.
(ہندیہ، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵)

أما المطلقات الثلاث فحكمها الأصلي هو زوال الملك وزوال حل المحلية أيضاً حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر. لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (بدائع الصنائع، ذکریا ۳/۲۹۵، مجمع الأئمہ، دار الكتب العلمية بيروت ۲/۸۸) فقط والد سبحانہ وتعالیٰ اعلم

کتبہ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴۳۵ھ رشوان المکرم

(نوتیٰ نمبر: الف ۳۱/۲۷۱)

تین طلاق کے بعد شوہر کے ساتھ رہنا

سوال [۷۷/۶۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع مثین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرا نام مہربانو ہے، میرے شوہر کا نام محمد مشاہد حسین ہے، میری شادی ۱۹۸۳ء میں ہوئی تھی، اس درمیان میں میرے شوہرنے اپنے پورے ہوش و حواس میں مجھے ایک شخص کے سامنے جس کا نام اکبر علی ہے اور ہمارا کارڈ رائیور ہے اور چند آدمی محلہ کے کئی بار

تین تین بار ”طلاق، طلاق، طلاق“ کہا اور کہا کہ میں نے تم کو بہت سوچ سمجھ کر کہا ہے، کیا شرع محمدی کے حساب سے طلاق ہوئی یا نہیں؟ کیا میرا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتيۃ: مہربانو

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: شوہرنے جب پہلی مرتبہ کہا کہ ”طلاق، طلاق، طلاق“ تو اس سے تین طلاق مغلظہ واقع ہو گئیں اور زکاح ختم ہو گیا، اب شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے اور جتنے دن اس کے ساتھ رہی ہے، یہ رام کاری اور زنا ہے، دونوں کو گناہ کبیرہ سے صدق دل سے توبہ کرنا لازم ہے اور عورت فوراً شوہر سے الگ ہو جائے۔
لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر

قدیم ۲۱۹، جدید زکریا ۳۷۶، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۳۵۵، جدید ۱/۴۲۳)

اور حالہ شرعی کے بغیر دونوں میں ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وشتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هدایۃ اشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، هندیہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، البحر الرائق کوئٹہ ۴/۵۶، زکریا ۴/۹۴، در مختار، کراچی ۳/۴۰۹، زکریا ۵/۰۴ تا ۴) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان الدعنہ

۵/۱۳۲ جمادی الثانی ۱۴۲۱ھ

(فوقی نمبر: الف ۳۵۲/۲۷۳)

طلاق ثلاثہ کے بعد بھی شوہر کے ساتھ رہنا

سوال [۲۸۷۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل

کے بارے میں: کہ کچھ وجوں سے میرے اور میرے شوہر کے تعلقات اچھے نہیں رہے، دسمبر ۱۹۹۵ء کو غصہ میں میرے شوہر نے تین مرتبہ مجھ سے کہا کہ ”میں نے تم کو طلاق دی، دوسرے دن یہ واقعہ میں نے اپنے سر سے بتایا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ صورت حال ہے، تو تم کو طلاق ہو گئی اور تم کو اپنے شوہر سے الگ رہنا چاہئے، پھر انہوں نے مجھے دو دن شوہر سے الگ رکھا، پھر شوہر سے اس بات کی تحقیق کی تو وہ صاف انکار کر گئے کہ انہوں نے تین مرتبہ کہا تھا، انہوں نے کہا: کہ میں نے دو مرتبہ کہا تھا؛ جبکہ میں نے اپنے کانوں سے تین مرتبہ ہی سنا تھا، پھر میرے سر نے کہا کہ اگر یہ دو مرتبہ کی بات کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تم دونوں ساتھ رہ سکتے ہو، میں نے کہا چونکہ میں نے اپنے کانوں سے تین مرتبہ ہی سنا ہے، تو اب جو کچھ گناہ ہم پر ہوگا، اس کی ذمہ دار میں نہیں؛ کیونکہ آپ میری بات نہیں مان رہے ہیں، اس طرح ہم ساتھ رہنے لگے؛ لیکن تعلقات پھر بھی اچھے نہیں رہے، ان کی کچھ ناقابل برداشت باتوں کے سبب میں نے ۱۹۹۸ء کو وہ گھر ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا اور میں اپنے شوہر کو بتا کر آئی تھی کہ دوبارہ اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ اس واقعہ کو تین سال کا عرصہ گذر چکا، جب سے آج تک میں اپنے میکہ میں ہوں شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتیہ: اسماء بنت محمد ریس، محلہ: پیغمبر علیہ السلام، مراد آباد

با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مسؤول صورت میں جب آپ نے اپنے کانوں سے تین مرتبہ طلاق کا لفظ سنا تھا، اس پر آپ کے سر نے آپ کو مسئلہ سے بھی آگاہ کر دیا، تو آپ کے لئے شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں تھا؛ اس لئے اس کے بعد جتنے دن آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے ہیں، وہ زنا کاری ہوئی ہے اور شوہر کے تین طلاق دینے پر چونکہ آپ کے پاس کوئی شرعی گواہ نہیں ہے؛ اس لئے قضاۓ تین طلاق کا حکم بھی نہ ہوگا۔ اور نہ ہی آپ کے لئے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہوگا؛ بلکہ جس طرح ہو سکے خلع وغیرہ کے ذریعہ ان سے چھکارا حاصل کرنا ضروری ہے۔ (مستفاد: الإيضاح المعاذرة ۱۰۳)

المرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكّنه إذا سمعت منه ذلك . (هندية، زکریا قدیم ۱/۳۵۴، ۱/۴۲۲، شامی، کراچی ۳/۲۵۱، زکریا ۴/۴۶۳)

البحر الرائق، کوئٹہ ۳/۲۵۷، زکریا ۳/۴۴۸) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

كتبه: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احترم محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱/۲۱ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ

۱/۲۲/۱۳۲۲، ۲/۲۲

(فتوى نمبر: الف ۳۵/۷۲۸۵)

مطلاقہ مغالظہ سے ۹ رسال تک منکوحہ جیسا تعلق رکھنا

سوال [۶۸۷۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع عتین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید ایک خدا کو بھولا ہوا انسان تھا، وہ لگ بھگ ۹ رسال سے زنا کر رہا تھا، یعنی زید کی شادی ۱۱ رسال پہلے ہوئی اور دوسال بعد زید نے تین طلاق دیدیں، اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو ۹ رسال تک رکھ رہا، اس درمیان میں ایک لڑکی جواب ۸ رسال کی ہے اور ایک لڑکا تین سال کا ہے پیدا ہوا اور اب اپنے گناہ کا کفارہ چاہتا ہے، اور اس کو اپنی بیوی بنا کر اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے؛ لہذا زید اس مسئلہ میں کیا کرے اور زید کے گناہوں کی تلافی کس صورت میں ممکن ہے؟ زید کا روتے روتے براحال ہے اور دعا میں بھی بہت مانگ رہا ہے، اسے اپنی غلطی کا بڑا احساس ہے۔

المستفتی: محمد ندیم، محمد یوسف، ثانوڈہ، بادلی، رامپور

بسم اللہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: زید نے اگر بیوی کو طلاق مغالظہ دیدی تھی، پھر بغیر حلالہ کے اپنے پاس رکھ رکھا ہے، اور اسی دوران اولاد بھی پیدا ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں یہ زندگی حرام کی ہے، اللہ سے توبہ کرنا لازم ہے اور عورت کو اگر بیوی بنا کر رکھنا چاہے، تو حلالہ کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اس کی شکل یہ ہوگی کہ آج تک بیوی کے ساتھ

جو ہمبستری کا سلسلہ رہا ہے، وہ وطی بالشبہ کے درجہ میں قرار دیا جائے گا اور وطی بالشبہ کے بعد عدت واجب ہوتی ہے؛ لہذا عورت کو اپنے پاس سے الگ کر دے، وہ باضابطہ عدت گذارے اور عدت پوری ہونے کے بعد وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ ہمبستری بھی ہو جائے، پھر وہ طلاق دے یا وفات پا جائے، پھر یہ عورت عدت گذارے اس کے بعد شوہر اول اس سے نکاح کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں ہے اور اس دوران جوا ولاد پیدا ہوتی ہے، وہ وطی بالشبہ کے درجہ میں ہے؛ لہذا اس کا نسب اسی شوہر سے ثابت ہو گا۔

ویشت لکل واحد منہما فسخه ولو بغیر حضر عن صاحبه ودخل بها أولاً في الأصح خروجاً عن المعصية فلا ينافي وجوبه؛ بل يجب على القاضي التفريق بينهما وتعجب العدة بعد الوطء. (شامی، کتاب النکاح، باب المهر، ذکریا ۴/۲۷۵، کراچی ۳/۱۲۳)

والوطء بشبهة كالحال : صورته وطئت امرأته بشبهة فحبت و ولدت، ثم تزوجت، ثم أرضعت صبياً كان ابنا للواطئ بشبهة. (شامی، کراچی ۳/۲۲۱، ذکریا ۴/۱۶) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعیر احمد قادری عفان اللہ عنہ

رذی قعدہ ۱۴۲۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۳۷۸۵، ۸۵۹۵)

کورٹ کے فیصلہ پر مطاقمہ مغلظہ کو ساتھ رکھنا

سوال [۶۸۸۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں اصغر علی ولد اکبر علی محلہ مقبرہ اول کا رہنے والا ہوں، میں اپنی بیوی کو لوگ بھگ دوسال پہلے تین طلاق دے چکا ہوں، لکھت روپ میں بھی اور چار لوگوں کے بیچ میں

بھی تین بار طلاق دے دی ہے۔ اب میری بیوی نے کورٹ میں جا کر مجھ پر دعویٰ کیا ہے کہ دوبارہ میرا گھر بسایا جائے، کورٹ نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کر جاتے ہو یا جیل جانا چاہتے ہو؛ لہذا حضرت والا سے گذارش ہے کہ اس میں میں کیا کروں؟ مجھ کو حدیث اور قرآن کی روشنی میں آگاہ کریں۔ شکریہ

المستفتی: محمد اصغر علی ولدا کبریٰ محلہ مقبرہ اول، مراد آباد

با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب آپ نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی ہیں، تو بیوی پر طلاق مخالفہ واقع ہو کر آپ کے لئے وہ قطعی طور پر حرام ہو چکی ہے، اب اگر دوبارہ دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو حلالہ شرعی لازم ہے اور حلالہ شرعی کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کے بعد تین ماہواری گذر جائے، اگر جیض والی عورت ہے اور اگر ماہواری کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، تو طلاق کے بعد تین مہینہ گذر جانے پر کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے اور اس مرد کے ساتھ ہمستری بھی لازم ہے، پھر وہ مرد طلاق دیدے، پھر طلاق کے بعد اگر ماہواری کا سلسلہ ہے، تو تین ماہواری گذر جائے اور اگر ماہواری کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، تو تین مہینہ گذر نے کے بعد آپ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اسی کو حلالہ شرعی کہتے ہیں اور اس طرح کے حلالہ کے بغیر بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا آپ کے لئے جائز نہیں ہے۔

عن ابن عمر^{رض}، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المطلقة ثالثاً لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره ويحالطها وتذوق من عسيلته. (المعجم الكبير للطبراني، دار أحياء التراث العربي بيروت

(۱۳۴۲۹)، رقم: ۲۹۵/۱۲

وإن كان الطلاق ثالثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها،

أو يموت عنها۔ (هندية، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هدایة اشرفي دیوبند ۲/۳۹۹، تارخانیة، زکریا ۵/۱۴۷، رقم: ۷۵۰۳، مجمع الأنهر، دار الكتب العلمية بیروت ۲/۸۸) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه: شیعیر احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ
۱۶/ ذی الحجه ۱۴۳۱ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۱۰۲۳۱/۳۹)

طلاق مغلظہ کے بعد بیوی کو دوبارہ رکھنا

سوال [۶۸۸۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے بھائی محمد اعظم نے چار سال پہلے اپنی بیوی کو طلاق دیدی تھی، اس بیوی سے دولٹ کے ہیں، اس کے بعد بھائی صاحب نے ایک طلاق شدہ عورت سے نکاح کیا تھا، وہ عورت میرے دونوں بھیجوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور چاہتی ہے کہ یہ دونوں بچے اپنی ماں کے پاس چلے جائیں اور میں سارے گھر پر حکومت کروں اور یہ عورت بچوں کو بہت پریشان کرتی ہے اور بچوں کو ڈرانا دھرم کانا اور کبھی یہ کہنا کہ پولیس میں دیدوں گی اور یہاں تک کہ عورت پنڈتوں کے پاس جا کر سفلی علم کا جادو کراتی ہے، بچے پلے پڑتے جا رہے ہیں اور بھائی صاحب کو بھی آگاہ کر دیا ہے کہ تمہاری دوسری بیوی بہت شیطان ہے وہ تمہارے بچوں کی دشمن بن گئی ہے؛ لہذا تم ان بچوں کی ماں کو دوبارہ لاواس کا فتویٰ نکلو اکر کوئی حل نکل سکتا ہے۔ اب میں نے اپنے بھائی صاحب کو ساری باتیں بتلائیں اگر راضی ہو جائے تو بچوں کو ان کی اصلی ماں بھی مل جائے گی اور بچوں کی زندگی بھی سورج جائے گی، پہلی بیوی سے نکاح کس صورت میں ہو حلاله ضروری ہے یا بغیر حلالہ کے دوسری کوئی صورت نظر آتی ہے؟ آپ اسلام کی روشنی میں حل بتلائیے۔

المستفتی: شرافت حسین، گویاں باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سائل سے زبانی معلوم ہوا کہ پہلی بیوی کوتین طلاق دیدی تھیں، تو اب اگر اس بیوی کو دوبارہ رکھنا چاہے، تو بغیر حلالہ کے اس کے ساتھ نکاح درست نہ ہوگا؛ بلکہ حلالہ شرعی میں زوج ثانی اس کے ساتھ ہمبستری کرے، پھر اس کے بعد طلاق دیدے، پھر اس کے بعد تین ماہواری عدت گذرنے کے بعد آپ کے بھائی اپنی طلاق شدہ بیوی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اس کے بغیر دوبارہ رکھنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدوق كل واحد منها عصيلة صاحبه. (سننDarقطني، كتاب الطلاق، Daral-kتب العلمية

بیروت ۴/ ۲۱، رقم: ۳۹۳۲)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.
(عالیمگیری، ذکریا قدیم ۱/ ۴۷۳، جدید ۱/ ۳۵) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سليمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۵ھ / ۵ / ۲۲

كتبه: شبير احمد قاسمی عفنا اللہ عنہ
۱۴۲۵ھ / جمادی الاولی
(فونی نمبر: الف ۳۲ / ۸۳۸۹)

مطلقہ ثلاثة کو بغیر حلالہ رکھ لیا دو پچ بھی ہو گئے کیا حکم ہے؟

سوال [۶۸۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوتین طلاق دیدیں، اس کے بعد چند دن الگ رہنے کے بعد پھر دونوں ساتھ رہنے لگے، اسی حالت میں دو پچ پیدا ہو گئے، تو یہ پچ ثابت النسب ہوں گے یا حرماً ہوں گے، بعد میں احساس پیدا ہوا کہ ہم حرام طریقہ سے رہ رہے ہیں۔ اب ہم

جاائز طریقہ سے رہنا چاہتے ہیں، تو حل جدید کے لئے عورت کو دوسرے شوہر سے نکاح کرنا ہوگا؛ لیکن سوال یہ ہے کہ درمیان میں جو دوچار سال گذرے ہیں یہی عدت شمار ہوگی یادوں کے لگ ہونے کے بعد الگ سے عدت گذارنی ہوگی؟

المستفتی: محمد صادق بخوری

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: تین طلاق دینے کے بعد جب دونوں بغیر حلالہ کے ساتھ رہنے لگے اور اسی اثناء میں بچے پیدا ہو گئے، تو یہ بچے ثابت النسب ہوں گے؛ جبکہ اس نے حلال سمجھ کر طلاق کے بعد بیوی سے ہمبستری کی ہو، تو اس پر اب دوسری عدت بھی واجب ہو جائے گی۔ اور اگر شوہر کو معلوم تھا کہ بیوی میرے لئے حرام ہے، اس کے باوجود ہمبستری کی ہے، تو پھر اس شخص سے ثابت نہ ہوگا اور ایسی صورت میں اس عورت پر دوسری عدت بھی واجب نہ ہوگی؛ اس لئے کہ دوسری صورت میں یہ زنا ہوا ہے اور زنا میں نہ تو ثبوت نسب ہوتا ہے، اور نہ یہی عدت واجب ہوتی ہے۔

وإذا وطئت المعتدة بشبهة ولو من المطلق وجبت عدة أخرى لتجدد السبب. قوله بشبهة وذلك كالموطوء للزوج في العدة بعد الثلاث بنكاح، وكذا بدونه إذا قال ظنت أنها تحل لي—ومفاده أنه لو وطئها بعد الثلاث في العدة بلا نكاح عالمًا بحرمتها لا تجب عدة أخرى؛ لأنه زنا. (شامی، کتب الطلاق، باب العدة، کراچی ۳/۱۸، ۵/۲۰۰)

لأن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد

وبالوطء عن شبهة. (هدایۃ، اشرفی دیوبند ۲/۴۳۸)

ولو طلقها ثلاثة، ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجاً غيره، فجاءت منه بولد ولا يعلمان بفساد النكاح، فالنسب ثابت وإن كانا يعلمان بفساد النكاح يثبت النسب أيضاً عند أبي حنيفة. (تاتارخانہ ۵/۲۶۲، رقم: ۷۷۹۸)

لو طلقها ثلاثةً وهو يقيم معها فإن كان مقرًا بالطلاق تنقضى العدة، وإن كان منكرًا تجب العدة من وقت الإقرار زجراً لهما هو المختار. (هندية، ذكر ياقديم ۱/۵۳۲، جدید ۱/۵۸۴)

وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعلتها عدة أخرى - والوطئ بالشبهة الموجبة لعدة أخرى على أنواع منها إذا دخل بها في العدة وقد طلقها ثلاثة، وقال: ظنت أنها تحل لي. (تاتارخانية، ذكر ياه ۲۳۹، رقم: ۵۳/۷۷) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شیعیر احمد قاسمی عفان الدین عن

۱۶ محرم الحرام ۱۴۳۵ھ

(نوتی نمبر: الف ۳۰/۳۸۲)

حالہ شرعی کے بغیر مطلقہ ثلاثة شوہر اول کے لئے حلال نہیں

سوال [۲۸۸۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زید اور اس کی بیوی میں جھگڑا ہو گیا، زید نے اپنی بیوی کو لگاتار تین طلاقیں دیں، میاں بیوی کے علاوہ کوئی پاس نہ تھا، جب چرچا ہوا تو زید نے اقرار کر لیا کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی دی ہیں، اس کے بعد زید کی گھروالی نے اپنے میکہ جا کر عدت پوری کر لی، پھر زید کے بڑے بھائی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا اور چار دن کے بعد اس نے طلاق دی دی، اب اس کی عدت بھی پوری کر لی گئی ہے زید کے بھائی سے نکاح زید کی سرال میں ہی کر دیا گیا؛ لیکن نکاح کرنے کے بعد زید کا بھائی اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لایا وہیں سرال چھوڑ آیا اور حالہ نہیں ہوا، اس حالت میں کیا زید کے ساتھ نکاح کر لینا جائز ہے یا نہیں؟

المستفتی: نسیم احمد، امام جامع مسجد، رام نگر کھاگوالا، ٹھا کر دوارہ، مراد آباد
باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: زید کے بھائی کے ساتھ عقد نکاح ہو جانے کے

بعد چونکہ زید کے بھائی نے اس سے ہمستری نہیں کی اور بغیر ہمستری کے طلاق دیدی، تو اس سے زید کے واسطے وہ عورت حلال نہیں ہوئی؛ بلکہ حلالہ کے لئے ہمستری لازم اور ضروری ہے؛ لہذا اب جب تک دوسرے آدمی کے ساتھ نکاح ہمستری نہ ہو جائے اور اس کی طرف سے طلاق وعدت نہ پوری ہو جائے، اس وقت تک زید کے لئے اس عورت سے نکاح جائز نہیں اور زید کے بھائی نے جب بغیر ہمستری اس کو طلاق دیدی ہے، تو اس طلاق کے بعد دوسرے سے نکاح کے لئے عدت کی ضرورت نہیں تھی۔

عن عائشة أَن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. (صحیح البخاری، کتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثالث، النسخة الہندیۃ / ۲۷۹، رقم: ۵۰۶۲، ف: ۵۲۶۱) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

کتبہ: شیعہ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴ جمادی الثانیہ ۱۴۲۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۵ / ۲۵۰)

طلاقہ مغلظہ بغیر حلالہ کے حلال نہ ہوگی

سوال [۶۸۸۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کفیر وزالم نے اپنی بیوی امتی بیگم کو اپنی ماں سے جھگڑے کے کارن ایک سانس میں ۹ ربار اپنی بیوی کو طلاق دیدی اور پھر خفیہ طور پر لڑکی کے دادا اور چچا کو جو کہ ان پڑھ جاہل ہیں کسی بہانے سے بلوا کر کسی طرح راضی کر کے لڑکی سے ایک پیشہ وغیرہ سندریافتہ عالم سے نکاح پڑھایا اور نکاح کے جواز کا قاضی سے کاغذ بھی بنوایا۔ اور امتی بیگم کو اپنی زوجیت میں رکھے ہوئے ہے، اس عالم کے باپ بھی ہزاروں ایسے نکاح پڑھایا کرتے تھے جن عورتوں کو طلاق مغلظہ ہو جاتی تھی، تو شرعی حکم تحریر فرمائیں یہ بھی واضح فرمائیں عدت و مهر واجب ہے یا نہیں؟

المستفتی: عفیف احمد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: ۹ ربار طلاق دینے سے تین ہی طلاق واقع ہوتی ہیں اور تین طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے جان بوجھ کر دوبارہ نکاح پڑھانے والا سخت ترین گناہ کا مرتكب ہوگا اور جو نکاح پڑھایا جا رہا ہے، اس سے شرعاً وہ عورت بیوی نہیں بنے گی، اس کو ساتھ رکھنا زنا کاری ہوگی۔ نیز طلاق کے بعد فیروز عالم پر عورت کا نفقة اس شرط پر لازم ہے کہ وہ جہاں رہ کر عدت گذارنے کے لئے کہے وہاں عدت گذارتی ہو، مہراس پر بہر حال واجب ہے۔

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدوق كل واحد منها عسيلة صاحبه. (سنن دارقطني، كتاب الطلاق، دارالكتب العلمية

بیروت ۴/۲۱، رقم: ۳۹۳۲)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(عالیٰ گیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

كتبه: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۸ محرم الحرام ۱۴۱۵ھ

۱۴۱۵/۱/۸

(فتوى نمبر: الف ۳۲۹۷/۳)

طلاقہ ثلاثة کو ساتھ رکھنے کی شکل

سوال [۶۸۸۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو تحریری اور زبانی تین دفعہ طلاق دی تھی، جس کو تقریباً ایک سال کا عرصہ ہو گیا، اب بچوں کی وجہ سے دوبارہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو کیا طریقہ اپنا نا پڑے گا شرعی حکم کیا ہے؟

المستفتی: معروف احمد رسول لائل، رام پور

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب آپ نے ایک سال پہلے یوں کو طلاق دیدی تھی، تو اس درمیان میں اس کی عدت بھی پوری ہو چکی ہے، اب اگر دوبارہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو یوں کسی دوسرے مرد سے شرعی نکاح کر کے اس کے ساتھ ہمبستر ہو جائے اور ہمبستری کے بعد جب وہ مرد طلاق دیدے گا، تو پھر دوبارہ عدت گذاری لازم ہے اور دوبارہ عدت پوری ہونے کے بعد آپ کے ساتھ نکاح درست ہو جائے گا، اس طریقہ سے دونوں کے ساتھ رہنے کی شکل ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ [البقرہ: ۲۳۰]
 قال الليث عن نافع كان ابن عمر إذا سئل عن طلاق ثلثاً إلى قوله- فإن طلاقتها ثلاثة حرمت حتى تنكح زوجاً غيرك۔ (بخاري شريف،
 كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، النسخة الهندية ۲/۷۹۲، رقم: ۵۲۶۴،
 مسلم شريف، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض، النسخة الهندية ۱/۴۷۶،
 بيت الأفكار رقم: ۱۴۷۱)

وقال حسن^{رض}، لو لا أني سمعت أبي يحدث عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من طلق امرأة ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لراجعتها. (السنن الكبرى للبيهقي جديد دار الفكر بيروت ۱۱/۵۲، رقم: ۱۴۸۵۵، دارقطني، دار الكتب العلمية بيروت ۴/۲۰، رقم: ۳۹۲۷)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وشتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (هندية، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، هداية اشرفي دیوبند ۲/۳۹۹) فقط والله سبحانه وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

اعترف محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
 ۱۴۳۵/۳/۳

كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
 ۳ مرینج الاول ۱۴۳۵ھ
 (فتوى نمبر: الف ۲۰۰/۱۴۳۵)

تین طلاق کے بعد ایک ساتھ رہنے کی شکل

سوال [۶۸۸۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میری (استکار بن عبد اللہ ساراً کن محلہ بیگم سرائے سنچل) شادی ایک سال پہلے سونا بنت حاکم علی ساکن غازی آباد کے ہمراہ ہوئی تھی، شادی کے بعد ہی سے میری بیوی نے مجھ سے اپنے ہی شہر میں رہنے کے لئے اصرار شروع کر دیا۔ بات اور بڑھی نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہم دونوں کا ایک ساتھ رہنا مشکل نظر آنے لگا؛ اس لئے آپسی مصالحت کے پیش نظر گواہان کے سامنے میں نے اپنی بیوی کو تین مرتبہ طلاق، طلاق، طلاق، کہہ کر طلاق دیدی اور اس کا کل مہر پانچ ہزار روپیہ مع نفقة عدت گواہان کی موجودگی میں ادا کر دیا گیا؛ لہذا اس میں دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس کے بعد ایک ساتھ رہنے کی گنجائش باقی رہتی ہے یا نہیں؟

المستفتی: استکار بن عبد اللہ ساراً کن محلہ بیگم سرائے سنچل

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: حسب تحریر سوال جب شوہر خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی ہیں اور طلاق کے دستاویز بھی مع شوری کے دستخط کے سوال نامہ کے ساتھ ہیں، تو مسولہ صورت میں اس کی بیوی سونا بنت حاکم پر تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ اب بدون حالۃ شرعیہ کے ان کے درمیان نکاح اور میاں بیوی کا تعلق جائز نہیں اور حلالة کی صورت یہ ہے کہ عورت کی تین جیض کے ساتھ عدت گذرجانے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے وہ مرد اس کے ساتھ ہمپستر ہو جائے اس کے بعد وہ مرد طلاق دیدے، پھر تین ماہواری کے ذریعہ عدت گذرجانے کے بعد پہلے شوہر کے ساتھ نکاح درست ہو جائے گا۔

عن نافع عن ابن عمر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره، ويحالطها وتذوق من عسيلته. (المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث بيروت ۱۲/ ۲۹۵، رقم: ۱۳۴۲۹)

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً يدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هندية، ذكر يا قدیم ۱/ ۴۷۳، جدید ۱/ ۵۳۵، هداية اشرفی دیوبند ۲/ ۳۹۹)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر قدیم ۲۱۹، جدید ذکر ۳۷۶) **فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم**

كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۲/ رجایدی الاولی ۱۴۳۱ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۹ / ۱۰۰۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۱/۵/۳

طلاق کے بعد دوبارہ ساتھ رہنے کی شکل

سوال [۶۸۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ محمد سرفراز نے غصہ کی حالت میں جبکہ طبیعت بھی خراب تھی اپنی یوں سے کہدیا، ”میں نے تھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی“ تو اب اس صورت میں طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اور اگر واقع ہو گئی اور ہم دونوں پھر سے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، تو اب دوبارہ ساتھ رہنے کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟

جواب: چار پہکے ہیں، جن میں سے ایک سات سال کا ہے، دوسرا چھ سال کا، ایک لڑکی تین سال کی ہے اور ایک دو دھپتی بچی ہے۔

المستفتی: محمد سرفراز، کرولا، رحمت گر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: سوال نامہ میں مذکور صورت میں محمد سرفراز کی یوں

پر تین طلاق مغلظہ واقع ہو گئیں، اب اگر دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو حلالہ کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، حلالہ کی صورت یہ ہے کہ شوہر کی اس طلاق کے بعد بیوی پر تین ماہواری گذر جائے اس کے بعد اس کا کسی دوسرے سے نکاح ہو جائے اور اس مرد سے باقاعدہ ہمبستزی ہو۔ اور پھر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دیدے، اس کے بعد نکورہ عورت پر پھر تین مرتبہ ماہواری کا زمانہ گذر جائے تو اس کے بعد محمد سرفراز اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے میاں بیوی کی طرح رہ سکتا ہے۔

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدوق كل واحد منها عسيلة صاحبه. (سننDarقطني، كتاب الطلاق، دارالكتب العلمية
بيروت ٤/٢١، رقم: ٣٩٣٢)

لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباه والنظائر
قديم، ٢١٩، جدید زکریا ٣٧٦)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً يدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هنديہ، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
الاڑی قعدہ ۱۴۳۳ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۳۹/ ۱۰۳۰۷)

طلاق مغلظہ کے بعد ایک ساتھ رہنے کی صورت

سوال [۶۸۸۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل
کے بارے میں: کہ میرا اپنے والدین سے بچوں کے اوپر جھگڑا ہوا، میں اپنے بچوں کو اپنی

بیوی سے مانگ رہا تھا، اس نے دیدیئے تھے؛ لیکن میرے والدین نے میرے بچوں کو مجھ کو نہ دیا اور میرے والدین نے میرے ساتھ مار پیٹ بھی کی اس پر میں نے اپنی بیوی کو تو میں بار کہا ”جا میں نے تجوہ کو طلاق دی، جا میں نے تجوہ کو طلاق دی، جا میں نے تجوہ کو طلاق دی“، اور اس وقت میری بیوی حاملہ تھی، طلاق دینے کے گیارہ روز بعد بچہ پیدا ہوا، طلاق دینے کے اگلے روز لڑکی کے والد میرے گھر آئے اور اپنی لڑکی کو لے کر چلے گئے وہیں پر بچہ پیدا ہوا، لڑکی کے باپ نے لڑکی سے کہا کہ میں تیر انکا ح دوسرا جگہ کرادوں، تو لڑکی نے اس پر منع کر دیا کہ یا تو میں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہوں یا پھر اپنے بچوں کے ساتھ رہوں گی، دوسرا جگہ نکا ح نہیں کر سکتی، بچہ پیدا ہوئے اب تقریباً کم و بیش چار ماہ ہو چکے ہیں۔ اب دونوں اس بات پر راضی ہیں کہ ہم دونوں ایک جگہ مل جائیں، اس سلسلہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مع حوالہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔

المستفتی: غلام صابر، عمری کلاں، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مسؤولہ صورت میں آپ کی بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، اب اگر آپ اپنی بیوی کو ساتھ رکھنا چاہیں، تو حلالہ شرعیہ کے بغیر نہیں رکھ سکتے؛ لہذا آپ کی بیوی پہلے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے، پھر وہ دوسری شخص آپ کی بیوی کو طلاق دی دے، یا مر جائے تو اس کے بعد عدت گذار کر پھر آپ سے نکاح کر سکتی ہے۔

عن ابن عمر^{رض}، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُطْلَقَةُ ثَلَاثَةً لَا تَحْلُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تُنكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَخْالِطُهَا وَتَذُوقُ مِنْ

عسیلته۔ (المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث بيروت ۱۲/۱۹۵، رقم: ۴۲۹۱۳)

وَإِنْ كَانَ الطَّلاقُ ثَلَاثَةً فِي الْحَرَةِ، وَثَتَّنِينَ فِي الْأُمَّةِ لَمْ تَحْلِ لَهُ حَتَّى تُنكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ نَكَاحًا صَحِيحًا وَيَدْخُلُ بَهَا، ثُمَّ يَطْلُقُهَا، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا۔ (العالمگیری، زکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، شامی، کراچی ۳/۹۰۴)

ز کریا / ۴، البحیرائق، زکریا / ۴، ۹، کوئٹہ / ۴ / ۵۶) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم
 کتبہ: شیر احمد قادری عفان الدین عنہ
 اول محرم الحرم ۱۴۲۲ھ
 (فتاویٰ نمبر: الف ۶۹۸۲/۳۵)

مطلقہ ثلاثة کو دوبارہ رکھنے کی صورت

سوال [۶۸۸۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں نے اپنی بیوی کو بد تینیزی اور اس کی بد تہذیبی کی وجہ سے تین طلاق دیدی ہیں، کیا طلاق واقع ہو گئی؟ کیا اسے دوبارہ رکھا جاسکتا ہے یا نہیں؟

المسنون: محمد قابل پیر کا بازار، مراد آباد

با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: صورت مسئلہ میں آپ کی بیوی پر تین طلاق مغلظہ واقع ہو کر آپ کے لئے وہ قطعی طور پر حرام ہو گئی، اب آئندہ اگر ساتھ رکھنا چاہیں، تو بغیر حلالہ شرعیہ کے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے اور شرعی حلالہ کی شکل یہ ہے کہ عدت گذرنے کے بعد کسی دوسرے مرد سے شادی کر لے، اس کے ساتھ ہمبستری کرنے کے بعد وہ طلاق دیدے، اس کی طلاق کے بعد پھر عدت گذرنے کے بعد آپ سے نکاح ہو سکتا ہے۔

عن عائشة ^{رض}، أن رجلاً طلق امرأته ثلاثة، فتزوجت فطلاق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، أتحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. (صحیح البخاری، کتاب الطلاق، باب من أجاز

الطلاق الثلاث، النسخة الہندیۃ / ۲/ ۷۹۱، رقم: ۵۰۶۲، ف: ۵۲۶۱)

عن ابن عمر ^{رض} قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثة، فيتزوجهها الرجل، فيغلق الباب، ويخرجي الستير، ثم

يطلقبها قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل للأول حتى يجتمعها الآخر.
 (نسائي شریف، کتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثة ثلثاً، النسخة الهندية ۲/۸۴، دار السلام رقم: ۴۴۳، مسلم شریف، کتاب النکاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثة لم طلقبها، النسخة الهندية ۱/۴۶۳، بیت الأفکار رقم: ۱۴۳۳)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنکح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقبها، أو يموت عنها.

(هنديہ، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، الأشیاء قدیم ۲۱۹، جدید ذکریا ۳۷۶)

مجمع الأئمہ، دارا کتب العلمیہ بیروت ۲/۸۸) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
 کتبۃ: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
 الجواب صحیح:

احضر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۳۵ھ ربيع الاول

۱۴۳۵ھ/۳/۲

(فتوى نمبر: الف ۲۶) (۱۴۳۵ھ/۵/۲۰)

مطلاقہ مغلظہ کو دوبارہ اپنے نکاح میں لانے کا طریقہ

سوال [۶۸۹۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ہم نے اپنے بڑے کی شادی ۲۵ مئی ۱۹۹۷ء کو کی تھی، ڈیڑھ مہینہ وہ گھر میں رہی آنا جانا بھی رہا، ڈیڑھ ماہ کے بعد جو وہ اپنے میکے گئی تو اپس نہیں آئی اور کہہ دیا کہ مجھے شوہر پسند نہیں ہے، اس کو ہم نے بہت لانے کی کوشش کی؛ لیکن وہ نہیں آئی، اس کے گھر والوں نے طلاق کے لئے کہا ہم نے منع کر دیا، ہم بار بار اس کو بلا نے کے لئے گئے، ہم سے اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہم نے اس کو بہت سمجھایا ہے؛ لیکن وہ تیار نہیں ہے، اگر آپ لوگ ایسے طلاق نہیں دیں گے، تو ہم عدالت سے طلاق لے لیں گے، اور پھر اپریل ۱۹۹۸ء کو وہاں سے دو آدمی بڑی کو لے کر مراد آباد آئے، وہ بڑی ہمارے گھر پر نہیں آئی، وہ اپنے ما موس کے گھر بیٹھ گئی اور طلاق مانگی پھر مجبور ہو کر ہمارے بھائی نے طلاق کے کاغذ پر دستخط کئے

اور بہت روئے اور وہ لڑکی بہت خوش تھی نہس کر دستخط کئے؛ لیکن اب ۶ ماہ بعد وہ پھر سے آنے کو تیار ہے، لڑکی رامپور کی ہے، جس وقت طلاق ہوئی تو میاں بیوی سامنے نہیں تھے؛ لیکن جس وقت طلاق ہوئی وکیل کے علاوہ چار پانچ آدمی موجود تھے، لڑکے کے پاس بھی لڑکی کے پاس بھی دو آدمی ہماری طرف کے اور دو تین آدمی ان کی طرف کے موجود تھے۔ اب آپ یہ بتا دیجئے کیا وہ رہ سکتی ہے یا نہیں؟ یا پھر اور کوئی صورت ہے؟

المستفتیہ: کشور جہاں بنت محمد اعجاز، محلہ: فیل خانہ، مراد آباد

با اسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب لڑکا تین طلاق دے چکا ہے، تو اب بغیر حلالہ کے اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، حالہ کی صورت یہ ہے کہ یہ لڑکی کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے، پھر دوسرا شوہر مرجانے یا طلاق دیدے، تو وعدت گذرنے کے بعد یہ لڑکا اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدوق كل واحد منها عسيلة صاحبه. (سنن دارقطني، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية

بیروت ۴/۲۱، رقم: ۳۹۳۲)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها، كذا في الهدایة. (هندیہ، رکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵، البحر الرائق رکریا ۴/۹۴، کوئٹہ ۵/۴۰) فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۱۹ھ/۸/۳

لکتبہ: شبیر احمد قاسمی عفی اللہ عنہ

۲ رشعبان المعظم ۱۴۱۹ھ

(فتوى نمبر: الف ۵۸۷/۳۲)

مطلقہ مغالظہ کو دوبارہ اپنی زوجیت میں رکھنے کی صورت

سوال [۶۸۹۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی ہے، اور اس بات کو قریب دو سال ہو گئے ہیں، اور اب وہ دوبارہ آنا چاہتی ہے، حلالہ کرنے کے لئے وہ تیار ہے، لیکن حلالہ کرنے کے باوجود وہ عدت کرنا نہیں چاہتی، اس کی لڑکی بیمار رہتی ہے، اب عدت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اور حلالہ کرنے کے بعد وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ کتنے دن بعد نکاح کر سکتی ہے، اس کا کوئی معاوضہ زید کو دینا پڑے گا؟ اگر دینا ہے تو کتنا دینا ہے؟

المستفتقی: ارشد جمال، کرولہ، ششی کالونی، مراد آباد (بیوی)

بسم سجادہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: مسئولہ صورت میں جب آپ اپنی بیوی کو تین طلاق دے کر علیحدہ کر چکے (جبیسا کہ سوال کی روشن اور سائل کی زبانی معلوم ہوا) اب اگر دونوں زن و شوہر (میاں بیوی) کا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، تو حلالہ شرعیہ کے بغیر ازدواجی تعلق دونوں میں قائم نہیں ہو سکتا، عدت کے بعد حلالہ شرعیہ کی صورت یہ ہے، دوسرے مرد سے عورت کا نکاح ہو جائے اور اس کے ساتھ یہ عورت رہتی رہے، پھر وہ از خود طلاق دیدے اور اس طلاق کے بعد عورت کا عدت گذارنا ضروری ہے اور عدت کا مطلب یہ ہے کہ صرف تین ماہواری گذر جائے، اس کے بعد سائل شوہر اول سے نکاح ہو سکتا ہے اور عدت کا مطلب نہیں ہے کہ گھر میں بذر ہے، ہاں عدت میں زیب و زینت کی چیز اختریار نہ کرے، گھر کی پوری حوصلی میں آ جاسکتی ہے؛ البتہ دوسروں کے گھروں میں نہیں جاسکتی۔

عن ابن عمر^{رض}، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُطْلَقَةُ ثَلَاثًا لَا تَحْلُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلَ حَتَّى تُنكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَخَالُطُهَا وَتَذُوقُ مِنْ عَسِيلَتِهِ. (المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث بيروت ۱۲۹۵/۲۹۵، رقم: ۱۳۴۲۹)

وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحةً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(هندیہ، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

۱۴۲۲/۱/۱

کتبہ: شیخ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۴۲۲ھ

(فتاویٰ نمبر: الف/۳۵/۶۹)

تین طلاق کے بعد بیوی شوہر کے لئے کب حلال ہوگی؟

- سوال [۶۸۹۲]:** کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے
بارے میں: کہ (۱) آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں بعد عدت عدت حلالہ
ہو گیا، پھر دوسری عدت بعد حلالہ گذرنے کے بعد پھر اسی آدمی سے نکاح کر دیا، اب اس آدمی
نے پھر تین طلاقیں دے دیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر حلالہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟
(۲) یہ کہ اگر عورت راضی ہو جائے تو کسی سے بھی حلالہ کرایا جاسکتا ہے یا پہلے حلالہ
کے لئے جس کے ساتھ نکاح کیا اسی سے نکاح کرایا جائے؟
(۳) یہ کہ عدت کا خرچ اور مہر شوہر پر دینا شرعاً واجب ہے یا شوہر کے والد پر؟

المستفتی: عبدالعزیز، برلن بازار، مراد آباد

بسم سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) تین طلاق کے بعد جب عورت عدت
گذار کر دوسرے مرد سے شرعی نکاح کر کے ہمبستر ہو جائے اور پھر دوسرے شوہر سے شرعی
تفريق حاصل کر کے عدت گذار کر شوہر اول سے نکاح کر لیتی ہے، تو حل جدید لوٹ کر آتی
ہے؛ لہذا جب شوہر نے دوبارہ تین طلاق دیدیں ہیں، تو دوبارہ حلالہ کے بغیر نکاح نہیں
ہو سکتا اور پہلے کی طرح دوبارہ حلالہ کیا جاسکتا ہے؛ (لیکن یہ بہت گندی حرکت ہے)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(عالِمگیری، زکریا قدیم ۴۷۳/۱، جدید ۱/۵۳۵)

(۲) عورت جس سے راضی ہو جائے، اسی کے ساتھ نکاح ہونا چاہئے۔

(۳) عورت کا خرچ شوہر یا لازم ہوا کرتا ہے اور شوہر ثانی کے طلاق دینے کے بعد

اس کی عدت کا خرچہ شوہر ثانی یہی لازم ہوگا۔ (مستقاد: فتاویٰ دارالعلوم ۱۲۳/۱۱)

المعطلة عن الطلاق تستحق النفقة، والسكنى، كان الطلاق رجعاً،

أو بائناً، أو ثلثاً حاملاً كانت المرأة، أو لم تكن. (هندية، زكريا قديم ١/٥٥٧)

جديد ٦٠٥) فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

كتبه: شبير احمد قاسمي عفوا اللہ عنہ

۱۸ ربیع الثانی ۱۴۰۳

(فتویٰ نمبر: الف ۲۸/۳۱۳۳)

تین طلاق کے بعد رجوع کی خواہش کرنا

سوال [۶۸۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ نعیم احمد نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں تین طلاقوں دیدیں اور نعیم کی بیوی عدت گزار رہی ہے اپنے شوہر کے گھر پر اس کی عدت کی مدت دو مہینے دس دن ہو چکی ہے۔ اب نعیم اور اس کی بیوی غلطی کا احساس کر رہے ہیں اور وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، تواب کیا کریں؟

المستفتى: محمد ايووب، سيدو هاره، بجنور

بِسْمِهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَى

الجواب وبالله التوفيق: جب نعيم نے اپنی بیوی کو ایک وقت میں تین طلاقوں دیدی ہیں، تو اس کی بیوی پر تین طلاق واقع ہو کر وہ مغلظہ ہو گئی ہے، اب دونوں کے

درمیان بغیر حلالہ کے نکاح بھی درست نہ ہوگا اور حلالہ کی شکل یہ ہے کہ تین ماہواری عدت گذر جانے کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے، اس کے بعد ہمستری کے بعد وہ اپنی مرضی سے طلاق دی دے، پھر اس کے بعد دوبارہ تین ماہواری عدت گذر جانے کے بعد نعیم کے ساتھ نکاح درست ہو سکتا ہے۔

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: إِذَا طلق الرَّجُل امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةً لَمْ تَحُلْ لَهُ حَتَّى تُنكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَذُوقْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا عَسِيلَةً صَاحِبَهُ۔ (سنن دارقطني، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية) بیروت ۴/ ۲۱، رقم: (۳۹۳۲)

وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثَةً فِي الْحُرْمَةِ، وَثَتَّيْنِ فِي الْأَمْمَةِ لَمْ تَحُلْ لَهُ حَتَّى تُنكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ نَكَاحًا صَحِيحًا وَيَدْخُلُ بَهَا، ثُمَّ يَطْلُقُهَا، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا۔ (هنديہ، ذکریا قدیم ۱/ ۴۷۳، جدید ۱/ ۵۳۵، هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/ ۳۹۹، تاتارخانیہ، ذکریا ۵/ ۱۴۷، رقم: ۳۹۰/ ۷۵۰) فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان الدڈعنه
۹ رشعابن المعظم ۱۲۳۲ھ
(فتویٰ نمبر: الف ۱۰۳۶/ ۳۹)

تین طلاق، حلالہ اور جہیز کا حکم

سوال [۶۸۹۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متن مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میرے شوہرنے ۱۱/۱۲ جنوری ۱۹۹۲ء کو ۹ رنج کر ۱۰ منٹ پر مجھ کو غصہ کی حالت میں جو کہ پہلے ہی سے میغلو ڈسٹرپ ہے، تین بار طلاق دیدی؛ لیکن میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ میں دوبارہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکوں کسی اور سے نکاح نہ کروں تو کیا یہ ممکن ہے، یہ طلاق بائن تو نہیں ہے؟

(۲) میرے شوہر میرا سامان مجھ کو پورا نہیں دے رہے ہیں، میں وہاں جا کر اپنے والد اور عورتوں کے ساتھ عدت کے ایام میں اپنا سامان لینے جا سکتی ہوں یا نہیں؟ میرا زیور یہاں کا وہاں رکھا ہوا ہے نہیں دے رہے ہیں، ٹال مٹول کر رہے ہیں، پورا فرنچیچر بھی نہیں دیا ہے، تھوڑا سامان برتن کا دیا ہے۔

المستفتیۃ: یاسین بن جہاں، مغلپورہ، مراد آباد

بسم اللہ تعالیٰ

الجواب وباللہ التوفیق: جب شوہر نے بیوی کو تین طلاق دیدیں تو بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو گئی اور بیوی شوہر پر حرام ہو گئی۔
لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً۔ (الأشباه والنظائر

قدیم ۹، ۲۱، جدید زکریا (۳۷۶)

اور اگر زوجین دوبارہ ازدواجی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ عورت عدت گزارنے کے بعد کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے اور اس شوہر سے ہمستری بھی ہو جائے، پھر جب وہ شوہر اپنی مرضی سے طلاق دیدے تو عورت عدت گزارنے کے بعد شوہراوں سے نکاح کر سکتی ہے۔

وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرمة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(عالمگیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۵۳۵)

(۲) آپ اپنا سامان لیئے کے لئے دوران عدت شوہر کے گھر نہیں جا سکتی ہیں؛ اس لئے کہ دوران عدت معتدہ مطلقہ کے لئے نکلنا منوع ہے۔

إن كانت معتدة من نكاح صحيح وهي حرمة مطلقة بالغة عاقلة مسلمة والحالة حالة الاختيار فإنها لا تخرج ليلاً ولا نهاراً سواء كان الطلاق ثلاثاً، أو بائناً، أو رجعياً۔ (عالمگیری، ذکریا قدیم ۱/۵۳۴، جدید ۱/۵۸۶)

(۳) وہ سامان جو آپ کو آپ کے گھر والوں نے جہیز میں دیا تھا اور وہ سامان جو آپ کو آپ کے شوہرنے بطور میریا بطور ملکیت دیدیا تھا، وہ سامان آپ کا ہے، شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس سامان کو آپ کے سپرد کر دے۔ (مستقاد: مستقاد: فتاویٰ محمودیہ قدیم ۳۳۸/۳، جدید ڈاہیل ۱۰۶/۱۲)

والفتوى أنَّه إنْ كَانَ الْعُرْفُ مُسْتَمِرًا أَنَّ الاب يَدْفَعُ ذَلِكَ الْجَهازَ مُلْكًا لَا عَارِيَةً لَمْ يَقْبَلْ قَوْلَهُ الْخَ. (الأشباه والنظائر قدیم ۱۵۷) فقط والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شیعہ احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۲/شعبان المعظم ۱۴۳۱ھ

(فتوى نمبر: الف ۳۱/۳۵۲۲)

بلا حلالہ مطلقہ ثلاشہ کو رکھنے کا حکم

سوال [۶۸۹۵]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ قاری محمد یا میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدیں، ایک سال پہلے پھر میاں بیوی آپس میں ساتھ ہی رہتے رہے، ابھی تک حلالہ نہیں ہوا کہ تو شرعاً اس کو ساتھ رکھنے کے لئے حلالہ ضروری ہے یا نہیں؟

(۲) حلالہ کے بعد ولی عدت عورت شوہر اول کے بیہاں گذار سکتی ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمد عارف قاسمی، یہ پوری، سوار رامپور

با سمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اگر شوہر کی طرف سے تین طلاق دینے کی شہرت ہو چکی تھی اور شوہرنے اس کا اقرار بھی کیا تھا، پھر بھی شوہرنے اس کو اپنے پاس رکھا ہے اور اس کے ساتھ ہم بستری بھی ہوتی رہی ہے اور شوہر اس ہم بستری کو اپنے لئے حرام سمجھتا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کی عدت پوری ہو چکی ہے اور فوری طور پر دوسرے

آدمی کے ساتھ اس کا نکاح کرنا جائز ہے۔ اور اگر حلال سمجھ کر وطی کرتا رہا ہے، تو آخری ہمپستری کے بعد سے عدت کا سلسلہ شروع ہوگا، اس بارے میں شوہر سے پوچھ لیا جائے کہ اس نے بیوی کو حلال سمجھتے ہوئے رکھ رکھا تھا یا حرام سمجھتے ہوئے رکھ رکھا تھا۔ اور ہر صورت میں دونوں کے اوپر تجھی توہہ کرنا لازم ہے۔

اب اس تہمید کے بعد اصل جواب یہ ہے کہ بغیر حلال کے عورت کو اپنے پاس رکھنا قطعاً جائز نہیں ہے اور حلال میں دوسرے شوہر کی ہمپستری کے بعد جب وہ طلاق دیدے گا، تو طلاق کے بعد دوسری عدت شوہرا اول کے گھر میں گزارنا بھی جائز ہے بشرطیکہ شوہر کی رہائش اس گھر میں نہ ہو اور عورت کے ساتھ دوسری عورت کا رہنا بھی ضروری ہے تاکہ اس کی ہر طرح کی حفاظت ہو سکے۔

والحاصل أنه إن كتممه، ثم أخبر به بعد مدة، فالفتوى على أنه لا يصدق في الإسناد؛ بل تجب العدة من وقت الإقرار سواء صدقته، أو كذبتها، وإن لم يكتمه بل أقربه من وقت وقوعه، فإن لم يشتهر بين الناس، فكذلك وإن اشتهر بينهم تجب العدة من حين وقوعه وتنقضى إن كان زمانها مضى، وهذا إذا لم يكن وطئها بشبهة ظن الحل وإلا وجبت بالوطء عدة أخرى وقد أخلتها..... وكذا كلما وطئها تجب عدة أخرى فلا يحل لها التزوج بآخر مالم تمض عدة الوطء الأخير، بخلاف ما إذا كان الوطء بلا شبهة، فإنه لا يوجب عدة لتمحضه زنا، والزنا لا يوجب عدة..... فلها التزوج بآخر. (شامی، باب العدة، کراچی ۵۲۲/۳، ذکریاہ ۵۰/۵)

من طلق امرأته ثلاثة، ثم أقام معها زماناً إن أقام منكرًا طلاقها لا تنقضى عدتها، وإن كان أقام مقراً بطلاقها انقضت عدتها..... ولو وطأها

وادعى الشبهة، بأن قال: ظنت أنها تحل لي، فإنها تستقبل العدة بكل وطأة

وتتدخل الأولي. (تاتارخانية، زکریا، ۲۳۸/۵، رقم: ۷۷۵)

لو طلقها ثلاثةً، وهو يقيم معها، فإن كان مقرأً بالطلاق تنقضي العدة، وإن كان منكراً تجب العدة من وقت الإقرار زجراً لهما هو المختار.

(هنديہ، کتاب الطلاق، الباب الثالث عشر: في العدة زکریا قدیم ۱/۵۳۲، زکریا جدید ۱/۵۸۴)

إذا وجب الاعتداد في منزل الزوج فلا بأس بأن يسكن في بيت واحد إذا كان عدلاً سواء كان الطلاق رجعياً، أو بائناً، أو ثلاثةً، والأفضل أن يحال بينهما في البيتوة بستر إلا أن يكون الزوج فاسقاً في حال بامرأة ثقة تقدر على الحيلولة بينهما، وإن تعذر فلتخرج هي وتعتذر في منزل آخر.

(البحر، كوثیره ۴/۱۵۴، زکریا ۴/۲۶۱)

مكان العدة هو بيت الزوجية التي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها فلا تسقط ولا تغير إلا بالأعذار. (الموسوعة بيروت ۲۹/۳۴۷)

نقطة والله سبحانه وتعالى أعلم

کتبہ: شبیر احمد قادری عفان الدین عنہ

۵/۱۳۳۵ھ

(فتویٰ نمبر: الف ۱۰۵۶/۳۹)

طلاق کے بعد بیوی کو پاس رکھنے کی شکل

سوال [۶۸۹۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مستیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کریشہ کے شوہر نے شراب کے نشہ میں ریشمہ کو تین طلاق دیدیں، اب وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، تو شرعاً کیا حکم ہے؟

المستفتی: محمد راشد اصلت پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: نشہ کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے؛ لہذا جب ریشمہ کے شوہر نے شراب کے نشہ کی حالت میں بیوی کو تین طلاقیں دیدیں، تو اس سے بیوی پر طلاق واقع ہو گئی ہے، اگر دوبارہ رکھنا چاہے، تو بلا حلالہ شرعی کے رکھنا درست نہیں ہے اور حلالہ کی شکل یہ ہے کہ عدت گذرنے کے بعد بیوی دوسرے آدمی سے شرعی نکاح کر کے اس کے ساتھ ہمبستر ہو جائے، پھر وہ طلاق دے اور عدت گذارے پھر اس کے بعد شوہر اول کے ساتھ نکاح کرنا درست ہو سکتا ہے۔

(مسئلہ: فتاویٰ محمودیہ جدید ۱۲۷۴)

وطلاق السکران واقع إذا سکر من الخمر. (ہندیہ، زکریا قدیم)
(۱/۳۵۳، جدید ۱/۴۲۰)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(عالیٰ گیری، زکریا قدیم ۱/۳۵، جدید ۱/۴۷۳)

الجواب صحیح:

كتبه: شیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

ررقع الثاني ۱۳۲۹ھ

۱۳۲۹/۷/۲۱

(فتوىٰ نمبر: الف ۳۸/۹۵۷)

چھ مرتبہ طلاق دینے کے بعد ایک ساتھ رہنے کی شکل

سوال [۶۸۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ میں منصور علی ولد منظور علی نے اپنی بیوی ریشمہ بنت اخلاق حسین کو ۲۶ جنوری ۲۰۰۹ء کو چھ مرتبہ طلاق دیدی ہے، ایسی صورت میں اگر بیوی ہمارے ساتھ دوبارہ رہنا چاہے تو کیا رہ سکتی ہے؟

المستفتی: منصور علی، گوئیاں باغ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہرنے اپنی بیوی کو چھ مرتبہ طلاق دیدی ہے، تو عورت شوہر پر تین طلاق دیدینے سے مغلظہ ہو کر حرام ہو گئی۔ اب اس عورت کو اپنے پاس رکھنا قرآن و حدیث کی رو سے ناجائز حرام ہے۔

قال اللہ تعالیٰ: فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحُلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

[سورۃ البقرہ: ۲۳۰]

ترجمہ: پھر اگر اس کو تیری بار طلاق دیدے تو اس کے لئے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت اس کے سواد و سرے سے نکاح نہ کرے۔

وقال الليث عن نافع كأن ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلثاً، قال: لو طلقت مرة، أو مرتين (لكان لك الرجعة) فإن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرني بهذا (بالمراجعة) فإن طلقتها ثلاثة حرمت حتى تنكح زوجاً غيرك.

(بخاري شریف، کتاب الطلاق، باب من اجاز الطلاق الثلاث، النسخة الہندیہ ۷۹۲/۲، رقم: ۵۰۶۶، ف: ۵۲۶۵) فقط والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم

الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۳۱/۲/۲۱

كتبه: شبیر احمد قاسمی عفان اللہ عنہ
۱۴۳۱ھ صفر المظفر ۲۱
(فتویٰ نمبر: الف ۹۸۸۹/۳۸)

مطلقہ مغلظہ سے حلالہ کے بعد نکاح کرنے کا حکم

سوال [۶۸۹۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مستشرقین شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی ہیں اور اب دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو شریعت کا کیا حکم ہے؟

المستفقی: آصف علی زیارت شاہ بلاقی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شوہرنے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی ہیں، تو اس سے بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو گئی ہے، اور بیوی شوہر پر بالکلیہ حرام ہو گئی اور دونوں کا ساتھر ہنازنا کاری اور بدکاری ہو گی، ہاں اگر شرعی حلالہ کر لیتے ہیں، تو حلالہ کے بعد آپس میں نکاح کر کے میاں بیوی کی طرح رہنا جائز ہو گا اور حلالہ کی شکل یہ ہے کہ تین ماہواری گذرنے کے بعد دوسرا شخص کے ساتھ شرعی نکاح کر لے اور اس کے ساتھ ہمبستری بھی ہو جائے اور ہم بستری کے بعد وہ شخص طلاق دیدے، تو دوبارہ تین ماہواری کے ساتھ عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے لئے اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہو سکتا ہے۔

عن ابن عمر^{رض}، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المطلقة ثلاثة لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره، ويختلطها وتذوق من

عسيلته. (المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث بيروت ۱۹۵/۱۲، رقم: ۴۲۹) (۱۳۴۲ھ)
وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنتين في الأمة لم تحل له حتى
تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.
(المسكري، ذكرى أقاديم ۱/۴۷۳، جديد ۱/۳۵، هداية اشرفي ديواند ۲/۳۹۹،
تاتارخانية، ذكرى ۵/۴۷، رقم: ۳۵۰) فقط والله سبحانہ وتعالیٰ علم

الجواب صحیح:

كتبه: شیب احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۹ھ / ۱۹۰۷ء

فتویٰ نمبر: الف ۳۸ / ۹۳۱

شوہر اول کا مطلقه مغلظہ سے حلالہ کے بعد نکاح کرنا

سوال [۶۸۹۹]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں مسئلہ ذیل کے بارے میں: (۱) کہ محمد اشرف نے آج سے چھ ماہ پہلے اپنی زوجہ مسماۃ سارہ بانو کو تین بار سے بھی زیادہ یہ کہا کہ: میں نے سارہ کو طلاق دیدی، طلاق دیدی ہے۔

(۲) سارہ بانو کا مہر دس ہزار روپے ہے جو کہ محمد اشرف کے ذمہ واجب ہے، ان دونوں حالات میں دوبارہ سارہ بانو کو بیوی بنا کر رکھنے کی کیا صورت ہوگی؟ کیا پہلے نکاح کا مہر دس ہزار روپے دینا ہوگا؟ اگر سارہ بانو معاف کر دے، تو درست ہوگا یا نہیں؟

المستفتقی: محمد اشرف، شیرکوٹ، بخور

با سمسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) اگر تین بار یا اس سے زائد طلاق دی ہے، تو شرعاً بیوی پر طلاق مغلظ واقع ہو چکی ہے اور بیوی شوہر پر بالکل حرام ہو چکی ہے۔
لو قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق، طلقت ثلاثاً. (الأشباء والنظائر

قدیم ۹، ۲۱، جدید ذکر یا (۳۷۶)

متى كرر لفظ الطلاق بحرف الواو، أو بغير حرف الواو يتعدد الطلاق. (فتاویٰ عالمگیری، ذکر یا قدیم ۱ / ۳۵۶، جدید ۱ / ۴۲۲)

(۲) دوبارہ بیوی بنا کر رکھنے کی صورت یہ ہے کہ طلاق کے وقت سے تین مرتبہ ماہواری گذر جائے، اس کے بعد دوسرا مدرسے شرعی نکاح کر کے اس کے ساتھ ہمسفر ہو جائے، پھر اس کے بعد شوہر اول (محمد اشرف) کے ساتھ باقاعدہ نکاح ہو سکتا ہے۔

لو كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثبتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحةً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(عالمگیری، ذکر یا قدیم ۱ / ۴۷۳، جدید ۱ / ۵۳۵)

اور سوال نامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اب چھ ماہ کے درمیان عدت (تین ماہواری) بھی گذر چکی ہوگی۔ نیز پہلے کا مہر ادا کرنا محمد اشرف پر واجب ہے، اگر بیوی بخوبی معاف کر دے، تب بھی ذمہ داری ختم ہو جائیگی۔

والمهر يتتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه

شيء بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق. (هندية، زكرياقديم ۱ / ۳۰۳، ۱۳۷۰ / ۱) فقط واللهم سجنه وتعالي اعلم

كتبه: شبير احمد قاسمی عفان اللہ عنہ

۱۸ / جادی الثانیہ ۱۴۳۱ھ

(فتوى نمبر: الف ۲۶۵۵) (۱۴۳۱ / ۷)

الجواب صحیح:

احقر محمد سلمان مصور پوری غفرله

۱۴۳۱ / ۷

حالہ کے بعد مطلقہ ثلاثہ سے پہلا شوہر نکاح کرسکتا ہے

سوال [۲۹۰۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متبین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ عورت منہزو تھی اپنے ساس سرکی بات نہیں مانتی تھی اورگا وہ میں ادھر ادھر گھومتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو میکہ پہوچا دیا اور پھر لکھ کر بھیج دیا کہ اگر فلاں شہر میں جائے گی تو تین طلاق پھر بھی وہاں شہر میں چلی گئی، جس کی وجہ سے تین طلاق ہو گئیں۔

اس کے بعد عورت کے والد نے لڑکے سے کہا کہ اس لڑکی کو رکھو، مگر لڑکے نے رکھنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے لڑکی کے والد نے کورٹ میں مقدمہ کر دیا، لڑکے کے نام کے ساتھ اس کے گھر والے پریشان ہو گئے، تھانہ والے اور مسلم وکیلوں نے مشورہ دیا کہ صلح کر لیجئے ورنہ سب ہی جیل چلے جائیں گے۔ مجبوراً صلح پر آمادہ ہوئے لڑکی کے والد کا کہنا بھی یہی تھا کہ ہم مقدمہ اسی حالت میں اٹھائیں گے؛ جبکہ حالہ کر کے اس لڑکی کو وہ لڑکا پھر رکھ لے، اب کورٹ اور مقدمہ سے نچھے کے لئے صلح کر لی گئی ہے اور حالہ شرعی کے بعد وہ لڑکا پھر اس لڑکی کو دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؛ جبکہ اس عورت سے اسی شوہر سے تین سال کی ایک بچی بھی ہے۔ دوسرا طرف کچھ کہتے ہیں کہ اس عورت کو دوبارہ لانا ٹھیک نہیں، اگر دوبارہ لائے گا تو ہم لوگ لڑکے اور اس کے گھر والوں سے لیں دین اور تعلقات ختم کر لیں گے، تو ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ شرعی جواب سے نوازیں۔

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: جب شرعی حلالہ ہو چکا ہے، تو اب پہلے شوہر کے لئے اس کے ساتھ نکاح کرنا شرعاً جائز اور درست ہے، اور نکاح کے بعد دوسرا لئے لوگوں کا لڑکے والوں سے بائیکاٹ کرنا درست نہیں ہے۔

عن عائشة ^{رض} قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويندوق كل واحد منهما عصيلة صاحبه. (سنن دارقطني، كتاب الطلاق، دارالكتب العلمية

بیروت ۴/۲۱، رقم: ۳۹۳۶)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(عالمگیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۳۵۰) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شبیر احمد قاسمی عفان الدین عنہ

۱۴۲۰ھ روزی الحجہ

(فتویٰ نمبر: الف/۳۳۹، ۲۳۹۱)

حلالہ کے بعد شوہر اول سے نکاح کرے یا شوہر ثانی سے

سوال [۲۹۰۱]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ زبیدہ کی شادی مجاہد کے ساتھ ہوئی، پھر مجاہد نے تین طلاق دیدیں، تو زبیدہ نے محمد احمد سے شادی کر لی، پھر محمد احمد نے بھی تین طلاق دیدیں۔ اب زبیدہ سے مجاہد بھی شادی کرنا چاہتا ہے اور محمد احمد بھی شادی کرنا چاہتا ہے، تو شرعاً کس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ شرعی حکم سے مطلع فرمائیں۔

المستفتی: اظہار عالم، رحمت گر، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: اب اس وقت محمد احمد کی طلاق کے بعد جب تین ماہواری گذر جائے گی، تو صرف مجاہد کے لئے اس کے ساتھ شادی کرنا جائز ہو سکتا ہے، محمد احمد کے لئے جائز نہ ہوگا۔

عن نافع عن ابن عمر^{رض}، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المطلقة ثلاثة لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره، ويختلطها وتدوق من عسلته. (المعجم الكبير للطبراني، دار إحياء التراث

بیروت ۱۲/۲۹۵، رقم: ۱۳۴۲۹)

وإن كان الطلاق ثلاثة في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها. (العالمگیری، ذکریا قدیم ۱/۴۷۳، جدید ۱/۳۵، هدایۃ الشرفی دیوبند ۲/۳۹۹، تatarخانیہ، ذکریا ۵/۴۷، جدید ۱/۵۳۵) فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

کتبہ: شیعہ احمد قاسمی عفان الدین عنہ
الجواب صحیح:
احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ
۱۴۲۰ھ / ۳۲۸، الف: (فتویٰ نمبر: ۲۳۲۸)

حلالہ، مہر فاطمی اور حضانت سے متعلق سوال

سوال [۶۹۰۲]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: کہ (۱) جاودی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدیں، اس کے چار بچے بھی ہیں، اب دوبارہ ساتھ رکھنا چاہتا ہے شرعی حکم کیا ہے؟
(۲) مہر فاطمی کی مقدار کتنی ہے؟

(۳) دولٹ کیاں ہیں ایک دس سال کی دوسری ایک سال کی دولٹ کے اچھے سال،

۲/ رپانچ سال کی عمر کے ہیں ان کو باپ لے سکتا ہے یا ماس کے پاس رہیں گے؟ ماس کے پاس رہنے کی صورت میں خرچ کس پر ہوگا؟

المستفتی: محمد نیس، اصلاح پورہ، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: (۱) جاوید نے جوانی یوں کوتین طلاقوں دی ہیں، اس سے یوں کے اوپر تینوں طلاقوں واقع ہو گئیں؛ اس لئے آئندہ بغیر حلالہ کے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح درست نہ ہوگا اور حلالہ کی شکل یہ ہے کہ عدت گذرنے کے بعد کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر کے اس کے ساتھ ہمبستری ہو جائے، پھر وہ اس کو طلاق دیے، تو دوبارہ عدت کے بعد جاوید کے لئے مذکورہ یوں کے ساتھ نکاح کرنا درست ہوگا۔

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدوق كل واحد منها عسيلة صاحبه. (سننDarقطني، كتاب الطلاق، Darالكتب العلمية

بیروت ۴/ ۲۱، رقم: ۳۹۳۲)

وإن كان الطلاق ثلاثةً في الحرمة، وثنين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

(عالمگیری، ذکریا قدیم ۱/ ۴۷۳، جدید ۱/ ۵۳۵)

(۲) موجودہ اوزان کے حساب سے مہر فاطمی کی مقدار ڈریٹھ کیلو ۳۰۰ گرام ۹۰۰ روپیہ گرام چاندی ہے؛ لہذا ب دس گرام کے تولہ کے حساب سے مہر فاطمی کی مقدار ۵۳۰ روپیہ ۹۰۰ گرام چاندی یا اس کی قیمت ہوگی۔ (مستفاد: ایضاً المسائل ۱۲۹)

(۳) لڑکیاں جب تک بالغ نہ ہو جائیں اور لڑکے جب تک سات سال کے نہ ہو جائیں، حق پرورش مال کو حاصل رہے گا اور بچوں کی تعلیم و تربیت وغیرہ کا خرچ باپ کے ذمہ ہوگا اور تعلیم و تربیت جیسے باپ کہے اسی طرح کرنا لازم ہوگا۔

والحاضنة أما أو غيرها أحق به أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى؛ لأنه الغالب. (شامی، کراچی ۳/۶۶، زکریا ۵/۲۶۷)

والأم والجدة أحق بالجاریة حتى تحیض: أي تبلغ في ظاهر الروایة. (در مختار مع الشامی، کراچی ۳/۶۶، زکریا ۵/۲۶۸)

نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه أحد. (عالیگیری، زکریا قدیم ۱/۶۰، جدید ۱/۷۶) **فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم**

الجواب صحیح: احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ ۱۴۲۸/۵/۱۰	کتبہ: شیبیر احمد قاسمی عفاف اللہ عنہ ۱۰/ جمادی الاولی ۱۴۲۸ھ (نحوی نمبر: الف ۹۲۹۱/۳۸)
--	---

